

# ردِّ قادیانیت

## رسائل

- حضرت مولانا عبداللطیف صاحب سلمیٰ
- حضرت مولانا محمد فیض روز خان دسکوی
- حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی
- حضرت مولانا سید پیر محمد کرم شاہ الازہری
- جناب حکیم مظہر حسین قریشی صدیقی میرٹھی

# احتساب قادیانیت

جلد ۴۱

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

مفسوری باغ روڈ، ملتان - فون : 061-4783486

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

نام کتاب : احتساب قادیانیت جلد اول کتابیس (۴۱)

مصنفین : حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہلمی

حضرت مولانا محمد فیروز خان ڈسکوئی

حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی

حضرت مولانا سید پیر محمد کرم شاہ الازہری

جناب حکیم مظہر حسین قریشی صدیقی میرٹھی

صفحہ : ۵۹۲

قیمت : ۳۰۰ روپے

مطبع : ناصر زین پریس لاہور

طبع اول : جنوری ۲۰۱۲ء

ناشر : عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضورِ باغ روڈ ملتان

Ph: 061-4783486

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

## فہرست رسائل مشمولہ..... احتساب قادیانیت جلد ۱

- عرض مرتب ۴
- ۱..... پاکستان کا غدار حضرت مولانا عبداللطیف جہلمی ۹
- ۲..... آئینہ قادیانیت حضرت مولانا محمد فیروز خان ڈسکوئی ۱۵
- ۳..... قادیانی غیر مسلم اقلیت بن کر رہیں یا اسلام قبول کریں حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی ۹۹
- ۴..... فتنہ انکار ختم نبوت (حقائق و واقعات کی روشنی میں) حضرت مولانا سید پیر محمد کرم شاہ الازہری ۱۶۱
- ۵..... فتنہ مرزائیت اور پاکستان " " " " ۲۰۱
- ۶..... چودھویں صدی کا سچ حکیم مظہر حسین قریشی صدیقی میرٹھی ۲۱۵

## عرض مرتب

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم . اما بعد!  
قارئین کرام! لیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم واحسان سے احتساب قادیانیت کی  
کتابیسویں جلد پیش خدمت ہے۔

..... حضرت مولانا عبداللطیف جہلمی (وفات ۲۷ اپریل ۱۹۹۸ء) یادگار اسلاف تھے۔ جامعہ  
حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم، جامع مسجد گنبد والی، تحریک خدام اہل سنت آپ کی یادگار ہیں۔ شیخ الشفیہ مولانا  
احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان ملتان میں جو تالیسی اجلاس منعقد  
ہوا اس میں آپ بھی شامل تھے۔ حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو خوبیوں کا مجموعہ بنایا تھا۔ بہت ہی نظریاتی  
عالم دین تھے۔ آپ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے  
ستمبر ۱۹۳۰ء میں دورہ حدیث شریف مکمل کر کے سند فراغ حاصل کی۔ زندگی بھر رخصیت وخارجیت اور  
اس کی جدید شکلیں (مودودیت ویزیدیت) کے خلاف برسر پیکار ہے۔ طالب علمی کے زمانہ سے  
قادیانی فتنہ کے خلاف سرگرم عمل ہوئے اور زندگی کے آخری سانس تک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور  
قادیانیت کے استیصال کے لئے ہر اوقاں دستہ کی قیادت فرمائی۔ رد قادیانیت پر آپ کا ایک رسالہ:

..... پاکستان کا عذار: اس جلد میں شامل کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس رسالہ  
کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۵۸ء میں شائع ہوا۔

..... ڈسک ضلع سیالکوٹ کے معروف مجاہد عالم دین اور نامور مذہبی رہنماء بہادر اور شیر دل جرنیل  
حضرت مولانا محمد فیروز خان (وفات ۹ مارچ ۲۰۱۰ء) تھے۔ آپ اصلاً کشمیری تھے۔ دارالعلوم دیوبند  
کے فاضل اور شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ معروف قادیانی شاطر ظفر اللہ ڈسک کا  
رہائش تھا۔ اس نے اس علاقہ میں قادیانیت کو ایک طاقت کے طور پر متعارف کرانے میں شب وروز  
ایک کر دیئے۔ ظفر اللہ قادیانی کے غرور کو خاک میں ملانے کے لئے مجلس احرار اسلام نے سیالکوٹ کو  
اپنا مرکز بنایا۔ ہرائیشن میں ظفر اللہ قادیانی کے نہ صرف عزائم کو خاک میں ملایا۔ بلکہ ظفر اللہ کے چہرہ کو  
بھی خاک آلود کر دیا۔ اس کے علاوہ قدرت نے ظفر اللہ کی بولتی بند کرنے کے لئے مستقل یہ سبیل پیدا  
فرمائی کہ مولانا فیروز خان دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد ڈسک آگئے اور ظفر اللہ کی کوشی کے قریب  
ایک مسجد کے خطیب مقرر ہوئے اس مسجد کے سامنے کے پلاٹ پر دارالعلوم مدنیہ کی بنیاد رکھی۔ قدرت

کے کرم کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ظفر اللہ قادیانی کے عزائم خاک میں مل گئے۔ جائیدادیں بک گئیں۔ کوشی میں آٹو بولتے ہیں۔ جب کہ دارالعلوم مدنیہ اصلہا ثابت و فرعہا ثابت السماء کا مظہر اتم ہے۔ ایک بار قادیانیوں نے ضلعی افسروں سے ساز باز کر کے دو ماہ کے لئے مولانا محمد فیروز خان کی زبان بندی کرا دی۔ مولانا نے ان دلوں ایک کتابچہ تحریر فرما کر شائع کر دیا۔ جس کا نام ہے:

۲..... آئینہ قادیانیت: ہماری سعادت ہے کہ احتساب قادیانیت کی اس جلد میں اسے بھی شامل کر رہے ہیں۔

•..... جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی (وفات ۲۱ اکتوبر ۱۹۸۸ء) بہت بڑے عالم دین تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور شیخ الاسلام حضرت مدنی میسید کے شاگرد رشید تھے۔ فراغت کے بعد جامع العلوم بہاول نگر اور پاکستان بننے کے بعد دارالعلوم ٹنڈوالہار خان میں آپ پڑھاتے رہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا محمد اور لس کاندھلوی میسید جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو مولانا محمد مالک کاندھلوی کو والد گرامی کی مسند حدیث پر جامعہ اشرفیہ لاہور میں بطور شیخ الحدیث کے لایا گیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی مرحوم کی نیابت کا حق ادا کر دیا۔ مولانا محمد مالک کاندھلوی خوب صاحب علم شخصیت تھے۔ علمی وقار کے ساتھ ساتھ بہت باغ و بہار طبیعت پائی تھی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی سالانہ آل پاکستان ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ پر آپ اور حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفیہ جامعہ اشرفیہ کے ”تین“ تشریف لاتے تھے۔ جس اجلاس میں شرکت فرماتے اس اجلاس کی بہاریں بھی جو بن کو چھونے لگ جاتیں۔

۲۶ اپریل ۱۹۸۴ء کو جنرل محمد ضیاء الحق نے اعتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا۔

جسے قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ تب مولانا محمد مالک کاندھلوی اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن رکین تھے۔ آپ نے وفاقی شرعی عدالت میں اہل اسلام کی طرف سے قادیانی موقف کے خلاف نمائندگی کرتے ہوئے ایک وقیع بیان جمع کرایا۔ جسے بعد میں کتابی شکل میں جولائی ۱۹۸۴ء میں شائع کیا گیا۔ اس کا نام ہے:

۳..... قادیانی غیر مسلم اقلیت بن کر رہیں یا اسلام قبول کریں: فقیر کی سعادت مندی ہے کہ احتساب قادیانیت کی اس جلد میں اس کتاب کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔

•..... برصغیر پاک و ہند کی معروف خانقاہ تونسہ شریف کا فیض جب سیال شریف پہنچا تو ”خانقاہ سیال شریف“ وجود میں آئی۔ خانقاہ سیال شریف کے بانی خواجہ احمد دین تھے۔ ان کے

جانشین خواجہ شمس الدین تھے۔ موصوف کے جانشین حضرت خواجہ ضیاء الدین تھے۔ ان کے جانشین حضرت علامہ خواجہ قمر الدین سیالوی مرحوم تھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے جن شخصیات نے کسب فیض کر کے فرقہ خلافت حاصل کیا۔ ان میں ایک ہمارے مددگار حضرت علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری بھی تھے۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب (وفات ۴ اپریل ۱۹۹۸ء) بہت فاضل شخصیت تھے۔ جامعہ ازہر مصر سے آپ فارغ التحصیل تھے۔ اس لئے ازہری کہلاتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ جس کا نام ”ضیاء القرآن“ ہے۔ آپ وفاقی شرعی عدالت کے جج بھی رہے۔ آپ کے حوالہ سے اپریل ۱۹۸۴ء رد قادیانیت پر ایک رسالہ شائع ہوا۔ جس کا نام:

۴..... فتنة انکار ختم نبوت: ہے۔ مجھے بہت خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ احتساب کی اس جلد میں اسے بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک اور رسالہ جس کا نام ہے:

۵..... فتنة مرزائیت اور پاکستان: یہ بھی اس جلد میں شامل ہے اس کا تعارف خود رسالہ میں موجود ہے

۱۳۲۲ھ مطابق (۱۹۰۳ء) کو حکیم مظہر حسن قریشی داروغہ آبرکاری چھاؤنی سیالکوٹ نے ایک کتاب بطرز ناول مرزا قادیانی کی تردید میں ۵۱۲ صفحات پر مشتمل شائع کی۔ جس کا نام مصنف نے ”چودھویں صدی کا مسیح“ رکھا۔ آج سے ربع صدی قبل ایک کتاب کی تلاش میں جناب پروفیسر عبدالجبار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ملتان روڈ لاہور حاضر ہوا۔ بیت الحکمت لاہور کی کاؤزٹ کیا۔ مطبوعہ کتب جو میسر آئیں ان کو علیحدہ کیا، کہ ان کی فوٹو کرائی ہے۔ خیال تھا کہ ادا ہوگی، ہم کر دیں گے۔ فوٹو پروفیسر صاحب کرانے کی بابت اپنے کسی اہل کار کو حکم فرما دیں گے۔ فقیر نے یہی عرض کی۔ پروفیسر صاحب مسکرائے اور فرمایا آپ کتابیں لیجائیں۔ حسب سہولت فوٹو کرائیں۔ اور کتابیں مجھے واپس بھجوادیں۔ اس عنایت و اعتماد پر فقیر نے ممنون احسان تو خیر ہونا ہی تھا۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ اس پر تعجب ہوا کہ پروفیسر صاحب سے پہلی ملاقات ہے۔ اس سے قبل ایک دوسرے کے نام سے غائبانہ جان پہچان تھی۔ اتنا اعتماد کون کرتا ہے؟۔ پروفیسر صاحب فقیر کے تعجب کو بھانپ گئے اور فرمایا۔ مولانا! ہر ایک سے ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا۔ کتابوں کو دینا تو درکنار دکھانے میں بھی احتیاط کرتا ہوں۔ لیکن آپ ذمہ دار ادارہ کے ذمہ دار فرد ہیں۔ اگر آپ میں احساس ذمہ داری نہیں ہوگا تو کس میں ہوگا؟۔ رد قادیانیت کی کتابوں سے آپ سے زیادہ کون استفادہ کرے گا؟۔ لیجائیے۔ فوٹو کرائیے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک سطر ضائع ہوئے بغیر اصل کتب مجھے مل جائیں گی۔ چنانچہ بھجھہ تعالیٰ! مولانا عزیز الرحمن جانی نے ان کتابوں کا فوٹو کرا کر مجھے ارسال فرمایا اور اصل کتب پروفیسر صاحب کو واپس کیں۔

اتنے میں میز پر چائے آگئی۔ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ میں برطانیہ گیا تھا۔ ایک دوست کے ہاں ردقادیانیت پر ایک کتاب دیکھی۔ فوٹو کرا لیا۔ نامکمل ہے۔ آپ اسے دیکھ لیں۔ آپ کے پاس نہ ہو تو اس کا بھی فوٹو کرائیں۔ فقیر نے وہ کتاب دیکھی تو ”چودھویں صدی کا مسیح“ تھی۔ فقیر نے خیال کیا کہ ایک تو فوٹو مدہم ہے۔ دوسرا نامکمل نسخہ ہے۔ سیالکوٹ سے شائع ہوئی ہے۔ تلاش کریں گے تو مل جائے گی۔ چنانچہ وہ فوٹو والا نسخہ واپس کر دیا۔ پروفیسر صاحب نے بھی محسوس نہ کیا۔ یا یہ کہ میری اس ناقدری کو انہوں نے محسوس نہ ہونے دیا۔ اب فقیر نے تلاش شروع کی۔ لاہریریاں چھان ماری۔ کتاب نہ ملی۔ ربیع صدی دھکے کھاتا رہا۔ کتاب کا کہیں سے سراغ نہ ملا۔ اتنے میں محترم جناب پروفیسر عبد الجبار شاہ مرحوم کا وصال ہو گیا۔ اب اسی فوٹو سے فوٹو کرانے کا فیصلہ کیا۔

ہمارے مخدوم جناب رضوان نفیس صاحب جو ہمارے حضرت سید نفیس الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص و خلیفہ مجاز ہیں اور کتابوں کی تلاش میں اللہ رب العزت نے انہیں حضرت سید نفیس الحسنی رحمۃ اللہ علیہ والے ذوق کا بھی وارث بنایا ہے۔ ان سے عرض کی تو پتہ چلا کہ پروفیسر عبد الجبار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جمال الدین افغانی اسلام آباد رہتے ہیں۔ ہفتہ شام لاہور آتے ہیں۔ اتوار شام واپس چلے جاتے ہیں۔ صفحہ اکیڑی لاہور کے حضرت مولانا محمد عابد زید مجدہم کے ان سے مراسم ہیں۔ وہ ان سے بات کریں گے۔

چنانچہ حضرت مولانا محمد عابد صاحب نے ذمہ داری کو نبھایا۔ فوٹو کرا کر ۲۰ اپریل ۲۰۱۰ء کو فقیر کو نسخہ ارسال فرمایا۔ فقیر کو خزانہ مل گیا۔ اب دن رات ایک کر کے کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ فوٹو سے فوٹو تھا اور وہ بھی ایک صدی قبل کی کتاب سے جو مدہم در مدہم ہو گیا۔ اب دن رات ایک کر کے فقیر نے مدہم حروف پر قلم چلایا۔ انہیں نمایاں کیا۔ لیکن بعض حروف تو بالکل سمجھ میں نہ آئے۔ قلق ہوا۔ بلکہ قلبی قلق ہوا کہ کتاب چھپنے کے قابل نہیں۔ اس میں چند صفحات پر ایک نظم تھی وہ مولانا محمد حسین بنا لوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ اشاعت السنۃ سے مصنف نے لی تھی۔

اشاعت السنۃ کی فائل برادر م مولانا محمد حامد لدھیانوی زید مجدہم کے پاس فیصل آباد تھی۔ اس سے متعلقہ صفحات فوٹو کرائے۔ لیکن اب بھی طبیعت میں قلق باقی کہ کتاب اس فوٹو سے کمپوز کرانی مشکل ہے کہ پڑھی ہی نہیں جا رہی۔ سیالکوٹ کے علم دوستوں سے کہا لیکن ”پرائی بکری کو کون گھاس ڈالتا ہے۔“ مجھ مسکین پر جو بیت رہی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایک دن جناب مولانا محمد عباس پسروری صاحب سے ذکر کیا۔ انہوں نے تلاش کا وعدہ کیا۔ ان کا عرصہ بعد فون آیا کہ جناب ضیاء اللہ کھوکھر صاحب گوجرانوالہ کی لاہریری میں اصل کتاب موجود ہے۔ فقیر کو جن

صفحات کے فوٹو درکار تھے) تاکہ جیسے کیسے نسخہ مکمل ہو) وہ صفحات مولانا فقیر اللہ اختر مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سیالکوٹ کو لوٹ کرائے۔ وہ گوجرانوالہ تشریف لے گئے۔ جناب ضیاء اللہ کھوکھر سے فقیر کی دیرینہ یاد اللہ ہے۔ انہوں نے ان صفحات کے فوٹو کرا دیئے۔ لو کتاب مکمل ہو گئی۔ اس کی تو خوشی ہوئی۔ لیکن چھاپنے کے لئے اب بھی حوصلہ نہ پڑتا تھا۔ فقیر نے دھڑکتے دل سے جناب محترم ضیاء اللہ کھوکھر کو خط لکھا کہ فوٹو سے فوٹو کا نسخہ اس کتاب کا فقیر کے پاس آپ کے تعاون سے مکمل موجود ہے۔ لیکن چھپنے کے قابل نہیں۔ آپ کے پاس اصل کتاب ہے۔ اس سے عمدہ فوٹو ہو سکتا ہے۔ مہربانی فرمائیں تو مکمل کتاب کا عمدہ فوٹو ارسال فرمائیں۔ تاکہ اس کتاب کو احتساب قادیانیت کی کسی جلد میں شامل اشاعت کیا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دیں۔ وعدہ فرمایا اور پھر ۲۳ جولائی ۲۰۱۱ء کو مکمل کتاب کا فوٹو ارسال کر دیا۔

قارئین کرام! اس کتاب کے طے کی خوشی تو خیر ایک فطری امر تھا کہ مرزا قادیانی ملعون کی زندگی میں ان کے خلاف اتنی ضخیم کتاب شائع ہوئی جو ہمارے پاس نہ تھی اب مل گئی۔ اس مسودہ کو لاہور بھجوایا وہاں سے کپوز ہو کر آیا۔ اس سلسلہ میں مولانا محمد عابد صفحہ اکیڈمی لاہور نے سرپرستی فرمائی۔ اس کتاب کے آخر پر درج ہے کہ اس کا دوسرا حصہ بھی شائع ہوگا۔ جو غالباً نہ ہو سکا۔ غرض:

۶..... چودھویں صدی کا نسخ: نامی کتاب جناب حکیم مظہر حسن قریشی میرٹھی نم سیالکوٹی اس جلد میں شامل اشاعت ہے۔

خلاصہ یہ کہ احتساب قادیانیت کی جلد اکتالیس (۴۱) میں پانچ حضرات:

- |        |  |    |   |       |
|--------|--|----|---|-------|
| .....۱ | حضرت مولانا عبداللطیف جہلمی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>                | کا | ۱ | رسالہ |
| .....۲ | حضرت مولانا محمد فیروز خان <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> ڈسکہ            | کا | ۱ | رسالہ |
| .....۳ | حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>             | کا | ۱ | رسالہ |
| .....۴ | حضرت مولانا جاوید سید محمد کرم شاہ الازہری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> | کے | ۲ | رسالے |
| .....۵ | جناب حکیم محمد حسن قریشی میرٹھی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>            | کی | ۱ | کتاب  |
- پانچ حضرات کی کل چھ عدد کتب درساں شامل ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ شرف قبولیت سے

سرفراز فرمائیں۔ امین بحرمۃ النبی الکریم!

محتاج دعاء: فقیر اللہ وسایا!

۷/۱۱ صفر الخیر ۱۴۳۳ھ، بمطابق ۱۲ جنوری ۲۰۱۲ء





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## پاکستان اور مرزائیوں کی غداریاں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

برادران اسلام! پاکستان کے اندر جو تخریبی فتنے پرورش پارہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ مرزائیت ہے۔ کیونکہ مرزائیت دین اسلام کی کھلی تحقیر و تضحیک کا دوسرا نام ہے۔ مرزائیت کے پیروں تو اسلام کے وفادار ہیں اور نہ مسلمانوں کے خیر خواہ، اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی ان کو کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے بھی اور پاکستان کے بن جانے کے بعد بھی آج تک اسی کوشش میں ہیں کہ کس طرح پاکستان کو ختم کر کے اپنے امیر کے خوابوں اور بیانات کو صحیح ثابت کیا جائے۔ اب خدا کے فضل و کرم سے مسلمان قوم ان کی منافقانہ چالوں کو اچھی طرح سمجھ چکی ہے۔

کوئی مسلمان مرجائے یا اس کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو مرزائی اس کا جنازہ پڑھنا حرام سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر احسان فراموشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ: ”مسٹر محمد علی جناح“ فوت ہوئے تو سر ظفر اللہ پاس بیٹھا رہا۔ لیکن جناح صاحب کا جنازہ نہیں پڑھا۔

آج تمام مرزائی اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان پر پورے طور پر قبضہ کر کے مرزائی حکومت قائم کریں۔ خدا کے فضل سے قیامت تک ان پاکستانی یہودیوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔

مرزا بشیر الدین محمود کا اعلان ملاحظہ فرمادیں۔ جس کو مرزائی سچا ثابت کرنے کے لئے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکھنڈ رکھنا چاہتی ہے۔ اگر عارضی طور پر تقسیم ہو تو اور بات ہے۔ ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح پھر متحد ہو جائیں۔“ (الفضل مورخہ ۱۶ مئی ۱۹۴۷ء)

آپ نے ۱۲ اپریل کے الفضل میں اپنا خواب بیان کیا کہ: ”میں اور مسٹر گاندھی ہم بستر ہوئے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان پھر متحد ہو جائے گا۔“

۲۶ نومبر کے الفضل میں اپنا ایک اور خواب بیان فرمایا کہ جس کا رازداں مرید باصفا سر ظفر اللہ وزیر خارجہ پاکستان تھا کہ: ”ہندوستان اور پاکستان پھر متحد ہو گئے ہیں اور انگریز واپس آ گئے ہیں۔“

آپ مرزائیوں کے خلیفہ کے ارادوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کہاں تک ان کی ہمدردی ہوگی۔ جب بوئڈری کمیشن کے سامنے مسلمانوں کی طرف سے کیس پیش ہوا تو مرزائیوں نے اپنے وکیل شیخ بشیر احمد امیر جماعت احمدیہ لاہور کی معرفت علیحدہ کیس پیش کیا۔ اگر مرزائی اس وقت مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو آج گورداسپور کا علاقہ یقیناً پاکستان کے ساتھ ہوتا۔ جب مرزائی مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے تو وہاں مسلم اور غیر مسلم کا سوال تھا۔ مرزائیوں کے علیحدہ ہونے پر مسلمان باوجود اکثریت کے اقلیت میں ہو گئے۔ جس کی وجہ سے گورداسپور کا علاقہ پاکستان سے کٹ گیا اور گورداسپور کے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے آج تک کشمیر کا مسئلہ طے ہونے میں نہیں آتا۔ کشمیر کا اب تک نہ ملنا محض مرزائیوں کی غداری کا نتیجہ ہے۔

### راولپنڈی سازش کیس

جس میں جنرل نذیر اور دوسرے مرزائی ماخوذ ہوئے تھے۔ فوجی انقلاب کر کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ قائد ملت خان لیاقت علی خان مرحوم مرزائیوں کے جھکنڈوں اور سازشوں سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے مرزائیوں کے بد ارادوں کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ آج بد قسمتی سے قائد ملت کے شہید ہو جانے کے بعد مرزائیوں کا خلیفہ مسلمانوں کو دھمکیاں دینے کی جرأت کر رہا ہے۔

ہماری غفلت کی وجہ سے برطانیہ کے جاسوس (مرزا قادیانی) کا یہ ٹولہ آج تک مملکت سے جائز و ناجائز طریقہ سے فوائد حاصل کر رہا ہے۔ دوسرے ممالک میں جاتا ہے تو مرزائیت کی

تبلیغ کرتا ہے اور مسلمانوں میں کفر و ارتداد پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی دولت جس طرح بھی ہو خرچ کر کے مرزائیت کو فروغ پہنچائیں۔ اسے پاکستان کی ترقی کی چنداں پروا نہیں اور پروا ہو بھی کیسے؟

جب ملک کی اکثریت کو وہ کافر گردانتا ہے۔ مرزائیوں کے اخبارات اور ان کا خلیفہ ہر طرح سے مسلمانوں کو فریب میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے رہنماؤں نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ ان عداوتوں کو پاکستان کی دولت لوٹنے نہیں دی جائے گی۔

چنانچہ ۲۲ جون ۱۹۵۲ء آل پارٹیز کونشن کا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا۔ جس میں ۱۷۵ علمائے کرام اور اکابرین ملت شریک ہوئے۔ مولانا محمد ہاشم صاحب گزدر ممبر دستور ساز اسمبلی نے اس اجلاس میں جو تقریر ارشاد فرمائی وہ خاص طور پر توجہ کے لائق ہے۔ جس میں ظفر اللہ کی وقاداری کا پردہ چاک ہوتا ہے۔

### تقریر گزدر ہاشمی

آپ نے فرمایا: جب چوہدری ظفر اللہ خان کشمیر کا مسئلہ پیش کرنے کے لئے ایک سس گئے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں بھی وہاں موجود تھا۔ وہاں کے لابی حلقوں میں مشہور تھا کہ سر ظفر اللہ وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو ہندوستان چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک فہرست کو مطلع کر دیا کہ یہاں کے لابی حلقوں میں ایسی خبریں مشہور ہیں۔ اس کے بعد میں نے تمام ممالک کا دورہ کیا اور محسوس کیا کہ اکثر ممالک میں ہمارے خارجہ دفاتر مرزائیت کی تبلیغ کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔

آپ نے فرمایا: چوہدری ظفر اللہ کے انگریزوں اور ہندوؤں سے خاص مراسم ہیں اور ان کے امیر خلیفہ محمود کے بھی اسی نوعیت کے الہامات ہیں۔ سر ظفر اللہ قادیانی پاکستان سے زیادہ اپنے امام مرزا بشیر الدین کے وفادار ہیں اور اپنے امام کی ہدایات کے مقابلہ میں حکومت پاکستان کے احکام کو ٹھکرادیتے ہیں۔ اس لئے مرزائی افسران اور سر ظفر اللہ پر ایک لمحہ کے لئے بھی بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا مرزائی افسروں کو کلیدی آسامیوں سے فوراً علیحدہ کر دینا چاہئے۔

آپ نے فرمایا: مرزائی افسروں کا ہمیشہ یہی عمل رہا ہے کہ جب تک کوئی مسلمان مرتد نہ ہو جائے۔ اس وقت تک اسے ملازمت نہیں دی جاتی اور اگر کسی نہ کسی طریقہ سے ملازم ہو جائے تو پھر اس کی ترقی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

### ستر فیصد قادیانی افسران

آپ نے فرمایا کہ ”جو شخص اکھنڈ ہندوستان کے نعرے لگاتا ہے وہ ملک کا دشمن ہے اور ہماری بد قسمتی ہے کہ اس وقت اکھنڈ ہندوستان کا عقیدہ رکھنے والے مرزائی ملک کی ستر فیصدی کلیدی اسامیوں پر فائز ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی وقت جنگ ہوگی تو نامعلوم پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔“

مسلمان بھائیو! مولانا موصوف کے خیالات پر غور کرو اور فتنہ سے آگاہ رہو۔ ہر مرزائی کی حرکت پر کڑی نگاہ رکھو۔ تاکہ کسی وقت بھی یہ خدایوں کا نولہ مسلمان اور پاکستان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ تمام جماعتوں اور فرقوں نے آپس میں اتحاد کر کے ”تحفظ ختم نبوت“ کے لئے مجلس عمل بنائی ہے۔

تمام مسلمانوں کو اس کے پروگرام پر پوری طرح عمل کر کے اس فتنہ کی سرکوبی کرنی چاہئے۔ تاکہ آئندہ کوئی گستاخ تاج ختم نبوت کی طرف بری نیت سے آنکھ نہ اٹھا سکے۔

نوٹ: الحمد للہ! اب سر ظفر اللہ خاں وزارت خارجہ سے علیحدہ ہو چکا ہے اور ۱۹۵۳ء تحریک ختم نبوت نے مرزائیوں کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے۔

### مرزائیوں کے چند اصولی عقیدے

آنحضرت ﷺ کی توہین

..... ”محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار..... الخ!“

اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۳، جزآن ج ۱۸ ص ۲۰۷)

زندہ شد ہر نبی با آمدنم

ہر رسولے نہاں بہ پیراہنم

(درشین قاری ص ۶۵، نزول المسح ص ۱۰۰، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۸)

میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا۔ ہر رسول میری قمیص میں چھپا ہوا ہے۔

۳..... مرزا یوں کا خلیفہ کہتا ہے: ”یہ بالکل صحیح بات ہے ہر شخص ترقی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ محمد

الرسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔“ (اخبار افضل قادیان مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۲۲ء)

۴..... حضرت علیؑ کی توہین: ”ایک زندہ علی (مرزا غلام احمد قادیانی) تم میں موجود ہے۔ اس کو

چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔“ (ملفوظات احمدیہ جلد اول ص ۴۰۰)

۵..... حضرت حسینؑ کی توہین:۔

صد حسین است در گریبانم

(نزول مسح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

ترجمہ: میرے گریبان میں سو حسین ہیں۔

۶..... حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی توہین: ”عین بیداری کی حالت میں میں نے دیکھا کہ

حضرت فاطمہؑ نے میرا سر اپنے ران پر رکھا۔“ (ایک غلطی کا ازالہ حاشیہ ص ۵، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۳ حاشیہ)

۷..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین: ”یسوع (مسیح علیہ السلام) کا خاندان بھی نہایت

پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور تین نانیاں آپ کی (مسیح علیہ السلام) کی زنا کار اور کبھی عورتیں

تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا (مسیح علیہ السلام) کا وجود ظہور پذیر ہوا۔“

(ضمیمہ انجام آقہم ص ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱)

نعوذ باللہ من هذه العقائد!



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمدہ وحدہ والصلوة والسلام علی من لا نبی بعدہ . اما بعد!

”قال اللہ تعالیٰ: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی

ورضیت لکم الاسلام دینا . قال النبی ﷺ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی“

حضرات محترم! یہ جہاں ایک میدان کا رزار ہے۔ جس میں حق اور باطل کی لگڑ ہمیشہ

سے چلی آ رہی ہے۔ مگر غلبہ ہمیشہ حق ہی کو رہا۔ طاغوتی لشکر بڑے جوش و خروش سے اٹتے ہیں۔

مگر لشکر حقانی اس کا بھیجا نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ کبھی اس میدان میں نمرود و ابراہیم (علیہ السلام)

نبرد آزما ہوئے تو کبھی موسیٰ (علیہ السلام) اور فرعون لگرائے۔ مگر نتیجہ دنیا کے سامنے ہے۔ اسی

طرح ہر زمانہ کے اندر حق و باطل کے معرکے ہوئے۔ بڑے بڑے دجال اور گمراہ پیدا ہوئے۔ مگر

مردان حق کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ باطل نئے نئے روپ کے اندر رونما ہوتا رہا۔ مگر حق ہمیشہ

ایک ہی صورت میں ظاہر ہو کر باطل کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکتا رہا۔ دور حاضر ہی کو لیجئے کہ باطل کن

کن بہر و پوں میں ظاہر ہو رہا ہے اور کیا کیا حربے حق کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ کہیں انکار

حدیث کا فتنہ ہے اور کہیں انکار قرآن کا اعلان، کہیں ختم نبوت کا انکار ہے تو کسی طرف تجدید اسلام

کا نعرہ لگ رہا ہے۔ الغرض فتنے بیشار ہیں۔ لیکن امت مسلمہ میں ان کے سدباب اور تدارک کے

لئے خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا۔ عوام الناس اور اکابرین ملت کما حقہ، اپنے فرائض انجام دینے کی

طرف بہت کم شعور و احساس رکھتے ہیں۔ ان تمام فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ انکار ختم نبوت ہے۔

جو اپنی شاخیں پوری دنیا میں پھیلانے کے پروگرام پر سرگرم عمل ہے۔ اسی فتنہ کی سرکوبی کے سلسلے

میں یہ تعریف مجاہد ختم نبوت مولانا محمد فیروز خاں صاحب مہتمم دہلی دارالعلوم مدنیہ ڈسکہ کی ایک سعی

و کمال کا نتیجہ ہے۔ فتنہ انکار ختم نبوت اور قادیانی امت کے ہندوستانی نبی کی مکاریوں اور عیارانہ

چالوں کا تار پود نکمیر نے جس وہ کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں اس کا فیصلہ قارئین کرام خود کر لیں

ناچیز: محمد اسحاق عفی اللہ تعالیٰ عنہ!



### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب ستائشیں اس اللہ کے لئے جس نے کائنات کو وجود بخشا اور صلوة سلام اس کے آخری نبی پر جس نے حق و صداقت کا علم اس جہاں میں بلند کیا اور ان صحابہ پر جنہوں نے حق کی روشنی کو چار سو عالم میں پھیلایا۔ اما بعد! چودھویں صدی مسلمانان عالم کے لئے ایک پر آشوب صدی ثابت ہوئی۔ اس صدی میں بہت سے نئے فتنے ظاہر ہوئے۔ مسلمانان ہند کے لئے خصوصیت کے ساتھ فتنہ مرزائیت اور فتنہ انکار حدیث تباہ کن ثابت ہوئے۔ غلامی نے فکری صلاحیتوں کو جس قدر مٹایا تھا۔ اسی مقدار سے لوگ فتنوں سے متاثر ہوئے۔ پھر ان فتنوں کی پشت پناہی وقت کے اقتدار اعلیٰ نے کی۔ خصوصیت سے فتنہ مرزائیت تو تھا ہی انگریزوں کی ایجاد جس کے لئے انہوں نے اپنے نمک خوار خاندان سے ایک فرد کو چنا۔ جو ظاہری طور پر زہد و اتقاء اور ہمدرد اسلام کے لبادہ میں لپٹا ہوا تھا۔ مگر درون خانہ انگریزوں کی حکومت مضبوط کرنے کے لئے انگریزوں کا تنخواہ دار ملازم تھا۔ جس طرح بارہا اس کی زبان سے انگریزوں کی مدح سرائی میں قصیدے سرزد ہوئے اور خود اس نے خود کا شتہ پودا ہونے کا اظہار کیا۔

نیز انگریزوں کی عدل گستری کے گیت گاتا رہا۔ حالانکہ سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو انگریزی نے پہنچایا۔ مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ انگریزی ہی کے ہاتھ سے ہوا۔

نیز انگریزوں کی سلطنت مضبوط کرنے کے لئے جہاد کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا اور اس اعلان کو عوام میں مقبول بنانے کے لئے یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی مسیح موعود ہوں۔ جس کے عہد میں جہاد منسوخ ہو جائے گا۔ پھر ترقی کر کے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنی بیعت کے شرائط میں انگریز کی اطاعت کو ایک شرط قرار دیا۔ مسلمانان ہند نے جب اس فتنہ کو تازا تو مسلم علماء نے اس کا مقابلہ ہر طرح سے کیا۔ تحریر اور مناظرات وغیرہ سے مگر مرزائیت روماء اور جاگیرداروں میں پھیلتی گئی۔ کیونکہ روماء تو تھے ہی انگریزوں کے نمک خوار لہذا ان کو اپنی ریاست اور نوکریاں قائم رکھنے کے لئے ایسا کرنا پڑا۔ مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی یہ محکم دلیل ہے کہ اولاً ان سے روماء نے ہی تعاون کیا اور نبوت کی تعمیر احلام سے ہوئی۔ وقت کے علماء نے واضح کاف طور پر اس کی تردید کر دی اور علمی طور پر ثابت کیا کہ مرزا قادیانی نہ تو مہدی ہیں نہ مسیح موعود صرف انگریز کے نمک خوار ہیں۔

انگریز حکومت کے دور میں تو علماء نے صرف زبانی طور پر مقابلہ کیا۔ جب ملک آزاد ہوا تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی کہ اب تمام انگریزی یادگاریں مٹ جائیں گی اور ان یادگاروں میں مرزائیت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ملک کی باگ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئی۔ جن کی اکثریت خود انگریز کی یادگار تھی۔ انہوں نے بھی اس پودے کو پانی دینا شروع کیا تو مسلمان پھر میدان میں اتر آئے اور ۱۹۵۳ء میں جو تحریک چلی وہ اسی غصہ کا اظہار تھا۔ اگرچہ کچھ دنوں تک مرزائیت پس پردہ چلی گئی۔ مگر اب پھر کھل کر سامنے آگئی ہے۔ ملک کے کلیدی عہدوں پر قادیانی قابض ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے لئے ضروری ہو گیا کہ اپنی کوشش تیز کر دیں۔ قادیانی حضرات نے اپنے عہدوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء کرام پر پابندیاں لگوائیں اور انہیں گرفتار تک کیا گیا۔ تاہم علماء نے اپنا فرض ادا کرنا ضروری سمجھا اور ادا کر رہے ہیں۔

زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ ڈسکہ مرزائیت کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ مرزائیت کی جڑوں میں پانی یہاں ہی سے میسر آیا تھا۔ چنانچہ احقر نے مسلمانوں کے تعاون سے ایک مدرسہ بنام دارالعلوم مدینہ یہاں قائم کیا۔ جس کی قادیانیوں نے شدید مخالفت کی اور ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اب یہاں قادیانیت کی تبلیغ میں دارالعلوم کی بنا پر دشواری پیش آئے گی۔

ان کی مخالفت کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے کام جاری ہے۔ مذکورہ کتاب لکھنے کا سبب بھی قادیانیوں کی مخالفت تھی۔ کیونکہ قادیانیوں نے جھوٹے پراپیگنڈا سے حکام کو یہ تاثر دیا کہ مذکورہ ادارہ کا سربراہ امن عامہ کے لئے خطرہ کا باعث بن رہا ہے۔ لہذا اس کی زبان بندی ضروری ہے۔ حکام بالا (جو ہمیشہ ایسے غلط پراپیگنڈا کا شکار ہوتے رہتے ہیں) نے احقر کی دو ماہ کی زبان بندی کو ردی تو احقر نے بہتر سمجھا کہ ان ایام میں تعلیمی مشاغل کے علاوہ یہ چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا جاوے۔ جس میں مرزا قادیانی کی پیش گوئیوں پر بحث کی جاوے۔ چنانچہ بعض پیشین گوئیوں پر بحث کی گئی۔ پھر مزید کچھ اور مضامین شامل کر لئے گئے۔ رسالہ کا حجم مجوزہ سے کچھ بڑھ گیا ہے۔ اسے ایک چھوٹی سی کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس بارے میں علماء کرام نے بہترین کتابیں لکھیں ہیں۔ تاہم میں نے بھی ایک حقیر سی کوشش کر کے تبلیغ ختم نبوت میں حصہ لینے کی سعی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”والحمد لله وحده والصلوة على من لا نبی بعده . اما بعد فقد قال الله تعالى هل انبئکم علی من تنزل الشیطین تنزل علی کل افک اثم یلقون السمع واكثرهم کاذبون (شعراء: ۱۲۱، ۱۲۲)“

سب سے پہلے یہ چیز ملحوظ رکھی جائے کہ الہام دو جی ایک خفیہ اشارہ کا نام ہے۔ جو بیداری اور خواب دونوں میں ہو سکتا ہے۔ پھر الہام والقاء کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی شیاطین کی طرف سے۔ سچے لوگوں کو کبھی الہام ہوتا ہے اور جھوٹے لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ پھر الہام انبیاء علیہم السلام پر جس طرح ہوتا ہے چاہے بیداری میں ہو یا خواب میں ہو۔ بہر صورت اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دیگر افراد امت کا الہام یقینی نہیں ہوتا۔ اسی لئے احکام کی بنیاد نہیں بن سکتا اور انبیاء کا الہام ہر حالت میں بنیاد ہوتا ہے۔ کیونکہ انبیاء کی بیداری اور نیند کسی حالت میں بھی الہام میں شیطانی دخل نہیں ہو سکتا۔ بخلاف دیگر افراد کے۔

اسی بنیاد پر کسی نبی کی کوئی پیش گوئی کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ بخلاف دیگر افراد کے کبھی درست اور کبھی غلط ہوتی رہتی ہے۔ لہذا معیار صداقت یہ ہوگا کہ جو شخص نبوت والہام کا دعویٰ کرے تو ضروری ہے جو پیش گوئی کرے کوئی بھی غلط ثابت نہ ہو۔ اگر ہزار میں سے ایک بھی غلط ثابت ہو جائے تو وہی اس مدعی کے کاذب ہونے کے لئے کافی ہے۔ مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ پیش گوئی میں غلطی بے علمی کی دلیل ہے اور جو پیش گوئی خدا کی طرف سے ہو۔ اس میں یہ احتمال نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ جل شانہ علام الغیوب ہیں نیز جو پیش گوئیاں واضح اور صریح الفاظ میں ہوں وہ کسی تاویل کی محتاج نہیں ہوتیں۔ پھر خاص کر جو پیش گوئی کلمات تاکیدہ قسم وغیرہ سے شروع ہووے تو کسی طرح کی تاویل قبول نہیں کر سکتی۔ یہ اصول غلام احمد نے خود تسلیم کیا ہے بلکہ اس پر زور دیا ہے۔

اب آئیے! ہم چودھویں صدی کے مدعی الہام دو جی مرزا غلام احمد قادیانی کی پیش گوئی کا تجزیہ کریں۔ کیا اس کی کوئی بھی پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی۔

مجھے یہ کہتے ہوئے کسی طرح بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کی پیش گوئیوں کا محرک ضرور کوئی ایسا امر ہے جو ان کے قلب و دماغ سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اس میں بھی شبہ نہیں کہ وہ قوت قدسیہ نہیں بلکہ قوت واہمہ اور طاغوتیہ، شیطانیہ ہے۔ جس طرح ابتدا بحث میں آیت قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی

طرف سے بھی ہوتا ہے۔ مگر خدا کا فیصلہ ہے کہ ایسے لوگ اکثر اپنے الہاموں میں کاذب ہوتے ہیں۔ یہی ہمارا بھی مرزا قادیانی کے متعلق یقین دایمان ہے۔ مرزا قادیانی خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ القاء شیطانی ہوتا رہتا ہے۔

مرزا قادیانی کی بے شمار پیش گوئیاں ہیں۔ اگر ان کو پیش گوئی کہا جاسکے۔ لیکن نکلنے سب جھوٹی ان پیش گوئیوں میں خاص کر مرزا قادیانی کی چند پیش گوئیاں بہت ہی مشہور ہیں اور ان پر مرزا قادیانی نے اپنی ذلت عزت کا مدار اور نبوت کا مدار اور نبوت کا کاروبار رکھا ہے۔ لہذا ان پر مختصر بحث کی جائے گی تاکہ قارئین پر واضح ہو جائے کہ مرزا قادیانی خود اپنی پیش گوئی کے اعتبار سے خود ہی اپنے آپ کو جھوٹا کذاب، ذلیل، مجرم، قابلِ روسیاء تسلیم کرتے ہیں۔ (جادوہ جو سر جڑھ کر بولے)

۱..... آتھم کے متعلق پیش گوئی۔

۲..... لیکھ رام کے متعلق پیش گوئی۔

۳..... مجھری بیگم والی پیش گوئی

۱..... پیش گوئی ڈپٹی آتھم

مرزا قادیانی نے یہ پیش گوئی مورخہ ۵ جون ۱۸۹۳ء میں ڈپٹی آتھم کے متعلق کی تھی۔ الفاظ پیش گوئی: ”آج رات مجھ پر کھلا ہے وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت تضرع اور اجتہال سے جناب الہی میں دعا کی تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے۔ وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے۔ اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی۔“ (جنگ مقدس ص ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰)

اس کتاب میں مزید تشریح مرزا قادیانی کی زبانی سنئے۔ (ناقل) ”میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق ہوا۔ معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لئے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے۔ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسوائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جائے۔“

روسیاہ کیا جائے۔ میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جائے۔ مجھ کو پھانسی دیا جائے۔ ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اس اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا ضرور کرے گا۔ زمین آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔“

(جنگ مقدس ص ۲۱۰، ۲۱۱، خزائن ج ۶ ص ۲۹۲، ۲۹۳)

اب پیش گوئی کا انجام سنئے۔ مدت پیش گوئی مورخہ ۵ ستمبر ۱۸۹۴ء کو ختم ہوگئی۔ آتھم بالکل تندرست رہا اور دندنا تا پھرتا رہا اور مرزا قادیانی کی پیشین گوئی جھوٹی ثابت ہوئی اور مرزا قادیانی کا ذب ٹھہرے۔ بلکہ مرزا قادیانی بقول خود ذلت، رسوائی و روسیای پھانسی بلکہ ہر قسم کے ذلیل سے ذلیل لقب کے مستحق قرار پائے۔ ”فاعتبروا یا اولو الابصار“ اب مرزا قادیانی کو اپنے الہام کے ڈھونگ کو بند کر دینا چاہئے تھا اور نبوت کا ذبہ سے توبہ کر لینی چاہئے تھی۔ مگر شیطان کب نچلا بیٹھنے دیتا ہے۔ اس نے اب اور الہام کیا کہ حیات ترک کر دو۔ ڈٹ جاؤ۔ اگر ساری دنیا بھی کہہ دے مرزا قادیانی اب دکان نبوت بند کر دیجئے۔ سارا پرچون ملاوٹی مضمر صحت ہے۔ مگر آپ زور شور سے لوگوں کی تردید کرو اور دعویٰ کر کہ ”پیش گوئی“ سچی ثابت ہوئی۔ کیونکہ عبد اللہ آتھم دل ول میں ڈر گیا تھا۔ بس یہی رجوع الی الحق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر و شرک کی خوب مثال بیان فرمائی ہے۔ ”مثل کلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجثنت من فوق الارض ما لها من قرار (ابراہیم: ۲۶)“

اس طرح قادیانی کلمہ خبیثہ کی بھی اصل نہ ہونے کی بناء پر کسی بات پر قرار نہیں ہے۔ دیکھیں کہاں پیش گوئی میں تھا کہ ڈر گیا پھر عذائل جائے گا۔ بلکہ وہ تو ڈرا بھی نہیں۔ وہ مرزا کو برابر کا ذب کہتا رہا۔

رجوع الی الحق تب ہوتا کہ وہ الوہیت مسیح کا انکار کر دیتا اور محمد رسول اللہ ﷺ کو خدا کا سچا نبی مانتا اور توحید کا قائل ہو جاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا بلکہ وہ آخردم تک عیسائیت پر قائم رہا اور اسلام کے خلاف رہا۔

مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں کہ اگر وہ عیسائیت پر قائم رہا تو ضرور مدت پیش گوئی میں مرجائے گا۔ آپ پر روشن ہے کہ وہ عیسائیت پر قائم رہا ہے۔ اس کے کسی قول و فعل سے عیسائیت کا ترک معلوم نہیں ہوتا۔ جس کے خود مرزا قادیانی گواہ ہیں۔ اب مرزا قادیانی کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ وہ خود انجام آتھم میں پیش گوئی کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”بلکہ پیش گوئی میں یہ صاف شرط موجود تھی کہ اگر وہ عیسائیت پر مستقیم رہیں گے اور

ترک استقامت کے آثار نہیں پائے جائیں گے اور ان کے افعال یا اقوال سے رجوع الی الحق ثابت نہیں ہوگا تو صرف اس حالت میں پیش گوئی کے اندر فوت ہوں گے۔ ورنہ ان کی موت میں تاخیر ڈال دی جائے گی۔“

(انجام آتھم ص ۱۳، خزائن ج ۱۱ ص ۱۳)

اس سے بڑھ کر کون سی شہادت اور ہو سکتی ہے کہ مرزا قادیانی خود اقرار کرتے ہیں کہ مخالف اگر عیسائیت پر قائم رہا تو ضرور موت کا مزہ چکھے گا۔ اب مرزا قادیانی کے مرید بتلائیں کہ وہ عیسائیت ترک کر کے مرزا قادیانی کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا تھا؟ نماز پڑھنی شروع کر دی تھی؟ کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا تھا؟ کیونکہ رجوع الی الحق قول کے اعتبار سے یہ ہی تو ہے کہ زبان سے اسلام کے سچا ہونے، حضور ﷺ کے رسول ہونے، خدا کے واحد ہونے کی گواہی دے۔

افعال سے رجوع الی الحق کہ نماز پڑھے۔ دیگر اسلامی عبادات بجلائے۔ کیا کوئی قادیانی اپنے نبی کی برأت میں ہتلا سکتا ہے کہ وہ نمازی بن گیا تھا۔ اگر ان کو خود معلوم نہ ہو تو خلیفہ کو قادیان بھیج کر مرزا قادیانی کی قبر پر مراقبہ کر دیا کہ معلوم کرو الیس۔ شاید وہ کوئی مزید روشنی ڈال سکیں۔

قادیانی کہتے ہیں۔ دل میں ڈر گیا تھا۔ چھپتا پھرتا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کس سے چھپتا پھرتا تھا۔ کیا پہلے ہمیشہ مرزا قادیانی کے دربار میں رہتا تھا کہ اب وہاں حاضر نہ ہونے کو چھپنا کہا جائے۔ اس کے دل پر خوف چھا گیا تھا۔ اگر وہ خوف زدہ ہوا تو بعید نہیں۔ کیونکہ اسے معلوم تھا۔ آنجناب اپنی پیش گوئی پوری کرنے کے لئے قتل کروانے کی تدبیر کریں گے۔ یہ فطری تقاضا ہے۔ اگر دشمن کا خوف رجوع ہے تو بتلائیں جب کہ مرزا قادیانی نے آریوں سے ڈر کر گورنمنٹ سے درخواست کی تھی۔ میری حفاظت کے لئے قادیان میں چند سپاہی مقرر رکھے جائیں۔ آپ ستمبر، اکتوبر ۱۸۹۳ء کا اخبار نور افشاں تو اٹھا کر دیکھیں۔ اگر محض خوف کا معنی رجوع ہے تو بتلائیں کہ مرزا قادیانی نے آریہ ہونا قبول کر لیا تھا۔ استقامت باقی نہ رہی تھی۔ آریوں کی طرف رجوع کر لیا تھا؟

کیا آپ کے نبی علم حدیث سے کورے تھے۔ ان کو امیہ کا واقعہ معلوم نہیں جب کہ حضرت سعد نے امیہ سے مکہ مکرمہ میں یہ ذکر کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمان امیہ کو قتل کریں گے تو اس نے پوچھا مکہ میں۔ سعد نے فرمایا معلوم نہیں تو یہ سن کر بہت گھبرایا اور قسم کھائی کہ مکہ سے نہ نکلوں گا۔ مگر جب جنگ بدر پیش آئی تو مجبوراً اس کو ابو جہل کے غیرت دلانے پر نکلنا پڑا۔ تاہم اس نے عمدہ ترین اونٹ خرید لیا تاکہ جب موقع ملے تو بھاگ کر واپس ہو جائے گا۔ اسی لئے

ہر منزل اونٹ باندھ کر رکھتا۔ مگر حضور ﷺ کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ وہ واپس نہ بھاگ سکا اور بدر کے میدان میں قتل ہوا۔

مرزا قادیانی کے خوار یوں! تلاء آتھم امیہ سے بھی زیادہ ڈر گیا تھا؟ حالانکہ امیہ کس قدر خوف زدہ تھا۔ کیا اس ڈر کو رجوع الی الحق کہو گے۔ کیا اس کا یہ معنی ہوگا کہ امیہ نے رجوع الی الحق کر لیا تھا۔ پھر قتل کیوں ہوا؟

میرے خیال میں کوئی قادیانی جواب دینے کی کوشش نہ کرے گا۔ جب کہ مرزا قادیانی خود زندگی میں جواب نہ دے سکے جو کہ بقول خود سلطان القلم اور ٹیم تھے۔ اب قادیانی حضرات تمہیں رجوع الی الحق کر لینا چاہئے۔ ورنہ ہاویہ تمہارے لئے تیار ہے۔ جس کے متعلق باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ”ما ادرک ماہیۃ نار حامیۃ (القارعہ: ۱۰، ۱۱)“ ﴿تو کیا جانے وہ کیا ہے، گرم آگ۔﴾

یاد رہے مرزائی کہتے ہیں۔ دیکھو قوم یونس سے بھی عذاب ٹل گیا تھا تو کیا حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی جھوٹی ہوئی۔

جواب: جناب والا قوم یونس علیہ السلام سے عذاب اس وقت ٹلا جب قوم یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تو خدا کا وعدہ پورا ہو گیا۔ مریدان بھیرتسمہ پا، قرآن مجید تو پڑھو اس میں کیا لکھا ہے۔

”فلولا کانت قریۃ آمننت فنفعھا ایمانھا الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنھم العذاب الخزی فی الحیوۃ الدنیاء و متعنناھم الی حین (یونس: ۹۸)“

اس میں صریح مذکور ہے کہ جب ایمان لائے تب عذاب ٹلا۔ کیا آتھم بھی ایمان لا چکا تھا کہ عذاب ٹل گیا۔ موت ٹل گئی۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ اصل بات تو یہ تھی کہ مرے گا اگرچہ پیش گوئی کی میعاد میں نہ مرا۔ بعد مرا۔ مگر یہ تو کوئی مرزائی بتلائے کہ کوئی انسان ایسا ہے جو کبھی نہ مرے۔ ”کل نفس ذائقۃ الموت (عنکبوت: ۵۷)“ ہر زندہ کو موت کا پیمانہ پینا ہے۔ جلد یا بدیر!

اب یہ تو واضح ہو گیا کہ مرزا قادیانی کی پیش گوئی جھوٹی نکل۔ پھر بھی مرزا قادیانی بضد تھے کہ آتھم نے رجوع الی الحق کر لیا تھا کہ ڈر گیا تھا۔ لہذا یہ آتھم قسم کھاوے کہ وہ ڈر نہیں تھا۔ آتھم نے عذر کیا کہ انجیل متی ۵ باب میں قسم کھانے سے منع آیا ہے۔

یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی چالاکی ہے کہ آتھم قسم تو کھا نہیں سکتا۔ کیونکہ عیسائی مذہب میں قسم جائز نہیں ہے۔ لہذا میں لوگوں میں مشہور کر دوں گا کہ جھوٹا ہے۔

اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی آدمی ہندو کو کہے کہ اگر تو سچا ہندو ہے۔ ہندو دھرم پر تیرا ایمان ہے تو گائے کا گوشت کھا۔ ورنہ تو جھوٹا ہے۔ اب بتلاؤ کہ وہ اپنے آپ کو ہندو ثابت کرنے کے لئے گائے کا گوشت کھائے گا۔ اگر کھائے گا تو وہ ہندو نہ رہے گا۔ کیونکہ گائے کا گوشت کھانا ہندومت کے خلاف ہے۔ بعینہ مرزا قادیانی کا آتھم کو قسم پر مجبور کرنا ایسا ہی ہے۔ اب واضح ہو گیا کہ دجالیت اسی کو کہتے ہیں۔ دجالیت کے لئے بڑی ہوشیاری اور چالاکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم جھوٹ کا بھانڈا چوراہے میں ہی پھوٹتا ہے۔ اب یہ تو صاف عیاں ہو گیا کہ آتھم پیش گوئی کی مدت میں نہیں مرا تو مرزا غلام احمد قادیانی صریح جھوٹے کاذب مفتری علی اللہ ثابت ہوئے۔

۲..... لیکھرام کی پیش گوئی

لیکھرام پشاور کے متعلق بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش گوئی کی تھی۔ اب اس کا حشر بھی سنئے۔

”واضح ہو کہ اس عاجز نے اشتہار مورخہ ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء میں جو اس کتاب میں شامل کیا گیا تھا۔ اندرائن مراد آبادی اور لیکھرام پشاور کی کو اس بات کی دعوت کی تھی کہ اگر وہ خواہشمند ہوں تو ان کی قضا و قدر کی نسبت پیش گوئیاں شائع کی جائیں۔ سو اس اشتہار کے بعد اندرائن نے تو اعراض کیا اور کچھ عرصہ کے بعد فوت ہو گیا۔ لیکن لیکھرام نے بڑی دلیری سے ایک کارڈ اس عاجز کی طرف روانہ کیا کہ میری نسبت جو پیش گوئی چاہو شائع کر دو۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ سو اس کی نسبت جب توجہ کی گئی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے الہام ہوا۔

”عجل جسد له خوار له نصب و عذاب“

یعنی یہ صرف ایک بے جان گوسالہ ہے۔ جس کے اندر سے ایک مکروہ آواز نکل رہی ہے اور اس کے لئے اس کی گستاخیوں اور بدزبانوں کے عوض میں سزا اور رنج اور عذاب مقدر ہے جو ضرور اس کو مل کر رہے گا اور اس کے بعد آج جو مورخہ ۲۰ فروری ۱۸۹۳ء دو شنبہ ہے۔ اس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لئے توجہ کی گئی تو خداوند کریم نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آج کی تاریخ سے جو ۲۰ فروری ۱۸۹۳ء ہے۔ چھ برس کے عرصہ تک یہ شخص اپنی بدزبانوں کی سزا میں یعنی ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے رسول اللہ ﷺ کے حق میں کی ہیں۔ عذاب شدید میں مبتلا ہو جائے گا۔



سواب میں اس پیش گوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں، آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں۔ اگر اس شخص پر چھ برس کے عرصے میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اندر ہیبت الہی رکھتا ہو تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور نہ اس کی روح سے میرا یہ نطق ہے۔

تو اگر میں اس پیش گوئی میں کاذب نکلا تو ہر ایک سزا کے بھگتنے کے لئے تیار ہوں اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسہ ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جائے۔ باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلتا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ زیادہ اس سے کیا لکھوں۔“ (سراج منیر ص ۱۲، جزائن ج ۱۲ ص ۱۵)

قریب ہی اس کے یہ عبارت استفتاء میں بھی معمولی تغیر کے ساتھ درج ہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ استفتاء میں یہ بھی موجود ہے کہ: ”جب یہ پیش گوئی پوری ہوگی تو لکھرام پر واجب ہوگا کہ مذہب اسلام قبول کر لے۔“ (استفتاء ص ۹، جزائن ج ۱۲ ص ۱۱)

اب ہم مرزا قادیانی کی پیش گوئی پر بحث کرتے ہیں۔

لکھرام مورخہ ۶ مارچ ۱۸۹۷ء کو قتل ہو گیا۔ مرزا قادیانی نے بڑے زور و شور سے اشتہارات شائع کر دیئے کہ پیش گوئی پوری ہوگی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی یہ بتلائیں کہ یہ کون سا خارق عادت عذاب نازل ہوا۔ کیا کسی آدمی کا قتل ہو جانا خارق عادت ہے؟ خارق عادت کے معنی ہیں جو چیز عادت کے خلاف ہو۔ کیا قتل عادت کے خلاف ہے۔ کیا لوگ قتل نہیں ہوتے۔ خصوصاً سرحدی علاقہ میں تو بوڑھا کھوسٹ ہو کر بستر پر مرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وہاں تو اکثر موتیں قتل سے واقع ہوتی ہیں۔ یہ کوئی خارق عادت ہے؟ ہرگز نہیں۔ پیش گوئی کے الفاظ پر غور کریں۔ ایسا عذاب جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت ہو۔ پھر اپنے اندر ہیبت الہی (یعنی تہر الہی) رکھتا ہو۔

یہ اس صورت میں اگر مان لیا جائے کہ پیش گوئی موت کی تھی۔ حالانکہ استفتاء کی جو عبارت ابھی نقل کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیش گوئی لکھرام کی زندگی میں پوری ہوگی۔ اگر زندگی میں پوری نہ ہوئی یعنی عرصہ چھ سال میں تو مرزا قادیانی آریہ مذہب اختیار کر لیں گے۔ یا ۳۶۰ روپیہ لکھرام کو دیں گے اور لکھرام بصورت پیش گوئی پوری ہونے کے مذہب اسلام اختیار کرے گا۔ کیا مرنے کے بعد بھی مذہب بدلا جاتا ہے؟ اگر قتل سے پیش گوئی پوری ہوگی تھی تو مرزا قادیانی کو لکھرام کی لاش سے مطالبہ کرنا چاہئے تھا کہ اب معاہدہ کے مطابق مذہب اسلام

قبول کر لو۔ کیا مرزا قادیانی نے دعوت وی تھی؟ کوئی مرزا کی جواب دے کہ مرزا قادیانی کے روحانی کرب و اضطراب کا مداوا کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا مرزا قادیانی پر بڑا احسان ہوگا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی عادت مسترحمی تھی کہ پیش گوئی کے وقت بڑے زور و شور سے دعویٰ کر دیتے اور کہہ دیتے کوئی انسان اس طرح زور و شور سے کبھی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا جھوٹی پیش گوئی کر کے رسوائی مول لے۔ گویا یہ پیش گوئی کی صداقت کی دلیل ہے۔ لیکن یہ سنا نہیں ہے۔

”اذالم تستحي فافعل ماشئت“ جب حیا نہ ہو تو جو جی میں آئے کر گذر۔

بے حیا باش و ہر آں چہ خواہی کن

مرزا قادیانی کے حواریوں! یہی شد و مد کے دعوے دلیل کذب ہیں۔

ایک اور الہام

مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ”مجھے ایک اور الہام لیکھ رام کے متعلق ہوا ہے۔“ فبشیر لی

ربی بموتہ فی ست سنة“ (استثناء درود ص ۱۱، خزائن ج ۱۲ ص ۱۱۹)

یعنی خدا تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے کہ وہ چھ سال کے اندر ہلاک ہو جائے گا۔

(چنانچہ وہ چھری سے مارا گیا)

یہ الہام مرزا قادیانی نے خود گھڑ لیا۔ تاکہ اس طرح نہ ہوا تو اس طرح سہی۔ کچھ تو تاویل کی گنجائش باقی رہے۔ یاد ہوگا ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ پیش گوئی سچی ثابت ہونے پر لیکھ رام کو اسلام قبول کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ زندگی میں ہی متصور ہے۔ اب یہ الہام پہلے سے مختلف ہے۔ اللہ جل شانہ نے سچ فرمایا: ”لوکان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً کثیراً“

اگر قرآن اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ مگر قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بخلاف مرزا قادیانی کی وحی کے چونکہ یہ غیر اللہ یعنی شیطان کی طرف سے ہے۔ لہذا کبھی کچھ اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔

عربی غلط

پھر حضرت کو جو الہام ہوا وہ ایسی ذات کی طرف سے ہے جو عربی سے بھی جاہل معلوم ہوتی ہے۔ شاید یہ ذات شریف مرزا قادیانی کی اپنی ہو۔ ست سہ کبھی عربی میں استعمال نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو پوری مرزائی امت دنیا میں کسی عربی کی کتاب مستند سے نکال کر بتائیں۔ ہلشہ سے لے

کر عشرہ تک تمیز جمع مجرور ہوتی ہے۔ کہیں بھی مفرد نہیں آئی۔ کیوں مرزا نیا! سلطان القلم کی جہالت آشکارا ہوئی کہ ابھی کچھ کسر ہے؟ اگر کسر ہے تو ہم وہ بھی کسی وقت پوری کر دیں گے۔

### مرزا قادیانی کا ایک جھوٹ

مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ (مگر بعد موت لیکھ رام) مجھے ایک اور الہام ہوا تھا۔ جو لیکھ رام کی موت کے متعلق ہے۔ یعنی وہ عید کے قریب مرے گا اور لکھا ہے وہ الہام یہ ہے۔

”ستعرف يوم العيد والعيد اقرب“

### اصل الہام

”الا انسى فى كل حرب غالب فكدنى بما زورت بالحق يغلب  
وبشرنى ربي وقال مبشراً ستعرف يوم العيد والعيد اقرب ومنها ما وعدنى  
ربي“

(استثناء ص ۱۱، خزائن ج ۱۲ ص ۱۱۹)

یہاں مرزا قادیانی نے یہ گھڑ لیا۔ اس میں لیکھ رام کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ وہ عید کے دوسرے دن قتل ہو گیا تھا۔ مگر یہ تشریح مرزا قادیانی کو قتل کے بعد سو جھی۔ کیا پہلے بھی انہیں لکھا تھا کہ اس شعر سے مراد لیکھ رام کی موت ہے۔ جناب یہ مرزا قادیانی کا دجل ہے۔ یہ اشعار مرزا قادیانی نے مولوی محمد حسین مرحوم کے اشاعت السنۃ کے ایک مضمون کے جواب میں لکھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مرزا قادیانی عربی سے تابلد ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اشعار جو ہیں ان میں مولوی محمد حسین مخاطب ہیں۔ کیونکہ اشاعت السنۃ ان کا رسالہ تھا۔ اب مرزا قادیانی کا جھوٹ واضح ہو گیا کہ اس سے مراد لیکھ رام نہیں۔ اس کے بعد جو اشعار ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کسی ایسے شخص کو مخاطب کر رہے ہیں جو ان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ ظاہر ہے۔ یہ مولوی محمد حسین صاحب ہی تھے۔ انہوں ہی نے اشاعت السنۃ میں مرزا قادیانی کی خبر لی تھی نہ کہ لیکھ رام نے۔

### روحانی خزائن

جلد ۷ کے ص ۷۷ پر پیش لفظ میں اس کی تصریح ہے کہ: ”کرامات الصادقین مولوی محمد حسین صاحب کے رسالہ اشاعت السنۃ جلد ۱ نمبر ابا بت ماہ جنوری ۱۸۹۳ء کا جواب ہے۔“

اب پہلے جو دو شعر میں نے نقل کئے ہیں۔ جن کو مرزا قادیانی پیش گوئی لکھ رام کے متعلق بتا رہے ہیں۔ ان چند اشعار کے بعد کا ایک شعر نقل کرتا ہوں۔ جس میں صاف ظاہر ہے

کہ لیکھ رام مراد نہیں ہے۔ دیکھو:

وقاسمتهم انا الفتاویٰ صحیحة  
وعلیک وزر الکذب ان کنت تکذب  
وهل لك من علم ونص محکم  
علی کفرنا او تخرصن وتتعب

(کرامات الصادقین ص ۵۴، خزائن ج ۷ ص ۹۶)

ترجمہ: تو نے ان لوگوں کو قسم کھا کر بتلایا کہ فتویٰ صحیح ہے۔ (یعنی جو مرزا قادیانی پر لگائے گئے) اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹے کا دباں تجھ پر ہے۔ کیا تیرے پس قطعی علم یا کوئی نص مضبوط ہے۔ ہمارے کفر پر؟ یا محض انکل اور تکلف سے کام لے رہا ہے۔

اب معلوم ہوا کہ یہاں وہ شخص مخاطب ہے۔ جس نے غلام احمد پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ معلوم ہوا لیکھ رام کے متعلق نہیں۔ پس مرزا قادیانی نے اپنی عادت کی بناء پر لیکھ رام کے مرنے کے بعد اس کو ان سے جوڑ دیا۔

(کرامات الصادقین ص ۵۵، خزائن ج ۷ ص ۹۷) پر ایک اور شعر اس طرح لکھا ہے۔

اتامر بالتقویٰ وتفعل ضده

وتنکث عہدا بعد عہد وتہرب

کیا تو تقویٰ کا حکم دیتا ہے اور خود اس کے خلاف کرتا ہے اور مکرر عہد شکنی کرتا ہے اور

بھاگتا ہے۔

امت مرزا یہ بتلائے یہ لیکھ رام اتقاء کا درس دیتے تھے۔ ان سے عہد ہوا تھا یا کہ شیخ محمد

حسین صاحب سے؟

ایک شعر اور لیجئے اسی (کرامات الصادقین ص ۵۵، خزائن ج ۷ ص ۹۷) پر۔

الا ایہا الشیخ اتق اللہ الذی

یهدئ عمارات الہوی ویخرب

اے شیخ ڈراں خدا سے جو خواہشات کی عمارتیں گراتا ہے اور برباد کرتا ہے۔

اب بالکل واضح ہو گیا کہ جس پیش گوئی کو مرزا قادیانی لیکھ رام پر چسپاں کر رہے ہیں۔ وہ

مولوی محمد حسین صاحب کے متعلق ہے۔ مگر ان کو خدا نے سلامت رکھا۔ مرزا قادیانی کی دال نہ گئی۔

ایک گواہی اور لو (کرامات الصادقین ص ۵۶، خزائن ج ۷ ص ۹۸) پر اس طرح لکھتے ہیں۔

اتکفرنی فی امر عیسیٰ تجاسرا

و کذبتنی خطاء و لست تصوب

کیا تو مجھے عیسیٰ کے معاملہ میں جسارت سے کافر کہتا ہے اور غلطی سے مجھ کو کاذب کہتا ہے اور تو درست نہ کہہ رہا۔

اب بھی قادیانیوں کو شک ہے؟ اب بالکل واضح ہو گیا کہ مرزا قادیانی شعر مذکورہ کو پیشین گوئی بنا کر لیکھ رام پر چسپاں کرنے میں صریح کاذب ہیں۔ ایک تو نفس پیشین گوئی میں کاذب نکلے۔ پھر شعر مذکورہ کو اس کی طرف منسوب کرنے میں دو چند کاذب نکلے۔ اب ہم مرزا قادیانی سے اتفاق کرتے ہوئے آپ ہی کی بات کی تصدیق کرتے ہیں جو حسب ذیل ہے:

”اگر میں اس پیشین گوئی میں کاذب نکلا تو ہر ایک مرزا بھگتے کے لئے تیار ہوں اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسہ ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جائے۔“ (سراج منیر ص ۱۲، خزائن ج ۱۲ ص ۱۵)

اب تو مرچکے ہیں۔ اگلے جہاں تو ماشاء اللہ ہادیہ میں سولی پر لٹک رہے ہوں گے۔ مگر زندگی میں بھی تو معمولی رسوائی نہیں ہوئی کہ اس شرمندگی کے مارے دوران سر میں ہتلا ہو گئے۔ دیگر مابین الرجلین کا معاملہ بہت ہی نازک ہو گیا تھا۔ گھنٹہ میں سو سو دفعہ..... سمجھنے والے سمجھ لیں۔

تیسری معرکہ الآراء پیش گوئی

”خدا تعالیٰ نے پیشین گوئی کے طور پر اس عاجز (مرزا غلام احمد قادیانی) پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں (محمدی بیگم) انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔“ (ازالہ اوہام ص ۳۹۹، خزائن ج ۳ ص ۳۰۵)

مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشین گوئی تو پڑھ لی مگر اب اس پیشین گوئی کا ورود کب ہوا؟ اور مرزا قادیانی نے کس طرح ایک مطلب پرست، حریص، لالچی اور موقع سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے ذلیل انسان کی طرح محمدی بیگم کے متعلق اس کے والد سے مطالبہ کیا؟ اور پھر کس لجاجت اور ذلت سے مطالبہ کیا اور کیسا کیسا لالچ دیا؟

مرزا قادیانی کا موقع سے فائدہ اٹھانا

”محمدی بیگم کے اعزاء) مجھ سے کوئی نشان آسانی مانگتے تھے۔ اس وجہ سے کئی مرتبہ

دعا کی گئی۔ سو وہ دعا قبول ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے یہ تقریب قائم کی کہ اس لڑکی کا والد ایک ضروری کام کے لئے ہماری طرف تلپتی ہوا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ نام بردہ (مرزا احمد بیگ) کی ایک ہمیشہ ہمارے ایک چچا زاد بھائی غلام حسین نامی کو بیانا ہی گئی۔ غلام حسین عرصہ پچیس سال سے کہیں چلا گیا اور مفقود العثر ہے۔ اس کی زمین جس کا حق ہمیں بھی پہنچتا ہے۔ نام بردہ (مرزا احمد بیگ) کی ہمیشہ کے نام سرکاری کاغذات میں درج کرادی گئی تھی۔

اب حال کے بندوبست میں جو ضلع گورداسپور میں جاری ہے۔ نام بردہ یعنی ہمارے خط کے مکتوب الیہ (مرزا احمد بیگ) نے اپنی ہمیشہ کی اجازت سے یہ چاہا کہ وہ زمین جو چار پانچ ہزار روپے قیمت کی ہے۔ اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور ہبہ منتقل کرادیں۔ چنانچہ ان کی ہمیشہ کی طرف سے ہبہ لکھا گیا۔

چونکہ وہ ہبہ نامہ بغیر ہماری رضامندی کے بے کار تھا۔ اس لئے مکتوب الیہ نے تمام تر عجز و انکساری ہماری طرف رجوع کیا۔ تاکہ ہم راضی ہو کر اس ہبہ نامہ پر دستخط کردیں اور قریب تھا کہ دستخط کردیتے۔ لیکن یہ خیال آیا کہ جیسا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے۔ جناب الہی میں استخارہ کر لینا چاہئے۔ سو یہی جواب مکتوب الیہ (مرزا احمد بیگ) کو دیا گیا۔ پھر مکتوب الیہ کے متواتر اصرار سے استخارہ کیا گیا۔

وہ استخارہ کیا تھا کہ آسانی نشان کی درخواست کا وقت آ پہنچا تھا۔ جس کو خدا تعالیٰ نے اس پیرایہ میں ظاہر کر دیا۔

اس خدائے حکیم قادر مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص (مرزا احمد بیگ) کی دختر کلاں (محمدی بیگم) کے نکاح کے لئے سلسلہ جنابانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک و مروت تم سے اسی شرط پر کیا جاوے گا اور یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے۔ جو اشتہار مورخہ ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء میں درج ہے۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسرے شخص سے بیانیہ جائے گی۔ وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک، ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ بھی دختر کے لئے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔“

(اشہار مورخہ ۲۰ جولائی ۱۸۸۸ء، مندرجہ مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۵۹، ۱۶۰، تلخیص رسالت ج ۱ ص ۱۱۶)  
نوٹ: مندرجہ بالا عبارت پڑھیں اور غور کریں کہ آنجناب کس قدر کنویں میں گرے۔

بیل کو خسی کرنے میں ماہر ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ بیل کنویں میں بھی بے سنگھ بہادر کے قابو نہیں آ رہا۔

مرزا احمد بیگ مرحوم نے مرزا قادیانی سے مکرو فریب کے جال کو توڑ کر غیرت و حمیت اور اسلام دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے آنجہانی مرزا قادیانی کو صاف صاف جواب دے دیا اور مرزا قادیانی کی مکاری سے صاف بچ نکلے۔

اس سے پہلے نقل شدہ عبارت غور سے پڑھیں۔ مرزا قادیانی صرف اس صورت میں مروت کا ثبوت دینے کو تیار ہیں۔ جب ان کی آرزو پوری ہو۔ کیا مروت اسی کا نام ہے؟ کیا قادیانی مروت کا نمونہ بھی ہے؟ کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے اس کی عزت پر ہاتھ صاف کرو اور پھر کہو اب احسان کریں گے۔ یہ بھی لغت میں نیا اضافہ ہے کہ مروت وہ ہوتی ہے جو مطلب برآری کے بعد کسی سے روارکھی جائے۔ واہ رے مرزا قادیانی تمہارے کیا کہنے۔ اس کو اتباع ہوا کہا جاتا ہے۔

اب خدارا غور کرو! ایسا آدمی نبی ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایسا شخص تو شریف بامروت انسان بھی نہیں کہلا سکتا۔ چہ جائیکہ مجدد، ملہم، محدث، نبی اور نبی بھی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر بلکہ شان میں محمد ﷺ سے بڑھ کر۔

”ان اللہ لا یهدی من ہو مسرف کذاب“ معاملہ یہاں ہی ختم نہیں۔ بلکہ مزید لالچ دیتے ہوئے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۷۲، ۵۷۳، خزائن ج ۵ ص ۱۵۸) میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں:

”فاوحی اللہ الی ان اخطب صبیبة الکبیرة لنفسک وقل له لیصاھرک اولاً ثم لیقتبس من قبسک وقل انی امرت لاهبک ما طلبت من الارض وارضا اخری معها واحسن الیک باحسانات اخری علی ان تنکحنی احدی بناتک التی ہی کبیرتھما وذلک بینی وبینک فان قبلت فستجدنی من المتقبلین وان لم تقبل فاعلم ان اللہ قد اخبرنی ان انکحھا رجلاً اخر لا یبارک لها ولاک فان لم تزد جر فیصیب علیک مصائب و اخر المصائب موتک تموت بعد النکاح الی ثلاث سنین بل موتک قریب ویرد علیک وانت من الغافلین وكذلك يموت بعلمها الذی یصیر زوجها الی الحولین وستة اشهر قضاء من اللہ فاصنع ما انت صانعه وانی لک لمن الناصحین فعبس وتولى وكان من المعرضین“

اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تو اس کی بڑی لڑکی کے نکاح کی اپنے لئے درخواست کراؤ۔ اس سے کہہ دے کہ پہلے مجھے اپنی دامادی میں قبول کر لے اور پھر تیرے نور سے روشنی حاصل کرے اور کہہ دے کہ مجھے تمہاری مطلوبہ زمین کے ہبہ کرنے کا حکم مل گیا ہے۔ بلکہ اور زمین کے ساتھ دی جائے گی اور تم پر مزید احسانات کروں گا۔ بشرطیکہ تم اپنی لڑکیوں میں سے بڑی لڑکی کا نکاح مجھ سے کہہ دو اور یہی میرے اور تمہارے درمیان عہد ہے۔ اگر تم قبول کر لو تو مجھے بھی قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اگر قبول نہ کیا تو جان لو مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کا نکاح کسی دوسرے آدمی کے ساتھ نہ تو اس لڑکی کے لئے مبارک ہوگا۔ نہ تمہارے لئے اگر نہ رکے تو تم پر مصائب نازل ہوں گے اور آخری مصیبت موت ہوگی۔ تم نکاح کے بعد تین سال کے عرصہ میں مر جاؤ گے۔ بلکہ موت اس سے بھی قریب وارد ہوگی اور تم غافل ہو گے۔ اسی طرح اس لڑکی کا خاوند بھی اڑھائی سال کے عرصہ میں مر جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بس جو کرنا ہے سو کر لو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بس وہ تیوری چڑھا کر اعراض کرتے ہوئے چل پڑا۔

اس میں مرزا قادیانی نے مرزا احمد بیگ کو یہ لالچ دیا کہ مطلوبہ زمین کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور احسانات بھی ہوں گے۔ مگر شرط یہ ہے اپنی دختر کا نکاح کرو۔ ورنہ مر جاؤ گے۔ مصائب نازل ہوں گے۔ لڑکی بیوہ ہوگی۔

نیز اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے۔ اب آگے دیکھئے وحی کہاں تک سچی نکلی۔ پھر اسی کتاب (آئینہ کلمات اسلام ص ۵۷۳، خزائن ج ۵ ص ۱۵۷) پر مزید لالچ دیتا ہے: ”انسی اعطی بنتک ثلاثا من ارضی ومن کل ما ملکہ یدی ولا تسئلنی خصه الا اعطیک ایہا وانی من الصادقین“ میں تمہاری بیٹی کو اپنی زمین اور جملہ مملوکات کا تہائی حصہ دوں گا اور آپ جو کچھ مانگیں گے وہ آپ کو دوں گا۔ میں سچ کہتا ہوں۔

جناب والا ایک زن کے لئے اپنی تہائی زمین و دیگر اشیاء پیش کر رہے ہیں۔ دیکھئے کتنے فیاض واقع ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں فیاض وحی بامروت وہ کہلاتا ہے جو دوسروں سے بلاغرض نفسانی اچھا سلوک کرے۔ مطلب برآری کے لئے تو مجبوراً کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ فیاض نہیں جناب کی سودا ہے۔ بلکہ رشوت ہے۔ بہت خوب نبی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ رشوت دے کر رام کرتے ہیں۔

اس کے بعد مرزا قادیانی نے مرزا احمد بیگ اور لڑکی کے ماموں مرزا امام الدین و دیگر رشتہ داروں کو خط لکھ کر نکاح پر آمادہ کرنا چاہا۔

(نوٹ) مرزا غلام احمد قادیانی کے لڑکے مرزا فضل احمد کے گھر عزت بی بی، مرزا احمد



بیگ کی بھانجی بیابھی ہوئی تھی۔ اس لئے مرزا قادیانی نے اپنی بہو کے والد پر زور دیا کہ وہ محمدی بیگم کا رشتہ سلطان محمد سے نہ ہونے دے۔ بلکہ مجھ سے کرا دے۔ ورنہ تمہاری لڑکی کو طلاق دلوادوں گا۔ اسی طرح عزت بی بی سے اس کی والدہ کو خط لکھوائے کہ: ”مجھے رسوائی طلاق سے بچاؤ۔ (مرزا قادیانی کا عشق تمہارا نظر نہیں آتا) ورنہ مجھ کو یہاں سے لے جاؤ۔“ پھر آخر یہی ہوا۔ بچاری کو طلاق بھی دلوادی۔

اگر میں یہاں سارے خط درج کروں تو ایک بہت بڑی کتاب بن جائے گی۔ تاہم میں بعض خط درج کرتا ہوں اور بعض کا خلاصہ لکھوں گا تاکہ ان کو مرزا قادیانی کا جنون زن معلوم ہو جائے اور معلوم ہو کہ نبوت کا ذبیحہ کی دکان چکانے کے لئے کس قدر پاگل بن رہے ہیں۔

### عزت بی بی کا خط بحکم مرزا قادیانی

یہ مرزا قادیانی کے چھوٹے لڑکے کی اہلیہ ہیں۔

”سلام مسنون کے بعد اس وقت میری تباہی و بربادی کا خیال کرو۔ مرزا صاحب مجھ سے کسی طرح فرق نہیں کرتے۔ اگر تم اپنے بھائی، میرے ماموں (یعنی محمدی بیگم کے والد) کو سمجھاؤ تو سمجھا سکتی ہو۔ اگر نہیں تو پھر طلاق ہوگی اور ہزار طرح کی رسوائی ہوگی۔ اگر منظور نہیں تو خیر، مجھے اس جگہ سے لے جاؤ۔ پھر میرا ٹھہرنا اس جگہ مناسب نہیں۔“

(بے چاری ٹھیک کہتی ہے۔ ایسے بوڑھے شہوت پرستم، لالچی کے پاس ٹھہرنا یقیناً خطرناک ہے جو انتقام کی آگ میں جل رہا ہو)

اسی خط پر مرزا قادیانی ریمارک کر رہے ہیں۔ ”اگر نکاح نہیں رک سکتا تو پھر بلا تو قف عزت بی بی کے لئے کوئی آدمی قادیان میں بھیج دو۔ تاکہ ان کو لے جاوے۔“ (بہت خوب خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہر روک دور ہوگی)

عزت بی بی بذریعہ خاکسار غلام احمد رئیس قادیان۔ مورخہ ۲۳ مئی ۱۸۹۱ء۔

(کلمہ فضل رحمانی)

دیکھائی کا عدل، لڑکی وہ نہیں دیتے اور غصہ عزت بی بی پر نکال رہے ہیں۔ دیکھائی کا

عدل، واہ رے واہ۔

غالب نے خوب کہا۔

عشق نے غالب نکما کر دیا  
ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے

مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنی پہلی بیوی (مجھے دی ماں) کو بھی محض اس لئے طلاق دے دی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں ہے۔ چونکہ مرزا قادیانی کا بیڑا لڑکا سلطان احمد مرزا قادیانی کا ہم عقیدہ نہ تھا اور اپنی تائی کو چھوڑ نہ سکتا تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے غصہ میں آ کر پہلی بیوی کو طلاق دے دی کہ میری پیشین گوئی میں حرام ہو رہی ہے۔

کیا یہی پیغمبرانہ شان ہے؟ اور لڑکے کو بھی حاق کر دیا۔

اب میں اصل پیشین گوئی کا بیان کرتا ہوں۔ محمدی بیگم کا نکاح مورخہ ۷ اپریل ۱۸۹۲ء کو مرزا سلطان محمد ساکن پٹی شلخ لاہور سے ہو گیا۔ مرزا قادیانی ہاتھ ملتے رہ گئے اور یاس و حسرت، ناکامی عشق پر چار چار آنسو بہاتے رہے۔ مرزا قادیانی کا الہام مندرجہ (فیصلہ آسمانی ص ۴۰، خزائن ج ۳ ص ۳۵۰) بالکل غلط ثابت ہوا۔

وہ یہ تھا: "لا مبدل لکلمات اللہ" کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو نال سکے۔

بلکہ مرزا قادیانی نے یہاں تک کہہ دیا: "مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے اور تم اس کو وقوع میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ ہم نے خود اس سے تیرا نکاح پڑھا دیا ہے۔ میری باتوں کو کوئی نہیں بدلا سکتا۔"

گویا کہ مرزا قادیانی سے محمدی بیگم کا نکاح خدا نے آسمان پر خود پڑھایا تھا اور مرزا سلطان محمد زبردستی قابض ہو گیا۔ قابض محض نہیں ہوا۔ بلکہ درجن کے لگ بھگ کم و بیش اولاد بھی فراہم کر لی اور مرزا قادیانی بجز تاویل پر تاویل اور موت کی دھمکیاں دینے اور خاک اڑانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ کیا جس عورت کا نکاح مجمع عام میں کوئی ادنیٰ مولوی پڑھا دے تو دوسرا کوئی اس عورت پر قابض ہونا چاہے تو کوئی غیرت مند شوہر یہ برداشت کرے گا کہ:

الف ..... بیوی ہو اس کی اور دوسرے کے گھر کی زینت بنے؟

ب ..... بیوی ہو اس کی اور ہو دوسرے کے بستر پر؟

مرزا نیو! گندی تالی میں ڈوب کر مر جاؤ۔ تمہارے پیغمبر کی بیوی لے اڑا سلطان محمد اور تم نے حصول مادر کے لئے کبھی کوئی عملی کوشش نہ کی۔ کم از کم مرزا قادیانی کے مرید حسب عادت مرزا قادیانی عدالت میں دعویٰ ہی کر دیتے کہ: "ام القادیانین پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ڈاکو کو سزا دی جائے۔ خود کاشتہ پودا کی حفاظت کی جائے۔"

اگر مرزا قادیانی اور ان کے حواریوں میں غیرت ہوتی، شرم و حیا ہوتی تو ایک دن بھی اس دنیا سے بے وفا میں نہ رہتے۔ جہاں ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ قادیانی لغت میں شرم و حیا کا

تو مادہ ہی موجود نہیں ہے۔

یہ تو ہوا اس الہام کے متعلق جو محمدی یتیم کے نکاح سے پہلے ہوا تھا۔ جس میں پہلے الہام کی تاکید تھی۔ باقی رہا وہ الہام جس میں کہا گیا تھا کہ لڑکی کا خاوند یوم نکاح سے اڑھائی سال اور باپ تین سال کے عرصہ میں فوت ہو جائیں گے اور وہ بھی غلط نکلا۔ کیونکہ لڑکی کا باپ جس کی میعاد تین سال تھی اور خاوند کی میعاد اڑھائی سال۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالترتیب سلطان محمد بیک پہلے مرے گا اور مرزا احمد بیک بعد میں۔ مگر لڑکی کا باپ قضاء الہی سے چھ ماہ کے بعد مر گیا اور جو اصل حریف تھا وہ مرزا قادیانی کی چھاتی پر سوگ دلتا رہا اور منکوحہ آسمانی پر متصرف رہا۔ بلکہ اصل پیشین گوئی کے چند اجزاء ہیں جو تمام مل کر پیشین گوئی بنتی ہے۔ وہ مرزا قادیانی نے خود بیان کر دیئے ہیں۔

.....۱ ”مرزا احمد بیک ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔

.....۲ داماد اس کا اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔

.....۳ احمد بیک تاروز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو۔

.....۴ وہ دختر بھی تا نکاح و تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو۔

.....۵ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہو۔

.....۶ پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جاوے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے

اختیار میں نہیں۔“ (شہادت القرآن ص ۸۰، خزائن ج ۶ ص ۳۷۶)

اس میں بالکل ظاہر ہے کہ سلطان محمد اور مرزا احمد بیک کو تین سال کے عرصہ میں بموجب پیشین گوئی مرنے سے۔ مگر چالاکی دیکھیں۔ چونکہ اس وقت مرزا احمد بیک مر گیا تھا۔ لہذا اس کا نمبر ایک کر دیا۔ سلطان محمد کو بعد میں نمبر ۲ پر رکھا۔ حالانکہ پیشین گوئی میں نمبر سلطان محمد کا تھا۔ تاہم پیشین گوئی پوری نہ ہوئی۔ کیونکہ مشہور قاعدہ ہے۔ ”اذا فات الجزء ففات الكل جز“ جز کے عدم سے کل عدم ہو جاتا ہے۔

دوسری خبر یہ تھی کہ داماد اڑھائی سال میں فوت ہو۔ یہ بالکل غلط نکلا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد تک بلکہ بڑی مدت تک زندہ رہا۔ لہذا دوسری سب خبریں خود بخود جموٹی ثابت ہوئیں۔ مرزا قادیانی کا نکاح نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ مرزا قادیانی تا کام و تا مراد آنجمنی ہو گئے۔

پھر مرزا قادیانی نے اس کے بعد بیچ و تاب کھا کر اور الہام جڑ دینے کے وہ عورت بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیا میرے صدق و کذب کا یہ معیار ہے۔ اگر میں محمدی یتیم سے نکاح کئے بغیر مر گیا تو جموٹا۔

ہم چونکہ مرزا قادیانی کے اس قول کے پابند ہیں۔ اس لئے انشراح صدر کے ساتھ آغجاب کو کاذب بلکہ رئیس الدجالین کا خطاب عالیہ پیش کرتے ہیں۔ امید ہے مرزائی امت نبی کی پیروی کرتے ہوئے قبول فرمائے گی۔ اگر مرزائی کہیں کہ یہ بات مرزا احمد بیگ کے ڈر جانے سے ٹل گئی تو یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے: ”تقدیر مبرم ہے جو کبھی نہیں ملتی۔“ چنانچہ مرزا قادیانی خود قطر از ہیں: ”میں بارہا کہتا ہوں کہ نفس پیشین گوئی داماد احمد بیگ تقدیر مبرم ہے۔ اس کی انتظار کرو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔“ (انجام آقہم ص ۳۱، خزائن ج ۱۱ ص ایضاً)

کیا اب بھی مرزا قادیانی کی صداقت کا ڈھونگ رچاتے رہو گے؟ خدا کا خوف کرو اور موت کو یاد کرو۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ مرزا یو! اپنے آپ کو جنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ جھوٹے مرزا کو نبی نہ بناؤ۔ محمد ﷺ خاتم النبیین کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ تاکہ دنیا میں ایمان پاؤ۔ آخرت میں جنت الفردوس کی نعمتوں سے لطف اٹھاؤ۔

اگر ان دلائل واضحہ کے بعد بھی باز نہ آؤ تو مرزا قادیانی کی لعنتوں والی کتاب گلے میں ڈال کر سیدھے جہنم جاؤ۔ ہادیہ میں خوب مزے لے لے کر غوطے لگاؤ۔ مرزا قادیانی کی اس پیشین گوئی پر حسب ضرورت بحث ہو چکی۔ اگرچہ یہ پیشین گوئی مرزا قادیانی کی تاویلات کے گورکھ دھندا سے اس قدر طویل ہو گئی ہے کہ شیطان کی آنت کی طرح سرانا پیدا ہے۔ اب ایک اور پیشین گوئی ملاحظہ فرمادیں۔

### پسر موعود کی پیشین گوئی اور مرزا قادیانی کی ناکامی

مرزا قادیانی نے ایک اکتوبر ۱۸۸۶ء میں شائع کیا تھا اور اس وقت مرزا قادیانی کی بیوی حاملہ تھی۔ اس میں ایک فرزند کی پیشین گوئی کی۔ ”خدا نے رحیم کریم جو ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھ کو اپنے الہام سے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔ خدا نے کہا۔ تادین اسلام کا شرف، کلام کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا، خدا کے دین، اس کی کتاب، اس کے زمول کو انکار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک کھلی نشانی ملے۔

ایک وجیہ اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ وہ تیرے ہی تخم، تیری ہی ذریت سے ہوگا۔ خوبصورت، پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے۔ اس کا نام بشیر بھی ہے۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ فضل ہے۔ وہ بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ علوم ظاہری و باطنی سے



مرزا قادیانی نے اس لڑکے کے متعلق لکھا تھا کہ: ”وہ مصلح موعود ہوگا۔“ مگر کوئی مصلح موعود نہ پیدا ہوا بلکہ اس حمل سے لڑکی پیدا ہوئی۔

مرزا قادیانی نے تاویل کی کہ مدت حمل اڑھائی یا نو سال مراد ہیں۔ میرے خیال میں مرزائی بیگمات کا حمل نو سال تک رہتا ہوگا۔ باقی دنیا میں کوئی مادہ نہیں جس کا حمل نو سال کے بعد وضع ہوا اور مدت حمل نو سال ہو۔

غالباً کوئی مرزائی ثبوت یعنی بھی پیش کر دے۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہم ممنون ہوں گے اور مرزا قادیانی عالم برزخ میں ہم سے بھی زیادہ ممنون ہوں گے۔  
کچھ مرزائی کہتے ہیں کہ: ”مصلح موعود سے یہاں محمود احمد مراد ہیں۔ جو ۱۸۸۹ء میں پیدا ہوئے۔“

جو با عرض ہے اپنے نبی کی کتاب تو دیکھ لی ہوتی۔ مرزا قادیانی کے گھر ایک لڑکا میاں محمود سے ۱۰ سال بعد ۱۸۹۹ء میں پیدا ہوا۔ جس کا نام مبارک احمد رکھا اور مرزا قادیانی نے اس کو مصلح موعود قرار دیا اور ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کی پیشین گوئی کا مصداق ٹھہرایا۔

چنانچہ (تزیق القلوب ص ۳۳، جزا ۱ ج ۱۵ ص ۲۲۱) میں مندرج ہے: ”میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے۔ اس کی نسبت پیشین گوئی مورخہ ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کے اشتہار میں کی گئی۔“

معلوم ہوا جس کی نسبت ۲۰ فروری کو پیشین گوئی کی تھی۔ وہ مبارک احمد ہے۔ مرزا محمود احمد نہیں۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ وہ مدت حمل میں پیدا نہ ہوا اور جو تاویل مرزا قادیانی نے اشتہار میں کی تھی کہ اڑھائی سال یا نو سال بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وہ بھی غلط نکلے۔ کیونکہ ۱۸/۱ پر ۱۸۸۶ء کو پیشین گوئی مدت حمل ہوئی اور مبارک احمد جو بقول مرزا مصلح موعود ہے۔ مورخہ ۱۳ جون ۱۸۹۹ء میں پیدا ہوا جو تیرہ سال کا عرصہ ہے۔ اب بتلائیں تیرہ کی بھی پیشین گوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو ہر طرح جھوٹا ثابت کیا۔

اس مبارک احمد مصلح موعود کا کیا ہوا۔ جس کے متعلق مرزا قادیانی نے اشتہار میں لکھا تھا کہ: ”تو میں اس سے برکت پائیں گی۔“ اس کا حشر یہ ہوا کہ نو سال سے کم عمر میں فوت ہو گیا۔  
دیکھو (تلیخ رسالت ج ۱ ص ۱۰۶، ۱۲۶، ۱۲۷، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۸۶)

اب مرزا قادیانی اس غم میں کچھ مدت بعد خود ہی مبارک احمد کو واپس لانے تشریف لے گئے۔ مگر واپسی کا ٹکٹ شاید نہ ملا۔ ”کسی انسان کا اپنی پیشین گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام

رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔“  
 پیشین گوئی ”لڑکا ہوگا“  
 (تریاق القلوب ص ۲۵۲، خزائن ج ۱۵ ص ۳۸۲)

ماہ جنوری ۱۹۰۳ء میں مرزا قادیانی نے ایک پیشین گوئی گھڑی۔ کیونکہ آپ کی بیوی حاملہ تھی۔ ”الحمد لله الذی وهب لى على الكبر اربعة من البنين وبشرنى لبخامس“

سب تعریف خدا کو ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں چار لڑکے دیئے اور پانچویں کی بشارت دی۔  
 (مواہب الرحمن ص ۱۳۹، خزائن ج ۱۶ ص ۳۶۰)

مگر مرزا قادیانی کی بیوی نے لڑکی جنی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ مرزائی کہتے ہیں کہ اس حمل کی تخصیص نہ تھی۔ بالکل درست مگر پھر پانچواں لڑکا کب ہوا؟ اس کے بعد مرزا قادیانی کے گھر کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا۔ اس طرح خدا نے مرزا کا ذب کو کذاب ثابت کیا۔

پیشین گوئی ”شوخی لڑکا ہوگا“

مرزا قادیانی کی بیگم حاملہ تھی۔ آپ نے مئی ۱۹۰۳ء میں ایک اور الہام نکال لیا۔  
 ”دخت کرام، شوخی و شنگ لڑکا پیدا ہوگا۔“

(البشری ج ۲ ص ۹۱، بحوالہ بدرج ۳، مورخہ ۱۸ مئی ۱۹۰۳ء)

مگر وہ شوخی و شنگ لڑکا کیا بلکہ جس طرح پہلے بیان ہوا ہے۔ مرزا قادیانی کا اور لڑکا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس پیشین گوئی میں بھی مرزا قادیانی بالکل جھوٹے نکلے۔  
 پیشین گوئی ”مصلح موعود“

جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ مرزا قادیانی نے مبارک احمد کے متعلق کہا تھا کہ: ”مصلح موعود عمر پانچے والا، گویا خدا آسمانوں سے اتر آیا تو میں اس سے برکت پائیں گی۔“  
 مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مبارک تاباقتی کی حالت میں نو برس کی عمر سے بھی پہلے مر گیا۔  
 اب مرزا قادیانی نے اور الہامات گھڑنے شروع کر دیئے۔

مورخہ ۱۶ ستمبر ۱۹۰۷ء کو الہام ہوا: ”انا نبشرك بغلام حلیم“

(بدرج ص ۳۶، البشری ج ۲ ص ۱۳۳)

پھر آپ کو اکتوبر میں یہ الہام ہوا: ”آپ کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یعنی آئندہ پیدا ہوگا۔“

”انا نبشرك بغلام حلیم“ ہم تجھے ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ”ینزل منزل المبارک“ وہ مبارک احمد کا شبیہ ہوگا۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰)

لیکن مرزا قادیانی کے گھر کوئی لڑکا نہ ہوا۔ بلکہ مرزا قادیانی مورخہ ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو لاہور میں بمرض وبائی ہیضہ مر گئے شاید آپ نے توجہ روحانی سے بعد میں بھی لڑکا پیدا کرنے کی کوشش کی ہو۔ مگر معلوم ہوتا ہے۔ وہ بھی بے سود ہی گئی۔

غلط پیشین گوئی ”عمر پانے والا لڑکا“

مرزا غلام احمد آنجنابی کا چوتھا لڑکا مبارک احمد بیمار ہو گیا۔ فکر لاحق ہوا کہ کہیں مرنے جائے۔ حالانکہ اس کے متعلق بڑے دعوے کر چکے تھے کہ عمر پانے والا ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ!

لہذا بہت فکر مند ہوئے۔ چنانچہ دل بے قرار کونسل دینے کے لئے اور بیوقوف جاہل مریدوں کو سہارا دینے کے لئے ایک الہام گھڑا۔ الہام ۲۷ اگست ۱۹۰۷ء کو ہوا تھا اور اخبار بدر ۲۹ اگست ۱۹۰۷ء کو شائع کیا۔

ان کی نسبت آج الہام ہوا: ”قبول ہو گئی بعد نو دن بخار ٹوٹ گیا۔ یعنی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے میاں صاحب موصوف کو شفا دے دی۔ یہ پختہ طور پر یاد نہیں۔ بخار کس دن شروع ہوا تھا؟ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میاں صاحب کو صحت کی بشارت دی اور نویں دن تپ ٹوٹ جانے کی خوشخبری پیش از وقت عطا کی۔“

اول یہاں مرزا قادیانی کا دجل ملاحظہ کیجئے کہ نویں دن بخار ٹوٹنے کی خوشخبری تو ہے مگر معلوم نہیں بخار کب شروع ہوا؟ بھلا گھر میں ایک بچہ بیمار ہوا اور ابھی نو دن بھی پورے نہ ہوئے ہوں اور پورا گھر نہیں بلکہ پوری امت مرزا سیہ شکر ہو۔ اس میں بھگدڑ مچی ہو۔ اخبارات میں مرض کے متعلق بلٹن شائع ہو رہے ہوں۔ لیکن یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کس دن بخار شروع ہوا ہے۔ اسی جگہ حوصلہ لکھتے ہیں: ”نویں دن کی تصریح نہیں کی اور نہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ معلوم ہے کہ تپ کی شدید حالت جس دن شروع ہوئی۔ وہ ابتداء مرض ہوگا۔“

اب یہ تو معلوم ہو جائے کہ شدت تپ کب ہوئی۔ لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ تپ کب شروع ہوا؟ پھر عجیب تماشا یہ کہ تپ کی شدید حالت جس دن سے شروع ہوئی وہ مرض کا ابتداء دن ہوگا۔

اس عبارت پر غور کریں۔ کیا جس دن شدت شروع ہوئی۔ وہ دن شدت علالت کا ہے یا شروع علالت کا؟ کیا ایک آدمی کا مرض جب شدت اختیار کرنے میں آدمی مر جائے تو اب یہ کہیں گے کہ ابتدائی مرض ابتداء موت تھا؟



نفس مرض اور شدت مرض یہاں ان کے اپنے قول سے مختلف اوقات میں ہوئی۔ ممکن ہے یہ بھی مرزائی نبوت کا کرشمہ ہو۔ سیاہ کو سفید کہہ دینا اور سفید کو سیاہ۔

اچھا چلو مان لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا صحت کامل ہوگئی؟ ہرگز نہ بلکہ ۳۰ اگست ۱۹۰۷ء کو بخار ہلکا ہوا تو: ”مرزا قادیانی نے ڈاکٹر عبدالستار کی لڑکی مریم کے ساتھ مبارک احمد کا نکاح کر دیا۔“ (ملاحظہ ہوا اخبار البدور مورخہ ۵ ستمبر ۱۹۰۷ء ص ۴)

نیز یہ الہام صادر ہوا کہ: ”مبارک احمد کے متعلق تیسری دعا قبول ہوگئی۔“  
وائے قسمت مرزا، یہ سب دل بہلانے کا سامان تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کر کے رسوا کرنا تھا۔ سو وہ ہو گیا۔ مبارک احمد ۱۶ ستمبر ۱۹۰۷ء کو مر گیا اور مرزا قادیانی ہاتھ ملتے رہے۔

ما کلمای تمنی المرء یدرکہ

تجری الریاح بما لا تشہی السخن

آدی کی ہر تمنا پوری نہیں ہوتی۔ کشتیاں باد مخالف کی روش میں آتی جاتی ہیں۔

عمر کی پیشین گوئی

مرزا قادیانی نے اپنی عمر کے متعلق پیشین گوئی میں کہا ہے کہ خدا نے مجھے بشارت دی ہے کہ تیری عمر اسی سال ہوگی یا زیادہ۔ الفاظ بشارت ملاحظہ ہوں۔ ”موت ما خواستہ ووران پیشین گوئی کر دند پس خدا مارا بشارت ہشتاد سال عمر داد بلکہ شاید ازیں زیادہ۔“

(مواہب الرحمن ص ۲۱، جزا ۱ ج ۱۹ ص ۲۳۹)

میری موت وہ چاہتے ہیں اور ان لوگوں نے پیشین گوئی کی ہے۔ پس خدا نے مجھے بشارت اسی سال عمر کی دی ہے۔ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔

مرزا قادیانی کی پیشین گوئی کے بموجب ان کو اسی سال تک یا زیادہ زندہ رہنا تھا۔

اب ہم مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش ان کی زبانی درج کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ موت کب ہوئی اور پھر حساب لگائیں کہ مرزا قادیانی سچے نکلے یا جھوٹے؟

مرزا قادیانی (کتاب البریہ حاشیہ ص ۱۵۹، جزا ۱ ج ۱۳ ص ۱۷۷) پر یوں رقمطراز ہیں:

”اب میرے ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں ۱۸۵۷ء میں سولہ برس یا متزہ برس میں تھا۔ ابھی ریش و بروٹ کا آغاز نہیں تھا۔“

(وفات مرزا) مرزا غلام احمد قادیانی مورخہ ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو آنجمانی ہو گئے۔ لہذا اس حساب سے مرزا قادیانی کی کل عمر ۶۸ یا ۶۹ سال ہوئی اور اسی دالا الہام غلط ثابت ہوا۔ کیا خوب مرتے وقت بھی اس عذاب سے رہائی نہ ہوئی اور لطف یہ کہ موت بھی لاہور میں خاص بمقام..... بمرض ہیضہ جو عذاب الہی ہے۔ (بقول مرزا قادیانی) واقع ہوئی۔

اب بالکل واضح ہو گیا کہ مرزا قادیانی کے کل الہام جموٹے نکلے۔ کیونکہ اگر مدعی وحی کی ایک پیشین گوئی بھی جموٹی ثابت ہو جاوے تو وہی اس کے کاذب ہونے کی کافی وشافی دلیل ہے۔ الحمد للہ! خدا نے مرزا قادیانی کو جو موت دی وہ بھی اعلان کر گئی کہ مرزا قادیانی جموٹے تھے۔ ممکن ہے کہ مرزا قادیانی جموٹے نہ ہوں۔ بلکہ الہام کرنے والا شیطان جموٹا ہو کیونکہ اسی نے غلط وحی کی تھی۔ بے چارے کا اپنا تو کوئی ارادہ بھی نہ تھا۔ بلکہ شیطان کے ہاتھ میں کٹ پٹی تھی۔

مرزا قادیانی کی عمر کے متعلق ایک اور پیشین گوئی کشوف اولیاء سابقہ کے مطابق لکھی ہے۔ (کتاب اربعین ص ۲۳، خزائن ج ۷ ص ۳۷۱) میں لکھا ہے: ”بموجب کشوف اولیاء گذشتہ اپنا چودھویں صدی کے سرے پر پیدا ہونا لکھا ہے۔ یعنی ۱۳۰۰ھ میں۔“

مرزا قادیانی کی وفات ۱۳۲۶ھ میں ہوئی ہے۔ اس حساب سے مرزا قادیانی کی کل عمر پچیس سال ہوئی۔ مگر دنیا میں تو آنجناب کی عمر ۶۸ سال گذری ہے۔ شاید ہائی عمر کسی دوسری جگہ عالم گوگلو میں گذری ہو؟

اگر کچھ معمولی فرق ہوتا تو کہا جاسکتا تھا کہ ۹ سال تک تو مدت حمل تھی۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے ایک جگہ مدت حمل ۹ سال لکھی ہے۔ جس پر ہم پہلے بحث کر آئے ہیں۔ تاہم وہ ملا کر پھر بھی ۳۵ سال ہی بنتی ہے۔ پھر بھی ۳۳ سال کا فرق رہ جاتا ہے۔ اس لئے ہم مجبور ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ آپ نے وہ عمر کسی مقام خاص پر، جو آپ کے لئے ہی مختص ہے۔ گزاری۔ ورنہ مدت حمل ۳۲ سال سے زیادہ مانتی پڑے گی۔

سائنس والوں کے لئے یہ بھی ایک نیا انکشاف ہے۔ اس پر جدید سائنس کو توجہ دینی چاہئے۔ کیونکہ ایک نبی کی وحی والہام غلط نہیں ہو سکتا۔ کسی نے خوب کہا ہے:

رسول قادیانی کی رسالت  
بطالت ہے جہالت ہے ظلمات

## مولوی محمد حسین بٹالوی کے متعلق پیش گوئی

مرزا قادیانی جب مولوی محمد حسین سے بحث و تحریر میں ناکام رہا تو اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا اور مولوی صاحب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے ایک اور الہام حسب عادت گھڑ لیا۔

(اعجاز احمد ص ۵۱، ۵۰، خزان ج ۱۹ ص ۱۶۲) پر مرقوم ہے: ”ہم اس کے ایمان سے ناامید نہیں ہوئے۔ بلکہ امید بہت ہے۔ اسی طرح خدا کی وحی خیر دے رہی ہے۔ (اے مرزا) تجھ پر خدا تعالیٰ تیرے دوست محمد حسین کا مقسوم ظاہر کر دے۔ سعید ہے پس روز مقدر اس کو فراموش نہیں کرے گا اور خدا کے ہاتھوں زندہ کیا جاوے گا اور خدا قادر ہے اور رشد کا زمانہ آئے گا اور گناہ بخش دیا جائے گا۔“

پس پاکیزگی اور طہارت کا پانی اسے پلائیں گے اور نسیم صبا خوشبولائے گی اور معطر کر دے گی۔ میرا کلام سچا ہے۔ میرے خدا کا قول سچا ہے۔ جو شخص تم میں سے زندہ رہے گا۔ دیکھ لے گا۔ اس عبارت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی ایک نہ ایک دن ضرور غلام احمد پر ایمان لائے گا اور حلقہ مریدین میں شامل ہوگا۔ اگر زندگی میں نہ ہوں تو بعد میں تو ضرور ہوگا۔ لیکن غلط ثابت ہوا اللہ کے فضل و کرم سے مولانا آخر دم تک مرزا قادیانی کی مخالفت اور سچائی کی حمایت کرتے رہے اور حضرت محمد ﷺ کے دامن سے وابستہ رہے۔

### پیش گوئی زلزلۃ الساعۃ

”آج رات کے تین بجے کے قریب خدا کی پاک وحی مجھ پر نازل ہوئی۔ تازہ نشان کا دھکہ زلزلۃ الساعۃ خدا ایک تازہ نشان دیکھائے گا۔ مخلوق کو اس نشان کا ایک دھکہ لگے گا۔ وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ مجھے علم نہیں دیا گیا کہ زلزلہ سے مراد زلزلہ ہے یا کوئی شدید آفت ہے۔ جو دنیا پر آئے گی۔ جس کو قیامت کہہ سکیں اور مجھے علم نہیں دیا گیا کہ ایسا حادثہ کب آئے گا اور مجھے علم نہیں کہ وہ چند دن یا چند ہفتوں تک ظاہر ہوگا یا خدا تعالیٰ اس کو چند مہینوں یا چند سال کے بعد ظاہر فرمائے گا۔ یا کچھ اور قریب یا بعید۔“ (الانذار)

(تخلیج رسالت ج ۱ ص ۸۰، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۲۲)

یہ اشتہار مرزا قادیانی نے ۸ اپریل ۱۹۰۵ء کو شائع کیا تھا۔ کیونکہ قرآن کچھ ایسے تھے کہ زلزلہ آئے گا۔ مورخ ۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء کو ایک شدید زلزلہ آیا تھا۔ تو مرزا قادیانی کی باچھیں کھل چکی اور افسوس کرنے لگے کہ کاش کوئی پیشین گوئی گھڑی ہوتی تو آج نبوت کا پرچار کرنے کا ایک عمدہ حربہ ہاتھ آ جاتا۔

چونکہ ایسی کوئی پیشین گوئی پہلے سے نہ تھی۔ غالب گمان یہ تھا کہ ہوسکتا ہے عنقریب کوئی اور زلزلہ آجائے۔ اس لئے یہ پیشین گوئی گھڑی پھر اس میں تذبذب کا یہ عالم کہ زلزلہ قیامت کے زلزلہ کی طرح ہوگا۔ پھر کہہ دیا کہ عنقریب ہوگا یا بعید کچھ معلوم نہیں چند دنوں بعد ہوگا یا مہینوں بعد ہوگا۔ سالوں بعد ہوگا یا قریب یا بعید۔

اب یہ پیشین گوئی رہی یا تخمینہ۔ اب اگر ایک ہزار سال بھی نہ آئے تو جناب سچے تھے۔ مرزا قادیانی نے سوچا آجائے تو پھر گھر گھی کے چراغ جلیں گے..... ہمارے نزدیک یہ تردد مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے۔

مرزا قادیانی (ضرورۃ الامام ص ۱۳، خزائن ج ۱۳ ص ۴۸۳) پر لکھتے ہیں کہ: ”میں امام الزمان ہوں۔ امام الزمان کی پیشین گوئیاں اظہار علی الغیب کا مرتبہ رکھتی ہیں۔ یعنی غیب کو ہر ایک پہلو سے اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ چابک سوار گھوڑے کو قبضہ میں کرتا ہے۔“

ادھر تو یہ دعویٰ کہ میری پیشین گوئیاں اظہار الغیب کا مرتبہ رکھتی ہیں۔ ادھر پیشین گوئی میں کس قدر گڑ بڑ کہ کوئی بات اگر یقینی بھی کہی تو وہ صرف بے یقینی ہی ہے۔ اس کا صرف یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ اگر زلزلہ آ گیا تو نبوت چمک اٹھے گی اور نہ آیا تو کہہ دیں گے ہم نے جو کہا تھا: ”یہ معلوم کب ہوگا۔ چند مہینوں تک، چند سالوں تک یا بعید یا قریب۔“

مگر سوچنا تو یہ ہے کہ پھر ایسی پیشین گوئی کا فائدہ کیا ہے؟

جو پیشین گوئی مخالفین کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ تو ایسی ہونی چاہئے کہ جس کو جانچا جاسکے۔ مہمل خبر کا کیا اعتبار بلکہ مہمل خبر خبرِ مہمل کی دلیل ہے کہ مخبر خود تردد میں ہے۔

کیا اسی کو اظہار علی الغیب کہتے ہیں؟ ایسا ہی شخص امام الزمان ہوتا ہے۔ بلکہ تمام نبیوں کا بروز؟ مگر خدا کا کذب و مفتری کو بے نقاب کر کے چھوڑتا ہے۔

پھر مرزا قادیانی نے ۱۵ اپریل ۱۹۰۵ء کو اپنی (برائین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۲۰، خزائن ج ۲۱

ص ۱۵۱، ۱۵۲) پر مندرجہ ذیل اشعار میں دوسری پیشین گوئی کی:

اک نشان ہے آنے والا آج سے کچھ دن کے بعد

جس سے گردش کھائیں گے دیہات، شہر و مرغزار

آئے گا قہر خدا سے خلق پر اک انقلاب

اک برہنہ نہ یہ ہوگا کہ تاپا بندھے ازار

یک بیک اک زلزلہ سے سخت جنبش کھائیں گے  
 کیا بشر اور کیا شجر اور حجر اور کیا بحار  
 اک جھپک میں یہ زمیں ہو جائے گی زیر و زبر  
 نالیاں خوں کی چلیں گی جیسے اب رود بار  
 رات جو رکھتے تھے پوشاک برنگ یا سبیں  
 صبح کر دے گی انہیں مثل درختان چنار  
 ہوش اڑ جائیں گے انسان کے پرندوں کے حواس  
 بھولیں گے نعموں کو اپنے سب کیوتر اور ہزار  
 ہر مسافر پر وہ ساعت سخت ہے اور وہ گھڑی  
 راہ کو بھولیں گے ہو کر مست و بے خود راہ دار  
 خون سے مردوں کے کوہستان کے آب رواں  
 سرخ ہو جائیں گے جیسے شراب انجبار  
 مضمحل ہو جائیں گے اس خوف سے سب جن وانس  
 زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحال زار  
 اک نمونہ قہر کا ہوگا وہ ربانی نشان  
 آسمان حملے کرے گا کھینچ کر اپنی کنار  
 ہاں نہ کر جلدی سے انکار اے سفیہ ناشناس  
 اس پر ہے میری سچائی کا سبھی دار و مدار  
 وحی حق کی بات ہے ہو کر رہے گی بے خطا  
 کچھ دنوں کر صبر ہو کر متقی اور برد بار

(درشن اردو)

ان اشعار میں مرزا قادیانی نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ وہ ایک زلزلہ ہوگا۔  
 جس میں شہری، دیہاتی آبادی بلکہ جنگل تک متاثر ہوں گے۔ اس طرح کہ زمین زیر و زبر ہو  
 جائے گی۔ انسان، جن، وحوش، پرندے سب ہی اس زلزلہ کی تاب نہ لا کر ہوش و حواس کھو  
 بیٹھیں گے۔ خون کی ندیاں چلیں گی۔ انسان و جن خون میں لت پت ہوں گے اور آئے گا بھی  
 وہ زلزلہ کچھ دنوں کے بعد۔

اب تو پہلی بات ختم ہوگئی۔ جہاں لوگوں کے عالم میں مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ معلوم نہیں چند دنوں یا ہفتوں یا مہینوں یا سالوں بعد آئے گا۔ بلکہ تسلیم کر لیا کہ وحی الہی کہتی ہے: ”کچھ دنوں کے بعد“ تو معلوم ہوا کہ ایک ماہ کے اندر اندر اس لئے کہ جب دنوں تک بات ہو تو ایک ماہ سے کم عرصہ مراد لیا جاتا ہے۔ گھنٹوں کی بات ہو تو دن سے کم مدت مراد لی جاتی ہے۔ عام محاورہ ایسا ہی ہے۔ اب مرزا قادیانی کا وہ زلزلہ کب آیا؟ یہ تو مرزائیوں کے ذمہ ہے کہ بتلائیں کب آیا؟

مرزائی کہا کرتے ہیں کہ: ”پیشین گوئی میں کوئی وقت کی قید نہ تھی۔ اس لئے مرزا قادیانی کی زندگی میں آنا ضروری نہیں ہے۔“

کیا اگر ایسا تھا تو مرزا قادیانی ایک ماہ باغ میں خیموں کے اندر کیوں ڈیرہ جماتے رہے؟ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۶ء کو مرزا قادیانی نے ایک اور اشتہار شائع کیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخرب زلزلہ آنے والا ہے: ”پھر خدا تعالیٰ نے مجھے ایک سخت زلزلہ کی خبر دی ہے جو نمونہ قیامت اور ہوش ربا ہوگا۔ چونکہ دوسرے کمر طور پر اس علم مطلق نے اس آئندہ واقع پر مجھے مطلع فرمایا ہے۔ اس لئے میں یقین رکھتا ہوں کہ عظیم الشان حادثہ جو محشر کے حادثہ کو یاد دلانے کا، دور نہیں۔ خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اب دوسرا نشان دکھادے تا ماننے والوں پر اس کا رحم ہو۔ تا وہ لوگ جو کئی منزلوں کے نیچے ہوتے ہیں وہ کسی اور جگہ ڈیرے لگالیں۔“

(اشتہار مورخہ ۲۱ اپریل ۱۹۰۶ء موسم اثناء من و فی السماط، مندرجہ رپویج ۳۳ ص ۲۳۸)

اس عبارت میں تو صاف ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ واقعہ زلزلہ ہوگا۔ کیونکہ کئی منزلوں کے نیچے سونے والوں کو خبر دار کیا گیا ہے اور پھر یہ بھی صاف لکھ دیا۔ دور نہیں ہے۔

اب بھی کسی کو شبہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی کے بعد کی پیشین گوئی کی تھی۔

مرزا قادیانی نے خود قادیان سے باہر ڈیرہ ڈال دیا تھا۔ خیموں میں گزر کر گئے۔ مریدوں کو ہدایت جاری کر دی کہ: ”گھروں سے باہر میدان میں رہائش اختیار کریں۔“ (رپویج ۳۳ ص ۳۳۳)

”قریباً ایک ماہ سے میرے خیمے باغ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں واپس قادیان میں نہیں گیا۔“ (یہ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۵ء کا اشتہار ہے)

ہو سکتا ہے مرزا قادیانی نے سوچا ہو کہ مالدار آدمی عموماً ڈر پوک ہوتے ہیں۔ وہ بہت جلد گھر چھوڑ دیں گے اور کسی تربیت دی ہوئی مریدوں کی پارٹی کے ذریعہ گھروں سے کوئی رقم تھمالی جائے جو تکمیل نبوت کے کام آئے۔ مگر لوگوں نے بھی دوسری پیشین گوئیوں کی طرح جمنوں کی بڑ سمجھا اور وہ اس میں حق بجانب تھے۔ کیونکہ مرزا قادیانی مراقب کے مریض تھے۔

سابقہ زلزلہ کا خوف مسلط تھا۔ آنجناب پر سادان کے اندھے کو ہر اسی ہراساں جتا ہے۔ والی مثال خوب صادق آتی ہے۔ زلزلہ جس کی مرزا قادیانی نے پیشین گوئی کی تھی۔ کہیں نہ آیا اور آنجناب آنجہانی ہو گئے۔

بعض مرزائی کہتے ہیں کہ: ”۲۸ فروری ۱۹۰۶ء کو جو زلزلہ آیا تھا۔ وہ ہی مراد ہے۔“  
کیا مرزائی بتلا سکتے ہیں کہ اس میں خون کی ندیاں چلیں؟ انس و جن، پرندے سب ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے؟ ”ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين“ مرزا! ہوش کے ناخن لو۔

آؤ! ہم مرزائی کی زبانی سے بتلاتے ہیں کہ: ”۲۸ فروری والا زلزلہ مصداق نہ تھا۔ کیونکہ وہ بہت معمولی تھا۔“ (حقیقت الوحی حاشیہ ص ۹۳، خزائن ج ۲۲ ص ۹۶)

”یاد رہے اس وقت تک جو ۲۲ جولائی ۱۹۰۶ء ہے۔ اس ملک میں تین زلزلے آچکے ہیں۔ یعنی ۲۸ فروری ۱۹۰۶ء اور ۲ مئی ۱۹۰۶ء اور ۲۱ جولائی ۱۹۰۶ء مگر غالباً خدا کے نزدیک یہ زلزلوں میں داخل نہیں۔ کیونکہ بہت ہی خفیف ہیں۔“ معلوم ہوا کہ ۲۸ فروری والا زلزلہ بہت خفیف تھا جو اس زلزلہ السامیہ کا مصداق نہیں ہو سکتا۔

مرزا قادیانی نے (ضمیمہ برائے احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۷، ۹۸، خزائن ج ۲۱ ص ۲۵۸، ۲۵۹) پر لکھا ہے: ”اگر خدا نے بہت ہی تاخیر ڈال دی تو زیادہ سے زیادہ سولہ سال میں ضرور ہے کہ یہ میری زندگی میں ظہور میں آجائے۔“

کہاں یہ کہ باغ میں ڈیرے ڈال دیئے۔ کہاں سولہ سال؟ تاہم خدا نے جھوٹا جو کرنا تھا۔ لہذا لکھوا دیا کہ ضرور ہے کہ یہ میری زندگی میں ظہور میں آجائے۔ ہے کوئی مرزائی کہ ثابت کرے کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں وہ زلزلہ آیا۔ اگر ثابت کر دے تو میں اس کو مبلغ دس ہزار نقد انعام دوں گا۔ کیا کسی قادیانی کو ہمت ہے کہ میدان میں آئے؟ اور یہ بھی میری پیشین گوئی ہے۔ خاص کرنی کا ذب کی امت کے لئے کوئی میدان میں نہیں آئے گا اور اس پر کوئی بحث نہیں کر سکے گا۔ اگر کی تو ذلیل ہوگا۔

مرزا قادیانی زلزلہ والی پیشین گوئی میں بھی بالکل اسی طرح کا ذب نکلا۔ جس طرح دیگر پیشین گوئیوں میں پھر لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی زلزلہ، قحط، لڑائی وغیرہ اس قسم کی پیشین گوئیوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ: ”کیا ہمیشہ زلزلے نہیں آتے؟ کیا ہمیشہ قحط نہیں پڑتے۔ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا؟ پس اس نادان (مراد صلی علیہ السلام) اسرائیلی نے

ان معمولی باتوں کا پیش گوئی کیوں نام رکھا؟ محض یہودیوں کے تنگ کرنے سے۔“  
(ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ ص ۴، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۸)

کوئی بھی کام مسیحا تیرا پورا نہ ہو

نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا

مرزا غلام احمد قادیانی کے مبالغہ آمیز اذواء

چونکہ مرزا قادیانی مبالغہ کے معتاد تھے اور ہر کام میں زور شور سے دعویٰ بغیر سوچے سمجھے کر دیا کرتے تھے۔ جس طرح ایک مرقی انسان کیا کرتا ہے۔ اس لئے پیشین گوئیاں بھی اسی جذبہ کے تحت صادر ہو جاتیں اور پھر ان کی تاویلیں گھڑنی شروع کر دیتے۔

اب ہم چند مبالغے پیش کرتے ہیں۔ اس سے خود معلوم ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی کہاں تک جذباتی اور بے لگام واقع ہوئے ہیں۔

مبالغہ نمبر: ۱

(کشتی نوح ص ۳۷، خزائن ج ۱۹ ص ۳۱) ”دیکھو میں پر ہر روز خدا کے حکم سے ایک ساعت

میں کروڑ ہا انسان مر جاتے ہیں اور کروڑ ہا اس کے ارادہ سے پیدا ہوتے ہیں۔“

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے انتہائی مبالغہ سے کام لیا ہے۔ بلکہ میں کہوں گا۔ انتہائی کذب افتراء علی اللہ سے کام لیا ہے۔ بھلا کوئی عقلمند ایسی بیہودہ بات تسلیم کر سکتا ہے؟ اس وقت دنیا کی آبادی تین ارب سے کم ہے۔ جب کہ موجودہ رفتار پیداؤں سے پہلے سے بڑھ چکی ہے اور شرح اموات پیداؤں سے کم ہے۔

اگر مساوی بھی تسلیم کر لیں تو مرزائی یہ تو بتلائیں کہ اگر ایک ساعت (یعنی گھنٹہ) میں کروڑ ہا آدمی مرتے ہوں تو بتلاؤ ۲۳ گھنٹوں میں کتنے مرتے گئے؟ بہتر (۷۲) کروڑ آدمی مرے۔ کیونکہ کروڑ ہا کا لفظ جمع ہے جو کم از کم عرف عام میں تین پر بولا جاتا ہے۔

گویا تین گھنٹہ تین کروڑ آدمی مرتے ہیں۔ اسی طرح تین کروڑ پیدا ہوتے ہیں تو اسی طرح ۳ دنوں میں دو ارب اٹھاسی کروڑ آدمی مر گئے اور اتنے ہی پیدا ہو گئے تو پھر چار دن کے بعد دنیا میں صرف بہتر کروڑ بچے۔ چار دن کے اور اسی طرح ۷۲ کروڑ تین دن کے اور ۷۲ کروڑ ۲ دن کے۔ بہتر کروڑ صرف ایک دن کے رہ جائیں۔ یہ اس صورت میں جب دو ارب اٹھاسی کروڑ بالغ تسلیم کئے جائیں تو ظاہر ہے اتنے چھوٹے بچے بلکہ بلکہ کرا ایک دن میں مر جائیں گے۔ پانچویں دن پھر ہوگا عالم ہو۔ ایک انسان بھی دنیا میں نہ ہو۔



کیا کوئی مرزائی ہمیں بتلائے گا کہ یہ اعداد و شمار درست ہیں؟ کیا دنیا کی انسانی آبادی کروڑوں کھرب سے بھی زیادہ ہے؟ امید ہے عالمی اعداد و شمار کرنے والا مرزائی ادارہ تحقیق کی طرف متوجہ ہو کر شاید اپنی رائے بدلے اور مرزا قادیانی کی تحقیق پر ان کے ہمتیوں کو نوبل پرائز سے نوازے۔

کیا اب مرزا قادیانی کے مراتی، وہمی اور جذباتی ہونے میں کوئی شک ہے؟

مبالغہ نمبر: ۲

”میں نے چالیس کتابیں تالیف کی ہیں اور ساٹھ ہزار کے قریب اپنے دعوے کے ثبوت کے متعلق اشتہارات شائع کئے ہیں۔ وہ سب میری طرف سے بطور چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ہیں۔“

(ضمیمہ تحفہ گلزار دیہ ۱۹، خزائن ج ۱ ص ۶۶)

کیا مرزائی حضرات اپنے نبی کو سچا ثابت کرنے کے لئے ہمیں بتلائیں گے کہ وہ اشتہار کتب شائع ہوئے اور ان ساٹھ ہزار رسالوں کے نام لکھ کر شائع کریں۔ فحشی قاسم علی احمدی نے تبلیغ رسالت ج ۱ سے ۱۰ تک میں ان اشتہارات کو درج کیا ہے۔ کل تعداد ۲۶۱ ہے۔ کہاں ساٹھ ہزار، کہاں ۲۶۱؟

کیا کسی بڑے سے بڑے جھوٹے اور گپ باز نے اتنے مبالغہ سے کام لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی سے بڑا گپ باز لاف زن آج تک کوئی گزرا ہی نہیں۔

مبالغہ نمبر: ۳

پھر یوں فرماتے ہیں۔ (تزیان القلوب ص ۲۷، خزائن ج ۱ ص ۱۵۵) پر لکھتے ہیں: ”میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی سلطنت کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔“

مرزا قادیانی نے کل اسی کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ جن پر مشتمل خزائن کی ۲۳ جلدیں جن سے ایک الماری کی ایک سلف بھی بمشکل بھرے۔ کہاں پچاس؟ کیا یہ نبوت کا کرشمہ ہے کہ بیک جنبش قلم پچاس الماریاں بھر دیں۔ جس طرح بیک جنبش قلم تمام انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتار کر بظلمیں بجانے لگے تھے۔

مبالغہ نمبر: ۴

”اب تک میرے ہاتھ پر ایک لاکھ کے قریب انسان بدی سے توبہ کر چکے ہیں۔“

(ریویو بابت ماہ ستمبر ۱۹۰۳ء)

مورخہ ۱۵ مارچ ۱۹۰۶ء میں لکھتے ہیں کہ: ”میرے ہاتھ پر چار لاکھ کے قریب لوگوں نے معاصی سے توبہ کی۔“ (جلیات الہیہ ص ۵، خزائن ج ۲۰ ص ۳۹۷)

یعنی صرف ساڑھے تین سال میں تین لاکھ مریدوں کو بیعت کیا۔ گویا کہ روزانہ ۲۳۸ آدمی بیعت ہوتے رہے۔ یعنی فی گھنٹہ (۱۲ گھنٹوں کے حساب سے) ۱۱۹ انسانوں کا ایمان چھتا۔

کیا اس قدر مصروفیت کے بعد لکھتے کس وقت تھے؟ قیلولہ کب ہوتا تھا؟ اور اشتہارات کب لکھے جاتے تھے؟ سابق مریدوں کی تربیت کب ہوتی تھی۔ مزید برآں نماز، طہارت، پھر سو مرتبہ پیشاب روزانہ۔ کیا وہاں مقام خاص میں بھی لوٹا تھا؟ سلسلہ شروع رہتا تھا؟ گڑ اور ڈھیلے کب استعمال فرماتے تھے؟ کیا کوئی مرید باصفا جواب دینے کی زحمت گوارا کرے گا؟

مبالغہ نمبر: ۵

مرزا قادیانی نے (تذکرۃ الشہادتین ص ۳۳، خزائن ج ۲۰ ص ۳۶) پر اکتوبر ۱۹۰۳ء میں لکھا ہے کہ: ”میرے ہاتھ پر صد ہا نشانات ظاہر ہوئے ہیں۔“

مرزا قادیانی نے پھر اسی صفحہ پر لکھ دیا کہ: ”مجھ سے دو لاکھ نشانات ظاہر ہوئے۔“

پھر (تذکرۃ الشہادتین ص ۴۱، خزائن ج ۲۰ ص ۴۳) پر لکھتے ہیں کہ: ”دس لاکھ“ کیا پوری زندگی میں اس سے قبل صد ہا تھے۔ مگر منٹ سے بھی کم عرصہ میں وہ دو لاکھ ہو گئے اور پھر سات صفحہ کے بعد جس کے لکھنے میں غالباً گھنٹہ سے بھی کم عرصہ صرف ہوا ہو۔ ۱۰ لاکھ بن گئے۔ کیا مرزائی وہ نشانات ہمیں شمار کر کے بتلا سکتے ہیں؟“

یہ ہیں مرزا قادیانی اور یہ ان کے مبالغہ۔ یہ نمونہ کے طور پر بیان کئے گئے ہیں۔ ورنہ اور بھی مبالغات مرزا قادیانی کے ہیں۔ ان کے لئے طویل بحث کی ضرورت ہے۔ ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ مثال تو ایک بھی کام تھی۔

یاد رکھیں! دعویٰ میں مبالغہ آرائی سے صرف کذاب ہی کام لیتے ہیں۔ ورنہ انبیاء تو انبیاء ہوئے۔ صلحاء بھی اس سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اب مرزا قادیانی کے علم کا تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شاید تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے انکشاف ہو۔

مرزا قادیانی کی علمی وسعت

مرزا قادیانی (ضرورۃ الامام ص ۱۰، خزائن ج ۱۳ ص ۴۸) پر لکھتے ہیں: ”پس جو شخص امامت کے لئے پیدا نہیں کیا گیا اگر وہ ایسا دعویٰ زبان پر لائے گا تو وہ لوگوں سے اس طرح ہنسی کرائے گا۔“

جیسا کہ ایک نادان ولی نے بادشاہ کے رو بردہ لپی کرائی تھی۔ قصہ یوں ہے کہ کسی شہر میں ایک زاہد تھا۔ جو نیک بخت اور متقی تھا۔ مگر علم سے بے بہرہ تھا اور بادشاہ کو اس پر اعتقاد تھا اور وزیر بوجہ اس کی بے علمی کے اس کا معتقد نہیں تھا۔

ایک مرتبہ وزیر اور بادشاہ دونوں اس کے ملنے کے لئے گئے اور اس نے محض فضولی کی راہ سے اسلامی تاریخ میں دخل دے کر بادشاہ کو کہا: ”اسکندر رومی بھی اس امت میں بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ تب وزیر کو نکتہ چینی کا موقع ملا اور فی الفور کہنے لگا کہ دیکھئے۔ حضور فقیر صاحب کو علاوہ کمالات ولایت کے تاریخ دانی میں بھی بہت کچھ دخل ہے۔“

سو امام الزمان کو مخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پر اس قدر الہام کی ضرورت نہیں۔ جس قدر علمی قوت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ شریعت پر ہر قسم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ طہابت کی رو سے بھی بیست کے رو سے بھی، طبعی کے رو سے بھی، جغرافیہ کے رو سے بھی اور کتب مسلمہ اسلام کے رو سے بھی اور عقلی بنا پر بھی اور نقلی بنا پر بھی۔

یہ ہے مرزا قادیانی کا معیار علمی امام الزمان کے لئے اور اسی کتاب میں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ: ”میں امام الزمان ہوں۔“

اب آئندہ کچھ تاریخی واقعات بزبان مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ مرزا قادیانی کس قدر تاریخی معلومات رکھتے ہیں اور امام الزمان ہونے کے دعوے میں کس قدر سچے ہیں۔

(پیغام صلح ص ۳۸، خزائن ج ۲۳ ص ۴۶۵) پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ”تاریخ کو دیکھو کہ آنحضرت ﷺ وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا۔“  
کیا کوئی مرزائی کسی مسلمہ کتاب تاریخ اسلام یا حدیث سے یہ ثابت کرے گا کہ حضور ﷺ کے والد ماجد آپ کی پیدائش کے بعد رحلت فرما گئے تھے؟ ہر طالب علم جو تاریخ سے بلکہ اسلام سے کچھ بھی مس رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حضور ﷺ کے والد ماجد آپ ﷺ کی پیدائش سے پہلے ہی رحلت فرما گئے تھے۔

کیا امام الزمان کی مثال اسی فقیر والی نہ ہوئی؟ جو مرزا قادیانی نے بیان کی ہے۔ لیجئے مزید علمی جواہر پارے۔

(حشمہ معرفت ص ۲۸۶، خزائن ج ۲۳ ص ۲۹۹) پر: ”تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے (یعنی آنحضرت ﷺ) کے گھر گیارہ لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے۔“

چونکہ مرزا قادیانی ملہم، امام الزمان ہیں۔ لہذا ان کا یہ صریح جھوٹ اور بے علمی بھی صدق و آگاہی پر ہی محمول ہوگی۔

مرزا نیوا اپنے نبی کی تاریخ دانی دیکھی لی۔ آپ ﷺ کی توکل اولاد لڑکے لڑکیاں ملا کر بھی گیارہ نہیں ہوتے۔ صرف گیارہ لڑکے؟ اگر کوئی مرزائی تحقیق فرمائے تو ہم ممنون ہوں گے۔ بصورت دیگر مرزا قادیانی کے کذب اور افتراء کا اقرار فرمائیں۔

(ملفوظات ج ۱ ص ۱۷۹، ۱۸۰) میں یوں رقم طراز ہیں: ”کہتے ہیں کہ امام حسنؑ کے پاس ایک نوکر چائے کی پیالی لایا۔ جب قریب آیا تو غفلت سے وہ پیالی آپ کے سر پر گر پڑی۔ آپ نے تکلیف محسوس کر کے ذرا تیز نظر سے غلام کی طرف دیکھا۔“

غالباً پہلی صدی ہجری سے قبل بھی عرب چائے نوش تھے اور امام حسین اور صحابہ غالباً سب اس کے عادی ہوں گے؟

براہ کرم مرزائی اس کی بھی تحقیق فرمائیں۔ کیا دودھ ملی چائے تھی یا صرف تہوہ؟ پھر سبز چائے تھی یا سیاہ؟ نیز یہ بھی تحقیق فرمائیں کہ چین سے تو وہ چائے نہیں آئی تھی؟ ممکن ہے آپ کی تحقیق بتلا دے کہ عرب میں چائے کے بے شمار باغات تھے۔ جس کی دلیل صرف البہام مرزا قادیانی ہو۔ بہت خوب! سادوں کے اندھے کو ہر اسی سو جھٹتا ہے۔

(تاریخ القلوب ص ۴۱، جز ۱ ج ۱۵ ص ۲۱۸، ۲۱۷) پر مرزا قادیانی یوں رقم طراز ہیں: ”اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح نے تو صرف مہد میں باتیں کیں۔ مگر اس لڑکے نے پیٹ میں ہی دو مرتبہ باتیں کیں اور پھر بعد اس کے ۱۷ جون ۱۸۹۹ء کو وہ پیدا ہوا اور جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا اسنی مناسبت کے لحاظ سے اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا۔ یعنی ماہ صفر اور ہفتہ کے دنوں میں سے چوتھا دن لیا۔ یعنی چار شنبہ اور دن کے گھنٹوں میں سے دوپہر کے بعد چوتھا گھنٹہ۔“

اب ناظرین مرزا قادیانی کی سخن سازی ملاحظہ فرمائیں اور مرزا قادیانی کی بے خبری پر مرزائی ماتم کریں۔ کیا صفر اسلامی مہینوں میں چوتھا مہینہ ہے؟ حالانکہ ہر ایک جانتا ہے کہ صفر اسلامی مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے۔ سال اسلامی محرم سے شروع ہوتا ہے۔ نیز بدھ یعنی چہار شنبہ ہفتہ کے دنوں میں پانچواں دن ہے۔ چوتھا نہیں ہے۔ شمار یوں ہے۔ شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ۔

اب رہا معاملہ گھنٹوں کا تو بہر حال مرزا قادیانی نے لکھا نہیں کہ کتنے بچے پیدا ہوا۔ تاکہ معلوم کیا جاسکتا کہ ساعت چہارم تھی یا کہ نہ۔ صرف چوتھا لکھ دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں دن اسلام میں

صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ شمسی حساب میں طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا بعد از دوپہر کسی طرح بھی چوتھا گھنٹہ دن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

پھر ہو بھی تو ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم تو صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ امام الزمان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ صفر دوسرا مہینہ ہے نہ کہ چوتھا۔ بدھ، ہفتہ کا پانچواں دن ہے نہ کہ چوتھا۔ صرف چہار شنبہ کے لفظ کو لے کر چوتھا دن بنا دینا یہ صرف مرزا قادیانی کی ہی علمیت اور آگاہی کا کرشمہ ہے۔

### تاریخی جھوٹ

اب آپ مرزا قادیانی کا ایک تاریخی جھوٹ ملاحظہ فرمائیں۔ تاکہ علمی وسعت میں کسی طرح کا شک شبہ باقی نہ رہے۔

مرزا قادیانی نے فرمایا کہ: ”میں نے دیکھا کہ زار روس کا سوشا میرے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ وہ بڑا لمبا اور خوبصورت ہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہ بندوق ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بندوق ہے۔ بلکہ اس میں پوشیدہ نالیاں بھی ہیں۔ گویا بظاہر سوشا معلوم ہوتا ہے اور وہ بندوق بھی ہے اور پھر دیکھا کہ خوارزم بادشاہ جو بوعلی سینا کے وقت میں تھا۔ ان کی تیرکمان میرے ہاتھ میں ہے۔ بوعلی سینا بھی میرے پاس کھڑا ہے اور اس تیرکمان سے ایک شیر کو بھی شکار کیا۔“

(تذکرہ ص ۳۵۸ طبع سوم)

چونکہ مرزا قادیانی نے تصریح فرمائی ہے کہ: ”وہ خوارزم بادشاہ جو بوعلی سینا کے وقت میں تھا۔“ اب تاریخی اعتبار سے دیکھو تو تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بوعلی سینا ۳۲۸ھ میں مرچکا تھا اور خوارزم شاہی سلطنت ۳۹۰ھ سے شروع ہو کر ۶۲۸ھ پر ختم ہو جاتی ہے۔

شاید مرزا قادیانی نے بوعلی سینا کو دوبارہ زندہ کر لیا ہو یا ہو سکتا ہے خوارزم بادشاہ کو اس کے پیدا ہونے سے ۶۲ سال قبل ہی تخت شاہی پر بٹھا دیا ہو۔

یہ ہے مرزا قادیانی کی آگاہی اور یہ ہے دعویٰ کہ میں امام الزمان ہوں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ امام الزمان کے لئے تمام علوم میں دسترس کامل ہونی چاہئے۔ غالباً مرزا قادیانی پر یہ کشف کسی شیطان نامراد نے دھوکہ دینے کے لئے کیا ہوگا تاکہ رو سیاحی نصیب ہو۔ تاہم مرزا قادیانی کے حواری کسی طرح یہ نہ مانیں گے۔ چاہے منوں سیاحی تاریخ نے ان کے چہرہ پر مل دی ہو۔ مگر وہ تو چودھویں کا چاند ہی کہیں گے؟ (برعکس نام نہاد زندگی کا فور)

## توہین انبیاء

۱..... توہین عیسیٰ ابن مریم

”وہ دونی ہیں۔ ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے۔ دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔“  
(توضیح المرام ص ۳، خزائن ج ۳ ص ۵۲)

اس عبارت کو پیش نظر رکھیں۔ آئندہ ہم جو کچھ مرزا قادیانی کے اقوال لکھیں گے۔ ان میں یہ عبارت محاذوں ہوگی۔ کیونکہ مرزائی کہہ دیتے ہیں کہ مسیح اور ہے اور یسوع اور۔ مگر یہاں صاف طور پر بتلادیا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم، یسوع ایک ہی ہستی کے نام ہیں۔ مرزا قادیانی یسوع کو جی بھر کر گالیاں دیتے ہیں۔

”اگر ایک مسلمان عیسائی عقیدہ پر اعتراض کرے تو اس کو چاہئے کہ اعتراض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت کا پاس رکھے۔“

(اشہار موروثہ ۲ اکتوبر ۱۸۹۷ء، ہندرجہ تبلیغ رسالت ج ۶ ص ۱۶۹، مجموعہ اشہارات ج ۲ ص ۴۷۱)  
اب آئندہ آپ پڑھ لیں گے کہ مرزا قادیانی نے حضرت مسیح علیہ السلام کی عظمت کا کس قدر خیال رکھا ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رقمطراز ہیں: ”آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور تانیاں آپ کی زنا کار اور کبھی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔“  
(ضمیمہ انجام آتھم ص ۷، خزائن ج ۱ ص ۲۹۱)

مزید گہرا افشانی: ”آپ کا کچھریوں سے میلان طبع اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کچھری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔“

(ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ ص ۷، خزائن ج ۱ ص ۲۹۱)

”ہاں آپ کو گالیاں دینے کی اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادنیٰ ادنیٰ بات پر غصہ آ جاتا تھا۔ اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں۔ کیونکہ آپ گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔“

(ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ ص ۵، خزائن ج ۱ ص ۲۸۹)

پھر اس کے متصل ہی ص ۵ پر لکھتے ہیں: ”یہ بھی یاد رہے آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ جن پیشین گوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت تو ریت میں پایا جانا آپ نے بیان فرمایا ہے۔ ان کتابوں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ بلکہ وہ ادوروں کے حق میں تھیں۔ جو آپ کے تولد سے پہلے پوری ہو گئیں اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے۔ یہودیوں کی کتاب طالمود سے چرا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا میری تعلیم ہے۔ لیکن جیسے یہ چوری پکڑی گئی۔ عیسائی بہت شرمندہ ہیں۔ آپ نے یہ حرکت شاید اس لئے کی ہوگی کہ کسی عمدہ تعلیم کا نمونہ دکھلا کر سوخ حاصل کریں۔ لیکن آپ کی اس بے جا حرکت سے عیسائیوں کی سخت رو سیاہی ہوئی۔“

پھر چند سطور کے بعد لکھتا ہے: ”بہر حال آپ علمی و عملی قوتی میں بہت کچھ تھے۔ اس وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔“

(ضمیمہ انجام آختم ص ۶۰، خزائن ج ۱ ص ۲۸۹، ۲۹۰)

”عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ اگرچہ قرآن، انجیل کی طرح شراب حلال نہیں ٹھہراتا۔“

(کشتی نوح ص ۶۵، حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۷۱)

”میرے نزدیک مسخ شراب سے پرہیز رکھنے والا نہیں تھا۔“ (ریویو ج ۱ ص ۱۲۳، سن ۱۹۰۲ء)

”مسخ کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ بیو، شرابی، نہ زہد نہ عابد، نہ حق کا پرستار، منکبیر، خود

نیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔“ (مکتوبات احمدیہ ج ۳ ص ۲۳۲)

مندرجہ بالا عبارتیں غور سے پڑھیں اور مرزا قادیانی کے متعلق اندازہ لگائیں۔

آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس قدر عداوت رکھتے ہیں اور کس طرح آپ کی کھلی توہین پر اتر آئے ہیں۔ شاید اپنی حرکات پر پردہ ڈالنا مقصود ہے۔ اب مرزا قادیانی کی چند گوبر افشائیاں اور ملاحظہ کریں۔

### معجزات پر اعتراض

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ممکن ہے آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کو روغیرہ کو اچھا کیا ہو یا کسی اور ایسی بیماری کا علاج کیا ہو۔ مگر آپ کی بد قسمتی سے اسی زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ جس سے بڑے بڑے نشانات ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ اسی تالاب

سے آپ کے معجزات کی پوری پوری حقیقت کھلتی ہے اور اسی تالاب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا ہو تو وہ معجزہ آپ کا نہیں۔ بلکہ اس تالاب کا معجزہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں سوا مگر در فرب کے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر افسوس کہ تالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بتا رہے ہیں۔“  
(ضمیر انجام آتھم حاشیہ ص ۷، خزائن ج ۱ ص ۲۹۱)

میں نے مختصر اچند عبارتیں مرزا غلام احمد قادیانی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہیں۔ ورنہ بہت سی اس طرح کی عبارتیں مرزا قادیانی کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین واضح طور پر عیاں ہوتی ہے۔

مرزا قادیانی کی بالا عبارتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکار، فریبی، جھوٹے، شیطان کے پیروکار، شرابی، خودبین، متکبر، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، کھاؤ پیو، گالیاں دینے والے، نسبی طور پر نہایت ہی مطعون (مجروح) تھے۔ معاذ اللہ!

پھر اب مرزا قادیانی کی وہ عبارت دوبارہ پڑھیں جو (تلخیص رسالت ج ۶ ص ۱۶۹، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۷۱) سے نقل کی گئی ہے: ”اگر ایک مسلمان عیسائی عقیدہ پر اعتراض کرے تو اس کو چاہئے کہ اعتراض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کا پاس رکھے۔“

غالباً مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ کا خوب خیال رکھا۔ ناظرین خود فیصلہ فرمائیں کیا ایسا شخص شریف انسان بھی کہلا سکتا ہے؟ لیکن یہاں معاملہ اسی پر ختم نہیں بلکہ (کوہڑ اور اس پر کھاج) مرزا قادیانی مجدد، نبی، رسول، ملہم، مسیح، مہدی بلکہ خدائی دعویٰ بھی کر دیتے ہیں۔ آئندہ صفحات میں ہم بتلائیں گے کہ مرزا قادیانی نے ابن اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ کوئی باہوش انسان ایسے شخص کو شریف انسان نہیں کہہ سکتا۔

حضرت عیسیٰ پر ہی بس نہیں ہے۔ بلکہ حضور نبی اکرم ﷺ پر بھی اپنی فضیلت ثابت کرتا ہے جو سرور کائنات کی سراسر توہین ہے۔ مرزا قادیانی نے جب دیکھا کہ مسیح موعود، مہدی کے علامات تو پائے نہیں جاتے تو پھر نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر گستاخانہ حملہ یوں کیا۔

”ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ اسی بناء پر بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے موہو مشکشف نہ ہوئی ہو اور نہ دجال کے ستر بارے کے گدھے کی اصل حقیقت کھلی ہو اور نہ یا جوج و ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو اور نہ دلیہ الارض کی مائیت کما ہی ہی ظاہر فرمائی گئی..... تو کچھ تعجب نہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۶۹۱، خزائن ج ۳ ص ۲۷۳)



یہاں مرزا قادیانی نے اپنی پیشین گوئیوں کی جھوٹی تاویل کرنے کے باوجود جب محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی غلط نکل آئے تو یہ آڑی۔ حضور ﷺ کو بھی امور بالا کا علم نہ تھا۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ خود لکھتا ہے کہ: ”یہ حقیقت میرے مریدوں پر منکشف ہو گئی۔“

”اب رہی اپنی جماعت، خدا کا شکر ہے کہ (انہوں) نے دمشق کے منارہ پر سبج کے اترنے کی حقیقت، دجال کی حقیقت، ایسا ہی دلہۃ الارض (وغیرہ) کے بارہ میں خدا نے ان کو معرفت کے مقام تک پہنچا دیا۔“ (فتاویٰ احمدیہ ج ۱ ص ۵۱)

ناظرین! غور کریں کہ نبی علیہ السلام جن پر قرآن مجید نازل ہوا۔ وہ تو اس حقیقت کو معلوم نہ کر سکے اور ان کی رسائی مقام معرفت تک نہ ہو سکی۔ مگر مرزا قادیانی کے مریدوں کی رسائی وہاں تک ہو گئی۔ حالانکہ صاحب وحی اور صاحب کتاب سے بڑھ کر کتاب کو دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ بلکہ صاحب وحی اس کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھتا ہے۔

کیا جس ہستی کو خدا نے علم اولین و آخرین عطا کیا ہو وہ اپنی وحی کو نہ سمجھ سکے۔ مگر قادیان کے چند بے علم، سر پھرے، ایک مرقی کے دام تزویر میں پھنسے ہوئے مقام معرفت تک پہنچ کر وہ تمام عقدے حل کر دیں جو محمد مصطفیٰ (فداہ ابی و امی) سے حل نہ ہو سکے۔ کیا اس سے بڑھ کر خاتم النبیین کی کیا توہین ہو سکتی ہے؟ پھر قادیانی منتہی کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ میں حضور ﷺ کا ظل ہوں۔ کیا ظل اصل سے فائق ہوتا ہے؟

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۰۶، خزائن ج ۲۱ ص ۲۶۹) پر لکھتا ہے: ”چنانچہ ہمارے نبی ﷺ کی تمام استغفار اسی بناء پر ہے کہ آپ بہت ڈرتے تھے کہ جو خدمت مجھے سپرد کی گئی ہے۔ یعنی تبلیغ کی خدمت اور خدا کی راہ میں جانفشانی کی خدمت اس کو جیسا کہ اس کا حق تھا۔ میں ادا نہیں کر سکا۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۵۳، خزائن ج ۳ ص ۳۹۸) پر یوں لکھتے ہیں: ”لیکن زیرک لوگ اس کو خوب جانتے ہیں کہ ایسے ما مورن اللہ کی صداقت کا اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت ممکن نہیں کہ جس خدمت کے لئے اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے بجالانے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ اگر وہ اس خدمت کو ایسی طرز پسندیدہ طریق برگزیدہ سے ادا کر دیوے۔ جو دوسرے اس کے شریک نہ ہو سکیں۔ یقیناً سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچا تھا۔“

(ازالہ اوہام ص ۴۲۸، خزائن ج ۳ ص ۳۲۸) پر لکھتے ہیں: ”ان کو موت نہیں دیتا جب تک وہ کام پورا نہ ہو جس کے لئے وہ بھیجے گئے ہیں۔“

مرزا قادیانی نے جو براہین احمدیہ میں لکھا کہ: ”حضور یہ سمجھتے تھے جو کام آپ کے سپرد کیا گیا تھا وہ اس کا حق نہیں ادا کر سکے اور نہ جانفشانی سے ہی کام کر سکے۔“ پھر دوسری عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اور مامور کی صداقت اس کے کام سے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جو کام ان کے سپرد ہو وہ اسے احسن طریق سے مکا حقہ ادا کر دیں۔ ایسا کہ اس میں ان کا کوئی شریک نہ ہو۔ جب وہ سچے ورنہ..... دونوں عبارتوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ حضور حق تبلیغ اور حق رسالت ادا نہ کر سکے۔ جب ہی استغفار کرتے تھے اور یہاں سے معلوم ہوا جو حق ادا نہ کر سکے تو اس کی صداقت بھی مشکوک ہوئی۔ پھر کیا قادیانی کے نزدیک حضور کی صداقت مشکوک ہوگئی؟ معاذ اللہ ہذا بہتان عظیم!

یہاں غلام احمد جتئی نے کذب سے کام لیا ہے اور آپ ﷺ کی صریح توجیہ کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرائض رسالت مکا حقہ ادا کر دیئے۔ آپ ﷺ نے اکمل طریقے سے فرائض پورے کئے۔ بلکہ صحابہ کرام نے بھی کامل طور پر حق تبلیغ ادا کر دیا۔ اللہ اللہ چہ نسبت خاک را بجایم پاک!

اپنے حقیقی معیار صداقت یہ پیش کرتا ہے کہ: ”میں جس کام کے لئے مامور ہوا تھا وہ پورا کر دکھایا۔“

اس میں کیا شک ہے غلام احمد جیسا راندہ پارگاہ ایزدی جس کام کے لئے مامور من شیطان ہوا تھا۔ اسے پوری جانفشانی سے پورا کیا۔ یعنی کفار مغرب کی غلامی جس کے خوب گیت گائے نیز تشہیر اکاذیب جس میں مرزا قادیانی کو یدِ طولیٰ حاصل تھا۔

اس میں کیا شک، شیطان نے جس مقصد کے لئے وحی کی تھی اس میں کامیاب رہا۔ مسلمانوں میں سے ایک ایسا گروہ الگ کر دیا جو شیطان کے اشارے پر ناپننے لگا۔ بندگانِ خدا پر ظلم، حتم و حائن والے ظالموں کے گن گانے لگا۔ اسلام کے لئے جہاد حرام ٹھہرایا۔ مگر سلطنتِ برطانیہ کے لئے قربانی دینا عین ایمان ”بسمعا یا مرمک بہ ایمانکم ان کفتم مؤمنین“ بلکہ ان کی وقا واری شرط ایمان اور مقصد احمدیت سرکارِ انگریزی کی مدح سرائی ٹھہرایا۔

حضور ﷺ کے ”مطلق لکھتا ہے کہ: ”آپ کے معجزات کی تعداد تین ہزار ہے۔“

(تحدہ گولڈ ویس ۴۰، خزائن ج ۷ ص ۱۵۳)

”مگر اپنے معجزات ۱۰ لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔“

(تذکرۃ الشہادتین ص ۴۱، خزائن ج ۲ ص ۴۳)

مرزا قادیانی (۱۴۱۱ھ ص ۷۱، خزائن ج ۱ ص ۱۸۳) میں لکھتے ہیں کہ۔

لہ خسف القمر المنیر وان لی

غسا القمران المشرقان اتنکر

اس کے لئے (یعنی حضور علیہ السلام) چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے

چاند سورج دونوں کا۔ کیا اب تو انکار کرے گا؟

مرزا قادیانی شق القمر کے معجزہ کو خسوف قمر قرار دیتے ہیں۔ پھر اپنے متعلق کہتے ہیں۔

میرا معجزہ خسوف قمر، کسوف شمس ہے۔ یعنی میرا معجزہ حضور ﷺ کے معجزہ سے بڑھ کر ہے۔

پھر مرزا قادیانی نے شق قمر کو بیک جنبش قلم خسوف سے تعبیر کر دیا۔ یہ معجزہ کی حقیقت کو

گھٹانے کے لئے تاکہ مرزا قادیانی کے موعومہ نشان معجزہ قرار پائیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے

(چشمہ معرفت حصہ دوم ص ۴۱، خزائن ج ۲۳ ص ۴۱۱) میں خود لکھا ہے کہ: ”آپ کی انگلی کے اشارہ سے

چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔“

مرزا قادیانی جب مطلب برآری پر اتر آتے ہیں تو پھر اپنی سابقہ تحریرات کو بھول

جاتے ہیں۔ سچ ہے۔

دروغ گو را حافظہ نہ باشد

اب آپ وہ عبارت مرزا قادیانی کی کتاب سے پڑھیں: ”قرآن شریف میں مذکور

ہے کہ آنحضرت ﷺ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور کفار نے اس معجزہ کو دیکھا۔

اس کے جواب میں یہ کہنا کہ ایسا وقوع میں آنا خلاف علم ہیئت ہے۔ یہ سراسر فضول باتیں ہیں۔“

(چشمہ معرفت حصہ دوم ص ۴۱، خزائن ج ۲۳ ص ۴۱۱)

دیکھیں مرزا قادیانی کا تضاد، پھر لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی

عادت کے مطابق یہاں بھی دروغ گوئی سے کام لیا ہے اور جھوٹ کہا ہے کہ: ”قرآن میں

مذکور ہے کہ آپ کی انگلی کے اشارہ سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں وہاں

کہیں بھی مذکور نہیں کہ انگلی کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ تاہم چاند کے دو ٹکڑے

ہونا مرزا قادیانی کو مسلم ہے۔“

کیا فرماتے ہیں مرزا قادیانی معراج جسمانی اور رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں؟

کیا ان میں کلام کرنا بھی فضول نہیں؟ اگر چاند کے دو ٹکڑے ہونا مجال نہیں تو جسمانی معراج کیوں

کر مجال ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا کیوں محال ہے؟ ہمارا مقصود اس عبارت

سے یہ تھا کہ مرزا قادیانی اپنے معجزہ کو بڑھانے کے لئے حضور ﷺ کے معجزہ کو گھٹانا کر بیان کر رہے

ہیں۔ غالباً یہ بددیانتی بھی مرزا قادیانی کی نبوت کا خاصہ ہو۔ جس طرح ظل و بروز ان کی نبوت کا خاصہ ہے۔

خیال زاغ کو بلبل سے برتری کا ہے  
غلام زادے کو دعویٰ پیغمبری کا ہے

خلیفہ قادیان کی زبانی تو ہیں

مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے خلیفہ ثانی ڈائری خلیفہ قادیان مطبوعہ اخبار جولائی ۱۹۲۲ء (منقول از محمدیہ پبلسٹیٹس پکٹ بک ص ۲۵۷) پر لکھتے ہیں: ”یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے۔ حتیٰ محمد ﷺ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔“

پھر مرزا قادیانی کے دوسرے بیٹے (کلمۃ الفصل ص ۱۱۳) پر لکھتے ہیں: ”ظلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ بلکہ آگے بڑھایا ہے اور اس قدر آگے بڑھایا ہے کہ نبی کریم کے پہلو پہ پہلو لا کر کھڑا کیا۔“

کیا ان عبارتوں سے صاف عیاں نہیں ہو رہا؟ کہ مرزا قادیانی کی طرح خلیفہ قادیانی بھی حضور ﷺ کی توہین کا مرتکب ہوا۔ پہلی عبارت میں تو ہر ایرے وغیرے کو حضور ﷺ سے بڑھا دیا اور دوسری عبارت میں مسیح کذاب کو سرور دو عالم کے پہلو میں لا کھڑا کر دیا۔

مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ گورافشانی انبیاء تک محدود نہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی ایسے ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ کہیں اپنے آپ کو خدا کہا۔ کہیں خدا کا بیٹا بنا، کہیں خدا تعالیٰ کو خطا کار کہتا ہے۔ اس مدعی سے ذات قدوس بھی نہ بچی۔

ملاحظہ ہو مرزا قادیانی کا خدا سے رشتہ:

..... ۱ ”انت منی بمنزلة ولدی تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

..... ۲ ”اسمع ولدی“ (البشری ج ۱ ص ۳۹)

..... ۳ ”یا قمر یا شمس انت منی وانا منک اے چاند، اے خورشید تو مجھ سے ظاہر ہوا

ہے اور میں تجھ سے۔“ (حقیقت الوحی ص ۷۴، خزائن ج ۲۲ ص ۷۷)

..... ۴ ”انت منی وانا منک ظہورک ظہوری تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔

تیرا ظہور میرا ظہور ہے۔“ (تذکرہ ص ۷۰۴، طبع سوم)

..... ۵ ”انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید

اور تفرید۔“ (حقیقت الوحی ص ۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

۶..... ”انت من ماء نسا وهم من فشل تو ہمارے پانی سے ہے اور وہ لوگ بزدلی سے۔“ (انجام آتھم ص ۵۵، خزائن ج ۱ ص ایضاً)

۷..... ”یحمدك الله من عرشه ويمشى اليك خداعرش سے تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے۔“ (انجام آتھم ص ۵۵، خزائن ج ۱ ص ایضاً)

۸..... ”خدا قادیان میں نازل ہوگا۔“ (البشری ج ۱ ص ۵۶)

مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ عیسائیت کو ختم کرنے آئے ہیں اور صلیب پرستی و عیسیٰ پرستی کا خاتمہ ان کے ہاتھ سے ہوگا۔ چونکہ عیسائی عاجز بندے کو خدا اور ابن اللہ کہتے ہیں۔ لہذا مسیح موعود ان کے اس زور کو توڑنے کے لئے تشریف لائے ہیں۔

لیکن مندرجہ بالا عبارتیں بتلا رہی ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی مضطرب طبیعت پر قابو نہ رکھتے ہوئے۔ وہ کام کیا جو عیسائی لٹھ نہ کر سکے تھے۔

مرزا قادیانی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور خدا کا جز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا کا بروز کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح بروز نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح بروزی خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ ملاحظہ ہو عبارت بالا، ہم نوٹ کر آئے ہیں۔ جس میں مرزا قادیانی نے کہا کہ: ”خدا کہتا ہے کہ مرزا! تیرا ظہور میرا ظہور ہے۔“

اور پھر صاف صاف کہہ دیا: ”تیرا ظہور عینہ میرا ظہور ہے۔“  
خدا تعالیٰ نے کلام پاک میں صاف صاف اعلان کر دیا: ”قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد“ کہہ دو اے محمد (ﷺ) اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جناندہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا بے مثل ہے ”لیس كمثله شئ“ بیٹا باپ کا مثل ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے عیسائیت کو فروغ دیا ہے نہ کہ ختم کیا۔

### مزید خدا کی توہین

خدا تعالیٰ کی مزید توہین کرتے ہوئے کہتا ہے: ”اللہ تعالیٰ نے کہا میں نماز پڑھوں گا اور روزہ رکھوں گا۔ جاگتا ہوں۔ سوتا ہوں۔“ (البشری ج ۲ ص ۷۹)

اب سوال یہ ہے کہ خدا کس کی نماز پڑھتا ہے۔ کس کو سجدہ کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کس کی اطاعت میں روزے رکھتا ہے۔ کیا کبھی کھاتا پیتا بھی ہے۔ افطار کا کون سا وقت ہے؟

بہت خوب! مرزا قادیانی کو ایسے ہی خدا کی ضرورت تھی۔ ایسے ہی خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ مرزا قادیانی کے حواری وضاحت کریں وہ کون سا خدا مراد لے رہے ہیں؟ کہیں رب انگلیٹڈ تو نہیں؟ پھر اس عبارت میں یہ بھی ہے کہ خدا سوتا بھی ہے جاگتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ“ اس پر نہ اونگھ طاری ہوتی ہے نہ نیند۔ یاد رکھیں اونگھ، نیند عجز کی دلیل ہے۔ تھکے ہارے جاندار کو نیند اور اونگھ لاحق ہوتی ہے۔ کیا خدا بھی تھکتا ہے اور اس پر بھی غفلت کا اطلاق ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”لَا يَزُودُهُ حِفْظُهُمَا“ اس کے لئے زمین و آسمان کی حفاظت موجب تھکاؤ نہیں۔

خدا جانے مرزا قادیانی کس ہستی کو خدا مان رہے ہیں۔ کیا یہ عقیدہ عیسائیت سے بدتر عقیدہ نہیں ہے۔ میں بھی روزہ رکھوں گا اور اظہار بھی کروں گا۔ ملاحظہ ہو اشتہار مرزا قادیانی (مندرجہ تلخ رسالت ج ۱ ص ۱۳۲، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۹۲) ”انسی مع الاسباب اتیک بغفۃ انسی مع الرسول اجیب اخطی واصیب انی مع الرسول محیط“ میں اسباب کے ساتھ اچانک تیرے پاس آؤں گا۔ میں رسول کے ساتھ ہوں۔ جواب دیتا ہوں۔ خطا کروں گا۔ بھلائی کروں گا۔ میں رسول کے ساتھ محیط ہوں۔ (البرئی ج ۲ ص ۷۹)

لو خدا بھی مرزا قادیانی کے نزدیک خطا کار بن گیا۔ شاید مرزا قادیانی کی لغت میں اس کو تعظیم و تکریم کہا جاتا ہو۔

### مزید تو ہیں

مرزا قادیانی کے ایک حواری نے تو مرزا قادیانی کا ایک عجیب الہام نوٹ کرتے ہوئے مرزا قادیانی کو خدا کی بیوی ظاہر کیا ہے۔ قاضی یار محمد صاحب (اسلامی قربانی ص ۳۳) میں یوں مرزا قادیانی کا الہام نقل کرتے ہیں: ”حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی۔ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا۔“

(معاذ اللہ) مرزا قادیانی کا کتنا گندہ عقیدہ ہے۔ خود خدا کی بیوی بن گیا۔ کیا ایسے (گندے) خیالات رحمانی ہو سکتے ہیں؟

یقیناً مرزا قادیانی کو کشف ہوا ہوگا۔ ضرور مرزا قادیانی عورت بھی بنے ہوں گے۔ مگر اظہار رجولیت غالباً کسی شیطان (لعین) کی طرف سے ہوا ہو اور چونکہ مرزا قادیانی کی

برداشت سے بالا تھا تو مرزا قادیانی افتاد طبع کی بناء پر سمجھ بیٹھے کہ ہونہ ہو یہ خدا ہی ہوگا۔ کیونکہ ایسی طاقت سے اظہار رجولیت کسی انسان سے متصور نہ ہو سکتا تھا۔ غالباً کثرت بول کی ابتداء بھی یہاں ہی سے ہوئی ہو۔

مرزا قادیانی نے ایک مقام پر عین خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ: ”میں نے زمین آسمان بنائے۔“ (بہت خوب) مگر وائے قسمت پیشاب بند نہ کر سکے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۳ ج ۵) پر لکھتے ہیں: ”وراثیتنی فی العنعماء عین اللہ وتیقنت اننی ہو“ میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہو بہو اللہ دیکھا، میں نے یقین کر لیا کہ میں وہ اللہ ہی ہوں۔

پھر (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۵ ج ۵) پر لکھتے ہیں: ”فخلقت السموات والارض اولاً بصورة اجمالية لا تفریق فیہا ولا ترتیب“ پس میں نے زمین و آسمان اولاً اجمالی صورت میں پیدا کئے۔ جس میں کسی قسم کی ترتیب و تفریق نہ تھی۔

پھر اسی صفحہ پر لکھتے ہیں: ”ثم خلقت السماء الدنيا وقلت انا زینا السماء الدنيا بمصایب ثم قلت الان نخلق الانسان من سللة من طین“ پھر میں نے آسمان دنیا پیدا کیا اور میں نے کہا کہ ہم نے آسمان دنیا کو سیاروں سے سجایا ہے۔ پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو کچھڑ کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔

اب اس مندرجہ بالا عبارت کو پڑھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی عیسائیت کا زور توڑنے آئے تھے؟ مرزا قادیانی نے وہ دعویٰ کیا جو بڑے سے بڑا کافر بھی نہ کر سکا ہو آج تک۔ کسی کافر مدعی الوہیت نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آسمان پیدا کیا ہے۔ میں نے آدم کو پیدا کیا ہے۔ یہ جگمگاتے ستارے و سیارے میرا شاہکار ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کر کے خاتم الکذابین والدجالین ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔

بھلا کوئی صحیح الدماغ انسان مرزا قادیانی کے ایسے الہامات کو تسلیم کر سکتا ہے؟ بلکہ مرزا قادیانی کے ان اغوات کو مرزا قادیانی کے مرید بھی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ تاہم حسن ظن کی بناء پر اپنے مذہب باطل کی روشنی میں اس کی کسی طرح مرمت ضرور کرتے ہوں گے۔ جس طرح دیگر گول مول الہامات کی مرمت و تشریح کرتے رہتے ہیں۔

بہر حال یہ مرزا قادیانی کا الہام و خواب ضرور ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں۔ مگر ملہم

حضرت مراق صاحب معلوم ہوتے ہیں۔ مراق کی کارستانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔  
 اگر مراق تسلیم نہ کیا جاوے تو صحیح العقل انسان کا کلام کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے۔  
 جب کہ مدعی کا دعویٰ ہو کہ عیسائیت پرستی فتنہ کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ عیسائی حضرت مسیح علیہ  
 السلام کو ابن اللہ کہہ کر شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مگر خود ابن اللہ سے بڑھ کر خود خدا بن  
 گئے۔ زمین آسمان کی تخلیق کا بیڑا بھی خود ہی اٹھالیا۔ بلکہ اس کی نوک پلک بھی خود سنوارنے کی  
 نشان لی۔ اب بھی مرزا قادیانی کے حواری عیسائیوں کے مقابلہ میں الوہیت مسیح کا انکار کریں تو  
 یہ بے حیائی کی انتہاء ہوگی۔ ہم اپنی کتاب میں مرزا قادیانی کے مراق کا بھی ثبوت ان کی اپنی  
 زبانی پیش کریں گے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے کذبات

۱..... ”آم خضر ﷺ سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ  
 آج کی تاریخ سے سو برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آجائے گی۔“

(ازالہ ابہام ص ۲۵۲، خزائن ج ۳ ص ۲۲۷)

مرزا قادیانی نے سفید جھوٹ لکھا ہے کسی حدیث شریف میں یہ نہیں آیا کہ سو برس تک  
 قیامت آجائے گی۔ مرزائیوں کو کوشش کر کے کسی حدیث سے ثابت کرنا چاہئے۔ اگر مرزائی  
 ثابت کر دیں تو انعام دیا جائے گا۔ مگر مرزائی قیامت تک یہ عبارت کتب حدیث سے نہیں پیش کر  
 سکتے۔

۲..... ”اولیاء گذشتہ کے کشف نے اس بات پر مہر لگادی ہے کہ وہ (مسیح موعود) چودھویں

صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز پنجاب میں ہوگا۔“ (اربعین نمبر ص ۲۳، خزائن ج ۷ ص ۳۷۱)

یہ بھی صریح جھوٹ ہے۔ کسی نبی کے کشف میں نہیں کہ چودھویں صدی یا پنجاب میں  
 پیدا ہوگا۔ مرزا قادیانی کے شیطان نے مرزا قادیانی کو غلط اطلاع دی ہے۔ مرزائی حضرات پر  
 لازم ہے کہ اپنے مرزا قادیانی کی صفائی پیش کریں یا کاذب تسلیم کریں۔

۳..... ”بخاری میں لکھا ہے۔ آسمان سے اس (مسیح موعود خلیفہ) کے لئے آواز آئے گی۔“

(شہادۃ القرآن ص ۴۰، خزائن ج ۶ ص ۳۳۷)

”هذا خليفة الله المهدي“

یہ بھی صریح جھوٹ ہے۔ بخاری میں یہ روایت نہیں ہے۔ اگر ہے تو کوئی مرزائی نکال

کر بتلا دے۔ اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔

۴..... ”آم خضر ﷺ نے فرمایا۔ جب کسی شہر میں وہاں نازل ہو تو شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ



بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں۔ ورنہ خدا تعالیٰ سے رنجی کرنے والے ٹھہریں گے۔“

(اشہار عام مریدوں کے لئے عام ہدایت، مندرجہ اخبار الحکم مورخہ ۲۳ اگست ۱۹۰۷ء)

بالکل جھوٹ ہے۔ حضور ﷺ کی کسی روایت میں یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برعکس

ہے۔ مرزا قادیانیوں سے ثبوت کا مطالبہ ہے۔ ورنہ مرزا قادیانی کو کاذب مانیں۔

۵..... ”احادیث صحیحہ میں آیا تھا مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ چودھویں صدی کا

مجدد ہوگا۔“ (ضمیمہ نصیر الحق ص ۱۸۸، خزائن ج ۳۱ ص ۳۵۹)

یہ بھی جھوٹ ہے۔ کسی حدیث میں چودھویں صدی میں مسیح کا آنا نہیں لکھا۔

مرزا قادیانی نے صریح کذب سے کام لیا ہے اور رسول اللہ ﷺ پر افتراء باندھا ہے۔

۶..... ”مرزا قادیانی لکھتا ہے: ”تین ہزار یا اس سے زیادہ اس عاجز کے الہامات کی مبارک

پیشین گوئیاں جو امن عامہ کے مخالف نہیں۔ پوری ہو چکی ہیں۔“

(حقیقت المہدی ص ۱۵، خزائن ج ۱۳ ص ۴۳۱)

یاد رہے حقیقت المہدی کے آخر میں لکھا ہوا ہے۔ ۲۱ فروری ۱۸۹۹ء

پھر مرزا قادیانی نے لکھا ہے: ”پس میں جب اس مدت تک ڈیڑھ سو پیشین گوئی کے

قریب خدا کی طرف سے پاکر چشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف صاف طور پر پوری ہو گئیں۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۰)

یاد رہے یہ رسالہ ۱۹۰۱ء میں لکھا ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں ۱۸۹۹ء میں

تین ہزار سے زیادہ تھیں۔ دو سال بعد یعنی ۱۹۰۱ء میں مزید ترقی کر کے ۱۵۰ رہ گئیں۔ بہت ترقی

ہوئی۔ صرف اٹھائیس سو پچاس (۲۸۵۰) کا خسارہ ہوا کوئی زیادہ نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ

صریح جھوٹ ہے۔ اگر دو سال پہلے تین ہزار تھی تو بعد میں ڈیڑھ سو رہ گئی۔

بس ایک زلٹی کی طرح جو جی میں آیا اسے فوراً بلا تامل صفحہ قرطاس پر منتقل کر دیا اور بعد

میں تاویل پر کمر بستہ ہو گئے۔ مگر خدا کی شان۔ بعض ایسے جھوٹ بھی تھے جن پر کسی طرح تاویل نہ

ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اس بارہ میں مرزائی امت ”نک نک دیدم دم نہ کشیدم“ کی مصداق ہے۔

یہ جھوٹ جو نمونہ کے طور پر میں نے مرزا قادیانی کی کتاب سے نقل کئے ہیں۔ اگر کوئی

مرزائی جواب باصواب دے کر مرزا قادیانی کا حق نمک ادا کر دے تو مرزا قادیانی غالباً اس جہاں

میں بھی ممنون ہوں اور ہم بھی قدرے ممنون ہوں گے۔

## مرزا قادیانی کا ارشاد گرامی ان کی زبانی

لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں  
عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں

(نصرۃ الحق ص ۱۱، براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۱، خزائن ج ۲۱ ص ۲۱)

”جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے۔“

(اربعین نمبر ۳ ماہیہ ص ۲۰، خزائن ج ۱ ص ۴۰۷)

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: ”لعنة الله على الكذابين“ امید ہے  
مرزائی حضرات جھولیاں بھر لیں گے۔ کتابیں تو پہلے ہی بھری ہوئی ہیں۔

### مرزا قادیانی کے متضاد اقوال

انسان اپنے دعویٰ کی تردید خود کبھی نہیں کر سکتا۔ خاص کر جو ملہم من اللہ ہو۔ اس کے  
الہام میں تو تضاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ملہم من الشیطان ہو تو ضرور اس میں تضاد ہوگا۔ کیونکہ اس  
میں خواہشات نفسانیہ کا دخل ہوتا ہے اور خواہشات مختلف حالات و واقعات میں مختلف ہوتی ہیں۔  
لہذا اختلاف کلام بھی لازم ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”لوکان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً“  
اگر قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف ہوتے۔ اسی طرح  
مرزا قادیانی کبھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کبھی انکار کر دیتے ہیں۔ کبھی حضور ﷺ کی ختم نبوت  
کے منکر کو کافر کہتے ہیں اور کبھی ختم نبوت کے منافی نبوت کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ کبھی حضرت عیسیٰ  
علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں۔ کبھی بد زبانی پر اتر آتے ہیں۔ مندرجہ ذیل عبارات میں غور  
کرنے سے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی کو اپنے متعلق خود بھی کوئی یقین نہ تھا۔  
صرف محدث ہونے کا دعویٰ، نبوت سے انکار

(ازالہ وہام ص ۲۲۱، خزائن ج ۳ ص ۲۲۰) پر ہے: ”(سوال) رسالہ فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ

کیا ہے۔ (اما الجواب) نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔“

صرف محدث ہونے سے انکار، نبوت کا دعویٰ

”ان (بروزی و ظلی) معنوں کی رو سے مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں۔ اسی

حفاظ سے صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبر پانے والا نبی کا

نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے؟ اگر کہو کہ اس کا نام (صرف) محدث رکھنا چاہئے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب کے نہیں۔ مگر نبوت کا معنی اظہار غیب ہے۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۵، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۹)

پہلے مرزا قادیانی نے سائل کو جو جواب دیا اس میں صاف اقرار کیا کہ مجھے محدث ہونے کا دعویٰ ہے۔ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ مگر ایک غلطی کا ازالہ میں بالکل اس کے خلاف لکھتے ہیں۔ یعنی مرزا قادیانی صرف محدث نہیں ہیں۔ کیونکہ تحدیث کے معنی اظہار غیب کے نہیں ہیں۔ بلکہ اظہار غیب نبوت میں ہوتا ہے۔ یعنی میں صرف محدث نہیں ہوں بلکہ نبی ہوں۔  
مرزا قادیانی کا نبوت تشریحی سے انکار

”اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آسکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے۔ مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ پس اس بناء پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔“ (تجلیات الہیہ ص ۲۰، خزائن ج ۲۰ ص ۴۱۲)

اس کے خلاف تشریحی نبوت کا دعویٰ

”اگر کہو صاحب شریعت افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ کہ ہر ایک مفتری، تو اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ماسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ چند امر و نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعہ ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وحی میں امرزی ہے اور نہی بھی۔“ (اربعین نمبر ص ۶، خزائن ج ۱۷ ص ۴۳۵)

پہلے تو مرزا قادیانی نے تشریحی نبوت کا انکار کیا کہ میں تشریحی نبی نہیں۔ آپ کے بعد کوئی تشریحی نبی نہیں آسکتا۔ اب شریعت کی تعریف کر کے خود دعویٰ کر دیا کہ چونکہ میری وحی میں امر اور نہی ہے۔ لہذا میں تشریحی نبی ہوں۔ میرے مخالف ملزم ہیں۔

تضاد نمبر ۱:

”ابتداء سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا۔“ (تریاق القلوب ص ۱۳۰، خزائن ج ۱۵ ص ۴۲۲)

تضاد نمبر ۲:

”مسح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا نہیں جو ہماری ایمانیات کی جز یا ہمارے دین کے

رکنوں میں ہوا بلکہ صد ہا پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی ہے۔ جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ جس زمانہ تک یہ پیشین گوئی بیان نہیں کی گئی تھی۔ اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۴۰، خزائن ج ۳ ص ۱۷۱)

مندرجہ بالا دونوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہو سکتا۔ نیز نزول مسیح کا عقیدہ کوئی رکن اسلام نہیں ہے۔ اب اس کے خلاف دیکھیں۔

میرا منکر مسلمان نہیں جہنمی ہے

”ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں

(حقیقت الوہی ص ۱۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۷)

ہے۔“

نیز (حقیقت الوہی ص ۱۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۸) میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ”جو مجھے نہیں

جاتا وہ خدا رسول کو بھی نہیں مانتا۔ کیونکہ میری نسبت خدا رسول کی پیشین گوئی موجود ہے۔“

ان مندرجہ بالا دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کو جو نہ مانے وہ مسلمان

نہیں۔ جب مسلمان نہیں تو ضرور کافر ہے۔ پھر جو مرزا قادیانی کو نہ مانے وہ خدا رسول کو بھی نہیں مانتا۔ ظاہر ہے جو خدا رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے۔

پہلے مرزا قادیانی کا قول تریاق القلوب سے ہم نقل کر چکے ہیں کہ: ”میرے دعویٰ کے

انکار سے کوئی شخص دجال کافر نہیں ہو سکتا۔“

پہلی عبارت سے یہ عبارت بالکل متضاد ہے۔ جو مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی

دلیل ہے۔ مرزا قادیانی نے ازالہ اوہام میں مسیح کے نزول والی پیشین گوئی کے متعلق لکھا ہے۔ جو

ہم نقل کر آئے ہیں کہ: ”یہ عقیدہ رکن اسلام میں سے نہیں۔“

پھر لکھتے ہیں کہ: ”میری نسبت پیشین گوئی موجود ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔“

کیا یہ پہلے سے متضاد نہیں ہے؟

مسیح کا دوبارہ دنیا میں آنا قرآن مجید میں

”هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین

کلبہ“ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ

کا ظہر دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح

علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو دین اسلام جمع آفاق واقطار میں پھیل جائے

(براہین احمدیہ حاشیہ ص ۴۹۸، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳)

گا۔

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے صاف صاف بیان کیا کہ اس آیت میں مسیح علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کی خبر دی گئی ہے اور دین کا غلبہ حضرت مسیح کے دوبارہ آنے پر ہوگا۔ مگر مابدولت کچھ مدت بعد اس کے خلاف اعلان صادر فرماتے ہیں۔

اس کے خلاف

”قرآن شریف قطعی طور پر اپنی آیات بینات میں مسیح کے فوت ہونے کا قائل ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۳۲، خزائن ج ۳ ص ۱۷۲)

”قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں۔“

(ایام الصلح ص ۱۳۶، خزائن ج ۱ ص ۳۹۲)

ازالہ اوہام کی عبارت سے معلوم ہوا کہ مسیح مر گئے ہیں۔ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ حالانکہ پہلے براہین میں اقرار کر چکے ہیں کہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ نیز براہین احمدیہ میں مرزا قادیانی نے ”هو الذی ارسل“ کی تفسیر خود کی کہ یہ آیت حضرت مسیح کی دوبارہ آمد کی خبر دے رہی ہے۔ مگر یہاں ایام صلح میں فرماتے ہیں کہ: ”قرآن مجید میں مسیح کی آمد ثانی کا ذکر نہیں ہے۔“

ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی نے یا تو پہلے جھوٹ کہا یا بعد میں جھوٹ کہا۔ اگر پہلی عبارت صحیح ہے تو دوسری غلط۔ اگر دوسری صحیح ہے تو پہلی کذب، بہر صورت مرزا قادیانی کا کاذب ہونا لازم آتا ہے۔ ہوا لمطلوب!

ختم نبوت کا اقرار

..... ”ملکان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین الاتعلم ان رب الرحیم المتفضل سمی نبینا ﷺ خاتم النبیین بغیر استثناء وفسره نبینا فی قوله لا نبی بعدی ببيان واضح للطالبین ولو جوزنا ظهور نبی بعد نبینا ﷺ لجوزنا انفتاح باب وحی النبوة بعد تغلیقها وهذا خلف کمالا یخفی علی المسلمین“

(حجرات البشری ص ۳۳، خزائن ج ۷ ص ۲۰۰)

نہیں ہیں محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ لیکن اللہ کے رسول اور ختم کرنے والے نبیوں کے۔ کیا نہیں جانتا تو کہ رب رحیم متفضل نے ہمارے نبی علیہ السلام کا نام خاتم النبیین رکھا ہے۔ بغیر کسی استثناء کے اور اس کی تفسیر حضور نے اپنے اس قول ”لا نبی

بعدی“ میں واضح بیان کے ساتھ طابین کے لئے کردی ہے۔ اب اگر ہم کسی نبی کا ظہور آپ کے بعد جائز قرار دیں تو وحی نبوت کے بند ہونے کے بعد وحی نبوت کا دروازہ کھولنا جائز قرار دیں گے اور یہ بالکل خلاف اصل ہے۔ جس طرح تمام مسلمانوں پر مخفی نہیں ہے۔

۲..... ”چونکہ ہمارے سید و رسول ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آنحضرت ﷺ کے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لئے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔“

(شہادت القرآن ص ۲۸، جزائن ج ۶ ص ۳۲۳)

۳..... ”اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعد اس امت کے لئے کوئی نبی نہیں آئے گا نیا ہو یا پرانا۔“

(نشان آسانی ص ۳۰، جزائین ج ۳ ص ۳۹۰)

مرزا قادیانی کی پہلی عبارت حماۃ البشری سے جو ہم نے نقل کی ہے۔ اس میں مرزا قادیانی نے جو آیت کریمہ لکھ کر ساتھ ہی رسول اللہ ﷺ کی حدیث ”لا نبی بعدی“ سے تشریح و تفسیر کر کے واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔

اسی طرح عبارت نمبر ۲ شہادۃ القرآن سے جو نقل کی گئی ہے۔ اس میں صاف صاف آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی نفی کی گئی ہے۔ اسی طرح نمبر ۳ میں بھی مرزا قادیانی نے اعتراف کیا کہ کوئی نیا یا پرانا نبی نہیں آ سکتا۔

اب آئندہ جو ہم لکھیں گے وہ بھی مرزا قادیانی کی کتاب سے نقل کریں گے۔ غور سے پہلی اور آئندہ عبارت کا موازنہ کیجئے۔ پھر آپ پر مرزا قادیانی کی نبوت کی حقیقت کھل جائے گی۔ ختم نبوت کے خلاف

۱..... ”خدا کا یہ قول“ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین“ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نبیوں کے لئے مہر ٹھہرائے گئے ہیں۔ یعنی آئندہ کوئی نبوت کا کمال بجز آپ کی پیروی کی مہر کے کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ غرض اس آیت کے یہ معنی تھے جن کو الٹا کر نبوت کے آئندہ فیض سے انکار کر دیا۔ نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ دوسرے کو ظلی طور پر نبوت کے کمالات سے متمتع کر دے۔“

(چشمہ سبھی ص ۷۳، جزائن ج ۲ ص ۳۸۸)

۲..... ”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔“

(اخبار البدور مورخہ ۵ مارچ ۱۹۰۸ء، ملفوظات ج ۱ ص ۱۴۷)

آپ غور کریں کہ مرزا قادیانی کی پہلی عبارتوں میں اور مندرجہ بالا عبارتوں میں کس

قدر بعد ہے۔ پہلے نمبر ۱ میں تو صاف صاف کہہ دیا کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور ”لانیسی بعدی“ کہہ کر حضور ﷺ نے آیت کی تفسیر یوں کر دی کہ میرے بعد کوئی نیا یا پرانا، ظلی یا بروزی نبی نہیں آسکتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کو اعتراف ہے کہ بلا استثناء حضور ﷺ نے ”لانیسی بعدی“ کہا ہے۔ نمبر ۲ میں بھی مرزا قادیانی نے اقرار کیا ہے کہ بعد آنحضرت ﷺ کے کوئی نبی نہیں آسکتا۔ اس لئے کہ شریعت میں محدث نبی کے قائم مقام رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح نمبر ۳ میں بھی کسی اور نبی کے آنے کا انکار ہے۔

ایسے آدمی کا کلام کوئی عقلمند کس طرح کسی ملہم کا کلام تسلیم کر لے۔ بلکہ یہ ایک ایسے ہی آدمی کا کلام ہو سکتا ہے۔ جس کا دل و دماغ ماؤف ہو چکا ہو اور بغیر سوچے سمجھے جو زبان پر آیا کاغذ پر نقش کر دیا۔

یا پھر بعض مریدوں کی اطاعت شعاری سے متاثر ہو کر خیال آیا ہو کہ کیوں نہ ایسی الو جماعت کی حماقت سے فائدہ اٹھا کر نبوت کا دعویٰ کر دیں۔ کچھ آمدن بڑھ جائے گی۔ یا بقول مرزا قادیانی فتوحات مالیہ میں اضافہ ہو جائے گا۔

بے شک مرزا قادیانی اپنے بعض مقاصد میں کامیاب رہے۔ مگر آخر محمدی بیگم والے قصے اور ہیضہ کی موت نے ساری کوشش پر پانی پھیر دیا۔ تاہم مرزا قادیانی کو اس کی پروا نہیں۔ کیونکہ اب معاملہ دوسرے جہاں میں سپرد خدا ہو چکا ہے۔ دنیا والوں کی باتوں سے وہ بے فکر ہیں۔ مگر مرزائیوں کو اس دلدل میں پھنسا گئے اور خود آخرت کی دلدل ہادیہ میں پھنس گئے۔

### مرزا قادیانی کے اخلاق

یوں تو مرزا قادیانی کا ہر کام نرالا ہے۔ ان کا سچ بھی نرالا۔ ان کی شادی بھی نرالی۔ کھانا پینا بھی نرالا۔ مگر جس قدر آپ کا اخلاق نرالا ہے۔ شاید کسی ادنیٰ درجہ کے مسلمان میں بھی اس کا شائبہ تک نہ ہو۔ بلکہ غیر مسلموں میں بھی اس کی مثال شاید ہی ہو۔

مرزا قادیانی نہایت ہی گندہ دہن تھے۔ جب کسی کے مخالف ہو جاتے تو ماشاء اللہ تہذیب کے تمام بندگان توڑ ڈالتے۔ ایسی ایسی فحش گالیاں زبان ترجمان الہام سے صادر ہوتیں کہ توبہ ہی بھلی۔ اب آپ مرزا قادیانی کی چند گوارا فحشائیاں ملاحظہ فرمائیں۔ پھر اگر جی چاہے تو نبی بھی مان لیں۔

ہر صاحب فہم جانتا ہے کہ حرامی اسے کہا جاتا ہے۔ جو شخص میاں بیوی کے ملاپ سے نہ پیدا ہو بلکہ بغیر نکاح مرد عورت کے ملاپ سے پیدا ہو۔ مگر مرزا قادیانی جمیع خلق جوان کی بیہودہ

دعوت کو تسلیم نہ کرے۔ ان کو حرامی کہتے ہیں۔

..... ”کل مسلم یقبلنی ویصدق دعوتی الاذریۃ البغایا“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۳۷، ۵۳۸، خزائن ج ۵ ص ۵۳۷، ۵۳۸)

تمام مسلمان مجھے قبول کرتے ہیں اور میری دعوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ مگر کجخیروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔

..... ۲ مولوی سعد اللہ صاحب کے متعلق گوہر افشانی:

اذیتنی خبثا فلیست بصادق

اذلم تمت بالخزی یا ابن بغائی

ترجمہ از مرزا قادیانی: بختاقت خود ایذا دہی پس من صادق ہستم۔ اگر تو اے نسل

(انجام آتھم ص ۲۸۲، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۲)

بدکاراں بذلت نہ میری۔

ارو ترجمہ: اے (سعد اللہ) تو نے مجھے اپنی خباثت سے ایذا دی۔ پس میں صادق

نہیں ہوں۔ اگر تو ذلت سے نہ مرے اے کجخیروں کے بیٹے۔

(اخبار افضل مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۳۳ء)

..... ۳ ”سعد اللہ حرا زادہ ہے۔“

مرزائی کہہ دیتے ہیں۔ ”ذریۃ البغایا“ کا معنی حرامی کجخیروں کی اولاد نہیں ہے۔

حالانکہ لغت کی کتاب سے اس کا یہی معنی ثابت ہے۔ نیز مرزا قادیانی نے اس کا معنی خود نسل

بدکاراں کیا ہے۔ بلکہ اگلی عبارت ملاحظہ ہو۔ اس میں اردو میں بھی مرزائی ترجمہ کی رو سے بھی

ذریۃ البغایا کا معنی خراب عورتوں کی اولاد دکھایا ہے۔

..... ۴ ”واعلم ان کل من ہو من ولد الحلال ولیس من ذریۃ البغایا ونسل

الدجال فیفعل امر من الامدین اما کف اللسان بعد وترك الافتراء والمین

واما تالیف الرسالة کرسالتنا“

ترجمہ از مرزا قادیانی: جاننا چاہئے ہر ایک شخص جو ولد الحلال ہے اور خراب عورتوں اور

دجال کی نسل میں سے نہیں ہے۔ وہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور اختیار کرے گا یا تو بعد اس

کے دروغگوئی اور افتراء سے باز آ جائے گا یا ہمارے اس رسالہ جیسے رسالہ پیش کرے گا۔

(نور الحق ج ۱ ص ۱۲۳، خزائن ج ۸ ص ۱۶۳)

..... ۵ ”اگر عبداللہ آتھم قسم نہ کھائے یا قسم کی سزا میعاد کے اندر دیکھ لے تو ہم سچے اور ہمارے

الہام سچے۔ پھر بھی اگر کوئی حکم سے ہماری تکذیب کرے اور اس معیار کی طرف متوجہ نہ ہو تو بے



شک وہ ولد الحلال اور نیک ذات نہیں ہوگا۔“ (انوار الاسلام ص ۲۹، خزائن ج ۹ ص ۳۱)  
 ۶..... ”اب جو شخص..... زبان درازی سے باز نہیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں ہے۔“

(انوار الاسلام ص ۳۰، خزائن ج ۹ ص ۳۱)

مندرجہ بالا عبارتوں میں واضح ہو گیا کہ مرزا قادیانی گندہ ذہنی میں تمام گندہ دہن انسانوں سے سبقت لے گئے ہیں۔ دوسرے کو (جو ان کے دعوے اور الہامات کا ذبحہ کو تسلیم نہ کریں) ولد الحرام، بد ذات، خبیث تک کہتے ہیں۔ کنجریوں کی اولاد وغیرہ۔ ایسے الفاظ ہیں جو کوئی ملہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ لطف یہ ہے کہ مرزا قادیانی خود ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو دوسروں کے بارے میں زبان درازی سے کام لیں۔ لیکن تمام بد زبانوں اور زبان درازیوں کا حق صرف اپنے لئے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ کسی نے کیا موافق حال شعر کہا ہے۔

ڈھیٹ اور بے شرم بھی عالم میں ہوتے ہیں مگر

سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی

اب ایک اور گورہ افشانی مرزا قادیانی کی زبانی سنیں اور یہ حدیث مرزا قادیانی کی بسند متصل ہے۔ بلکہ خود اپنی تحریر ہے۔ جملہ مخالفین کے حق میں یہ گورہ افشانی قابل داد ہے۔ اگر یہی الفاظ مرزا قادیانی کے بارے میں استعمال کئے جائیں تو مرزا قادیانی تمللا اٹھتے ہیں۔

مرزا قادیانی کے الفاظ مبارک غور سے پڑھیں: ”ان العدا صاروا خنازیر الفلا ونسلاہم من دونہن اکلہم“ میرے دشمن جنگلوں کے سور ہو گئے اور ان کی عورتیں کیتوں سے بدتر ہیں۔ (مجم الہدیٰ ص ۱۰، خزائن ج ۱۳ ص ۵۳)

یہ ہے مرزا قادیانی کی گورہ افشانی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ راقم نے ایک دفعہ اپنی تقریر میں مرزا قادیانی کی یہ حدیث پڑھ کر سنائی تھی کہ مرزا قادیانی یوں گورہ افشانی فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس سے قبل جو عبارتیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے بعض پڑھ کر سنائیں تو مرزائیوں میں کھلبلی مچ گئی کہ فیروز خان ہمارے مرزا قادیانی کی توہین کرتا ہے۔ ان کو گالیاں دیتا ہے۔ لہذا جمہوروں کا پلندا ہٹا کر تلہس سے کام لیتے ہوئے حکام بالاکبک جا پہنچے۔ رونے دھونے لگے کہ مرزا قادیانی کی پٹائی ہو گئی۔ مولوی فیروز خان کی زبان بندی ہوئی چاہئے۔ بے چاروں کی یہ کوشش بار آور ہوئی تو راقم کی دو ماہ کی زبان بندی ہو گئی اور یہ سطر میں میعاد زبان بندی ہی میں لکھ رہا ہوں۔

جو الفاظ میں نے مرزا قادیانی کے دہرائے وہ اس قدر (مرزائیوں کے نزدیک) قابل

تغفر تھے کہ زبان بندی ضرور کبھی گئی۔ مگر افسوس اس نیمی پر جس کا یہ کلام ہے۔ جس کی زبان سے نکلا۔ جس نے کتابوں میں درج کیا۔ کیا اس کے گندے متعفن کلام کے خلاف ہم اتنا بھی کہہ دیں کہ جناب ملہم کی زبان سے ایسے الفاظ ان کے ملہم کی نشان دہی کرتے ہیں۔ یعنی جناب ملہم کی زبان سے ایسے الفاظ ان کے ملہم کی نشان دہی کرتے ہیں۔ یعنی جناب شیطان ہی ایسے الہام سے نواز سکتا ہے تو یہ مرزائیوں کو ناگوار گزرے۔ مرزا قادیانی کی گالیاں کہاں تک لکھیں۔ چند مثالیں اور پیش کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔

مرزا قادیانی مولوی عبدالحق صاحب غزنوی اور ان کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: ”نہ معلوم کہ یہ جاہل اور وحشی فرقہ اب تک کیوں شرم اور حیا سے کام نہیں لیتا۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۸، جزائن ج ۱۱ ص ۳۳۲)

اگر ہم اس کے جواب میں عرض کریں کہ مرزائی فرقہ کیوں شرم و حیا سے کام نہیں لیتا۔ ایسے دجال و کذاب کو نبی مانتا ہے۔ جس کی ایک پیشین گوئی بھی پوری نہ ہوئی۔ بڑھاپے میں محمدی بیگم کے نکاح کی حسرت لئے بعارضہ ہیضہ دہائی لاہور میں آنجھانی ہو گیا تو شاید مرزائیوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہ طرز تحریر اور گفتگو تمہارے مسخ موعود کا سکھایا ہوا ہے۔ بلکہ ایسی عبارتیں پڑھ کر فخر یہ کہا کریں کہ یہ بھی حضرت کا نشان ہے کہ لوگ وہ طریق اختیار کر رہے ہیں۔ جو حضرت کا تھا۔

### عام علماء کے متعلق گالیاں

”اے بد ذات فرقہ مولویاں“

(انجام آتھم حاشیہ ص ۲۱، جزائن ج ۱۱ ص ۲۱)

”بعض غبیث طبع مولوی جو یہودیت کا خمیر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب جانوروں سے زیادہ پلید خنزیر ہے۔ مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں۔ اے مردار خور مولویو اور گندی رحو۔“

(ضمیمہ ص ۲۱، جزائن ج ۱۱ ص ۳۰۵)

یہ سب مرزا قادیانی کی تہذیب جو ان کی کتابوں سے قارئین کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یہ نمونہ کے طور پر چند بد زبانوں کی مثالیں پیش کی ہیں۔ ورنہ مرزا قادیانی نے اپنی تصنیفات کو اپنی گندی بدبودار گالیوں سے اس قدر بھر رکھا ہے کہ ان سے اچھا خاصا طومار بن سکتا ہے۔

### مرزا قادیانی کا مراق و سلسل بول

مرزا قادیانی کے جس قدر عادی ہیں یا جس قدر بھی تقریریں اور کتابیں ہیں تضاد کا شکار ہیں۔ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا حافظہ نہایت کمزور تھا۔ نیز مراق بھی شامل

حال تھا۔ جب کہ شدت مرقا میں کمی واقع ہو جاتی ایک آدھ معقول بات بھی مرزا قادیانی کی زبان سے نکل جاتی تھی۔ مگر جو نئی مرقا کا دورہ شروع ہو جاتا تو پھر مابدولت عرش سے کم کسی چیز کی خبر نہ لاتے۔

نیز زبان ترجمان الہام سے گالیوں کی بارش برسی شروع ہو جاتی۔ کوئی طبقہ ایسا نہیں۔ علماء ہوں یا عوام، مسلمان ہوں یا عیسائی، آریہ ہوں یا ہندو جو مرزا قادیانی کی گالیاں سے بچتا۔ البتہ خوف کے وقت مرقا بھاگ جاتا ہے۔ اپنی محسن ماوے دلجا گورنمنٹ کا فرہ برطانیہ کے متعلق کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکلی۔ مرزا قادیانی نہایت درجہ وہمی واقع ہوئے تھے۔ اس لئے فوراً غضبناک ہو جاتے تھے۔ یہ بھی مرقا ہی کا اثر تھا۔ کیونکہ علماء طب لکھتے ہیں کہ: ”مرقا میں اعتدال نہیں ہوتا۔ اگر طبیب یا عالم دینی حیثیت کا مالک ہو اور ہو مرقا تو فوراً نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔“

ہم مرزا قادیانی کی زبان سے ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی مرقا کے مریض تھے۔ بلکہ خلیفہ ثانی اور مرزا قادیانی کی اہلیہ بھی مرقا کے حلقہ گوش تھے۔

### مرقا کی تعریف و علامات

مالجولیا کی ایک قسم ہے جس کو مرقا کہتے ہیں۔ یہ مرض تیز سودا سے جو معدہ میں جمع ہوتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے اور جس عضو میں یہ مادہ جمع ہو جاتا ہے۔ اس سے سیاہ بخارات اٹھ کر دماغ کی طرف چڑھتے ہیں۔

علامات مرقا: اس کی علامات یہ ہیں:

- ۱..... ترش دھانی ڈکاریں آنا۔
- ۲..... ضعف معدہ کی وجہ سے کھانے کی لذت کم معلوم ہونا۔
- ۳..... ہاضمہ خراب ہو جانا۔
- ۴..... پیٹ پھولنا۔
- ۵..... پاخانہ پتلا ہونا۔
- ۶..... دھویں جیسے بخارات چڑھتے ہوئے معلوم ہونا۔ (شرح اسباب والعلامات امراض رأس مالجولیا)

خیال کیا جاتا ہے کہ اس مرض (مرقا) کی علامات ظہور فتور قوت حیوانی یا روح حیوانی سے ہوتا ہے۔ جو کہ جگر و معدے میں ہوتی ہے۔ مگر تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا ہے کہ مرض عصبی

ہے اور جیسا کہ عورت میں رحم کی مشارکت سے مرض اختناق الرحم (ہسٹریا) پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعضاء اندرونی کے فتور سے ضعف دماغ ہو کر مردوں میں مرقا ہو جاتا ہے۔

علامات: مریض ہمیشہ سست و تشکر رہتا ہے۔ اس میں خودی کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک بات میں مبالغہ کرتا ہے..... بھوک نہیں لگتی۔ کھانا ٹھیک طور پر نہیں ہضم ہوتا۔ (نخزن حکمت ڈاکٹر غلام جیلانی)

شیخ الرئیس حکیم بوعلی سینا کی نظر میں مالنچو لیا اور مرقا ایک ہے

مالنچو لیا اس مرض کو کہتے ہیں جس میں حالت طبعی کے خلاف خیالات و افکار متغیر بخوف و فساد ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب مزاج کا سوداوی ہو جانا ہوتا ہے۔ جس سے روح دماغی اندرونی طور پر متوحش ہوتی ہے اور مریض اس کی ظلمت سے پراگندہ خاطر ہو جاتا ہے یا پھر یہ مرض حرارت جگر کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہی چیز مرقا ہوتی ہے۔ جب اس میں غذا کے فضلات اور آنتوں کے بخارات جمع ہو جاتے ہیں اس کے اخلاط جل کر سودا کی صورت میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو ان اعضاء سے سیاہ بخارات اٹھ کر سر کی طرف چڑھتے ہیں۔ اسی کو نچھ مرقا یہ مالنچو لیا نام اور مالنچو لیا مرقا کہتے ہیں۔ (ترجمہ از قانون شیخ الرئیس بوعلی سینا فن اول از کتاب ثالث)

علاج: عمدہ خون پیدا کرنے والی غذائیں استعمال کرائی جائیں۔ مثلاً مچھلی، پرندوں کا زود ہضم گوشت اور کبھی کبھی سفید ہلکی شراب جو تیز اور پرانی نہ ہو اور عمدہ عمدہ خوشبو میں جیسے مشک، عنبر، نائف اور عود استعمال کرائیں۔ نیز فم معدہ کے لئے مقوی جوارشات کا استعمال کرائیں۔

(بحوالہ مذکور قانون شیخ)

## مالنچو لیا کی کارستانی

مالنچو لیا، خیالات و افکار کے طریق طبعی سے متغیر بخوف و فساد ہو جانے کو کہتے ہیں..... بعض مریضوں میں گاہے گاہے یہ فساد اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیب وان سمجھتا ہے اور اکثر ہونے والے امور کی پہلے ہی خبر دے دیتا ہے..... اور بعض کو اپنے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ (شرح اسباب و العلومات امراض راس مالنچو لیا)

مریض کے اکثر اوہام اس کام کے متعلق ہوتے ہیں۔ جس میں مریض زمانہ صحت میں مشغول رہا ہو..... مثلاً مریض صاحب علم ہو تو پیغمبری اور معجزات و کرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ خدائی کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ (اکسیر اعظم ج ۱ ص ۱۸۸)

مندرجہ بالا تصریحات سے یہ تو معلوم ہوا کہ مرقا کیا ہوتا ہے؟ مرقا کی علامات کیا

ہیں؟ مرقا کا اثر مریض کے اقوال و افعال و خیالات پر کیا پڑتا ہے؟ اب ہم مرزا قادیانی کے حواریوں بلکہ مرزا قادیانی کی زبانی لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی مرض مرقا میں مبتلا تھے اور جو علامات مرزا قادیانی میں پائی جاتی تھیں۔ وہ بالکل مندرجہ بالا علامات سے ملتی جلتی ہیں۔ بلکہ ٹھیک ٹھیک وہی ہیں اور مرزا قادیانی چونکہ حکیم بھی تھے اس لئے علاج بھی وہی کرتے تھے۔ جو بوعلی سینا نے بتلایا ہے۔ مثلاً مہلک عنبر، دیگر مقویات ممکن ہے ٹانگہ واں بھی۔

..... ”دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی کی تھی۔ جو اس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سح آسمان پر ہے جب اترے گا تو دوزرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی تو اس طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی۔ یعنی مرقا اور کثرت بول۔“

(رسالہ تعجیب الاذہان ماہ جون ۱۹۰۴ء دو اخبار بدر قادیان ج ۲ نمبر ۳۳ مورخہ ۷ جون ۱۹۰۴ء)

غالباً مرزا قادیانی یہاں بھول گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ غالباً اسی کا معنی مرزا قادیانی نے کثرت بول لیا ہو۔ کیسی اچھی تاویل کی۔ مرزا قادیانی اس پر جتنا بھی فخر کریں تو پھر بھی کم ہے۔ (مؤلف)

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے واضح طور پر اعتراف کیا ہے۔ مجھے مرقا کی بیماری ہے۔ ..... ”ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود سے سنا کہ مجھے ہسٹریا ہے۔ بعض اوقات آپ مرقا بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ میں دماغی محنت اور شبانہ روز تصنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض ایسی عصبی علامات پیدا ہو جایا کرتی تھیں جو ہسٹریا کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے ایک دم ضعف ہو جانا، چکروں کا آنا، ہاتھ پاؤں کا سرد ہو جانا، گھبراہٹ کا دورہ ہو جانا۔ ایسا معلوم ہونا کہ ابھی دم نکلتا ہے یا کسی جگہ یا بعض اوقات زیادہ آدمیوں میں گھر کر بیٹھنے سے دل کا سخت پریشان ہونے لگنا وغیرہ ذالک!“ (سیرۃ الہدیٰ ص ۵۵ حصہ دوم، بروایت نمبر ۳۶۹)

مرزا قادیانی کے فرزند کی تصنیف کردہ کتاب میں خود بھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے مرقا اور ہسٹریا کا اقرار مرزا قادیانی کی زبانی نقل کر دیا۔ مگر کوئی تاویل نہ کر سکے۔ جو اس کے کہ علامات ہسٹریا و مرقا تھی۔ یعنی علامات تھی۔ مگر مرقا نہ تھا کیا مرزا قادیانی نے جھوٹ کہا؟ حالانکہ ایک ہزار کتاب طب ان کی نظر سے بقول ان کے گزری تھی اور خاندانی حکیم تھے۔

مرزائی کہتے ہیں: ”ہسٹریا تو عورتوں کو ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا دوسرا نام اختناق الرحم ہے۔“ اس کا جواب تو مرزائیوں کو دینا چاہئے کیونکہ مرزا قادیانی اقراری ہیں۔ ہم کیا کریں۔ لیکن جواب چنداں مشکل بھی نہیں۔

۱..... الزامی جواب۔ مرزا قادیانی جب ۱۰ ماہ تک حمل کی حالت میں حاملہ بنے رہے تو پھر واضح ہو گیا کہ رحم شریف بھی کہیں ہوگا۔ شاید بعد میں اپریشن کروالیا ہو کیونکہ بچہ حاملہ کے رحم میں ہوتا ہے۔ مرد حامل نہیں ہو سکتا۔

۲..... کیونکہ لازم تھا کہ ابن مریم بننے کے لئے کچھ عرصہ ام مسیح بنتے۔ ظاہر ہے کہ ام مسیح عورت ہی تو ہوگی نہ کہ مرد، ورنہ اب مسیح ہونا لازم آئے گا۔ معاملہ زیادہ بگڑ جائے گا۔ (اشارہ کافی)

۳..... یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرزا قادیانی میں نشان کے طور پر رحم فٹ کر دیا گیا ہو۔ یہاں تک تو الزامی جواب تھا۔ تحقیقی جواب اگرچہ ہمارے ذمہ نہیں۔ یہ تو مرزائیوں کے ذمہ تھا۔ اسے مجدد کے لئے ربط اقوال کی تشریح بے صواب کرتے تاہم تحقیقی جواب پہلے ہم مخزن حکمت سے نقل کر آئے ہیں کہ بعض اندرونی اعضاء میں فتور سے مردوں کو بھی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اب قادیانیوں کے خلیفہ ثانی کی زبانی سنیں۔

”ہسٹریا کا بیمار جس کو اختناق الرحم کہتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کو رحم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ورنہ مردوں میں بھی یہ مرض ہوتا ہے۔ جن مردوں کو یہ مرض ہو ان کو مرقا کہتے ہیں۔“

(مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج ۱۰ نمبر ۸۴، مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۲۳ء)

## مرزا قادیانی کی عصبی کمزوری

”حضرت (مرزا قادیانی) صاحب کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر، درد سر، کمی خواب، تشنج دل، بد ہضمی، اسہال (یعنی دست) کثرت پیشاب وغیرہ کا صرف ایک ہی باعث تھا اور وہ عصبی کمزوری تھا۔“

(رسالہ رویو قادیان بابت ماہ مئی ۱۹۳۷ء)

بے شک عصبی کمزوری ہی کی بناء پر مرزا قادیانی کو مرقا لاحق ہو گیا تھا اور نبوت بھی اس عصبی کمزوری و مرقا نامراد کا کرشمہ تھا۔ کیونکہ مرقا کی خصوصیت ہے۔ ایک صاحب علم مرقا میں مبتلاء ہو کر نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے۔ ورنہ طب کا اصول ہی باطل ہو جاتا ہے۔ چونکہ طب کی بنیاد تجربہ ہے۔ تجربہ کو جھٹلانا محال ہے۔ ہو المراد!

اب ایک مرزائی ڈاکٹر کا فتویٰ مراقی کے متعلق ملاحظہ فرمائیں: ”ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ بات ثابت ہو جاوے کہ اس کو ہسٹریا مائیلو لیا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتی ہے۔“

(مندرجہ رسالہ ریویو آف ریٹینز قادیان بابت ماہ اگست ۱۹۲۶ء)

ڈاکٹر صاحب نے خوب کہا۔ واقعی مرزا قادیانی کے مراقی نے ان کی صداقت کی عمارت اکھاڑ دی۔ بلکہ کثرت بول کی طوفانی لہروں نے باقی ماندہ آثار بھی مٹا کر برابر کر دیئے۔

مرزا قادیانی کے نیچے کے دھڑ کی کارستانی

”دوسری بیماری بدن کے نچلے حصہ میں ہے جو مجھے کثرت پیشاب کی مرض ہے۔ جس کو ذیابیطس کہتے ہیں اور معمولی طور پر مجھے ہر روز پیشاب کثرت سے آتا ہے اور پندرہ یا بیس دفعہ نوبت پہنچتی ہے اور بعض اوقات قریب سو دفعہ دن رات میں پیشاب آتا ہے اور اس سے بھی ضعف بہت ہو جاتا ہے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ ج ۲۱ ص ۳۷۳)

واقعی مرزا قادیانی کی حالت قابل رحم ہے۔ آخر بے چارہ مخالفین کی گالیوں سے تواضع نہ کرے تو کیا کرے۔ جواب صحیح سوچنے کی فرصت کب ملتی تھی کہ کچھ دماغ سے کام لے کر جواب دیتے۔ دماغ کو مراقی نامراد نے تباہ کر دیا۔ اور اس پر کثرت پیشاب نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا۔

آخر اس کی بھی تصریح ہونی چاہئے کہ یہ برکات مراقی و ذیابیطس کب سے نازل ہونے شروع ہوئے۔ لیجئے! اس کی ابتداء بھی مرزا قادیانی نے خود ہی رقم فرمادی ہے۔

”اور دونوں مرضیں اس زمانہ سے ہیں جس زمانہ سے میں نے اپنا دعویٰ مامور من اللہ ہونے کا شائع کیا۔“

(حقیقت الوحی ص ۳۰۷، خزائن ج ۲۲ ص ۳۲۰)

بہت خوب ملہم من اللہ ہوتے ہی انعام ملا۔ بہت اچھا انعام ملا۔ نہ سر محفوظ نہ دھڑ محفوظ۔ کیا کہنے مرزا قادیانی کے الہام کی برکات کے۔

(ضمیمہ اربعین نمبر ۴ ص ۴، خزائن ج ۱۷ ص ۴۷۱، ۴۷۰) پر مرزا قادیانی رقم طراز ہیں: ”میں ایک دائم المرض آدمی ہوں..... ہمیشہ درد سرا اور دوران بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت سے پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ میرے شامل حال رہتے ہیں۔“

مرزا قادیانی نے کیا ہی درست فرمایا کہ عوارض مرق و پیشاب شامل حال ہیں۔ لوگ تو بزرگوں کے متعلق بلکہ عام مومنین کے متعلق یہ خیال بلکہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ مگر مرزا قادیانی کے شامل حال پیشاب و مرق آیا۔  
کسی شاعر نے کہا ہے۔

اذا الامانة قسمت في معشر

ادنى باوفر حظها قسامها

یعنی جب کہ ازل میں کسی قوم میں امانت کی تقسیم کی گئی تو قسام ازل نے ہماری قوم کو امانت کا دافر حصہ عطاء کیا۔ میں اہل علم سے معذرت چاہتے ہوئے مرزا قادیانی کے بارے میں یوں کہہ دوں تو معاف رکھنا۔

اذا العوارض قسمت في مفتری

اوفی باوفر حظها قسامها

جب کسی مفتری کو عوارضات تقسیم کئے گئے تو ازل میں قسام ازل نے مرزا قادیانی کو دافر حصہ عطاء کیا۔

حافظہ نہ باشد

مرزا قادیانی کو ماشاء اللہ خرابی حافظہ سے بھی دافر حصہ ملا تھا۔ جیسا کہ خود تحریر فرماتے ہیں: ”میرا حافظہ بہت خراب ہے۔ اگر کوئی دفعہ کسی کی ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں۔ یاد دہانی عمدہ طریقہ ہے۔ حافظہ کی یہ باتری ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔“ (مکتوبات احمدیہ ج ۵ نمبر ۳۳ ص ۲۱)  
مرزا قادیانی نے کیا پتہ کی بات کی کہ: ”بیان نہیں کر سکتا۔“ کس طرح بیان کریں۔ ”اگر گویم زباں سوزو“ اگر یہ خرابی نہ ہوتی تو دوسرا الہام پہلے کے خلاف کبھی نہ گھڑتے۔ چونکہ دردغ گورا حافظہ نباشد کے مصداق پہلا الہام شائع تو کر دیتے۔ مگر یاد نہ رہتا کیا الہام شائع کیا تھا۔

کتاب دیکھنے کی فرصت نہ تھی۔ جس طرح معلوم ہو چکا ہے۔ ہر وقت لوٹا ہاتھ میں ہوتا پھر ڈھیلے بھی ساتھ۔ لہذا جب دوسرا الہام شائع ہوتا تو پہلے کے خلاف ہوتا۔ اس کی تاویل پرتاویل ہوتی۔ پھر ظاہر ہے مرزا قادیانی کو بڑا قلق ہوتا ہوگا۔ اب اسے کس طرح بیان کریں۔ کیونکہ اعتراف کذب نہایت ہی کٹھن معاملہ ہے۔ زباں سوزو والا معاملہ ہے۔

ایں ہمہ خانہ آفتاب است



مرزا قادیانی کی اہلیہ کو بھی مرقا تھا۔ ”میری بیوی کو مرقا کی بیماری ہے۔ کبھی کبھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ کیونکہ طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چہل قدمی مفید ہے۔ ان کے ساتھ چند خادم عورتیں بھی ہوتی ہیں اور پردے کا پورا انتظام ہوتا ہے..... ہم باغ تک جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔“

(مرزا قادیانی کا بیان عدالت مندرجہ اخبار الحکم مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء، منقول از منظور الہی ص ۲۷۴)

### میاں محمود احمد خلیفہ ثانی کو مرقا

”جب خاندان سے اس کی ابتداء ہو چکی تو پھر اگلی نسل میں پھسک یہ مرض نکل ہوا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ آس ثانی (میاں محمود احمد صاحب) نے فرمایا کہ مجھ کو بھی کبھی کبھی مرقا کا دورہ ہوتا ہے۔“ (مضمون ڈاکٹر شاہنواز قادیانی رسالہ ریویو قادیان ص ۱۱ ابابت ماہ اگست ۱۹۳۶ء)

چونکہ علم طب کی رو سے یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے۔ لہذا خلیفہ ثانی کو مرقا مرزا غلام احمد سے ورثہ میں ملا اور مرزا قادیانی کی اہلیہ صاحبہ بھی مرزا قادیانی کے مرقا سے متاثر ہوئیں۔ عجب نہیں کہ اکثر مرزائی بھی روحانی یا جسمانی مرقا میں مرزا قادیانی سے بطور ورثہ روحانی کچھ نہ کچھ حصہ دار ہوں۔ ورنہ صحیح العقل انسان ایسے مذہب کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔

### مرزا قادیانی کی سنت طعام

”حضرت مسیح موعود صاحب کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو بمشکل ایک پھلکا آپ کھاتے اور جب آپ اٹھتے تو روٹی کے ٹکڑوں کا بہت سا چورا آپ کے سامنے سے نکلتا۔ آپ کی عادت تھی کہ روٹی توڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے جاتے۔ پھر کوئی ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے۔ باقی ٹکڑے دسترخوان پر رکھے رہتے۔“

معلوم نہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسا کیوں کیا کرتے تھے۔ مگر کئی دوست کہا کرتے کہ حضرت صاحب یہ تلاش کرتے ہیں کہ روٹی کے ٹکڑوں میں کون سا تسبیح کرنے والا ہے اور کون سا نہیں۔“ (خطبہ میاں محمود احمد خلیفہ ثانی مندرجہ اخبار الفضل قادیان مورخہ ۳ مارچ ۱۹۳۵ء)

مندرجہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی روٹی کا چورا بنا کر کچھ کھالیتے کچھ چھوڑ دیتے۔ تسبیح والے ٹکڑے چن چن کر کھاتے باقی چورا پڑا رہتا۔ یعنی وہ ٹکڑے جو تسبیح نہ کرتے وہ بچا رہتے۔

عالم مرزا قادیانی مسیح موعود نے قرآن بھی نہیں دیکھا۔ ارشادات ربانی ”ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولكن لا تفقہون تسبیحہم“ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ مگر تم

ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔

یہاں سے تو معلوم ہوتا ہے۔ جناب بڑے غور سے روٹی کے ٹکڑوں میں بھی امتیاز کرتے تھے۔ مگر ایک دوسری عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب روٹی یوں کھاتے تھے کہ معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ کیا کھا رہا ہوں۔ لیکن اوہ عبارت بھی ہدیہ بناظرین کرتا ہوں۔

مرزا قادیانی کی غفلت شعاری

”ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جسمانی عادات میں اتنے سادہ تھے کہ بعض دفعہ جب حضور جراب پہنتے تو بے توجہی کے عالم میں اس کی ایڑی پاؤں کے تلے کی طرف نہیں۔ بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتی تھی اور بارہا ایک کاج کا ٹپن، دوسرے کاج میں لگا ہوتا تھا اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لئے گرگاہی ہدایت لاتا تو آپ بسا اوقات دایاں پاؤں بائیں میں ڈال دیتے اور بائیں دائیں میں۔

چنانچہ اس تکلیف کی وجہ سے آپ دیکھی جوتا پہنتے تھے۔ اسی طرح کھانا کھانے کا یہ حال تھا کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اس وقت پتہ لگتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں۔ جب کھاتے کھاتے کوئی ننگر وغیرہ کا ریزہ دانت کے نیچے آ جاتا ہے۔“ (سیرۃ الہدیٰ حصہ دوم ص ۵۸، روایت نمبر ۳۷۵)

مرزا قادیانی کے خلیفہ تو فرما رہے ہیں کہ حضرت روٹی بڑی توجہ سے کھاتے تسبیح والے ٹکڑے چن کر کھاتے تھے۔ مگر دوسرے صاحبزادے فرماتے ہیں۔ ان کو مطلق یہ علم بھی نہ ہوتا تھا کہ کیا کھاتے ہیں۔ جب کوئی ننگر دانت تلے آ کر پستا تو خیال ہوتا کہ مابدولت روٹی کھا رہے ہیں۔

واہ رے مراق تیرے کرشمے، کیونکہ مراق میں بھی اشتہا بہت کم ہوتی ہے۔ اس لئے روٹی کی طرف توجہ نہ ہوتی۔ نیز جرابوں پر اور جوتوں پر توجہ دینے کی کیا ضرورت تھی۔ شاید ایسی بدحواسیاں بھی قادیانی نبوت کا جز ہوں۔

امید ہے تمام قادیانی بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوں گے۔ اگر قادیانی حضرات اکٹھے ہو کر دایاں جوتا بائیں پاؤں میں اور بائیں جوتا دائیں میں اور جراب کی ایڑی اوپر کئے ہوئے ڈھیلے اور گڑبیب میں بھر کر ایک ہاتھ میں ڈھیلے اور دوسرے میں گڑ لئے سامنے روٹی کے ٹکڑوں کا انبار رکھے ہوئے سنت مسیح کی نمائش میں پریڈ کریں تو پھر تمہا سائیں کو وجد آ جائے۔ اگر اس نمائش پر کٹ لگا دیں تو یقیناً تبلیغ کے لئے کافی مقدار میں فخر جمع ہو سکتا ہے۔

## قونج زخمیری

مرزا قادیانی ایک اور مرض میں بھی مبتلا تھے۔ فرماتے ہیں: ”ایک مرتبہ میں قونج زخمیری سے سخت بیمار ہوا اور سولہ دن تک پاخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے۔“

(حقیقت الہدیٰ ص ۲۳۳، خزائن ج ۲۲ ص ۲۳۶)

مرزا قادیانی دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ فلاں ڈر گیا۔ فلاں کا لڑکا بیمار ہو یا فوت ہو گیا۔ لہذا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ کیونکہ وہ ہمیں نہیں مانتا۔ اس قسم کی بہت سی عبارتیں آپ کو ملیں گی۔ کیا یہ بیماریاں جو اس قدر شدید ہیں۔ مرقا، قونج، سلسل، بول، اسہال وغیرہ۔ ان کو عذاب نہ کہا جاوے گا؟ بلکہ مرزا قادیانی دنیا کی پوری زندگی میں جھوٹے دعوؤں کی بناء پر مسلسل معذب رہے۔ بلکہ یہ زندگی تو موت سے بھی زیادہ مصیبت تھی۔ مگر کیا کیا جادے۔ اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔

## مرغوب اشیاء

”مرزا قادیانی کو تیتیر، بنیر، مرغ کا گوشت بہت پسند تھا۔ پلاؤ، فیرینی، بیٹھے چاول، نرم نرم بھی شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ مٹک، عنبر، روغن بادام، مردارید، یاقوت، مرجان وغیرہ بھی زیر استعمال رہتے تھے۔“

(سیرۃ الہدیٰ ج ۱ ص ۵۰، ۵۱)

آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے علاج مرقا میں بوعلی سینا سے نقل کر آئے ہیں کہ ایک مرقا کے لئے ایسی خوشبوئیں، دیگر مقوی اشیاء، جو زود ہضم ہوں استعمال کرنے ضروری ہیں۔ چہل قدمی بھی ضرور کرنی چاہئے۔ یہ سب علاج معالجہ مرزا قادیانی اس مرقا نامراد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے کرتے تھے۔ اب بھی مرزائیوں کو آپ کے مرقا میں شبہ ہو تو ہو۔ وہ خود ہی مرزا قادیانی کے مکتذب ٹھہریں گے۔

ایسی باتیں ہم بیان کرتے ہیں تو مرزائی چڑتے ہیں۔ مجھے تو ان کی اس حرکت پر افسوس ہوتا ہے کیا ہم ان کے نبی کی احادیث و شمائل بیان کریں تو وہ ناراض ہوں۔ کیا ان کو اپنے نبی سے محبت نہیں ہے؟

ہمارے نبی علیہ السلام کے شمائل و احادیث آپ دن رات ہمیں سنائیں ہم ہمتن گوش ہو کر اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے شمائل و احادیث بنیں گے۔ بلکہ سننا ثواب سمجھتے ہیں۔ افسوس کہ تم ناراض ہو۔ یہ کیسی محبت؟ ”بئس ما یا مرکزکم بہ ایمانکم“

## مرزا قادیانی کا نسب نامہ

”ہمارا شجرہ نسب اس طرح پر ہے۔ میرا نام غلام احمد، ابن مرزا غلام مرتضیٰ صاحب، ابن مرزا اعطاء محمد صاحب، ابن مرزا گل محمد صاحب، ابن مرزا فیض محمد صاحب، ابن مرزا محمد اسلم صاحب، ابن مرزا محمد دلاور صاحب، ابن مرزا الدین صاحب، ابن مرزا جعفر بیگ صاحب، ابن مرزا محمد بیگ صاحب، ابن مرزا عبدالباقی صاحب، ابن مرزا محمد سلطان صاحب، ابن مرزا ہادی بیگ صاحب، مورث اعلیٰ۔“ (حاشیہ کتاب البریہ ص ۱۵۳، مندرجہ خزانہ ج ۱۳ ص ۱۷۲) ”جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ ہماری قوم مغل برلاس ہے۔“

مرزا قادیانی نے اپنا نسب نامہ مندرجہ بالا ایک صاحب حاجی محمد اسماعیل خاں صاحب رئیس دتاولی کی درخواست پر لکھا ہے۔ کیونکہ حاجی صاحب مشہور اشخاص کی سوانح حیات لکھنا چاہتے تھے۔ جس طرح اسی کتاب کے ص ۱۴۰ پر مذکور ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی اپنا صحیح نسب نامہ لکھ کر ان کی آرزو پوری کی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ: ”ہماری قوم مغل برلاس ہے۔“ (کتاب البریہ حاشیہ ص ۱۴۳، خزانہ ج ۱۳ ص ۱۶۲) مگر طرفہ تماشائیہ ہے کہ مرزا قادیانی ایک حدیث دالی پیشین گوئی اپنے اوپر چسپاں کرنے کے لئے اپنے نسب نامہ میں بھی تبدیلی کے مرتکب ہوئے۔ مگر کوئی تاریخی شہادت نہ ملی تو کہہ دیا کہ الہام کے ذریعہ معلوم ہوا ہے۔

”مجھے الہام ہوا ہے کہ میرے باپ داوا فارسی الاصل تھے۔“ اگر ایسا ہی تھا تو مرزا قادیانی کو گورنمنٹ انگلشیہ سے اپنا نسب نامہ تبدیل کروانے کے متعلق کوئی درخواست پیش کرتے تو آسانی سے فارسی الاصل بن جاتے۔ اگر ایک مرزا قادیانی ایسے کرتے تو باقی قوم ہرگز یہ گوارا نہ کرتی کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو باپ بتاتی۔ یہ مرزا قادیانی ہی کی خصوصیات ہیں۔ بھلا کبھی الہاموں سے بھی نسب بدلتے ہیں؟

یہ تو الٹا مرزا قادیانی کے الہام کے کاذب ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے خود اعتراف کیا ہے۔ ۱۳ پشتوں تک تو سب مغل تھے۔ جیسا کہ نسب نامہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اب فارسی الاصل ہونا الہام سے ٹپک پڑا۔ مرزائیوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ جو شخص اپنا نسب کسی غیر سے ملائے اس پر حضور ﷺ نے لعنت فرمائی ہے۔

مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ محض ایک روایت اپنے اوپر چسپاں کرنے کے لئے الہام گھڑا ہے۔ جس طرح ابن مریم بننے کے لئے مرزا قادیانی دس ماہ تک حاملہ بن گئے

تھے۔ پھر ماشاء اللہ خود ہی مولود بھی ہو گئے۔ یا للعجب ایسے آدمی کو پاگل قوم نبی بنا رہی ہے۔ حالانکہ ایسا آدمی صحیح الدماغ ہی نہیں ہو سکتا۔

”اب میرے ذاتی سوانح یہ ہیں۔ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۹۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے۔ (نوٹ: میں تو ام پیدا ہوا تھا) ایک لڑکی جو میرے ساتھ تھی وہ چند روز بعد فوت ہو گئی تھی۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اس طرح پر خدا تعالیٰ نے ابعیت کا مادہ مجھ سے بالکل جدا کر دیا۔ (سبحان اللہ! کیا ہی حکمت کی بات کہی ہے۔ یعنی اگر ساتھ لڑکی نہ پیدا ہوتی تو مرزا قادیانی میں ابعیت کا مادہ بھی ہوتا۔ یعنی..... ہوتے۔ بہت خوب جو تنہا پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں ابعیت کا مادہ ضرور ہوتا ہوگا۔ تو پھر مرزا قادیانی حاملہ کس طرح ہوئے تھے؟ حمل کے لئے تو ابعیت اشد لازم ہے۔ چاہے استعارہ کے رنگ میں ہو تو پھر ماشاء اللہ ابعیت کا مادہ الگ ہونے کے باوجود مابدولت حمل سے نوازے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے گود ہری کر دی۔ نیز..... کرنے والے بھی آنجناب خود تھے۔ اگر مرزائی یہ پہلی بوجھ لیں تو سو روپیہ انعام حاضر کر دوں گا۔ اگر مادہ ابعیت بلکل الگ نہ ہوتا تو خدا جانے کیا غضب ہو جاتا شاید مذکورہ نمونٹ والی صفات عالیہ کا اجتماع ہو جاتا۔ پھر توحیح موعود بے مثل ہی ہو جاتے۔ یہ تو مرزا قادیانی کا ایک نشان ہوتا۔ پھر کسی کافر کو جرأت انکار ہوتی۔ از مؤلف) اور میں ۱۸۵۷ء میں سولہ برس یا سترھویں برس میں تھا۔ ابھی ریش و بردت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔“

### مرزا قادیانی کی تعلیم و تربیت

”پھر میں پہلے سلسلہ کی طرف عود کر کے لکھتا ہوں۔ بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فارسی خوان معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائی اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا اور جب میری عمر تقریباً دس برس کے ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے۔ جن کا نام فضل احمد تھا..... اور میں نے بعض کتابیں اور کچھ قواعد خواں سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا اور بعض طلبہ کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی۔“

(کتاب البریہ ص ۱۶۲، ۱۶۳، خزائن ج ۳ ص ۱۸۰، ۱۸۱)

ان مندرجہ بالا بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کافی عرصہ تک تعلیم حاصل کی اور اچھے ماہر اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ مرزا قادیانی نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ: ”میں نے قرآن مجید کی تعلیم کسی سے حاصل نہیں کی۔“

یہ غلط ہے بلکہ مرزا قادیانی کے اپنے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مروجہ علوم تمام پڑھے ہیں۔ مروجہ علوم میں تفسیر، حدیث کا علم نیز فقہ، اصول فقہ اور عربی، تاریخ وغیرہ کا علم سب شامل ہیں۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ آنجناب پہلے سے ہی نبوت کی تیاری میں مشغول تھے۔ صرف موزوں وقت کے منتظر تھے۔

مندرجہ بالا بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے چھ سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا اور اٹھارہ سال کی عمر میں بڑی کتب پڑھنی شروع کی اور اس کے چند سال بعد تک پڑھتے رہے۔ کم از کم چند سال میں تین چار سال کی گنجائش تو ہے۔ اسی طرح کم از کم مرزا قادیانی نے سولہ سال تک علوم مروجہ کے حاصل کرنے پر صرف کئے۔ پھر ان کا یہ اذعاء کہ میں نے علم کسی استاذ سے نہیں پڑھا بلکہ علم لدنی تھا۔ بہت خوب سولہ سال پڑھنے کے بعد بھی علم لدنی رہا۔

مولانا ابوالکلام مرحوم کے متعلق مشہور ہے کہ سولہ سترہ سال کی عمر میں علوم مروجہ ختم کرنے کے بعد شمس باغہ جیسی فلسفہ کی کتاب پڑھانی شروع کر دی تھی۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی گھر سے بھاگ کر اپنے کسی عزیز کے ساتھ آوارہ گھومنے پھرنے میں اپنے والد صاحب کی پیشین اڑا ڈالی تو پھر سیالکوٹ میں ملازم ہو گئے اور انگریزی تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور ایک امتحان میں شرکت کی مگر ناکام ہوئے۔ یہاں سے مرزا قادیانی کی لیاقت خود معلوم ہو گئی اور سچ ہے کہ آپ کے انگریزی الہامات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو فیل ہی ہونا چاہئے تھا۔

مرزا قادیانی کے خاندان کے سکھوں اور انگریزوں سے تعلقات

مرزا قادیانی کا پورا خاندان انگریزوں کا نمک خور اور وفادار ہے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انہوں نے انگریزوں کی حمایت میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے۔ اسی طرح سکھوں کے ماتحت بھی مسلمانوں کے قتل عام میں حصہ لیا۔ اسی صلہ میں جاگیر واپس ملی۔

پھر جب مرزا قادیانی کے والد صاحب پشتر ہو گئے تو اب مرزا قادیانی صاحب کتوار تو نہ تھے اور نہ ہمت تھی۔ البتہ قلم کی کتوار سے سرکار انگریز کی خوب خدمت کی۔ شاید انگریزوں نے مسلمانوں کو خصوصاً اور اہل ہند کو عموماً غلام بنانے کا، فرسودہ لڑائی والا طریقہ بدل دیا تھا۔ ایک طرف کالج یہ خدمت انجام دے رہے تھے۔ دوسری طرف مرزا قادیانی۔

اس نے مسلمانوں کے عقائد متزلزل کر کے مسلمانوں کو غلام بنانے کی تدبیر پر عمل کیا اور اس میں انگریز کامیاب رہا۔ اب ہم مرزا قادیانی کی عبارتوں سے اس خاندان اور مرزا قادیانی کی خود اپنی خدمات جو انگریزوں کے لئے وقف تھیں بیان کریں گے اور یہ بھی ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی انگریزوں کے تنخواہ دار تھے اور باقاعدہ انگریزوں کی سی آئی ڈی میں ملازم تھے۔ بلکہ اچھے اعلیٰ عہدہ پر متمکن تھے۔ امید ہے آپ ان انکشافات سے محفوظ ہوں گے اور نظر فکر کی راہ بھی بدل جائے گی۔

### مرزا قادیانی کا خاندان اور سگھ

مرزا قادیانی کا خاندان سکھوں کے زمانہ میں بھی مسلمانوں سے متنفر اور سکھوں کا حلیف تھا۔ مرزا قادیانی کے خاندان کی تلواریں مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں۔ مرزا قادیانی کا فرزند مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے: ”آخر تمام جاگیر کو کھو کر عطاء محمد بیگوال میں سردار فتح سنگھ رہنؤ والیہ کی پناہ میں چلا گیا اور بارہ سال تک ابن وامان سے زندگی بسر کی۔ اس کی وفات پر رنجیت سنگھ نے جو رام گڑھیہ مسل کی تمام جائیداد پر قابض ہو گیا تھا۔ غلام مرتضیٰ کو واپس قادیان بلا لیا اور اس کی جاگیر کا ایک بہت بڑا حصہ اسے واپس دے دیا۔ اس پر غلام مرتضیٰ اپنے بھائیوں سمیت مہاراجہ کی فوج میں داخل ہوا اور کشمیر کی سرحد اور دوسرے مقامات پر قابل قدر خدمات انجام دیں۔“

”نونہال سنگھ اور شیر سنگھ اور دربار لاہور کے دور دورے میں غلام مرتضیٰ ہمیشہ فوجی خدمات پر مامور رہا۔ ۱۸۴۱ء میں یہ جرنیل و نچوڑ کے ساتھ منڈی اور کلوی طرف بھیجا گیا۔“

پھر مرزا بشیر الدین لکھتا ہے: ”۱۸۴۲ء میں ایک پیادہ فوج کا کسیدان بنا کر پشاور روانہ کیا گیا۔ ہزارہ کے مفسدہ میں اس نے کارہائے نمایاں کئے اور جب ۱۸۴۸ء کی بغاوت ہوئی تو یہ اپنی سرکار کا نمک حلال رہا اور اس کی طرف سے لڑا۔“

مندرجہ بالا جن مہموں کا ذکر ہوا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ سکھوں کی جنگیں ہوئی ہیں۔ مرزا قادیانی کے والد صاحب حق نمک ادا کرتے رہے اور مسلمانوں کو تیغ کرتے رہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ: ”اس موقع پر اس کے بھائی غلام محی الدین نے اچھی خدمات کیں۔ جب بھائی مہاراج سنگھ اپنی فوج لئے دیوان مولراج کی امداد کے لئے ملتان کی طرف جا رہا تھا تو غلام محی الدین نے مہر صاحب دیال کی فوج کے ساتھ باغیوں سے مقابلہ کیا اور ان کو شکست فاش دی۔ ان کو سوائے

دریائے چناب کے کسی اور طرف بھاگنے کا راستہ نہ تھا۔ جہاں چھ سو آدمی ڈوب مرے۔“

(سیرۃ سچ موعود ص ۵)

لومرزا قادیانی کے خاندان کی خدمات یہ مولراج صاحب ملتانی ایک ظالم حاکم تھے۔ جن کے خلاف مسلمانوں نے اعلان جہاد کر دیا تھا اور ان کی سرکوبی کے لئے مرزا قادیانی کا خاندان حرکت میں آیا۔ مگر یہ حرکت سکھوں کے جھنڈے تلے ہوئی ہے۔ یہ مرزا قادیانی کے خاندان کی نمک حلائی ہے۔ مرزا قادیانی کا خاندان کبھی اسلام کے لئے نہیں لڑا۔ البتہ جب بھی کہیں مسلمان نظر آئے۔ ان کے خلاف ضرور کارروائی کی۔ شاید مرزا قادیانی کے پورے خاندان کا ہی یہ مذہب تھا کہ دین کے لئے غیروں سے لڑنا حرام ہے۔ البتہ مسلمانوں کو سکھوں اور انگریزوں کی خاطر قتل کرنا حقیقی اور صحیح جہاد ہے۔

یہ قربانیاں تو مرزا قادیانی کے خاندان نے سکھوں کے لئے پیش کی ہیں۔ جو عام طور پر لوگوں سے اوجھل ہیں۔ رہا انگریزوں کے ساتھ وہ تو اظہر من الشمس ہے۔ کیونکہ سکھوں سے تو صرف ان کے دسترخوان سے بچے ہوئے چند کھڑے اور ہڈیاں ملی تھیں۔ مگر سرکار انگریز کے عہد میں تو نبوت عطاء ہوئی ہے۔ پھر کیوں نہ شکر ادا کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ عیسائی دجال ہیں۔ بقول مرزا قادیانی، مگر پناہ بھی مسیح کو زیر سایہ عاطف دجال ہی ملی۔ بہت خوب! مرزا سجاد دجال کا نمک خوار بن گیا۔ خوب کسر صلیب اور قتل دجال ہوا۔

مرزا قادیانی کا خاندان اور ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی

مرزا قادیانی اپنی آبائی ریاست کے زوال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”غرض ہماری پرانی ریاست خاک میں مل کر آخر پانچ گاؤں ہاتھ میں رہ گئے۔ پھر بھی بلحاظ پرانے خاندان کے میرے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ اس نوح میں ایک مشہور رئیس تھے۔ گورنر جنرل کے دربار میں بزمہ کرسی نشین رئیسوں کے ہمیشہ بلائے جاتے تھے۔“

۱۸۵۷ء میں انہوں نے سرکار انگریز کی خدمت میں پچاس گھوڑے معہ پچاس سواروں کے اپنی گرہ سے خرید کر دیئے تھے اور آئندہ گورنمنٹ کو اس قسم کی مدد کا عند الضرورت وعدہ بھی دیا اور سرکار انگریزی کے حکام وقت سے بجالاتے خدمات عمدہ عمدہ..... چشمتیا خوشنودی مزاج ان کو ملی تھیں۔ غرض وہ حکام کی نظر میں بہت ہر دل عزیز تھے۔ بسا اوقات ان کی دلجوئی کے لئے حکام وقت ڈپٹی کمشنران کے مکان پر آ کر ان کی ملاقات کرتے تھے۔“

(کتاب البریہ حاشیہ ص ۱۵۸، خزائن ج ۱۳ ص ۱۷۶، ۱۷۷)



مرزا قادیانی کے خاندان کی خدمات صرف پچاس سو اور گھوڑے دینے پر ختم نہیں ہوئیں۔ بلکہ خود بھی جنگ کی آگ میں اپنے آقا کا اقتدار قائم کرنے کے لئے کود پڑے۔

چنانچہ (سیرۃ مسیح موعود ص ۶۰۵) میں لکھتے ہیں کہ: ”اس خاندان نے غدر ۱۸۵۷ء کے دوران میں بہت اچھی خدمات کیں۔ غلام مرتضیٰ نے بہت آدمی بھرتی کئے اور اس کا بیٹا غلام قادر جنرل نکلسن صاحب بہادر کی فوج میں اس وقت تھا۔ جب کہ افسر موصوف تریوں گھاٹ پر ۳۶ نومبر ۱۸۵۷ء کے باغیوں کو جو سیالکوٹ سے بھاگے تھے تہ تیغ کیا۔“

جنرل نکلسن بہادر نے غلام قادر کو ایک سند دی جس میں یہ لکھا ہے کہ: ”۱۸۵۷ء میں خاندان قادیان، ضلع گورداس پور تمام دوسرے خاندانوں سے زیادہ نمک حلال رہا۔“

پھر انہیں صفحات میں لکھتے ہیں: ”نظام الدین کا بھائی امام الدین جو ۱۹۰۴ء میں فوت ہوا دہلی کے محاصرہ کے وقت ہاؤسن ہارس رسالہ میں رسالدار تھا اور اس کا باپ غلام محی الدین تحصیلدار تھا۔“ (سیرۃ مسیح موعود ص ۶۰)

مندرجہ بالا بیان سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا خاندان ابتداء ہی سے مسلمانوں کا غدار، سکھوں اور انگریزوں کا نمک خوار اور وفادار تھا۔ محاصرہ دہلی میں انہوں نے بذات خود حصہ لیا اور ہندوستان میں اسلامی سلطنت کے آخری تاجدار کو گرفتار کرنے اور شہزادوں، شہریوں اور مجاہدوں کے قتل کرنے میں بھرپور حصہ لیا۔ تب ہی تو جنرل نکلسن نے اپنی سند میں لکھا کہ یہ خاندان زیادہ نمک حلال رہا۔ کیونکہ اس نے براہ راست حصہ لیا۔

چنانچہ انگریزوں کی دور رس نگاہوں نے بھانپ لیا کہ مسلمانوں کو جذبہ جہاد سے عاری کرنے کے لئے بھی خاندان کا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ان کی وفادار (مسلمان سے غداری) غیر مشکوک ہے۔

یہ ہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تعلیم سکھوں کے زمانہ میں بھی نہایت عمدہ طریق پر جاری رہی۔ ورنہ سکھ کسی بھی پڑھے لکھے مسلمان کو برداشت نہ کرتے تھے۔ مگر مرزا قادیانی کو برداشت کر لیا۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آنجناب کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاسکتا ہے اور ایسا ہی ہوا۔ (الولد سرلابیہ)

چونکہ مرزا قادیانی کا خاندان لالچی اور اقتدار پرست ثابت ہوا تھا۔ اس لئے جو نہی سکھوں کا زور ٹوٹا انگریزوں کے برسر اقتدار آنے کے امکانات روشن تھے۔ اس لئے مرزا قادیانی کا خاندان ان سے منسلک ہو گیا اور مرزا قادیانی ان کے شرعی وقادار بن گئے اور انگریزوں کی تنخواہ

پران کے پولیٹیکل ایجنٹ کی حیثیت سے مسلمانوں کی جاسوسی کا فریضہ انجام دینے لگے۔ بلکہ آنجناب مہدی ویسی کے روپ میں کلمے بندوں انگریز کی غلامی کی تعلیم دینے لگے۔

رہا مہدی کا ڈھونگ اس لئے رچایا تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ مرزا قادیانی جاسوس اور انگریزی ایجنٹ میں ورنہ مقصد اور تھا۔

مرزا قادیانی کی عبارتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ مرزا قادیانی کی تمام سعی و تبلیغ صرف انگریزی راج قائم کرنے کے لئے ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالنے کے لئے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی ایک تجویز بدیں صورت پیش کرتے ہیں۔ یہ تجویز (برایں احمدیہ حصہ سوئم م ۱۳۹، ۱۴۰، خزانہ ج ۱ ص ۱۵۷) میں اسلامی انجمنوں کی خدمت میں التماس کے زیر عنوان درج ہے۔

”سوا اس عاجز کی دانست میں قرین مصلحت یہ ہے کہ انجمن اسلامیہ لاہور، کلکتہ، دہلی وغیرہ یہ بندوبست کریں کہ چند نامی مولوی صاحبان جن کی فضیلت اور علم اور زہد اور تقویٰ اکثر لوگوں کی نظر میں مسلم الثبوت ہو۔ اس امر کے لئے جن لئے جائیں کہ اطراف و اکناف کے اہل علم کو جو اپنے مسکن کے گرد و نواح میں کسی قدر شہرت رکھتے ہوں۔ اپنی اپنی عالمانہ تحریریں جن میں برطبق شریعت حقہ، سلطنت انگلیشیہ سے جو مسلمانان ہند کی مربی و محسن ہے۔ جہاد کرنے کی صاف ممانعت ہو۔ ان علماء کی خدمت میں یہ شہت مواہیر بھیج دیں۔ (سلطان القلم صاحب مہر کی جمع مواہیر لکھتے ہیں۔ شاید یہ بھی القاء ہوا ہو) کہ جو بموجب قرارداد بالا اس خدمت کے لئے منتخب کئے گئے ہیں اور جب سب مخطوط جمع ہو جائیں تو یہ مجموعہ مخطوط کو جو مکتوبات علماء ہند سے موسوم ہو سکتا ہے۔ کسی خوشخط مطبع میں بہ صحت تمام چھاپا جائے اور پھر دس بیس نسخہ اس کے گورنمنٹ میں اور باقی نسخہ جات متفرق مواضع پنجاب و ہندوستان خاص کر سرحدی ملکوں میں تقسیم کئے جائیں۔“

مرزا قادیانی اپنی مندرجہ بالا تجویز میں خود ہی نہیں بلکہ تمام علماء سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی امت مرحومہ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے میں ان کا ساتھ دیں گے۔ کس عیاری سے مختلف انجمنوں سے فتوے طلب فرما رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کی نبوت کا یہی کاروبار ہے کہ انگریزوں کو راضی کر کے اپنی جاگیر واپس لیں۔ مگر اے بسا آرزو کہ خاک شدہ!

انگریزوں کی تائید و حمایت میں پچاس الماریاں

”میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گذرا اور میں نے

ممانعت جہاد، انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا میں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں

کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں بھر سکتی ہیں..... میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہو جائیں اور مہدی خون کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلائے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔“

علامہ اقبال مرحوم نے خوب فرمایا۔

گفت دیں را رونق از محرومی است

زندگانی از خودی محرومی است

سترہ برس سے انگریز سرکار کی امداد

”تاہم سترہ برس سے سرکار انگریز کی امداد اور تائید میں اپنی قلم سے کام لیتا ہوں۔ اس سترہ برس کی مدت میں جس قدر میں نے کتابیں تالیف کیں۔ ان سب میں سرکار انگریز کی اطاعت اور ہمدردی کے لئے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی ممانعت کے بارے میں نہایت مؤثر تقریریں لکھیں اور پھر میں نے قرین مصلحت سمجھ کر اس امر، ممانعت جہاد کو عام ملکوں میں پھیلانے کے لئے عربی، فارسی میں کتابیں تالیف کیں۔ جن کی چھپوائی اور اشاعت پر ہزار ہا روپیہ خرچ ہوئے اور وہ تمام کتابیں عرب اور بلاد شام اور روم اور مصر اور بغداد اور افغانستان میں شائع کی گئی..... پھر میں پوچھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سرکار انگریز کی امداد امن اور جہادی خیالات کے روکنے کے لئے برابر سترہ سال تک پورے جوش سے پوری استقامت سے کام لیا۔ کیا اس کام کی اور اس خدمت نمایاں کی اور اس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو میرے مخالف ہیں کوئی نظیر ہے؟“

(کتاب البریہ ص ۸۲۶، خزائن ج ۳ ص ۱۵۵)

مرزا قادیانی کی مندرجہ بالا دونوں عبارتوں سے عیاں ہے کہ آنجناب کی عمر کا اکثر حصہ انگریز کی مدد سرانی بلکہ انگریز کی آقائی کو تسلیم کر دانے میں گزرا ہے۔ پچاس الماریاں کتابیں لکھ ڈالیں۔ پھر تمام ممالک میں پھیلا دیں۔ بڑی رقم خرچ ہوئی۔ نہایت استقامت سے یہ خدمت سرانجام دی۔

غالباً مسیح موعود کی بعثت اسی لئے ہوئی کیونکہ دین تو پہلے ہی مکمل تھا۔ اگر کوئی کمی تھی تو صرف یہ کہ کفار کی اطاعت سے دین اسلام نے منع کیا تھا اور اس حکم کو آنجناب نے منسوخ کر دیا اور بس۔ اگر اب بھی انگریز مرزا قادیانی کو سرکار کا پجاری تسلیم نہ کریں تو صریح ظلم ہوگا۔

مرزا قادیانی نے یہ بھی درست فرمایا کہ دیگر مسلمانوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ بے

شک اس کی نظیر نہیں کیونکہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی کسی مسلمان کا ضمیر اس قدر نور ایمان سے خالی نہ تھا کہ وہ رسول اکرم ﷺ کے فرمان کی صریح خلاف ورزی کرتا۔ یہ فضیلت صرف مرزا قادیانی کو حاصل ہوئی۔ نمک خواری کا حق یوں ایمان دے کر بطریق احسن ادا کیا۔ واقعی استقامت اسی کو کہتے ہیں۔ حسن اشکر یہ اسی طرح ادا کیا جاتا ہے۔

سب کی سب ضائع اور برباد نہ جائیں

”اس لئے اندیشہ ہے کہ ان کے ہر روز کی مفتر یا نہ کاروائیوں سے گورنمنٹ عالیہ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو کر وہ تمام جانفشانیاں پچاس سالہ میرے والد مرحوم اور نیز میرے قلم کی وہ خدمات جو میرے اٹھارہ سال کی تالیفات سے ظاہر ہیں۔ سب کی سب ضائع اور برباد نہ ہو جائیں اور خدا نخواستہ سرکار انگریزی اپنے ایک قدیم وفادار اور خیر خواہ خاندان کی نسبت کوئی تکدر خاطر اپنے دل میں پیدا کرے۔“

(کتاب البریہ میں، خزائن ج ۱۳ ص ۳۳۹)

خود کا شتہ پودا

پھر اس کے بعد مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں: ”التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چھٹیاں میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے بچے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کا شتہ پودہ کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے۔“

(کتاب البریہ میں، خزائن ج ۱۳ ص ۳۵۰)

مندرجہ بالا عبارت واضح طور پر مرزا قادیانی کی سیاسی زندگی پر روشنی ڈال رہی ہے۔ مرزا قادیانی اعتراف کرتے ہیں کہ میرا خاندان ہی نہیں بلکہ میں خود بھی مدت مدید سے سرکار انگلشیہ کی خدمات سرانجام دے رہا ہوں۔ بلکہ میں سرکار کا خود کا شتہ پودا ہوں۔ لہذا آبیاری کا خیال رکھنا کہیں خود کا شتہ پودہ عدم توجہی کا شکار ہو کر نیست و نابود نہ ہو جائے۔

اپنے تمام سرکاری حکام سے خصوصیت سے آبیاری کے متعلق فرمان جاری کیا جاوے۔ ورنہ بصورت دیگر صحیح خدمات سرانجام دینا دشوار ہو جائیں گی۔ مذکورہ بالا عبارت کے بعد مرزا قادیانی کے بارے میں کسی طرح کا شبہ نہیں رہتا۔ بلکہ بالکل عیاں ہو جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کی بنیاد انگریزی پالیسی کا ایک جز ہے۔

## گھر سے فرار اور سیالکوٹ کی ملازمت

”بیان کیا مجھ سے والدہ صاحب نے ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعودؑ تمہارے دادا کی پنشن وصول کرنے کے لیے تو پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن لی تو آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا اور حضرت مسیح موعودؑ شرم کے مارے واپس گھر نہیں آئے اور چونکہ تمہارے دادا کا منشاء رہتا تھا کہ آپ ملازم ہو جائیں۔ اس لئے آپ سیالکوٹ ڈپٹی کمشنر کی کچھری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔“

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۴۳، بروایت ۴۹)

اسی (سیرۃ المہدی ص ۴۳، بروایت نمبر ۴۹) پر ہے کہ: ”عرصہ ملازمت ۱۸۶۳ء تا ۱۸۶۸ء

ہے۔ یعنی مرزا قادیانی چار سال سیالکوٹ کچھری میں ملازم رہے ہیں۔“

نیز مرزا قادیانی پنشن لے کر امام الدین کے ساتھ بھاگ گئے۔ یہ امام الدین صاحب وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ سیرۃ المہدی حصہ اول میں مذکورہ بالا اسی صفحہ میں ہے۔ مرزا امام الدین نے مرزا قادیانی سے الگ ہو کر ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا تو گرفتار ہوا۔ مگر آخر کار رہا ہو گیا۔ شاید مرزا قادیانی کی کرامت ہو کیونکہ مرزا قادیانی کو چھوڑ کر جو گیا تھا۔

اب سوال یہ رہا کہ ایک صاحب ملہم من اللہ بننے والے ہیں۔ بلکہ ظلی بروزی نبی اور پھر والد کی پنشن اڑا کر چند دنوں میں ختم کر دینا وہ بھی ایک شریف ذات کے ساتھ پنشن ۷۰۰ روپیہ جو ہمارے زمانہ کے سات ہزار سے بھی زیادہ۔ آخر ان دو حضرات نے اتنی ساری رقم کہاں اڑائی ہوگی۔ مگر زمانہ جوانی تھا۔ لہذا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ اس زمانہ میں نوجوان کے کچھ اخراجات خاص قسم کے ہوتے ہیں۔ پھر امام الدین صاحب ساتھ ہوں تو اور بھی معاملہ سہل ہو گیا۔ مرزا قادیانی اپنی چار سالہ مدت ملازمت میں سیالکوٹ میں ایک اور ذات شریف سے بھی شناسا ہو گئے تھے۔ بلکہ نوبت مباحثات تک پہنچ گئی تھی۔ یہ صاحب پادری رپورٹ بلٹر ایم۔ اے صاحب۔ چنانچہ ان کا تذکرہ مرزا قادیانی کے فرزند خلیفہ ثانی (سیرت مسیح موعود ص ۱۵) پر کرتے ہیں: ”رپورٹ بلٹر ایم۔ اے سیالکوٹ مشن میں کام کرتے تھے اور جن سے حضرت صاحب کے بہت سے مباحثات ہوتے رہتے تھے۔ جب ولایت جانے لگے تو خود کچھری میں آپ کے پاس ملنے چلے آئے۔“

مندرجہ بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف مباحثات نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ پادری صاحب نے مرزا قادیانی کو کسی خاص کام کے لئے تیار کر لیا تھا۔ تب ہی تو جاتے وقت ضرور پکھری میں اوقات کار ہی میں ملنے چلے آئے۔ تاکہ فرض مفووضہ کی ادائیگی کی مزید تاکید کی جاسکے اور معاہدہ بھی پکا ہو جاوے۔

اس کے بعد مرزا قادیانی جلدی واپس قادیان تشریف لے گئے۔ وہ بھی فوراً ملازمت چھوڑ کر، جس طرح انہیں صفحات سیرت مسیح میں ذکر ہے۔ اب مرزا قادیانی قادیان تشریف لا کر ایک نئی ملازمت کے فرائض سرانجام دینے لگے۔ مہدی مسیح ظلی بروزی نبوت کا لبادہ بھی درحقیقت ان ہی فرائض کی انجام دہی کے لئے تھا۔ چنانچہ مرزا قادیانی اپنی ملازمت کا اقرار کرتے ہیں۔ مگر مہمل طور پر تاکہ راز کھل نہ جائے۔

مرزا بشیر احمد ایم۔ اے (سیرۃ الہدیٰ ص ۴۸، بروایت ۵۲) پر رقمطراز ہیں: ”بیان کیا مجھ سے جھنڈا سنگھ ساکن کالہواں نے کہ میں بڑے مرزا صاحب کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے بڑے مرزا صاحب نے کہا جاؤ غلام احمد کو بلاؤ۔ ایک انگریز حاکم میرا واقف ضلع میں آیا ہے۔ اس کا منشاء ہو تو کسی اچھے عہدہ پر ملازم کرادوں۔ جھنڈا سنگھ کہتا تھا کہ میں مرزا صاحب کے پاس گیا تو دیکھا، چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر لگا کر اس کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں نے بڑے مرزا صاحب کا پیغام دیا۔ مرزا صاحب کے پاس آئے اور جواب دیا کہ میں نوکر ہو گیا ہوں۔ بڑے مرزا صاحب کہنے لگے اچھا کیا واقعی نوکر ہو گئے ہو؟ مرزا صاحب نے کہا ہاں ہو گیا ہوں۔ بڑے مرزا صاحب نے کہا اچھا اگر نوکر ہو گئے ہو تو خیر ہے۔“

مرزا قادیانی کے والد نے مرزا قادیانی سے کہا کہ تمہیں کسی اچھے عہدہ پر نوکر کرادوں۔ مرزا قادیانی نے جواب دیا نوکر ہو گیا ہوں۔ دوبارہ پوچھنے پر تصدیق کر دی کہ نوکر ہو گیا ہوں۔ مرزا قادیانی کے والد نے پھر یہ نہ پوچھا کہ نوکر کیا ہے؟

ظاہر ہے کہ آپ کو پہلے سے کچھ معلوم تھا۔ اس لئے جھنڈا سنگھ کے سامنے نہ پوچھا۔ ورنہ نوعیت کا علم جھنڈا سنگھ کو ہو جاتا تو راز کھل جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ نوکر ہی وہی تھی جو مرزا قادیانی کتابوں کا ڈھیر لگا کر سرکار کی حمایت میں لکھ رہے تھے۔ جس طرح خود اعتراف کیا ہے کہ: ”میں نے سرکار انگریز کی حمایت میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں جن سے پچاس الماریاں بھر جائیں۔ پھر تمام ممالک اسلامیہ میں پھیلا دیں۔ مصر، عرب، عراق، روم، ہند، کابل وغیرہ میں تاکہ مسلمانوں کے دل سے جہاد کا خیال نکل جائے اور انگریزوں کو سلطنت قائم رکھنے میں آسانی

ہو۔ اس طرح مسلمان غلامی کے جال میں پھنس کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مغلوب ہو جائیں۔“  
علامہ اقبالؒ نے خوب کہا ہے۔

دولت اغیار را رحمت شمر  
رقص ہاگرد کلیسا کرد مرد

اب بحث طلب امر یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تنخواہ کیا تھی اور کن ذرائع سے ملتی تھی۔ وہ بھی مرزا قادیانی کی زبانی سنیں۔ مرزا قادیانی نے اس تنخواہ کا بھی خود اعتراف کر لیا ہے۔  
اب مرزا قادیانی کی کتابوں میں جا بجایہ آئے گا کہ مجھے الہام ہوا کہ اتنا روپیہ ملا ہے۔ پھر دوسرے دن مل گیا۔ اکثر کے متعلق یہ بھی معلوم نہ ہوتا۔ کس نے بھیجا ہے۔ تاہم بعض اوقات معلوم ہو جاتا وہ اکثر نوابوں کی طرف سے ہوتا یا کسی سرکاری ملازم کی طرف سے۔ یہ کس کو معلوم نہیں کہ ایسے ہی لوگ انگریز کے جاسوس ہوا کرتے تھے۔ البتہ مرزا قادیانی کا کمال یہ ہے کہ ان کو انگریز کے ایما پر مرید بنا لیا تھا۔ بعض سادہ لوح بھی پھنس گئے۔  
تنخواہ کی برآمدگی

مرزا بشیر احمد لکھتے ہیں: ”مرزا دین محمد ساکن لنگر وال ضلع گورداسپور نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ صبح موعود نے مجھے صبح کے وقت جگایا اور فرمایا کہ مجھے خواب آیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا خواب ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میرے تخت پوش کے چاروں طرف نمک چنا ہوا ہے۔ میں نے تعبیر پوچھی تو کتاب دیکھ کر فرمایا کہ کہیں سے بہت سا روپیہ آئے گا۔ اس کے بعد میں چار دن وہاں رہا۔ میرے سامنے ایک مٹی آرڈر آیا۔ جس میں ہزار سے زیادہ روپیہ تھا..... ہم نے دیکھا تو بھیجنے والے کا پتہ اس پر درج نہیں تھا۔ حضرت صاحب کو بھی پتہ نہیں لگا کہ کس نے بھیجا؟“  
(سیرۃ الہدیٰ ج ۳ ص ۱۰۱، ۱۰۲، روایت نمبر ۶۳۶)

مندرجہ بالا عبارت میں تین چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک خواب، دوسرا کتاب۔ دیکھ کر تعبیر، تیسرا بھیجنے والے کا پتہ نہ معلوم ہوتا۔

آپ نے خواب اس لئے مرید سے بیان کیا تا کہ آئندہ کام آئے اور مرید گواہ رہے۔ کیونکہ اس کو آئندہ نشان کے طور پر ظاہر کرنا تھا۔ پھر کتاب دیکھ کر تعبیر بتلانا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ تاریخ دیکھنا چاہتے تھے کہ تاریخ کون سی ہے۔ کیونکہ مقررہ تاریخوں میں تنخواہ خفیہ ذرائع سے ملتی تھی۔ کبھی بذریعہ مٹی آرڈر، کبھی کسی ایجنٹ کے ذریعہ۔

بغیر پتہ کے منی آرڈر آنا یہ بھی بتلا رہا ہے کہ رقم خفیہ ذرائع سے آئی ہے اور سی آئی ڈی کے طریق کار ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سی آئی اے کے کارنامے پڑھے ہوں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ اسی طرح جاسوسوں کو رقم عموماً ادا کرتی ہے۔ البتہ مرزا قادیانی اس کو غیبی امداد ظاہر فرماتے تھے۔

آج کل بھی سی آئی اے اسی طرح ادا نیگی کرتی ہے۔ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ جاسوسی کے لئے عموماً ایسے لوگ منتخب ہوتے ہیں جو حکومت کے بااعتماد ہوں اور لوگ بھی ان کے تقدس کے قائل ہوں یا لوگوں میں ذی جاہ اور شہرت یافتہ ہوں تاکہ ان پر کوئی شبہ نہ کر سکیں۔

یہ ہیں مرزا قادیانی کے نشانات۔ ان ہی نشانوں نے حقیقت میں مرزا قادیانی کی ہنڈیا چوراہے میں پھوڑ دی۔ کیونکہ طبعاً لالچی واقع ہوتے تھے۔ اس لئے جب بھی روپیہ آنے کی اطلاع ملتی، ایک تیر سے دو شکار کر لیتے۔ اعلان کر دیتے تھے منی آرڈر کا خواب آیا۔ روپیہ ملنے کا خواب آیا۔ ظاہر ہے پہلے اطلاع مل جاتی تھی۔ لہذا صحیح وقت پر روپیہ مل جاتا تو مرزا قادیانی کی پانچوں گلی میں ہوتیں۔ اگرچہ میں دوسرا جملہ نہیں کہتا۔ (یعنی سرکڑھانی میں)

مرزا قادیانی نے صرف ممانعت جہاد ہی کے لئے کتابیں نہیں لکھیں۔ بلکہ ایسے لوگوں کے نام بھی قلم بند کئے ہیں۔ جن سے گورنمنٹ برطانیہ کو خطرہ لاحق رہتا تھا۔ جس کا اعتراف مرزا قادیانی نے خود کیا ہے۔

مرزا قادیانی انگریزوں کے پولیٹیکل ایجنٹ کی حیثیت سے

(تبلیغ رسالت ج ۵ ص ۱۱، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۲۷) پر یوں درج ہے: ”گورنمنٹ کی خوش قسمتی سے برٹش انڈیا میں مسلمانوں میں ایسے لوگ معلوم ہو سکتے ہیں۔ جن کے نہایت مخفی ارادے گورنمنٹ کے برخلاف ہیں۔ اس لئے ہم نے اپنی محسن گورنمنٹ کی پولیٹیکل خیر خواہی کی نیت سے اس مبارک تقریب پر یہ چاہا کہ جہاں تک ممکن ہو ان شریر لوگوں کے نام ضبط کئے جائیں جو اپنے عقیدہ سے اپنی مفسدانہ حالت کو ثابت کرتے ہیں۔ ایسے نقشے ایک پولیٹیکل راز کی طرح اس وقت تک ہمارے پاس محفوظ رہیں گے۔ جب تک گورنمنٹ ہم سے طلب نہ کرے۔“

مندرجہ بالا عبارت دیکھنے کے بعد کسی بھی سیاسی بصیرت رکھنے والے کو مرزا قادیانی کے پولیٹیکل ایجنٹ ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمانان ہند کے خلاف خفیہ ڈائریاں انگریزوں تک پہنچاتا تھا۔ بلکہ اس شعبہ کا مرزا قادیانی کو انچارج کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ کیونکہ



مرزا قادیانی خفیہ طور پر اس طرح خدمات انجام دیتے تھے اور ظاہر اذہب کے لبادہ میں ایک ایسی جماعت کی بنیاد ڈالی جس کے دل میں پہلے اپنے متعلق یہ عقیدہ پیدا کیا کہ مابدولت مسیح و مہدی و نبی ہیں۔ پھر ان سے عہد لیا کہ انگریز کی اطاعت کرنا بلکہ انگریز کے لئے جان تک قربان کر دینا۔

چنانچہ مرزا قادیانی اسلام کے دو حصے بیان کرتے ہیں۔ ایک اللہ کی اطاعت دوسری انگریز کی اطاعت۔ بہت خوب اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہود ناما مسعود کی کیسی اچھی تقلید کی۔ اس پر طرہ یہ کہ مرزا قادیانی عیسائیوں کو دجال بھی کہتے ہیں۔ اب مرزائی صاحبان ہی ہتلا میں کہ دجال کے قبضین و فرمانبردار محمدی ہوئے یا دجالی؟

انگریزوں کا ذکر خطبہ جمعہ میں

(تخلیج رسالت ج ۵ ص ۱۰، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۶۶) میں یوں لکھا ہے: ”ہم رعایا کی یہ تمنا ہے کہ جس طرح اسلامی ریاستوں میں ان سلاطین کا شکر کے ساتھ خطبہ میں ذکر ہوتا ہے۔ ہم بھی..... اور بلاد کے مسلمانوں کی طرح یہ دائمی شکر جمعہ کے ممبروں پر اپنا وظیفہ بتالیں کہ سرکار انگریزی نے..... ہم پر بھی عنایت کی نظر کی۔“

دیکھا مرزا قادیانی کا دجل جن کو مرزا قادیانی دجال کہہ رہے ہیں۔ ان کی ظاہر اطاعت پر بھی بس نہیں۔ بلکہ ان کا ذکر نماز جمعہ کا جز بنانے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کے لئے نماز میں دعا کی جاوے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ یہ طوق غلامی مسلمانوں کے گلے کا ہار بنائے رکھے۔ کس قدر ذلیل تجویز ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے تو خطبہ میں اللہ کے ذکر کا حکم دیا ہے۔ مرزا قادیانی انگریزوں کے ذکر کا حکم صادر فرما رہے ہیں۔ واقعتاً مرزا قادیانی نمک خوری کا کیا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ صاحب مسلمانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے نبی تسلیم کر لو۔ اگر مسلمان کو غیرت ہو تو ایسے لوگوں کے لئے مسلمانوں کے اندر رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ چہ جائیکہ ان کو کلیدی عہدوں پر متمکن کیا جاوے۔ اگر ان انگریز کے ایجنٹوں سے ہم اپنی حکومت کو آگاہ کریں اور کہیں کہ ان کا قبلا انگلینڈ ہے نہ کہ مکہ اور ان کی وفاداریاں سمندر پار کے آقاؤں سے وابستہ ہیں نہ کہ پاکستان سے تو ہم کو شورش پسند کہا جاتا ہے۔

خدارا سوچو! کدھر جا رہے ہو؟ کن لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہو۔ یاد رکھو تمہیں بچھٹانا پڑے گا۔ وقت تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ نکلا ہوا تیر واپس نہیں لوٹایا جاسکتا۔ ان کے ارادوں سے ہوشیار رہو۔ یہ جذبہ جہاد مٹا کر دوبارہ غلامی کے اندھے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں۔

اگر مسلمانوں میں جذبہ جہاد نہ ہوتا تو ہماری مٹھی بھر فوج اتنی بڑی فوج کا مقابلہ ہرگز نہ کر سکتی۔ ہماری بقاء کا دارومدار جذبہ جہاد ہی میں ہے۔ مگر مرزائی اسی درخت کی جڑوں پر تیشہ چلا رہے ہیں۔ ربوہ میں یہی کچھ سکھایا جاتا ہے۔ یہ ربوہ جو ہر آزادی سلب کرنے کا کارخانہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: ”کتب علیکم القتال وھو کرہ لکم عسی ان تکرھوا شیئا وھو خیر لکم“ ﴿تم پر (کفار سے) قتال فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ قریب ہے جس چیز کو تم ناپسند کرو وہ بہتر ہو تمہارے لئے﴾۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف جہاد بالسیف یعنی لڑائی کا حکم دیا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ جہاد صرف کفار کے ساتھ ہے۔ جو حملہ آور ہوں۔ اگر یہی تسلیم کر لیا جاوے تو کیا انگریز حملہ آور نہ تھا؟ اس نے مسلمانوں سے ملک ہندوستان بزرگ شمشیر نہیں چھینا؟ کیا ایسی کوئی حدیث مرزائی پیش کر سکتے ہیں کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں سے کوئی ملک چھینا ہو تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہو کہ غیر مسلم کی حکومت رحمت الہی سبھ کر تسلیم کر لی جاوے۔ اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا جرم ہے۔ بلکہ شریعت حقہ نے تو بیٹھ رہنے کو جرم قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”قاتلوھم حتی لا تھون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ“ ﴿لڑو ان کافروں سے یہاں تک کہ مکمل اللہ کی حکومت قائم ہو جاوے﴾۔  
حضور ﷺ نے فرمایا: ”الجهاد ما مضی الی یوم القیامۃ“ ﴿جہاد قرب قیامت تک جاری رہے گا﴾۔

خدا را سوچیں جس جہاد کی تاکید قرآن وحدیث میں آئی ہو۔ سورۃ انفال اور توبہ پوری کی پوری جہاد کے بارے میں اتری ہیں۔ اس جہاد کو قادیانی کذاب بیہودہ بانٹ کہہ رہا ہے۔ کیا یہ قرآن مجید کی تکذیب نہیں؟ کیا جو قرآن مجید کی تکذیب کرے وہ دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے؟ بے شک نہیں رہ سکتا۔ قادیانی اس سے بخوبی واقف تھا۔ مگر دنیا کے لالچ نے اندھا کر دیا۔ ایمان چند لکوں میں فروخت کر دیا۔ مہدیت ونبوت کی آڑ میں انگریزوں کی جاسوسی تنظیم کو مضبوط کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

شیخ او کرد فرنگی را مرید  
گرچہ گوید از مقام بایزید  
وہ نبوت ہے مسلمان کے لئے برگ حشیش  
جس نبوت میں نہیں قوت وشوکت کا پیام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مَدْرَسَةُ اِسْلَامِیَّةِ اَبْنِ بَجَلَوْنِ  
بَدَاوِیَہِ

قادیانی غیر مسلم اقلیت بن کر رہیں

یا

اسلام قبول کریں

حضرت مولانا محمد مالک کاندھلویؒ

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

..... ❁ غلیفہ اڈل حضرت ابو بکر صدیقؓ نے میلہ کذاب مدعی نبوت کے پیروکاروں سے جہاد فرمایا اور بعد کے تمام خلفاء نے یہی کیا۔

..... ❁ حضرت علی بن ابی طالبؓ نے خارجیوں کے ساتھ قتال کیا۔

..... ❁ برطانیہ کے قدیم قانون میں وہاں کی اقلیت یہودی اپنی ثقافت و نظریات کی کوئی اشاعت اور اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ ۱۱۹۰ء میں ایڈورڈ اڈل نے شاہی فرمان کے ذریعہ یہودیوں کی مذہبی آزادی ختم کر دی تھی اور ان کو ملک بدر کرنے کا حکم جاری کیا۔ برطانیہ میں ۱۲۷۱ء میں ہنری ثالث نے یہودیوں کو زمین خریدنے کے حق سے محروم کیا تھا۔

..... ❁ برطانیہ میں یہودیوں پر یہ لازم تھا کہ وہ اپنی حیثیت نمایاں کرنے کے لئے ایک پیلا بیج استعمال کریں۔

..... ❁ ۱۷۵۳ء تک کوئی یہودی اپنی کوئی جائیداد اپنے مذہبی اداروں کے لئے وصیت نہ کر سکتا تھا اور اگر وصیت کرے تو اس کو کالعدم قرار دے کر عیسائیوں کو حق تھا کہ وہ وقف اور جائیداد اپنے اداروں کو منتقل کر دیں۔

حضرات! ہمارے پاکستان کے قادیانی میلہ کذاب کی امت کا نمونہ اور حضرت علیؓ کے دور کے خوارج اور برطانیہ کی اقلیت یہودیوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔

فیصلہ کے لئے پیش کردہ تحریر ملاحظہ فرمائیں۔

آپ کا تخلص: محمد مالک کاہر حلوی

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على

خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين“

یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد جو شخص بھی کسی بھی قسم کا دعویٰ نبوت کرے وہ خارج از اسلام اور مرتد ہے۔ وہ اور اس کی پیروی کرنے والے ہر ایک مرتد اور خارج از اسلام ہیں۔ وئیائے اسلام کی یہ متفقہ قرار داد اور اجمالی فیصلہ ہمیشہ سے تھا۔ تاریخ اسلام میں مدعیان نبوت کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ بھی محتاج بیان نہیں۔ سب سے پہلا مدعی نبوت اسود عسی تھا۔ جس کے دعوے نبوت پر خود آنحضرت ﷺ نے صحابہ کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی۔ جنہوں نے اسود عسی کو جہس کیا۔

پھر ابو بکر صدیقؓ نے خلافت پر متمکن ہوتے ہی مسیلہ کذاب مدعی نبوت اور اس کی جماعت کے مقابلہ کے لئے لشکر روانہ کیا۔ اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہاد و قتال کر کے قتل کیا گیا اور گویا انہوں نے مدعی نبوت اور اس کی جماعت سے جہاد کرنے کو یہود و نصاریٰ کے خلاف جہاد سے مقدم رکھا۔ بہر کیف تاریخ اسلام کے آغاز ہی سے وئیائے اسلام خلفاء راشدین اور خود آنحضرت ﷺ کا فیصلہ یہی رہا۔ ہندوستان میں جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی وقت سے علماء نے اس فرقہ کے کفر کو لائل و حقائق سے واضح کر دیا۔ نہ صرف ہند اور عجم کے علماء بلکہ کل دنیائے اسلام نے متفق ہو کر اس فیصلہ کی حمایت کی۔

الحمد للہ! کہ حکومت پاکستان نے بھی آئینی طور پر قادیانیوں اور لاہوریوں کے کافر اور خارج از اسلام ہونے کا فیصلہ جاری کیا۔ جس کو تمام دنیا کے مسلمانوں نے سراہا اور کل عالم اسلام میں اس قابل فخر تاریخی فیصلہ کی تائید و حمایت اور پسندیدگی میں مقالے اور مضامین شائع ہوئے۔ اس وقت اس بحث اور تفصیل کی ضرورت نہیں کہ کن حقائق و دلائل اور اصول کی روشنی میں یہ تاریخی فیصلہ صادر کیا۔ جو عالم اسلام کی تمنا اور ان کے ایمانی تقاضوں کا مظہر تھا۔ الحمد للہ! کہ اس فیصلہ نے نہ صرف یہ کہ عالم اسلام کے ایمانی تقاضے کی تکمیل کی۔ بلکہ یہ پاکستان کے وقار و عظمت کی بلندی کا بھی باعث ہوا۔

خیال تھا کہ اس فیصلہ پر مرتب ہونے والے نتائج بھی ضرور اس فرقہ پر عائد ہوں گے اور جس طرح وہ اس فیصلہ سے قبل اسلام کا بہروپ بھر کر قادیانیت کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم تھے۔ اب اس فیصلہ کے بعد ان کو اس طرح کے سازشی نظام اور دین اسلام کو مسخ کرنے کی قانوناً گنجائش نہیں رہے گی۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اس سازشی نظام میں کسی طرح کا فرق نہیں آیا۔ جب حقائق اور دلائل کی رو سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ یہ مذہب اور فرقہ دراصل انگریزوں کا لگایا ہوا پودا تھا۔ جو اس نے اسلام کو مسخ کرنے اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لئے لگایا تھا۔ اسی کی سرپرستی میں اس کو اپنی کوششوں کو بین الاقوامی سطح پر چلانے کی قدرت ہوئی اور اسی کے زیر سایہ ان کو یہ تحفظ حاصل رہا۔

الغرض حکومت پاکستان کے فیصلہ کے بعد ان کے اس نظام کو اصولاً کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ حقائق نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اس فرقہ کی تمام تر کاوشیں اور جدوجہد براہ راست اسلام کو مسخ کرنے اور ایک نیا دین قائم کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ملک جس کا نظریہ بھی اسلام ہو اور یہی اس کا مذہب ہو تو یقیناً اس میں اسلام کی تخریب اسلام کو مسخ کرنے کی جدوجہد دراصل ملک اور نظریہ مملکت سے بغاوت ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی حکومت ایسی سرگرمیوں کو برداشت کر سکتی ہے یا اس کی اجازت دے سکتی ہے۔ جو براہ راست اس ملک کی بنیاد کو مٹانے والی ہوں اور یہ موضوع اس قدر واضح دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس کی تفصیل یا حوالہ کی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے کہ ان ہی حقائق کے ثابت ہونے کی بناء پر حکومت نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بات بھی نہایت واضح ہے کہ ان حالات کے بعد قادیانی فرقہ کی تبلیغی سرگرمیوں کو اقلیتی فرقہ کی مذہبی آزادی اور اس سے متعلقہ حقوق پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ مثلاً اگر کوئی بت پرست، بت پرستی کرے یا آتش پرست مجوسی اپنی دینی روایات کو باقی رکھتے ہوئے آتش پرستی، یا عیسائی اپنے گرجاؤں میں اپنے مخصوص طریقوں پر عبادت کریں یا اس کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ رکھیں تو ان کی یہ باتیں اور اعمال و افعال براہ راست اسلام کی تخریب اور اسلام کا باغیانہ مقابلہ نہیں۔ لیکن اس کے برعکس قادیانیت دراصل اسلام کی تخریب مقابلہ ہے۔ اصل اسلام اور آنحضرت ﷺ کی نبوت کی جگہ پر دوسری جعلی نبوت اور مذہب باطل کو لانا ہے۔ جس کے دلائل تحقیقاتی عبدالتوں میں موجود ہیں اور بلکہ ۱۹۵۳ء میں انہی علماء نے ان دلائل و شواہد کا ایک ابار لگادیا تھا۔

بہر کیف جب ان سازشاندہ امور کے باعث یہ فیصلہ ہو چکا تو یقیناً اس کے نتیجہ میں قادیانیوں کی ایسی تمام سرگرمیوں پر قانونی طور پر پابندی عائد ہونی چاہئے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسلام اور ملت اسلام کی تخریب کا یہ سازشی نظام اسلام کا بہروپ بھر کر اور مسجدیں بنا کر ہی کوئی فرقہ چلا سکتا ہے۔ اس لئے کہ عام مسلمانوں کو بہکانے اور دھوکہ کا شکار بنانے کا مقصد اسی طرح پورا ہو سکتا ہے کہ مسجدوں کی شکل میں عمارت بنا کر اس عمارت کے اندر تخریب اسلام کا روایاں جاری کی جائیں۔ جیسے کہ منافقین نے اسی مقصد کو بروئے کار لانے کے لئے ایک مسجد مدینہ منورہ میں بنائی تھی اور اس مسجد کو تحفظ دینے کے لئے چاہتے تھے کہ آنحضرت ﷺ کو اس مسجد میں لے کر آئیں اور آپ ﷺ اس میں نماز پڑھا دیں۔ تو مسلمانوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ مسجد ہے۔ پھر اس مرکز تخریب سے وسیع پیمانے پر اسلام کی تخریب کی کارروایاں جاری کی جائیں گی۔ لیکن خداوند نے آپ کو اس پر آگاہ کر دیا اور آپ بجائے اس کے کہ اس میں تشریف لے جاتے آپ نے صحابہؓ کو بھیجا کہ اس مرکز تخریب کو جس کی شکل و صورت مسجد کی طرح بنائی ہے۔ ڈھا دو اور اس کو آگ لگا دو۔ جس کی تفصیل آئندہ انشاء اللہ پیش کرتا ہوں۔

پہلے یہ بات عرض کرونی ضروری ہے کہ تعمیر مساجد صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ امت کے تمام آئمہ، علماء اور ہر دور کے فقہاء قاضی اور حضرات مفتیان کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو تعمیر مساجد کا ہرگز حق نہیں تو اس صورت حال میں کہ قادیانیوں کا مسئلہ طے ہو چکا کہ وہ اسلام سے خارج ہیں اور پھر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مسجدیں بھی بنائیں۔ قرآن کریم کا یہ صاف اور واضح فیصلہ ان الفاظ میں ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: "مَلِكًا لِلْمُشْرِكِينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِينَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ . اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدِينَ (توبہ: ۱۷)"

"اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشِ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ (توبہ: ۱۸)"

مشرکوں کے واسطے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مسجدیں تعمیر کریں۔ حالانکہ وہ گواہ ہیں۔ اپنے اوپر کفر کے۔ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے اعمال برباد ہوئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں

رہنے والے ہوں گے۔ مساجد اللہ کی تعمیر صرف ایسے ہی لوگ کرتے ہیں۔ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں تو ایسے لوگ تو امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔

اس آیت مبارکہ نے اس امر کی وضاحت کر دی کہ مشرکین کے لئے یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسجدیں بنائیں اور آباد کریں۔ اگرچہ آیت میں لفظ مشرکین ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کفر کی تمام قسمیں خواہ وہ بت پرستی کی شکل میں ہو۔ یا ستاروں کی پرستش یا آگ کی پوجا یا سرے سے خدا کے وجود کا انکار سب کسی شکل میں ہو۔ حکم ایک ہی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "الکفر ملة واحدة"

اس بناء پر مرزائی اور قادیانی جو اپنے اس اعتقاد کی بناء پر اسلام سے خارج ہیں۔ ان میں اور مشرکین میں کوئی فرق نہیں۔ غیر مسلم ہونا جب طے ہو گیا اور مسجد کی تعمیر کا حق بھس قرآنی مسلمان کو ہے۔ لہذا یہ سوچنے کی قانوناً کوئی گنجائش نہیں کہ مرزائی تو بت پرست نہیں۔ اگرچہ بت پرست نہیں۔ مگر کافر تو ہیں اور ہر کافر و بت پرست کا حکم شرعی ایک ہی ہے۔ آیت مبارکہ میں صرف اس منفی پہلو ہی پر اکتفاء نہیں کیا گیا۔ بلکہ مثبت پہلو سے یہ فرما دیا گیا۔ مسجدوں کی تعمیر اور آبادی تو صرف ان ہی لوگوں کے لئے مخصوص ہے۔ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تعمیر مساجد اہل ایمان کا کام ہے جو اپنے عمل اور عقیدے کی رو سے صحیح مسلمان ہوں۔ احکام الہی کے پابند ہوں اور ظاہر ہے کہ احکام خداوندی کی پابندی رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کے بغیر کیونکر ہو سکتی ہے؟ تو جس فرقہ کا کفر ثابت ہو چکا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کے بجائے ایک مدعی نبوت کو نبی قرار دے لیا اور اس طرح حکم کھلا اسلام اور اصول اسلام کے باغی ہو کر جماعت کی تنظیم کی۔ اپنے آپ کو خود امت مسلمہ سے علیحدہ کر لیا۔ اسی حد تک نہیں بلکہ تمام دنیا نے اسلام کے مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔ اپنا قبرستان علیحدہ بنایا۔ اپنے حج کی جگہ قادیان پھر ریوہ تجویز کیا۔ ان تمام باتوں کے شواہد قادیانی فرقہ کی کتابوں میں کثرت سے موجود ہیں اور عدالت میں پیش بھی کئے گئے تو ان سب باتوں کے بعد ان کا مؤمن اور مسلمان ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں اور جب مؤمن نہ ہوئے تو مساجد کی تعمیر کا حق کیونکر حاصل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی مسجدیں اللہ کی عبادت اور بندگی کے واسطے بنائی جاتی ہیں اور جو اس کا باغی ہو اور اسلام کو مٹانے کے درپے ہو وہ ظاہر ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کا کوئی حق نہیں رکھ سکتا۔ اس لئے کہ اگر وہ مسجدیں بنائے



گا تو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے دین کو مٹانے کے واسطے بنائے گا۔ اس بناء پر بنیادی طور پر یہ بات عقلاً اور شرعاً ثابت ہوگئی کہ کوئی بھی فرد یا جماعت جو خارج از اسلام ہو چکی ہو۔ وہ اسلام کی مسجدیں نہیں بنا سکتی۔

عمارت کا جو لفظ آیت مبارکہ میں ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک ظاہری اور حسی طور پر درود یوار کی تعمیر کا کرنا۔ اسی شق میں اس کی مرمت حفاظت صفائی دیکھ بھال بھی داخل ہے۔ دوسرے عبادت اور ذکر الہی و تلاوت قرآن سے اس کو آباد کرنا تو تعمیر کرنا اور آباد کرنا دونوں چیزیں ایمان پر موقوف ہیں۔ جو ایمان والا ہوگا اس کو اس بات کا حق پہنچے گا اور جس کا کفر واضح ثابت اور مسلم ہو چکا وہ یقیناً کسی درجہ میں مستحق نہیں۔ اسی وجہ سے فقہاء نے غیر مسلموں کی امداد و اعانت کو بھی مساجد کی تعمیر میں درست نہیں قرار دیا۔

ابن کثیر نے (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۰۵) پر انس ابن مالکؓ کی حدیث ذکر کی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”انما عمار المساجد اهل الله“ کہ مسجدوں کو تعمیر کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ والے یعنی ایمان والے ہوں۔

اور ظاہر ہے کہ جو شخص کافر ہے وہ اللہ والوں میں کیونکر شمار ہو سکتا ہے۔ ”شہادین علی انفسہم بالکفر (توبہ: ۱۷)“ کہ جو اپنے اوپر گواہ ہیں کفر کے۔ کچھ کی تفسیر میں علامہ آلوسی صاحب (تفسیر روح المعانی ج ۳ ص ۵۸) میں فرماتے ہیں کہ اپنے نفس پر کفر کے گواہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان سے وہ باتیں ظاہر اور صادر ہیں جو ان کے کفر کو ثابت کر رہی ہیں۔ اگرچہ وہ اپنی زبان سے یہ نہ کہتے ہوں کہ ہم کافر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انسان کے مشرکانہ اور کافرانہ افعال خود اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ خواہ زبان سے وہ کچھ ہی دعویٰ کرتا ہو۔ اس جگہ پر قرآن حکیم نے صرف منفی ہی پہلو بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ مثبت انداز میں بحیثیت قانون یہ واضح فرمادیا کہ مسجدیں بنانے کا حق صرف اہل ایمان کو ہے اور اس کے ساتھ اقام الصلوٰۃ و اتی الزکوٰۃ فرمایا گیا۔ اس سے غرض یہ ہے کہ ان اہل ایمان کو جن کا مقصد دین اسلام کو مجموعی طور پر قائم کرنا ہو اور ظاہر ہے کہ احکام دین کی اسی صورت میں اتباع اور ان کی اقامت ہو سکتی ہے۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہیں ہو تو ایک نئی شریعت اور متبادل دین اور علیحدہ مذہب اختیار اور اختراع کرنے والی ہوئی۔ چنانچہ قادیانیوں نے اپنے قبرستان علیحدہ بنا کر اپنی مسجدیں جدا تعمیر کر کے خود اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم امت مسلمہ سے علیحدہ ہیں۔ وہ امت مسلمہ جس کو تمام دنیا مسلمان کہتی ہے۔ اس سے ہمارا موت و حیات میں کوئی واسطہ نہیں۔

الغرض یہ روشن اور طریقہ ان کے کفر کا کھلا ہوا ثبوت ہیں اور یہ بھی قادیانیوں پر تمام وکمال صادق آ رہے ہیں اور اگر یہ لوگ کسی عمارت کو مسجد کے عنوان سے بتائیں تو اس بارہ میں علامہ آلوسی کی یہ تصریح کافی ہے۔ فرماتے ہیں بعض سلف مفسرین کا اس آیت کی تفسیر میں یہ قول ہے کہ ایسے لوگ اگر کوئی عمارت بتائیں تو یہ مجال ہے کہ اس کا نام مسجد قرار دیا جائے۔

(روح المعانی ج ۳ ص ۵۸)

قرآن شریف نے صرف اسی قانون پر اہتمام نہیں فرمائی۔ بلکہ غیر مسلموں کے لئے مساجد کا داخلہ بھی ممنوع قرار دیا فرمایا گیا: ”یا ایہا الذین امنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم هذا وان خفتم عیلة فیسوف ینفیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم (توبہ: ۲۸)“

اے ایمان والو! سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ مشرک نجس (پلید) ہیں۔ سوز و یک نہ آنے پائیں مسجد حرام کے اس سال کے بعد اور اگر تم کو ڈر ہو۔ فقر و تنگ دستی کا تو اللہ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا اگر وہ چاہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔

نجس کا لفظ عام ہے جو ظاہری اور معنوی ہر قسم کی نجاست کو شامل ہے۔ امام راغب نے فرمایا۔ اس میں وہ نجاست بھی داخل ہے جو آنکھ، ناک یا ہاتھ وغیرہ سے محسوس ہو اور وہ بھی جو علم اور عقل کے ذریعے معلوم ہو۔ اسی وجہ سے ان معنوی نجاست کو بھی نجس کہا جاتا ہے۔ جن کی گندگی اور نجاست کا حکم شریعت کے ذریعے معلوم ہوا اور اس پر وضو یا غسل واجب کیا گیا اور اسی کے ساتھ ان باطنی نجاست کو بھی شامل ہے۔ جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ جیسے عقائد فاسدہ اور اخلاق رذیلہ اور جب کوئی قوم جموں نے نبی کی پیروی کر کے اسلام سے خارج ہوگئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نجاست و گندگی ہوگی۔ آیت کا مفہوم ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے بعد اس وحی الہی کے ذریعے یہ اعلان کر دیا کہ مشرکین نجس ہیں۔ اس سال کے بعد آئندہ کوئی مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں آسکتا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ابو بکر صدیق کو امیر المہاجرین بنا کر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس حکم خداوندی کا جا کر حرم میں اعلان کر دو۔ ابو بکر صدیق اور پھر حضرت علیؑ گئے اور ہر موقعہ پر اس اعلان کو نشر کیا گیا۔

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب (تفسیر معارف القرآن ج ۳ ص ۳۵۲) پر فرماتے ہیں۔ ”آیت مذکورہ میں جو حکم دیا گیا کہ کوئی مشرک آئندہ مسجد حرام کے قریب

بھی نہیں آسکتا۔ اس میں تین باتیں غور طلب ہیں کہ یہ حکم مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہے یا دنیا کی دوسری مسجدیں بھی اسی حکم میں داخل ہیں اور اگر مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہے تو کسی مشرک (یا غیر مسلم) کا داخلہ مسجد حرام میں مطلقاً ممنوع ہے یا صرف حج اور عمرہ کے لئے داخلہ کی ممانعت ہے۔ ویسے جاسکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ آیت میں یہ حکم مشرکین کا بیان کیا گیا ہے۔ کفار اہل کتاب بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں؟

ان تفصیلات کے متعلق الفاظ قرآنی چونکہ ساکت ہیں۔ اس لئے اشارات قرآن اور روایات حدیث کو سامنے رکھ کر ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق احکام بیان فرمائے۔ اس سلسلہ میں پہلی بحث اس بارے میں یہ ہے کہ قرآن کریم نے مشرکین کو نجس کس اعتبار سے قرار دیا ہے۔ اگر ظاہری نجاست یا جنابت وغیرہ مراد ہے تو ظاہر ہے کہ کسی مسجد میں نجاست کا داخل کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح جنابت والے شخص یا حیض و نفاس والی عورت کا داخلہ کسی مسجد میں جائز نہیں اور اگر اس نجاست سے مراد کفر و شرک کی باطنی نجاست ہے تو ممکن ہے کہ اس کا حکم ظاہری نجاست سے مختلف ہو۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ فقہاء مدینہ امام مالک وغیرہ نے یہ فرمایا ہے کہ مشرکین ہر معنی کے اعتبار سے نجس ہیں۔ ظاہری نجاست سے بھی عموماً اجتناب نہیں کرتے اور جنابت وغیرہ کے بعد بھی غسل کا بھی اہتمام نہیں کرتے اور کفر و شرک کی باطنی نجاست تو ان میں ہے ہی۔ اس لئے یہ حکم تمام مشرکین اور تمام مساجد کے لئے عام ہے اور اس کی دلیل میں عمر بن عبدالعزیز کا وہ فرمان پیش کیا جس میں انہوں نے امراء (حکام) بلاذکو یہ حکم بھیجا تھا کہ کفار کو مساجد میں داخل نہ ہونے دیں اور اس فرمان میں اسی آیت کو بطور دلیل تحریر فرمایا تھا۔

نیز یہ کہ حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے: "انسی لا احل المسجد لحائض ولا جنب" کہ جس کسی حائضہ عورت یا جنبی شخص کے داخل ہونے کو حلال نہیں سمجھتا اور ظاہر ہے کہ مشرکین و کفار عموماً حالت جنابت میں غسل کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ان کا داخلہ مساجد میں ممنوع ہے۔

امام شافعی نے فرمایا کہ یہ حکم مشرکین و کفار اور اہل کتاب سب کے لئے عام ہے۔ مگر مسجد حرام کے لئے مخصوص ہے۔ دوسری مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں۔ (قرطبی) اور دلیل میں تلمتہ بن اثال کا واقعہ پیش کیا جن کو مسلمان ہونے سے قبل گرفتاری کے بعد مسجد نبوی کے

ستون سے باندھ دیا تھا۔ امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے کی ممانعت کا یہ مطلب ہے کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

حضرات حنفیہ نے کسی شدید ضرورت اور مجبوری کے باعث غیر مسلم کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے اور یہ واقعہ ثلمتہ بن اٹال کا اور اسی طرح نصاریٰ نجران کے وفد کا مسجد نبوی میں آنے کا ان احکام اور آیات کے نزول سے قبل کا ہے۔ کیونکہ یہ آیت ۹ ہجری میں نازل ہوئی اور یہ واقعات اس سے بہت پہلے کے ہیں۔ پھر یہ کہ نصاریٰ نجران کے وفد کا مسجد میں آنا ان کی عبادت کے لئے نہیں تھا۔ وہ تو صرف گفتگو کے لئے تھا۔ یہ قطعاً بے بنیاد اور خلاف حقیقت ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ ﷺ نے نصاریٰ کو ان کے طریقہ کے مطابق مسجد میں عبادت کی اجازت دی تھی۔ علیٰ ہذا القیاس ثلمتہ کو ایک قیدی کی حیثیت سے مسجد میں باندھا گیا تھا۔ اس طرح کے تو اتفاقی واقعات ہیں۔ حیوان اور اونٹ کا بھی مسجد میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ جس کی بناء پر امام بخاری نے صحیح بخاری میں حیوان کے مسجد میں داخل ہونے کا ایک باب قائم کیا۔

الغرض یہ ثابت ہوا کہ کفر و شرک کی نجاست حوسی لحاظ سے بھی ہے اور شرعی لحاظ سے بھی۔ اس کے ہوتے ہوئے یہ درست نہیں کہ مسجدوں میں داخل ہونے کی غیر مسلموں کو اجازت دی جائے۔ (احکام القرآن للجصاص جلد دوم ص ۸۸) پر تصریح ہے کہ ثقیف کا وفد حج مکہ ہی کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ آیت ۹ ہجری میں نازل ہوئی۔“

یہ بات بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ قادیانیوں کو حج بیت اللہ اور حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں اور یہ بات حکومت پاکستان نے بھی تسلیم کر رکھی ہے۔ چنانچہ حج فارم میں یہ تصریح کرنی ہوتی ہے اور اس بیان و ثبوت پر ویزا جاری ہوتا ہے کہ یہ شخص قادیانی نہیں۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ مسجدوں میں ان کا داخلہ ممنوع ہوا اور اس طرح ان کو کوئی حق نہیں رہا کہ وہ مسجد میں تعمیر کریں اور مسلمانوں کی طرح نماز پڑھیں۔ کیونکہ نماز اسلام کی نشانی ہے۔ جب ایک گروہ اسلام سے خارج ہے اور یہ خارج از اسلام ہونا صرف علمی تحقیقی اعتقادی اور مذہبی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ قانون اسلام کو ملک کے فیصلے سے اور شرعی فیصلے کو حکومت پاکستان کی قرارداد اور فیصلہ کرنے کا مقام حاصل ہو چکا۔ جس کی وجہ سے اس فیصلہ کو قانون ہی کی حیثیت میں سمجھنا ہوگا۔ یہ بات نہایت ہی بعید از فہم ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ جب

ملک کے آئین میں ہر شخص کو اپنے مذہب اور عقیدے کے اظہار کی آزادی ہے تو ہم کو اسلام کے اظہار اور اس چیز سے ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیسے روکا جاسکتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے اور ہم اس کو ظاہر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

اول تو اس لئے کہ جس ملک کا مذہب اسلام ہو اس ملک میں اسلامی فیصلہ کو خود بخود قانونی حیثیت حاصل ہے اور پھر جب کہ آئین میں ترمیم کے ساتھ اس کو حتمی فیصلہ کی نوعیت سے جاری کر دیا گیا ہے تو قانون اسلام ہونے کے ساتھ یہ ملک کا بھی قانون ہو گیا۔

یہ بات کہ ہر ایک کو اپنے عقیدے کے اظہار کی آزادی ہے۔ یہ درست ہے۔ لیکن جس عقیدے کا اظہار اعلان اس حکومت کے فیصلہ اور قانون کے صریح خلاف بلکہ اس کا مقابلہ اور بغاوت ہو۔ اس کو کیسے برداشت کیا جاسکتا ہے۔ اس کا نام حقوق مذہب کی آزادی قرار دینا کسی بھی دانشمندانہ انسان کے نزدیک لائق توجہ امر نہیں۔

تو اس صورتحال میں کہ مسجدیں اسلام کا نشان ہیں اور مسلمان ہی کی عبادت گاہ کا نام مسجد ہے۔ قادیانیوں کو نہ مسجد بنانے کا حق ہو سکتا ہے اور نہ اپنی مسجدوں کا نام مسجد رکھ سکتے ہیں اور نہ ان کو قبلہ رخ بنا سکتے ہیں۔

جب حکومت پاکستان قادیانیوں کو حج سے روکنے کو اس قرارداد کے نتائج میں سے سمجھتی ہے۔ اس بنیاد پر حج بیت اللہ مسلمان کی عبادت کا نام ہے۔ اسی وجہ سے غیر مسلم حج نہیں کر سکتا۔ علیٰ ہذا القیاس نماز بھی اسلام ہی کا رکن خاص ہے اور دین اسلام کا خصوصی نشان ہے۔ اس لئے قانونی طور پر نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہونا چاہئے۔

مسجدیں صرف مسلمانوں کی ہوتی ہیں۔ اس کے لئے قرآن کریم کی واضح تصریح اس امر کو ثابت کر رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: "وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمْتُ صَوَامِعَ وَبِيَعٍ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدَ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا (الحج: ۳۰)" اور اگر نہ ہوتا اللہ کا ہٹانا لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعہ تو ڈھادیے جاتے صوامع یعنی (یہود کی خانقاہیں) اور کلیساؤں گرجے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ کثرت سے۔ ﴿

احکام القرآن روح المعانی اور تفسیر خازن میں یہ تصریح ہے کہ اس آیت میں مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں کے نام بیان کر کے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ راہبوں کے خانقاہ صوامع اور یہود

کے عبادت خانے صلوات اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں بیچ یعنی کلیسا (گرجا) ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہی ثابت ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر صرف مسلمانوں کا حق ہے اور کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں ہو سکتا۔ رہی یہ بات کہ اصحاب کہف کے قصے میں یہ مضمون: "قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجداً (الکھف: ۲۱)" ﴿کہ کہا ان لوگوں نے جو اپنے معاملہ پر غالب رہے کہ البتہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔﴾

مسجد کا اطلاق قبل از اسلام ایک ملت میں بولا گیا اور قبل از اسلام جو ادیان ساویہ اپنی اصلی ہیئت اور تعلیم پر برقرار رہے۔ ان کی اصلی بنیاد اور روح دراصل اسلام ہی کی روح ہے اور اسلام تمام ہدایات حقہ اور تعلیمات ساویہ کا لب لباب اور جوہر اور مجموعہ ہے۔ لیکن اسلام کے بعد جب قرآن نے دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا اس میں لفظ مسجد خاص طور پر مسلمانوں کی عبادت گاہ کے واسطے مخصوص کیا گیا۔ اس وجہ سے یہی ثابت ہوا کہ قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنے کا کوئی جواز اس قرآنی وضاحت کے بعد باقی نہیں رہتا۔ یہ لوگ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود بھی کہتے ہیں۔ اس لئے مناسب ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو بیوت اسح قرار دیں۔ یا ہر عبادت گاہ کو دارالکعبیت کہیں۔ یا ایسا ہی کوئی اور مناسب نام اور اگر قادیانی کہنے میں کوئی عار محسوس کریں تو مسیح موعود کی طرح منسوب ہونے کے باعث اپنا نام سچی رکھیں۔ کیونکہ مسلمان تو وہی ہوگا جو اسلام کے تمام اصول پر بنیادی باتوں کو ماننا ہو اور اس کا کلمہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" ہو۔ مگر وہ قوم جس نے اپنا نیا پیغمبر تجویز کر لیا ہو اور کلمہ بھی احمد رسول اللہ متعین کر لیا ہو۔ (جس کے بیوت موجود ہیں) اب ان کو کوئی حق نہیں کہ خود کو مسلمان کہیں۔ یہ فلسفہ کوئی عقل والا نہیں سمجھ سکتا کہ اسلام کی بنیاد کو ختم کر ڈالیں اور تمام دنیا کے مسلمانوں سے جدا عبادت گاہیں بنائیں۔ قبرستان علیحدہ کر لیں تو جب سب باتیں علیحدہ کر لی گئیں تو پھر اس کا کیا جواز رہ گیا کہ وہ یوں کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو مسلمان کے ساتھ نماز پڑھتے۔ مسلمانوں کی مسجدوں کو اپنی مسجد سمجھتے۔ مسلمانوں کے پیغمبر کے علاوہ اور کوئی پیغمبر تجویز نہ کرتے۔ یہ بات تو ایسی ہی ہو گئی کہ کوئی شخص تو حید خداوندی کا انکار کر دے یا یوں کہنے لگے کہ فلاں خدا ظلی اور بروزی خدا ہیں اور میں یہ دوسرا ظلی اور بروزی خدا کا قائل ہونے سے اصل خدا کا منکر نہیں۔ بلکہ موجد ہی ہوں اور میرا اسی پر ایمان ہے تو اس تمسخر اور خلاف عقل بات کو کوئی گوارا

تک نہیں کرے گا اور پھر بھی یہ کہے کہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ بالکل یہی حال مرزائیوں اور قادیانیوں کا ایمان بالرسالت کے معاملہ میں ہے یا ایسا سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص آتش پرستی کرتا ہو یا بتوں کو سجدہ کرتا ہو اور پھر بھی اس کا اصرار ہو کہ مجھے مسلمان کہو اور یہ میرا اپنا عقیدہ ہے۔ خواہ قانون کی نظر میں اس کو مشرک یا آتش پرست کہا جائے اور یہی حال قادیانیوں کا ہے کہ ختم نبوت کا انکار یا خاتم الانبیاء کے بعد کسی اور پیغمبر کے وجود کا تصور انسان کو دین اسلام سے اسی طرح خارج کر دیتا ہے جیسے کہ بت پرست یا آتش پرستی سے آدی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ منطقی کوئی عقل والا کیسے سن سکتا ہے کہ ایک شخص میں اسلام سے خارج ہو جانے کی علت پائے جانے کے بعد بھی دعویٰ کر رہا ہو کہ نہیں میں اسلام سے خارج نہیں۔ بلکہ میں مسلمان ہوں اور یہ میرا عقیدہ ہے۔

الغرض اس قانونی میعاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ جس فرقہ کا حکم اور فیصلہ قازنی اور شرعی خارجی از اسلام ہونے کا ہو چکا ہو اس کو مسلمان کہنے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ ان حالات میں ایسی جماعت کا اپنے اسلام کا دعویٰ کھلم کھلا قانون اور ملک کے فیصلہ کے ساتھ بغاوت کے مترادف ہے۔ رہی یہ بات کہ کوئی یہ کہے کہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: "سن صلی صلواتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ رسوله (البخاری ج ۱ ص ۵۶، مشکوٰۃ المصابیح)" کہ جس شخص نے ہم جیسے نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کا استقبال کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ شخص تو ایسا مسلمان ہے جس کے واسطے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے۔ ﴿

اور اس بناء پر کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور قبلہ کا استقبال کرتا ہوں۔ لہذا میں مسلمان ہوا اور مجھ کو مسلمان شمار کرنا چاہئے۔ تو یہ استدلال بھی نہایت ہی بعید از عقل و قانون ہے۔ کیونکہ قادیانیوں کی نماز ہماری نماز یعنی مسلمانوں کی نماز ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری نماز تو وہ ہوگی جو ہماری مسجد میں ہو۔ ہمارے ساتھ ہو ہمارے امام کے پیچھے ہو اور ہمارے جیسے اعتقاد کے ساتھ ہو۔ جب ہر چیز میں قادیانی جدا ہو گئے اعتقاد میں جدا، مسجد میں جدا، نمازیوں سے علیحدہ، امام بھی علیحدہ تو عجب بات ہے کہ جب سب کچھ علیحدہ ہو گیا تو پھر ان کی نماز مسلمانوں جیسی نماز کہاں ہوئی۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ جو شخص ہمارے جیسی نماز پڑھے اور یقیناً قادیانیوں کی نماز ہی ہماری نماز کہلانے کی کسی حیثیت سے مصداق نہیں ہو سکتی۔ پھر جب کہ قادیانی کے نزدیک دنیا کے کل

مسلمان اس بناء پر کہ وہ مرز غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے ذم میں کافر ہیں تو ان کی نماز ہماری جیسی نماز کیونکر ہوگی تو کیا کافروں جیسی نماز سے انسان مسلمان کہلائے گا۔

الغرض! یہ نہایت واضح اور سیدھی بات ہے۔ جب تک تمام دنیا کے مسلمان، مسلمان ہیں۔ کوئی قادیانی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر کوئی طاقت ایسی ہے کہ کل دنیا کے اسلام کے مسلمانوں کا کفر ثابت کر دے تو پھر اس کا امکان ہوگا کہ کسی قادیانی کو مسلمان کہا جاسکے اور اس امر کا فیصلہ چوہدری ظفر اللہ قادیانی نے کر دیا۔ جب کہ انہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی اور اس موقع پر موجود ہوتے ہوئے بھی نماز میں شریک ہونے کے بجائے ان لوگوں کی جگہ بیٹھے رہے۔ جہاں غیر مسلم سزاء اور زعماء تھے۔ جب دریافت کیا گیا کہ قائد اعظم کے جنازے میں کیوں نہیں شریک ہوئے۔ جواب دیا اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ میں تو کافر حکومت کا ایک مسلمان وزیر ہوں۔ تو چوہدری ظفر اللہ قادیانی نے اس وجہ کو بیان کر کے یہ اعتراف کر لیا اور ثابت کر دیا کہ قادیانی اور غیر قادیانی دونوں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک ہی مسلمان ہو سکتا ہے اور دوسرا کافر ہوگا۔

اس لئے اس فیصلہ کی رو سے جب تک دنیائے اسلام کے مسلمان مسلمان ہیں کوئی قادیانی مسلمان نہیں کہلایا جاسکتا اور اس بات کے واسطے کہ قادیانی شخص کو مسلمان کہا جاسکے۔ پہلے تمام دنیا کے مسلمانوں کے کفر کو ثابت کرنے کے لئے تیار ہونا پڑے گا۔

عدالت عالیہ کیا اس جسارت کا اندازہ نہیں لگاتی کہ کس بے باکی کے ساتھ ایک جھوٹے نبی کی نبوت پر ایمان نہ لانے کی بناء پر دنیا کے کل مسلمانوں کو کافر کہا جا رہا ہے تو اگر اس مفروضہ پر قادیانی شخص روئے زمین کے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک سچے برحق پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین کی ختم نبوت کا انکار کر۔ نہ والے اور ان کے فرمان کا کفر کرنے والوں کو کافر نہ کہا جائے اور پھر یہ کیا بوجھ ہے کہ کفر کا ارتکاب ہو۔ ہزاروں دلائل اور براہین سے کفر ثابت ہو چکا ہو اور پھر بھی دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں۔

دنیا میں کوئی قانون اس بات کے جواز کا تصور نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر مذہب کے شعائر اور خصوصی نشانات ہوتے ہیں اور ان ہی چیزوں کو اس مذہب کی نشانی اور امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ نماز، مسجد اسلام کا شعار اور خصوصیت ہے۔ تو جو گروہ اسلام سے خارج



ہے اس کو کیسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان خصوصیات کو اختیار کرے۔ اگر فوج کا باغی اور غیر فوجی فوجی لباس پہن لے تو قانوناً مجرم ہے اور سزا کا مستحق ہے تو مسلمانوں کے شعائر صرف وہی اختیار کر سکتا ہے جو مسلمان ہو۔

اس سلسلہ بحث میں کہ کیا غیر مسلموں کو اسلامی شعائر اور خصوصیات کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ ہم ایک بہت اہم اور روزنی دستاویز کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں وہ اہم دستاویز امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کا وہ معاہدہ ہے جو شام ”مدینة کذا و کذا انکم لما قدمتم علینا سالناکم الامان لانفسنا و ذرا رینا و اموالنا و اهد ملتنا و شرطنا لکم علی انفسنا ان لا تحدث فی مدینتنا و لا فیما حولها دیراً و لا کنیسة و لا قلیة و لا صومعة راهب و لا نجدو ما خرب منها و لا نحی منها ماکان خطأً للمسلمین و ان لا نمنع کناثسنا ان یفز لها احد من المسلمین فی لیل او نهار و ان نوسع ابوابها للمارة و ابن السبیل و ان نازل من مربنا من المسلمین ثلاثة ایام نطعمهم و لا نوؤی فی کناثسنا و لا منازلنا جاسوساً و لا نکتم غشا للمسلمین و لا نعلم اولادنا القرآن و لا نظهر شرکا و لا ندعو الیه احداً و لا نمنع احد من ذوی قرابتنا الدخوال فی الاسلام ان ارادوه و ان نو قر المسلمین و ان نقوم لهم من مجالسنا ان ارادو الجلوس و لا نتشبه بهم فی شیء من ملبسهم فی قلنسوه و لا عمامة و لا نعلین و لا فرق شعر“

جس کو حافظ محمد شین نے عبدالرحمن بن غنم الاشعری کی سند سے روایت کیا ہے کہ میں

عمر فاروق کا وہ معاہدہ لکھا تھا اور ان سے شام کے نصاریٰ نے کہا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ معاہدہ ہے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کے لئے فلاں فلاں علاقہ کے نصاریٰ کی طرف سے کہ آپ لوگ ہمارے یہاں آ کر اترے (یعنی فتح کے بعد) اور ہم نے آپ سے امن طلب کیا اپنی جانوں کے نصرائیوں سے انہوں نے قبول کیا اور اس پر اس کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے جملہ عملی شعبوں میں اس کی پابندی کریں گے۔

اس معاہدہ کا متن حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی نے اپنی کتاب ”البدایہ والنہایہ“ اور تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے۔ معاہدہ کا متن آئندہ آتا ہے۔ تو پھر ان حالات میں

شرعی اصول قرآنی تصریح اور حکومت پاکستان کے فیصلہ کی رو سے یہ ممکن ہی نہیں کہ مرزائیوں کو خواہ وہ قادیانی ہوں یا لاہوری مسجدوں کی اجازت دی جائے۔

اس آیت کی تفسیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہم اللہ نے اپنی تفسیر کی جلد ثانی ص ۱۱۷، ۱۱۸ پر امیر المؤمنین عمر فاروق کا ایک معاہدہ نقل کیا ہے جو انہوں نے شام کے نصاریٰ سے کیا۔ اس معاہدہ کی رو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی اسلامی سلطنت میں اقلیت کے حقوق کیا ہیں اور ان پر کس طرح کی پابندی عائد ہے اور کیا کیا کام کرنے کا ان کو استحقاق ہے۔ اس معاہدہ کو ائمہ محدثین نے عبدالرحمن بن غنم کی سند سے روایت کیا ہے۔ جس کا متن حسب ذیل ہے۔

”وذلك مما رواه الاثمة الحفاظ من رواية عبدالرحمن بن غنم الاشعري قال كتبت الي عمر بن الخطاب حين صالح نصارى من اهل الشام“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”هذا کتاب لعبد الله عمر امير المؤمنين من نصارى“ اور اپنی ذریت اور اپنے مالوں کے لئے اور (اس بناء پر) ہم نے اپنے اوپر اس بات کی پابندی قبول کی ہے کہ ہم اپنے شہر اور شہر کے اطراف میں کوئی گرجا نہیں تعمیر کریں گے اور نہ راہبوں کی کوئی خانقاہ و تعلیم گاہ اور جو عبادت گاہیں منہدم ہوں یا ان میں ٹوٹ پھوٹ ہو ہم اس کی تجدید بھی نہ کریں گے اور ایسی کوئی عمارت ہم مسلمانوں کے علاقہ میں بھی نہیں بنائیں گے اور ہم اپنے گرجاؤں کو مسلمانوں سے نہیں روکیں گے کہ اس چیز سے وہ ان میں ٹھہریں رات میں یا دن میں اور ان کے دروازے ہم کھلے رکھیں گے۔ گزرنے والے لوگوں اور مسافروں کے لئے اور جن مسلمانوں کو ہم ان میں دیکھیں گے ہم اس کو کھانا کھلائیں گے اور ہم اپنے گرجاؤں اور صعوموں میں کسی جاسوس کو پناہ نہیں دیں گے اور مسلمانوں کے لئے ہم کسی قسم کا کھوٹ اپنے دلوں میں نہیں رکھیں گے اور ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے اور نہ شرک کا اظہار کریں گے۔ یعنی نصاریٰ کے مشرکانہ طریقوں کا ہم کسی کے سامنے اظہار اعلان نہیں کر سکیں گے اور نہ ایسے شرک کی طرف کسی کو دعوت دیں گے اور ہم اپنے قرابت داروں میں سے کس کو اسلام میں آنے سے نہیں روکیں گے۔ اگر کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہے گا ہم مسلمانوں کی تعظیم و تکریم کریں گے اور ان کے احترام میں ہم اپنے مجلسوں سے اٹھا کریں گے اور ہم نہ ان کے لباس میں مشابہت اختیار کریں گے اور نہ ان کی ٹوپی اور عمامہ میں اور نہ جو تون میں اور نہ ہی سر کے بالوں اور مانگ میں۔

”ولا تكلم لكلامهم ولا نكتنى بكناهم ولا نركب السروج ولا فتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وان نجزم مقاريم رؤسنا وان نلزم زينا حيثما كنا وان نشد الزنا نير على اوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كناثسنا وان لا نظهر صليبنا ولا كتبنا في شئ من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا في كناثسنا الا ضربا خفينا وان لا نفرع اصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شئ من طرق المسلمين ولا اسواقهم ولا تجاورهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ماجرى عليه سهام المسلمين وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم“

”قال فلما اتيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا تضرب احدا من المسلمين شرطنا لكم ذلك على انفسنا واهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فان نحن خالفنا في شئ مما شرطناه لكم ووظفنا على انفسنا فلا ذمة لنا وقد حدلكم مناما يحل من اهل المعاندة والشقاق“ (تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۱۱۷، ۱۱۸)

اور نہ ان کے خصوصی الفاظ بولیں گے اور نہ ان کی کنیت اختیار کریں گے اور نہ زین پر سوار ہوں گے (یعنی اگر گھوڑے پر بیٹھنے کی ضرورت ہوگی تو بلا زین کے ان پر بیٹھیں گے۔ گویا اس طرح اپنے تدلل اور پستی کو ظاہر رکھیں گے) اور نہ تلواریں لٹکائیں گے اور نہ عربی الفاظ میں اپنی انگشتریوں پر نقش کندہ کرائیں گے نہ ہتھیار مہیا کریں اور نہ ان کو اپنی ساتھ اٹھائیں گے اور نہ شرابوں کی بیچ و شراء کریں گے اور نہ سر کے آگے کے حصے کے بال کاٹا کریں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنی خصوصی وضع برقرار رکھیں گے اور نہ اپنی پشت پر ڈالیں گے اور ہم صلیب کو اپنے گرجاؤں میں بھی نمایاں نہیں کریں گے اور نہ اپنے صلیب اور مذہبی کتابیں مسلمانوں کے راستوں اور بازاروں میں نمایاں کریں گے اور نہ اپنے گرجاؤں میں ناقوس بجائیں گے اور نہ ہم اپنے جنازوں کے ساتھ آوازیں بلند کریں گے اور نہ آگ روشن کریں گے۔ (جنازوں کے ساتھ جیسا کہ ان کا طریقہ تھا) مسلمانوں کے راستوں میں اور نہ بازاروں میں اور جو غلام مسلمانوں کے حصے میں آگئے ہیں ان سے ہم کوئی خدمت نہیں لیں گے اور مسلمانوں کو راستہ بھی بتائیں گے اور ایسے ہی مسلمانوں کے گھروں تک بھی پہنچائیں گے (اگر کوئی اس کا ضرورت مند ہوگا)

راوی بیان کرتے ہیں کہ جب میں یہ معاہدہ لکھ کر عمر فاروق کے پاس لایا تو آپ نے اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دیا کہ: ”ہم کسی مسلمان کو ماریں گے بھی نہیں۔ ہم نے یہ معاہدہ قبول کیا۔“ اس معاہدہ کے متن سے واضح طور پر یہ باتیں ثابت ہوئیں کہ غیر مسلم اقلیت کو تو خود اپنے مذہبی نشانات اور عبادت گاہوں کو نمایاں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی اور جو عبادت گاہیں پہلے سے موجود ہیں ان کی بھی نہ کوئی مرمت کی جائے گی اور نہ تجدید بلکہ اسی حالت پر باقی رہنے دیا جائے گا۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ اقلیت کو اس بات کا حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں کسی مسلمان کو آنے سے نہیں روکیں گے۔ جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ قادیانیوں نے جو عبادت گاہیں تعمیر کر رکھی ہیں وہ ان سے مسلمانوں سے نہیں روک سکتے۔ بلکہ ان کے حوالہ ہی کرنا چاہئے۔ اس معاہدہ میں اس بات کی تصریح کہ ہم مسلمانوں کو کسی چیز میں مشابہت نہیں اختیار کریں گے نہ ان کے لباس میں نہ ٹوپی اور عمامہ میں اور جوتے میں اور نہ سر کے بالوں میں اور نہ ان کلمات اور عبارتوں کے تلفظ میں جو مسلمانوں کے خصوصی کلمات و عبارات ہیں۔

اس معاہدہ میں یہ تصریح کہ وہ نہ تلواریں لٹکائیں گے اور نہ ہتھیار مہیا کریں۔ اس امر کو بخوبی ثابت کر رہی ہے کہ قادیانیوں کو اقلیت ہو جانے کے بعد کسی طرح کی مجاہدانہ اور رضا کارانہ تنظیم کی گنجائش نہیں۔ اس معاہدہ میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لباس اور وضع قطع میں ایسی چیزیں نمایاں کریں گے جس سے ان کا غیر مسلم ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اس بناء پر یہ ضروری ہے کہ قادیانیوں کے لباس اور ہیئت اس طرح ممتاز کر دی جائے کہ دیکھنے سے پہچانے جائیں کہ وہ غیر مسلم ہیں اور یہ بھی تصریح ہے کہ وہ اپنے مذہبی رسوم نہایت مخفی اور پوشیدہ انداز سے انجام دیں گے۔ ان کا اظہار اور نمائش نہیں کر سکیں گے۔ الغرض فاروق اعظم کے اس فیصلہ کی رو سے اور اس معاہدے کے متن سے واضح طور پر یہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ غیر مسلم اقلیت کو تو خود اپنے مذہبی نشانات کو نمایاں کرنے اور مذہبی رسوم کو پھیلانے اور اپنی کتابوں کی اشاعت و تقسیم کی اجازت نہیں۔

لہذا معلوم ہوا کہ قادیانیوں کو کس طرح یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے مذہبی خصوصیات اور اپنی کتابوں اور لٹریچر کی اشاعت کریں اور مسلمانوں کے طریقوں اور روایات میں کسی ایسی چیز کا اظہار کریں کہ اس سے وہ مسلمان سمجھے جائیں۔ اس معاہدے کی رو سے جو فاروق اعظم کے ساتھ یہودیوں نے کیا تھا۔ یہودیوں کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے گرجائے تعمیر کریں یا اس کی عمارت

کی تجدید کریں۔ تو اس بناء پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی مسجد تعمیر کریں۔ ان مساجد میں وہی کام انجام دیں جو ان کا موضوع ہے اور ظاہر ہے کہ مسجد بنا کر وہی کام کریں گے۔ جس کے وہ علم بردار ہیں۔ اس ضمن میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قادیانیوں کو ضروری ہے کہ وہ اپنے لباس اور ہیئت میں کوئی بات مسلمانوں کی سی اختیار نہ کریں۔ جب اقلیتی فرقہ لباس اور وضع قطع میں مسلمانوں سے امتیاز برقرار رکھنے کا پابند ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اصل عبادت گاہ میں مسلمانوں سے مشابہت اور ان کی مذہبی خصوصیات کو اختیار کرے۔ مسجدیں مسلمانوں کا مرکز عبادت ہیں اور مسلم قوم کی حیات اور اس کے ایمانی مقاصد کی تکمیل کے لئے مساجد ہی محور زندگی اور اساس مذہب ہیں تو یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے اسلام اس مرکز حیات کے ساتھ کافروں کے کفر کے مراکز کو مشابہت اور یکسانیت اختیار کرنے کی اجازت دی جائے۔

جب لباس وٹوپی اور سر کے بال میں التباس گوارا نہیں کیا گیا۔ تو اصل مرکز دین میں التباس کیسے برداشت کیا جاسکتا ہے۔ فاروق اعظمؓ کے اس معاہدہ کی رو سے کہ یہود اور نصاریٰ کو مسلمانوں جیسے الفاظ استعمال کرنے کا حق نہ ہوگا اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے خصوصی کلمات کا تکلم کریں گے۔ واضح طور سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کسی قادیانی کو اپنے متعلق لفظ مسلم کے اطلاق کی ہرگز اجازت نہیں ہو سکتی۔

اللہ نے صرف مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ ”هو سماءک المسلمین“ کہ اللہ نے صرف تمہارا ہی نام مسلمان رکھا ہے کہ جو قوم اپنے باطل عقیدہ کی رو سے خارج از اسلام ہے۔ اسے اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہو سکتا۔

عدالت عالیہ کو میں اس طرف خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کو نظر انداز نہ کرے کہ ایک گروہ اصول اسلام کا منکر ہونے کے باوجود آخر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر کیوں مصر ہے؟ ظاہر ہے کہ جس طرح وہ خود ایسی گمراہی میں مبتلا ہوا جس کی بناء پر وہ خارج از اسلام ہوا۔ وہ اپنا نام مسلمان قرار دے کر دوسروں کو بھی اسی گمراہی میں پھنسانے کے لئے صرف اسی نام سے کسی کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کہ خارج از اسلام ہونے کی صورت میں اسلام کا دعویٰ اور اپنے کو مسلمان کہنا بدترین جرم ہے۔ اسی طرح کفر کے داعی کو مسجد کے عنوان سے کوئی عمارت سے بنا کر قطعاً مسجد ضرار والی بات ہے جو منافقین نے مسجد کے نام پر ایک اڈہ کفر کا اور مسلمانوں میں تفریق اور پھوٹ ڈالنے کے لئے بنایا تھا۔ جس کا ذکر

قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے۔

”والذین اتخذوا مسجد اضزار وكفراً وتفریقاً بین المؤمنین  
وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنی  
والله یشهد انهم لكاذبون (توبہ: ۱۰۷)“

اور جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضد پر اور کفر پر اور پھوٹ ڈالنے کے لئے مسلمانوں میں  
اور مورچہ بنانے کے لئے ان لوگوں کے واسطے جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر رہے ہیں۔  
پہلے سے اور وہ قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی اور نیکی کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا اور خدا  
گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔

علامہ آلوسی اور دیگر مفسرین نے اس مسجد ضرار کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ  
آنحضرت ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو پہلے آپ چند روز مدینہ سے باہر  
قباء میں ٹھہرے جو بنو عمرو بن عوف کی جگہ تھی۔ اسی جگہ آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور پھر اس کی  
تعمیر ہوئی۔ آنحضرت ﷺ کو اس مسجد سے بہت زیادہ تعلق اور محبت تھی اور آپ کا مدینہ منورہ  
تشریف لانے کے بعد یہ معمول رہا کہ ہفتے کے روز وہاں تشریف لے جا کر دو رکعت نماز پڑھا  
کرتے۔ چنانچہ احادیث میں اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی گئی۔ بعض منافقین نے یہ چاہا کہ اس  
مسجد کے نزدیک ایک ایسا مکان بنائیں جس کا نام مسجد رکھیں۔ اس میں اپنی علیحدہ جماعت  
ٹھہرائیں اور جن سادہ لوح مسلمانوں کو بہکایا جاسکے۔ ان کو مسجد قباء سے ہٹا کر اس طرف لے  
آئیں اور گویا اس طریقہ سے ان کا رشتہ اسلام اور اسلام کے مرکز سے جدا ہو جائے۔ ان کو یہ بات  
ایسے سازشی مقاصد کی تکمیل کے لئے بہت مناسب معلوم ہوئی اس کا نام مسجد رکھا جائے۔ کیونکہ  
مسجد کے تقدس کو ملحوظ رکھنے کے باعث ان کے ناپاک ارادوں اور ان کی سازشوں میں کوئی رکاوٹ  
نہ ہوگی اور بڑے تحفظ کے ساتھ مسجد کا عنوان دے کر اسلام کی بیخ کنی کرتے رہیں گے۔ دراصل  
اس ناپاک سازش کا اصل محرک ایک شخص ابو عامر خزرجی تھا۔ ہجرت سے پہلے اس شخص نے نصرانی  
بن کر رہا نہ زندگی اختیار کی تھی۔ مدینہ منورہ اور قرب و جوار کے لوگ خصوصاً قبیلہ خزرج والے اس  
کے زہد و درویشی کے رنگ کو دیکھ کر بڑے معتقد ہو گئے تھے اور کافی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔  
آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری پر جب ایمان و عرفان کا آفتاب چمکنے لگا تو اس کی درویشی کا بھرم  
لوگوں پر کھلنے لگا۔ ابو عامر اس صورت حال کے باعث عداوت اور حسد کی آگ سے بھڑک اٹھا۔

آنحضرت ﷺ نے اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگا کہ اصل ملت ابراہیمی پر تو میں پہلے سے قائم ہوں۔ حقیقی ملت ابراہیمی والا اسلام تو میرے پاس ہے۔ اس لئے مجھے ضرورت نہیں کہ مزید کوئی چیز اختیار کروں۔

آنحضرت ﷺ نے اس کی تردید فرمائی اور نصیحت کی تو بجائے صحیح اثر قبول کرنے کے غصہ میں برا فروختہ ہو کر کہنے لگا۔ ہم میں سے جو جو ہونا ہو خدا اس کو غربت دے کسی کی موت مارے آپ نے اس پر فرمایا۔ آمین!

جنگ بدر کے بعد جب اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور مسلمانوں کا عروج حاسدوں کی نگاہوں کو خیرہ کرنے لگا تو ابو عامر کو برداشت نہ ہو سکی تو بھاگ کر مکہ پہنچا۔ تاکہ کفار مکہ کو مقابلہ کے لئے آمادہ کرے۔ اسی وجہ سے معرکہ احد میں خود بھی کفار مکہ قریش کے ساتھ آیا۔ پہلے تو اس نے آگے بڑھ کر انصار مدینہ میں سے جو اس کے معتقد تھے ان کو خطاب کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ اس اجتناب نے یہ نہ سمجھا کہ جن ہستیوں کو انوار نبوت نے منور کر دیا ہے ان پر اب اس کا پرانا جادو کیسے چل سکے گا۔ آخر وہ انصار جو اس کی پہلے تو تعظیم کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اس طرح مخاطب ہوئے اور فاسق دشمن خدا تیری آنکھ کبھی ٹھنڈی نہ ہو۔ کیا رسول خدا کے مقابلے میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ انصار کا یہ مایوس کن جواب سن کر کچھ حواس ٹھکانے آئے۔ لیکن غیظ و غضب میں برا فروختہ ہو کر کہنے لگا۔ اے محمد (ﷺ) آئندہ جو قوم بھی تمہارے مقابلہ کے لئے اٹھے گی میں برابر اس کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ غزوہ حنین ۸ ہجری تک ہر معرکہ میں کفار کے ساتھ رہا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ احد میں اسی کی خیافت اور شرارت سے آنحضرت ﷺ کے چہرہ انور پر زخم آیا تھا اور دندان مبارک بھی شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس نے دونوں صفوں اور مورچوں کے درمیان گڑھے کھدوادیئے تھے۔ حنین کے بعد جب ابو عامر نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب عرب کی کوئی طاقت اسلام کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تو بھاگ کر شام پہنچا اور منافقین مدینہ (جو اس کی تیار کردہ جماعت تھی وہ اپنے کو مسلمان کہا کرتے۔ نمازیں بھی پڑھتے۔ قرآن کی آیات بھی پڑھا کرتے اور ہر طرح سے اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کرتے) کو خط لکھا کہ میں قیصر روم سے مل کر ایک لشکر جبرائیل (ﷺ) کے مقابلہ کے لئے بھیج رہا ہوں۔ جو چشم زدن میں مسلمانوں کو ختم کر ڈالے گا۔ تم لوگ فی الحال ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ۔ جہاں نماز کے عنوان سے جمع ہوا کرو۔ تاکہ وہاں اسلام کے خلاف سازشیں اور مشورہ ہو سکیں اور میرے قمام

خطوط وغیرہ قاصد تم کو وہیں پہنچایا کرے گا اور میں بذات خود آؤں تو سب سے ملاقات کو ایک موزوں یعنی قابل اطمینان اور مامون جگہ ہو۔

یہ تھے خمیشت مقاصد جن کے لئے یہ مسجد ضرار تعمیر ہوئی۔ یہ منافقین حضور ﷺ کے روبرو حاضر ہوئے اور بڑی ہی قسمیں کھائیں کہ یا رسول اللہ اس مسجد کی تعمیر میں ہمارا یہ مقصد ہے کہ بارش اور سردی کے زمانے میں بیماروں، ضعیفوں کو مسجد قباء تک پہنچنے میں دشواری ہوگی۔ اس لئے ہم نے یہ مسجد بنا دی ہے تاکہ نمازیوں کو سہولت ہو اور مسجد قباء میں جگہ کی قلت بھی لوگوں کو ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ حضور ﷺ ایک مرتبہ چل کر وہاں نماز پڑھ لیں تو ہمارے واسطے موجب برکت اور سعادت ہوگا اور ظاہر ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر حضور ﷺ وہاں ایک دفعہ بھی تشریف لے گئے تو پھر سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانا آسان ہوگا۔ آپ ﷺ اس وقت غزوہ تبوک کے لئے پاریکاب تھے۔ فرمایا اب تو میں تبوک کے لئے روانہ ہو رہا ہوں۔ واپسی پر دیکھا جائے گا۔ یا یہ لفظ فرمایا۔ ایسا ہو سکے گا۔ آنحضرت ﷺ جب تبوک سے واپس ہو کر بالکل مدینہ منورہ سے قریب پہنچ گئے تو جبرائیل امین یہ آیات لے کر آئے۔ جن میں منافقین کی ناپاک اغراض پر مطلع کر کے مسجد ضرار کا پول کھول دیا گیا۔ آپ ﷺ نے مالک بن نوخم اور معن بن عدیؓ کو حکم دیا کہ اس مکان کو جس کا نام ازراہ خداع و فریب مسجد رکھا ہے۔ گرا کر پوندز مین بنا دو۔ انہوں نے فوراً تعمیل کی اور اس مکان کو جلا کر خاک بنا دیا اور ابو عامر منافق اور اس کے ٹولے کے سب ارمان خاک میں مل گئے۔

اس آیت میں مسجد مذکور کے بنانے کی تین غرضیں ذکر کی گئیں۔ اول! ضرار یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے۔ ضرار کے معنی دوسرے کو نقصان پہنچانا خواہ خود کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ چونکہ یہ مسجد اس مقصد کے لئے بنائی گئی۔ دوسری! غرض تفریق بین المؤمنین کہ اہل ایمان میں تفریق کر دی جائے۔ ایک امت کی وحدت کو پارہ پارہ کر کے اس کو ٹکڑوں اور فرقوں میں بانٹ دیا جائے۔ تیسری! غرض ”وَأَصَادَ أَلْمَن حَارِبَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ (توبہ: ۱۰۷)“ کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ کرنے والوں کے واسطے ایک پناہ گاہ ہو اور سازشوں کا مرکز ہو۔ تو مرزائیوں کی مسجدیں بالکل ان ہی تین اغراض کا پورا پورا پیکر ہیں۔ ضرر پہنچانا اور مسلمانوں کے درمیان تفریق اور دشمنان اسلام کے لئے سازشوں کا مرکز۔ اس بناء پر قادیانیوں کی ہر مسجد بلاشبہ مکمل مسجد ضرار ہے اور ظاہر ہے کہ جب کہ کوئی جماعت اسلام سے خارج ہے اسلام کی بنیادیں



اکھاڑنا اس کا نصب العین ایک جھوٹے نبی کی نبوت کا بہرہ وپ تو ایسی جماعت کا اسلام کا نام لینا پورا پورا منافقین کا کردار ہے۔ ایسی حالت میں ان کی مسجدیں لامحالہ مسجدِ ضرار ہوں گی اور مسجدِ ضرار کا حکم اور نوعیت قرآن کریم کی نص صریح اور رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ سے معلوم ہوگئی۔

لہذا یہ بات قرآنی تصریح سے ثابت ہوگئی۔ جو عمارتیں قادیانیوں نے مسجد کے نام سے موسوم کر رکھی ہیں ان کو جلا کر پیوند زمین کر دیا جائے یا مسلمانوں کو ان کا وارث بنائے جو مسجدوں کے تعمیر وگرانی کے حقدار ہیں اور آئندہ قادیانیوں کو مسجد کے نام سے کوئی عمارت بنانے نہ دی جائے۔ اسی طرح قادیانیوں کو اذان دینے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہئے۔

اڈل تو اس وجہ سے کہ اذان اسلام کا خصوصی شعار ہے اور جو قوم اسلام سے خارج ہے اس کو حق نہیں کہ وہ اس کو اختیار کرے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ جب قادیانی مسلمان ہی نہیں ہیں تو پھر ان کی اذان و نماز کا کیا مطلب۔ عبادات تو ایمان کے ساتھ ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی متعدد آیات میں فرمایا: ”ومن يعمل من الصلحت وهو مؤمن (الانبیاء: ۹۴)“

”من عمل صالحاً من ذکر او انشی وهو مؤمن (النحل: ۹۷)“

جب ایمان ہی نہیں تو پھر عبادات کا کیا مطلب اور ہر شریعت کی عبادات اس شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی عبادات کہلاتی ہیں۔ جب کوئی فرد یا جماعت کسی شریعت کے دائرہ سے خارج ہو چکی تو پھر اس دین کی عبادات کا تصور ہی بے معنی ہے اور پھر یہ کہ جب قادیانی خارج از اسلام ہیں تو پھر اسلام کی ان خصوصیات کو عملاً اختیار کرنا بلاشبہ ایک فریب اور دھوکہ ہے۔ جو کسی بھی قانون سے قابل برداشت نہیں۔ فریب، دھوکہ دہی، جعل سازی اور سازش یہی وہ باتیں ہو سکتی ہیں جو غیر مسلم مسلمانوں جیسے افعال اختیار کرنے میں مقصد بناتا ہے۔

دنیا کا کوئی قانون فریب دہی اور جعل سازی کی روش کو گوارا نہیں کر سکتا اور اس پر یہ استدلال کہ یہ میری اعتقادی عبادات ہیں۔ اس میں آزاد ہوں فریب کاری کے ساتھ دیدہ و لیری کا حصد اق ہے۔ پھر مزید برآں اس پر یہ آیت کا حوالہ دیتا۔ ”ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ (بقرہ: ۱۱۴)“ کہ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مساجد کو اس چیز سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ جرم بالا خر جرم ہے۔ قادیانیوں کی مسجدیں تو مسجد ہی نہیں۔ یہ تخریب و ضرار کا اڈہ ہیں۔ تو یہ نہایت ہی افسوسناک حرکت ہے کہ ان کی پابندی کو آیت مذکورہ سے چیلنج کیا جائے۔ جب یہ بہرہ وپ کھل گیا کہ مسجدوں کے عنوان سے جگہ بنانا

دین کے خلاف سازشوں کے اڈے تیار کرنا ہے تو ان کی بندش پر یہ آیت پڑھتے ہوئے شرماتا چاہئے کیا یہی چیز اللہ کا ذکر ہے اور اس کی عبادت ہے جو ان جگہوں میں انجام دی جا رہی ہے۔  
ہم اس سلسلہ میں تفصیلات پیش کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ربوہ کیس میں اور اس سے قبل ۱۹۵۳ء کے زمانے میں یہ سب حقائق عدالت میں پیش کر دیئے گئے۔

## دس مدعیان نبوت

### مدعیان نبوت کے خروج اور ظہور کی پیشین گوئی

حضور پر نور ﷺ نے بہت سی پیشین گوئیاں فرمائیں اور سب کی سب حرف بحرف سچی نکلیں۔ ایک پیشین گوئی حضور ﷺ نے یہ بھی فرمائی کہ قیامت سے پہلے بہت سے کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے۔ ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ خوب سمجھ لو کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ خدا کا آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ خاتم النبیین کے بعد کسی کا فقط یہ دعویٰ کہ میں نبی ہوں یہی اس کے کذاب اور دجال ہونے کی دلیل ہے۔  
حضور ﷺ نے اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی پیشین گوئی نہیں فرمائی۔ بلکہ مدعیان نبوت کی پیشین گوئی فرمائی اور ایک حرف یہ بھی نہ فرمایا کہ تم اس مدعی نبوت سے اولاً یہ دریافت کرنا کہ تو کس قسم کی نبوت کا مدعی ہے اور تیری نبوت کی کیا دلیل ہے۔ اگر حضور ﷺ کے بعد کوئی سچا نبی نیا آنے والا ہوتا تو حضور پر نور ﷺ اس کی خبر دیتے اور لوگوں کو ہدایت فرماتے کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کا انکار کر کے دوزخی نہ بننا بلکہ اس کے برعکس یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ البتہ کذاب و دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کے مدعی ہوں گے۔ تم ان بگے دھوکے اور فریب میں نہ آنا اور اس کے جھوٹا ہونے کی علامت ہی یہ ہوگی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ چنانچہ اس کا ظہور آپ کی اخیر زندگی ہی سے شروع ہو گیا اور نبوت کے دعویدار ظاہر ہونے لگے۔ چنانچہ یمن میں اسود عسی نے اور یرامہ میں مسیلما نے نبوت کا دعویٰ کیا۔

”وروی ابو یعلیٰ باسناد حسن عن عبد اللہ بن الزبیر ذکر تسمیة بعض الکذابین المذكورین بلفظ لا تقوم الساعة حتیٰ یرج ثلاثون کذاباً منہم مسیلما والعنسی والمختار (فتح الباری ج ۶ ص ۶۱۷)“ ابو یعلیٰ نے عبد اللہ بن زبیر سے باسناد حسن روایت فرمائی ہے۔ جس میں بعض کذابوں کے نام بھی آپ نے ذکر فرمائے

ہیں۔ آپ ﷺ کے الفاظ یہ ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی۔ جب تک کہ میں کذاب برآمد نہ ہوں۔ ان میں سیلہ اور عسی اور مختار ہوں گے۔

سب سے پہلا مدعی نبوت اور اس کا قتل

سب سے پہلا مدعی نبوت اسود عسی ہے جو بڑا شعبدہ باز تھا اور کہانت میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ لوگ اس کے شعبدوں کو دیکھ کر مانوس ہو گئے اور اس کے پیچھے ہوئے اور قبیلہ نجران اور مذحج نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے علاوہ یمن کے اور بھی قبائل اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔

آنحضرت ﷺ نے مسلمانان یمن کے پاس حکم بھیجا کہ جس طرح ممکن ہو اسود کا فتنہ ختم کیا جائے۔ امام ابن جریر طبری ۱۱ ہجری کے واقعات میں لکھتے ہیں: ”عن جشیش بن الدیلمی قال قدم علينا وبرين يحنس بكتاب النبي ﷺ يامر فيه بالقيام على ديننا والنهوض في الحرب العمل في الاسود ما غيلة او مصادمة“

(تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۳۸)

جشیش راوی ہیں کہ و بر بن تحسن نبی اکرم ﷺ کا والا نامہ ہمارے نام لے کر آئے۔ جس میں ہم کو یہ حکم تھا کہ دین اسلام پر قائم رہیں اور اسود کے مقابلہ اور مقاتلہ کے لئے تیار ہو جائیں اور جس طرح ممکن ہو اسود کا کام تمام کریں۔ خواہ کھلم کھلا قتل کریں یا خفیہ طور پر یا کسی اور طریقے سے۔

اور (تاریخ ابن الاثیر ج ۲ ص ۲۰۲) پر ہے: ”فنزوج معاذ الی لسکون نعطفوا علیه وجاء الیهم والی من بالیمن من المسلمین کتاب النبی ﷺ یأمرهم بقتال الاسود فقام معاذ فی ذلك وقویت نفوس المسلمین وكان الذی قدم بکتاب النبی ﷺ وبرین يحنس الازدی قال جشیش الیلمی فجاءتنا کتب النبی ﷺ یأمرنا بقتاله اما مصادمة او غيلة الی آخره“

(تاریخ ابن الاثیر ج ۲ ص ۲۰۲)

”ذکر اخبار السود العنسی بالیمن“

حضرت معاذ نے نکاح کیا اور تمام مسلمانان ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے پاس اور مسلمانان یمن کے پاس آنحضرت ﷺ کا خط موصول ہوا۔ جس میں اسود کے ساتھ قتال کا حکم تھا۔ حضرت معاذ اس بارے میں کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کے قلوب کو تقویت حاصل ہوئی۔ جو شخص

آنحضرت ﷺ کا خط لے کر آیا تھا اس کا نام و بر بن محسن ازدی تھا۔ جیش دیلمی فرماتے ہیں۔ ہمارے پاس آنحضرت ﷺ کے کئی خط موصول ہوئے۔ جن میں اسود کے قتل کا حکم تھا۔ علانیہ ہو یا تدبیر سے۔

چنانچہ حضرات صحابہؓ نے حسن تدبیر سے اس کذاب کا کام تمام کیا اور اس واقعہ کی خبر دینے کے لئے ایک قاصد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں روانہ کیا۔ لیکن قاصد کے پہنچنے سے پہلے حضور ﷺ کو بذریعہ وحی اس کی خبر ہو گئی۔ آپ ﷺ نے اسی وقت صحابہؓ کو بشارت دی اور فرمایا: "قتل العنسی البارحة قتله رجل مبارك من اهل بيت مبارکین قیل ومن قال فیروز فلان فیروز"

(تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۵۱، تاریخ ابن الاثیر ج ۲ ص ۲۰۴، تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۲۳۶)

کہ شب گذشتہ اسود غسی مارا گیا۔ اس کو ایک مبارک گھرانے کے مبارک مرد فیروز نے مارا ہے۔ فیروز کامیاب اور فائز المراد ہوا۔ قاصد یہ خبر لے کر مدینہ اس وقت پہنچا کہ آنحضرت ﷺ وصال فرما چکے تھے۔ عبدالرحمن ثمالی نے اس بارہ میں یہ اشعار کہے۔

لعمری وما عمری علیٰ بعین

لقد جزعت عنس بقتل الاسر

قسم ہے میری زندگی کی اور میری قسم معمولی قسم نہیں قبیلہ عنس اسود غسی کے قتل سے

گھبرا اٹھا۔

وقال رسول الله سيرا والقتله

علیٰ خیر موعود واسعدا سعد

رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ اس کے قتل کے لئے جاؤ اور بہترین وعدہ اور اعلیٰ ترین

خوش نصیبی کی بشارت دی یعنی مدعی نبوت کا قتل اعلیٰ ترین سعادت ہے۔

فسرنا الیہ فے خوارس بہمة

علیٰ حین امر من وصاة محمد

پس ہم چند سووار اسود کذاب کے قتل کے لئے روانہ ہو گئے۔ تاکہ آپ ﷺ کے حکم اور

وصیت کی تعمیل اور تکمیل ہو۔ (حسن الصحابتہ فی شرح اشعار الصحابہ ص ۲۱۳)

خلافت راشدہ اور مدعیان نبوت کا قلع قمع

خلافت راشدہ اس حکومت کو کہتے ہیں کہ جو منہاج نبوت پر اور اس حکومت کا حکمران

نبی کے ظاہری اور باطنی کمالات کا آئینہ اور نمونہ ہو۔ خلافت راشدہ کا فیصلہ قیامت تک کے لئے حجت اور واجب العمل ہے۔ احادیث صحیحہ میں خلفاء راشدین کے اتباع کی تاکید آئی ہے۔ کتاب و سنت کے بعد خلافت راشدہ کا فیصلہ شرعی حجت ہے۔ جس سے عدول اور انحراف جائز نہیں۔

قیامت تک آنے والی اسلامی حکومتوں کے لئے خلافت راشدہ ہائیکورٹ اور آخری عدالت ہے۔ جس کی کوئی اپیل نہیں ہو سکتی۔ کسی اسلامی حکومت کی یہ مجال نہیں کہ وہ خلافت راشدہ کے فیصلہ پر کوئی نظر ثانی کا تصور بھی کر سکے۔ خلافت راشدہ کے رشد اور صواب پر رسول اللہ ﷺ کے دستخط ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بعد خلفاء راشدین واجب الاطاعت ہیں اور اگر بفرض مجال کوئی دیوانہ نہ خیال کرے کہ خلفاء راشدین کا فیصلہ حجت اور واجب الاطاعت نہیں تو پھر بتلائیے کہ دنیا میں خلفاء راشدین سے بڑھ کر کون ہے۔ جس کا فیصلہ حجت سمجھا جائے۔ اب ہم نہایت اختصار کے ساتھ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ خلافت راشدہ نے کس طرح مدعیان نبوت کا قلع قمع کیا اور کس طرح صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹایا۔ ”جزاہم اللہ تعالیٰ عن الاسلام و سائر المسلمین خیرا کثیرا کثیرا امین“

۲..... طلحہ اسدی

اسود عسی کی طرح طلحہ اسدی نے بھی حضور پر نور ﷺ کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسود کی طرح یہ بھی کاہن تھا کچھ قبیلے اس کے بھی تابع ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی سرکوبی کے لئے ضرار بن الاسود کو صحابہ کی ایک جماعت ساتھ دے کر روانہ کیا۔ حضرت ضرار نے خوب سرکوبی کی اور مرتدین کو اتنا مارا کہ طلحہ کی جماعت کمزور پڑ گئی۔ لیکن اتنے میں آنحضرت ﷺ کی وفات کی خبر آ گئی۔ حضرت ضرار اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مدینہ آ گئے۔ ان کے واپس آ جانے کی وجہ سے طلحہ کا فتنہ پھر زور پکڑ گیا۔ صدیق اکبر نے خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک لشکر اس کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا۔ خالد بن ولید نے جاتے ہی میدان کارزار گرم کیا عینیہ بن حصن، طلحہ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور طلحہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے ایک چادر اوڑھے ہوئے وحی کے انتظار میں ایک طرف بیٹھا تھا۔ جب مرتدین کے پیر میدان جنگ سے اکھڑنے لگے تو عینیہ بن حصن لوگوں کو لڑتا چھوڑ کر طلحہ کے پاس آیا اور سوال کیا کہ کیا میرے بعد تیرے پاس جبرائیل امین کوئی وحی لے کر آئے ہیں۔ طلحہ نے کہا نہیں کوئی وحی نہیں آئی۔ عینیہ لوٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور سوال کیا کہ کیا اس اثناء میں جبرائیل کب تک آئیں گے۔ ہم تو تباہ

ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عینیہ پھر آیا اور طلحہ سے پھر یہی سوال کیا۔ طلحہ نے کہا ہاں ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ وحی لے کر آئے ہیں: ”ان لك رحي كرحاه حديثا لا تنساه“ تیرے لئے بھی خالد کی طرح ایک چمکی ہوگی اور ایک بات پیش آئے گی جس کو تو کبھی نہ بھولے گا۔

عینیہ نے یہ سن کر کہا کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی بات ایسی ضرور پیش آئے گی جس کو تو نہ بھولے گا اور اس کے بعد قوم سے مخاطب ہو کر یہ کہا: ”انصر فوا یا بنی فزارة فانه كذاب“

عینیہ کا یہ لفظ سنتے ہی تمام لوگ بھاگ گئے اور میدان خالی ہو گیا اور کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ طلحہ نے اپنے لئے اور اپنی بیوی کے لئے پہلے ہی سے ایک گھوڑا تیار کر رکھا تھا۔ جب اس پر سوار ہو کر بھاگنے لگا تو لوگوں نے آ کر اس کو گھیر لیا۔ طلحہ نے جواب دیا: ”من استطاع يفعل هكذا وينجو بامراته فليفعل“ جو شخص ایسا کر سکتا ہو اور اپنی بیوی کو بچا سکتا ہو وہ ضرور ایسا کر گزرے گا۔

اس طرح طلحہ بھاگ کر ملک شام چلا گیا اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں تابع ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور حضرت عمرؓ کے دست مبارک پر بیعت کی اور جنگ قادسیہ میں کار نمایاں کئے۔ والسلام! (تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۶۲، تاریخ ابن الاثیر ج ۲ ص ۲۰۹، تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۳۰۶) وحی طلحہ کا ایک نمونہ

”والحمام واليمان والصد الصوام قد صمن قبلكم باعوام ليليلغن

ملكننا العراق والشام“ (تاریخ ابن الاثیر ج ۲ ص ۲۱۰)

۳..... مسیلمہ کذاب

یہ شخص قبیلہ بنی حنیفہ کا تھا۔ ۱۰ ہجری میں شہر یمامہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک خط بھیجا جس کی عبارت یہ ہے: ”من مسیلمة رسول الله السى محمد رسول الله سلام عليك فانى قد اشركت فى الامر معك وان لنا نصف الارض ولقریش نصف الارض ولكن قریش قوم يعتدون“ ”من جانب مسیلمہ رسول اللہ بظرف محمد رسول اللہ تم پر سلام ہو۔ تحقیق میں نبوت میں تمہارے ساتھ شریک کر دیا گیا ہوں۔ نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی۔ لیکن قریش ایک ظالم قوم ہے۔

مسیلمہ نے یہ خط دو آدمیوں کے ہاتھ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔

حضور ﷺ نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ کیا تم اس کی شہادت دیتے ہو کہ مسیلہ اللہ کا رسول ہے۔ ان دونوں نے کہا ہاں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر قاصد قتل کئے جاتے تو میں گردن اڑانے کا حکم دیتا۔ بعد ازاں اس کے خط کا یہ جواب لکھوایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”من محمد رسول اللہ الیٰ مسیلمة الکذاب سلام علی من اتبع

الهدیٰ اما بعد فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

من جانب محمد رسول اللہ، بطرف مسیلہ کذاب سلام ہو اس شخص پر کہ جو اللہ کی ہدایت کا اتباع کرے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تحقیق زمین اللہ کی ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو زمین کا مالک اور وارث بنائے اور اچھا انجام خدا سے ڈرنے والوں کے لئے ہے۔

(ابن اثیر اپنی تاریخ ج ۲ ص ۱۶۶، ۱۶۸) پر لکھتے ہیں: ”فکان اعظم فتنة علی بنی

حنيفة من مسیلة شهد ان محمداً ﷺ قد اشرك معه فصدقوه واستجابوا له“

یعنی نبی حنیفہ کے حق میں فتنہ کا بڑا سبب یہ ہوا کہ مسیلہ نے یہ مشہور کیا کہ محمد رسول

اللہ ﷺ نے مجھ کو اپنی رسالت میں شریک کر لیا ہے۔ انہوں نے حضور ﷺ کا نام سن کر مسیلہ کی تصدیق کی اور اس کی دعوت کو قبول کیا۔

اور مسیلہ کو اس دعوے کی تائید کے لئے نہایت نامی ایک شخص ہاتھ آ گیا۔ یہ شخص شرفاء بنی

حنیفہ میں سے تھا۔ ہجرت کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوا اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں رہ کر

قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ اور دین

کی تعلیم دو۔ یہ بد بخت مدینہ سے واپس آ کر مسیلہ سے مل گیا اور علی الاعلان آ کر یہ شہادت دی کہ

میں نے خود محمد رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ مسیلہ نبوت میں میرا شریک ہے۔ اس لئے بنی حنیفہ

کے لوگ فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور مسیلہ کے بہکانے میں آ گئے۔

مسیلمہ یمامہ اور مسیلہ قادیان میں فرق

مرزا قادیانی نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا کہ جو مسیلہ یمامہ نے کیا تھا۔ مگر مرزا قادیانی

چالاک کی میں مسیلہ سے بڑھے ہوئے ہیں۔ مسیلہ تو یہ کہتا تھا کہ حضور پر نوح ﷺ نے مجھ کو اپنی نبوت

میں شریک کر لیا ہے اور مرزا قادیانی یہ فرماتے ہیں کہ میں نبوت میں حضور ﷺ کے ساتھ شریک

نہیں بلکہ عین محمد ہوں اور میری بعثت، ہجرت، بعثت محمد یہ ہے اور بعثت ثانیہ بعثت اولیٰ سے کہیں افضل اور اکمل ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قادیان جو بعثت ثانیہ کا محل ہے۔ مکہ مکرمہ سے افضل اور بہتر ہے اور مرزا قادیانی باوجود مرزا اور مانگو لیا کے محمد رسول اللہ ﷺ سے افضل اور اکمل ہیں۔ ابلہ گفت دیوانہ باور کرد۔ کی مثل صادق ہے۔ پاگل نے کہا اور دیوانہ نے اس کو مان لیا۔

اس خط و کتابت کے بعد آنحضرت ﷺ کا وصال ہو گیا اور بغیر اس فتنہ کی تدبیر کے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اسی اثناء میں ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ (جس کا ہم عنقریب ذکر کریں گے) جس کا نام سجاح تھا۔ مسیلہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس کے لشکر سے مسیلہ کو مزید قوت اور شوکت حاصل ہوئی۔

صدیق اکبرؓ نے مسیلہ کے مقابلہ کے لئے اولاً عکرمہ بن ابی جہل کی زیر اہارت ایک لشکر روانہ کیا۔ مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پھر ان کے بعد دوسرا لشکر شریک بن حسنہ کی سرکردگی میں ان کی امداد کے لئے روانہ کیا۔ اس لشکر کو بھی شکست ہوئی۔ مسیلہ کذاب کے لشکر چالیس ہزار جنگ آزمود سپاہی تھے۔ صحابہ کرامؓ کے چھوٹے چھوٹے لشکر پورا مقابلہ نہ کر سکے۔ بالآخر صدیق اکبرؓ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ خالد بن ولید کو مسیلہ کذاب کی ہمہ کے لئے روانہ فرمایا۔ اس معرکہ میں صدیق اکبرؓ کے لخت جگر عبدالرحمن ابن ابی بکرؓ اور فاروق اعظمؓ کے لخت جگر عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عمرؓ کے بھائی زید بن الخطاب بھی شریک تھے۔

مرتدین سے اب تک جس قدر معرکے پیش آئے ان میں مسیلہ کذاب کا معرکہ سب میں زیادہ سخت تھا اور قوت اور شوکت میں سب سے بڑھ کر تھا۔ مسیلہ کی فوج چالیس ہزار تھی اور مسلمانوں کی فوج دس ہزار سے کچھ زیادہ تھی۔ مسیلہ کذاب کو جب خالد بن ولید کی آمد کی خبر ملی تو آگے بڑھ کر مقام عقرباء میں پڑاؤ ڈالا۔ اس میدان میں حق اور باطل اور نبوت صادقہ اور کاذبہ کا خوب مقابلہ ہوا۔ معرکہ نہایت سخت تھا۔ کبھی مسلمانوں کا پہلہ بھاری نظر آتا تھا اور کبھی مسیلہ کا۔ یہاں تک کہ مسیلہ کے کئی سپہ سالار مارے گئے۔ سب سے اول مسیلہ کی طرف سے نہار میدان میں آیا۔ جو حضرت زید بن الخطاب کے ہاتھ سے مارا گیا۔ مسیلہ کا دوسرا مشہور سردار محکم بن طفیل حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کے تیر قضاء سے ختم ہوا۔ مرتدین کے قدم اکٹڑ گئے۔ مسلمانوں نے ان کو مارتے مارتے مقام حدیقہ تک پہنچا دیا۔ یہ مقام چار دیواری سے محصور تھا۔ یہ ایک باغ تھا جس کو حدیقہ الرحمن کہتے تھے۔ مسیلہ نے اپنا خیمہ اسی باغ میں نصب کیا تھا۔ اسی باغ میں مسیلہ



قدم جمائے کھڑا تھا۔ دشمنوں کا لشکر بھاگ کر حدیقہ میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت براء بن مالکؓ نے اس وقت صحابہ سے کہا: ”یا معشر المسلمین القونی علیہم فی الحدیقہ فقالوا لا نفعل فقال واللہ لتطرحننی علیہم بہا فاحتمل حتی اشرف علی الجدار فاقتحمہا علیہم وقاتل علی الباب وفتحہ للمسلمین ودخلواہا علیہم فاقتتلوا اشد قتال وکثر القتلی فی الفریقین لاسیما فی بنی حنیفۃ فلم یزالوا کذاک حتی قتل مسیلمۃ واشترک فی قتله وحشی مولی جبرہن مطعم ورجل من الانصار (کل ہما قد اصابہ) اما وحشی فدفع علیہ حربتہ وضر بہ الانصاری بسیفہ“ (تاریخ ابن الاثیر ج ۲ ص ۲۲۲)

اے گروہ مجھ کو حدیقہ میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے کہا ہم ہرگز ایسا نہیں کرنے کے۔ براء بن مالکؓ نے کہا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ کو اندر پھینک دو۔ لوگوں نے مجبوراً اٹھا کر دیوار پر پہنچا دیا۔ براء بن مالک دیوار پر سے اندر کودے اور دروازہ پر کچھ دیر مقابلہ کیا۔ بالآخر مسلمانوں کے لئے دروازہ کھول دیا۔ مسلمان اندر گھس آئے اور خوب مقابلہ ہوا۔ فریقین کے بہت آدمی مارے گئے۔ یہاں تک مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا۔ وحشی نے مسیلمہ کے ایک نیزہ پھینک مارا۔ جس کی وجہ سے وہ حرکت نہ کر سکا اور ایک انصاری نے تلوار سے اس کا سر قلم کیا۔ یہ وحشی وہی ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہؓ کو اسی نیزہ سے شہید کیا تھا۔ اب اسلام لانے کے بعد اسی نیزہ سے مسیلمہ کذاب کو مارا اور بطور فخر بلکہ بطور شکر اور بطریق شکر یہ کہا کرتے تھے۔ ”قتلت فی جاہلیتی خیر الناس و فی السلامی شر الناس روح المعانی“ اگر میں نے زمانہ جاہلیت میں اس نیزہ سے ایک بہترین انسان کو مارا ہے۔ (یعنی حضرت حمزہؓ کو) تو زمانہ اسلام میں۔ میں نے اسی نیزہ سے ایک بدترین انسان یعنی ایک مدعی نبوت کو مارا ہے اور وہ انصاری جنہوں نے مسیلمہ کا سر اپنی تلوار سے قلم کیا۔ ان کا نام عبداللہ بن زید ہے۔

انہی کا یہ شعر ہے۔

یسائلنی الناس عن قتله

فقلت ضربت وهذا طعن

لو مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ مسیلمہ کو کس نے مارا تو میں جواب میں یہ کہہ دیتا ہوں

کہ میں نے تلوار ماری اور وحشی نے نیزہ مارا۔

اس معرکہ میں مسلمانوں کے چھ سو ساٹھ آدمی شہید ہوئے اور مسیلمہ کذاب کے بقول ابن خلدون سترہ ہزار آدمی مارے گئے۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ بنی حنیفہ کے سات ہزار آدمی عقرباء میں اور سات ہزار حدیقہ میں مارے گئے اور یہ باغ حدیقہ الموت کے نام سے مشہور ہو گیا اور حضرت خالد بن ولیدؓ منصور مدینہ منورہ واپس آئے۔

محمد بن الحنفیہؓ

محمد بن الحنفیہؓ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادہ ہیں اور حنیفہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں جو قبیلہ بنی حنیفہ کی باندی تھیں۔ مسیلمہ کذاب کی لڑائی میں گرفتار ہو کر آئیں اور صدیق اکبرؓ کی طرف سے حضرت علیؓ کو عطاء ہوئیں۔ معلوم ہوا ہے کہ مدنی نبوت کی اولاد اور ذریت اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کر لوگوں پر تقسیم کرنا باجماع صحابہ بلاشبہ درجہ جائر اور روا ہے۔

مسیلمہ کذاب کے قبیلعین اور اذنان کا حشر

”روی الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ قال اخذ لکوفة رجال

یؤمنون بمسیلمة الكذاب فكتب فيهم الى عثمان فكتب عثمان اعرض عليهم دين الحق وشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فمن قالها وتبرا من دين مسيلمة فلا تقتلوه ومن لم يدين مسيلمة فاقتلوه فقبلها رجال منهم ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا (احكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۸۸، باب استتابة المرتد و سنن كبرى للامام البيهقي ج ۸ ص ۳۵۰) ”زہری نے عبید اللہ بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ کوفہ میں کچھ آدمی گرفتار کئے گئے جو کہ مسیلمہ کذاب پر ایمان لائے تھے۔ سو ان کے بارہ میں حضرت عثمانؓ کے پاس لکھا گیا کہ ایسے لوگوں کے بارہ میں کیا کرنا چاہئے۔ حضرت عثمانؓ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ ان پر دین حق اور ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ پیش کیا جائے۔ جو شخص اس کلمہ کو پڑھے اور دین مسیلمہ سے برأت کا اظہار کرے اس کو قتل نہ کرو اور جو شخص دین مسیلمہ کذاب پر جمار ہے اسے قتل کر دو۔ تو بہت سے آدمیوں نے کلمہ اسلامی کو قبول کر لیا اور بہت سے دین مسیلمہ پر قائم رہے۔ انہیں قتل کیا گیا۔

۴..... سجاح بنت حارث

سجاح بنت حارث قبیلہ بنی تمیم کی ایک عورت تھی۔ نہایت ہوشیار تھی اور حسن خطابت و تقریر میں مشہور تھی۔ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ایک گروہ اس

کے ساتھ ہو گیا۔ مدینہ منورہ پر حملہ کا ارادہ کیا۔ مگر کسی وجہ سے یہ ارادہ ملتوی ہو گیا۔ بعد ازاں سجاح نے میلہ کا رخ کیا۔ میلہ نے یہ خیال کر کے کہ اگر سجاح سے جنگ چھیڑی تو کہیں قوت کمزور نہ ہو جائے۔ اس لئے میلہ نے بہت سے ہدایا اور تحائف سجاح کے پاس بھیجے اور اپنے لئے امن طلب کیا اور ملاقات کی درخواست کی، میلہ بنی حنیفہ کے چالیس آدمیوں کے ہمراہ سجاح سے جا کر ملا اور یہ کہا کہ عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تھے اور نصف قریش کے لیکن قریش نے بدعہدی کی اس لئے وہ نصف میں نے تم کو دے دیئے۔

بعد ازاں میلہ نے سجاح کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ سجاح نے اس دعوت کو قبول کیا۔ میلہ نے ملاقات کے لئے ایک نہایت عمدہ خیمہ نصب کرایا اور قسم قسم کی خوشبوؤں سے اس کو معطر کیا اور تنہائی میں ملاقات کی۔ کچھ دیر تک سجاح اور میلہ میں گفتگو ہوتی رہی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی وحی سنائی اور ہر ایک نے ایک دوسرے کی نبوت کی تصدیق کی اور اسی خیمہ میں نبی اور نبیہ کا بلا گواہوں اور بلا مہر کے نکاح ہوا۔ تین روز کے بعد سجاح اس خیمہ سے برآمد ہوئی۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے میلہ سے صلح کر لی اور نکاح بھی کر لیا۔ لوگوں کو بہت ناگوار ہوا اور سجاح کو لعنت ملامت کی۔ قوم نے پوچھا کہ آخر مہر کیا مقرر ہوا؟ سجاح نے کہا کہ اچھا میں پوچھ کر آتی ہوں کہ میرا مہر کیا ہے؟ سجاح میلہ کے پاس آئی اور مہر کا مطالبہ کیا۔ میلہ نے کہا کہ جا اپنے ہمراہیوں سے یہ کہہ دے کہ میلہ رسول اللہ نے سجاح کے مہر میں دو نمازیں فجر اور عشاء کی تم سے معاف کر دیں۔ جن کو محمد (ﷺ) نے تم پر فرض کیا تھا۔ سجاح نے واپس آ کر اپنے رفقاء کو اس مہر کی خبر کی۔ اس پر عطار دین حاجب نے یہ شعر کہا۔

امست نبیتنا انشی نطوف بها

واصبح انبیاء الناس نکرانا

(شرم کی بات ہے) ہماری قوم کی نبی عورت ہے جس کے گرد ہم طواف کر رہے ہیں

اور لوگوں کے نبی مرد ہوتے چلے آئے ہیں۔

سجاح جب میلہ کے پاس سے لوٹی تو اثناء راہ میں خالد بن ولید کا اسلامی لشکر مل گیا۔

سجاح کے رفقاء تو منتشر ہو گئے اور سجاح روپوش ہو گئی اور اسلام لے آئی اور پھر وہاں سے بصرہ چلی گئی اور وہیں اس کا انتقال ہوا اور سمرۃ بن جندب نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت سمرۃؓ اس وقت حضرت معاویہؓ کی طرف سے امیر تھے۔

(تاریخ ابن الاثیر ج ۲ ص ۲۱۳ تا ۲۱۶)

سجاح اور میلہ کے وہ الہامات جو اس خیمہ میں ہوئے وہ تاریخ ابن اثیر اور تاریخ طبری میں مذکور ہیں۔ ہم نے شرم کی وجہ سے ان کو حذف کر دیا۔

۵..... مختار بن ابی عبید ثقفی

مختار بن ابی عبید ثقفی، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں ظاہر ہوا۔ مدعی نبوت تھا اور یہ کہتا تھا کہ جبرائیل امین میرے پاس آتے ہیں ۶۷ ہجری میں عبداللہ بن زبیرؓ کے حکم سے قتل کیا گیا۔ لعنة الله عليه!

”وفی ایام ابن الزبیر کان خروج المختار الکذاب الذی ادعی النبوة فجہزا بن الزبیر یقتاله الی ان ظفر بہ فی سنة سبع ستین وقتلہ لعنة الله (تاریخ الخلفاء للسيوطی ص ۱۸۵)“

”وقد ظهر بالعراق وكان يدعی ان جبرائیل یأتیہ بالوحي (کذافی دول الاسلام للحافظ الذهبی ج ۱ ص ۳۵)“

عبداللہ بن زبیرؓ کے زمانہ میں مختار کذاب مدعی نبوت کا خروج ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے اس کے قتال کے لشکر تیار کیا۔ یہاں تک کہ اس پر فتح پائی۔ ۶۷ھ کا یہ واقعہ ہے۔ یہ شخص ملعون آخر کار قتل ہوا۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۸۵) پر حافظ ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ یہ شخص عراق میں ظہور پذیر ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جبرائیل امین میرے پاس وحی لاتا ہے۔ (دول الاسلام ج ۱ ص ۳۵) ۶..... حارث بن سعید کذاب دمشقی

حارث بن سعید نے عبدالملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ عبدالملک بن مروان نے اس کو قتل کر کے عبرت کے لئے سولی پر لٹکایا۔ عبدالملک بن مروان خود تابعی تھا۔ حضرت عثمانؓ، ابو ہریرہؓ، ابوسعید خدریؓ، عبداللہ بن عمرؓ، معاویہؓ، ام سلمہؓ اور بریرہؓ سے حدیث سنی تھی اور عروہ بن زبیر اور خالد بن معدانؓ اور زہریؓ جیسے علماء تابعین عبدالملک سے روایت کرتے تھے۔ ”کما فی (تاریخ الخلفاء ص ۱۸۶)“ ان حضرات کی موجودگی میں عبدالملک نے اس متنبی کو قتل کر کے سولی پر لٹکایا گیا۔

قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں: ”عبدالملک بن مروان نے حارث متنبی کو قتل کیا اور سولی پر چڑھایا۔ اسلامی خلفاء اور بادشاہوں نے ہر زمانہ میں جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے اور علماء عصر نے ان کے فعل صواب پر اتفاق کیا۔ کیونکہ یہ جھوٹے مدعیان نبوت مفتزی علی اللہ

ہیں۔ خداوند قدوس پر جھوٹے الزام رکھتے ہیں کہ اسی نے ان کو نبی بنایا اور پیغمبر ﷺ کے خاتم النبیین اور ”لا نبی بعدہ“ کے منکر ہیں اور علماء کا اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ جو شخص مدعیان نبوت کی تکفیر کرنے والوں سے بھی اختلاف کرے وہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ ان مدعیان نبوت کے کفر اور تکذیب علی اللہ پر راضی و خوش ہے۔“ (نیم الریاض ج ۳ ص ۵۷۵)

۸..... مغیرہ بن سعید عجمی، بیان بن سمعان تمیمی

۱۱۹ھ میں مغیرہ بن سعید عجمی اور بیان بن سعید تمیمی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ خالد بن عبد اللہ قسری نے جو ہشام بن عبد الملک کی طرف سے امیر عراق تھا۔ دونوں کو قتل کر کے عبرت کے لئے پھانسی پر لٹکایا اور پھر آگ کے گڑھے میں ڈال کر جلوایا۔

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۷۲، تاریخ ابن الاثیر ج ۳ ص ۳۲۸)

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ہشام کے زمانہ خلافت میں سالم بن عبد اللہ بن عمر اور نافع مولیٰ ابن عمر اور طاؤس اور سلیمان بن یسار اور قاسم بن ابی بکر اور حسن بصری اور محمد بن سیرین اور کھول اور عطاء بن ابی رباح اور امام باقی اور وہب بن منہب اور سکینہ بنت حسین اور ثابت بنانی اور مالک بن دینار اور ابن شہاب زہری اور ابن عامر مقرئ شام وغیرہ وغیرہ یہ اکابر علماء موجود تھے اور شعراء میں جریر اور فروق تھے۔

امام عبد القاہر بغدادی نے فرمایا ہے۔ تیسری فصل فرقہ مغیرہ کے ذکر میں ہے۔ یہ لوگ مغیرہ بن سعید عجمی کے پیروکار ہیں۔ آگے چل کر لکھا ہے کہ مغیرہ نے کفر صریح اختیار کیا۔ مثلاً نبوت کا دعویٰ کرنا اور اسم اعظم کے علم کا مدعی ہونا وغیرہ وغیرہ اس نے اپنے مریدوں کے آگے یہ خیال بھی ظاہر کیا تھا کہ اسم اعظم کے ذریعہ سے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور لشکروں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔

۹..... ابو منصور عجمی

یہ شخص ابتداء میں رافضی تھا۔ بعد میں طحاوی اور زندقہ بنی بنا اور مرزائیوں کی طرح آیات قرآنیہ میں عجیب عجیب تاویلیں کیں اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ یوسف بن عمر ثقفی جو کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا والی اور امیر تھا۔ اس کو جب اس کے عقائد کفریہ کا علم ہوا تو ابو منصور کو گرفتار کر کے کوفہ میں پھانسی پر لٹکایا۔

چنانچہ شیخ عبد القاہر بغدادی اپنی کتاب ”الفرق بین الفرق“ میں لکھتے ہیں کہ فرقہ منصور یہ ابو منصور عجمی کے تابعین کا نام ہے۔ اس شخص کا دعویٰ تھا کہ امامت اولاد علی کرم اللہ وجہہ میں

دائر ہے اور اپنے آپ کو امام باقر کا خلیفہ بتلایا۔ اس کے بعد اپنی طحاہ دعاوی میں اضافہ کیا کہ مجھے معراج آسمانی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیر کر فرمایا! بیٹے میری تبلیغ کرتا رہ۔ اس کے بعد زمین پر اتار دیا اور کہا کرتا تھا کہ آیت خداوندی ”وان یسروا کسفاً من السماء ساقطاً یقولوا سبحان مرکوم“ میرے حق میں نازل ہوئی یہ فرقہ (آج کل کے نیچریوں اور منکرین حدیث کی طرح) قیامت اور جنت و دوزخ کا منکر تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جنت سے مراد دنیا کی نعمتیں اور دوزخ سے مراد دنیا کے رنج و الم اور مصائب ہیں اور ان کے نزدیک باوجود اس ضلالت کے اپنے مخالفوں کا خفیہ قتل کرنا جائز بتاتا تھا۔ یہ فتنہ جاری رہا یہاں تک کہ یوسف بن عمر ثقفی والی عراق نے ابو منصور عجمی کو سولی پر لٹکا کر اس فتنہ کا قلع قمع کیا۔

ابوالطیب احمد بن حسین متنبی

ابالطیب احمد بن حسین کوئی جو متنبی کے نام سے ایک مشہور شاعر ہے اور جس کا دیوان دنیا میں مشہور ہے اور فن ادب کا جز و نصاب ہے۔ حمص کے قریب مقام سادہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ اہل حماقت اور اہل غبات اس کے قیام ہو گئے۔ امیر حمص نے متنبی کو جیل خانہ میں بند کر دیا۔ بالآخر جب جیل خانہ سے دعوائے نبوت سے تحریری توبہ نامہ لکھ کر بھیجا تب رہا ہوا۔

حافظ ابن کثیر (البدایہ والنہایہ ج ۱۱ ص ۲۵۷) میں لکھتے ہیں۔ اس شخص نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں اور میری طرف وحی آتی ہے۔ جاہلوں اور سفلہ لوگوں کی ایک جماعت نے اس کو مان لیا۔ نزول قرآن کا بھی یہ شخص مدعی تھا۔ چنانچہ اس کی وحی اور قرآن کے چند جملے شہرت پانچے ہیں۔ ”والنجم ایسیار والفلک الدوار واللیل والنہار ان الکافر لفی خسار امض علی سنتک واقف اثر من کان قبلك من المرسلین فان اللہ قامع بک من الحدفی دنیہ وینہ وضل عن سبیلہ“ اس قسم کے ہدایات جیسا کہ غلام احمد قادیانی نے براہین احمدیہ میں وحی اور الہامات اکٹھے کئے ہیں) اس شخص کے بھی مشہور ہو گئے تھے۔ جس وقت اس مدعی نبوت کی خبریں اور چرچے عام ہوئے اور ایک جماعت اہل غبات و حماقت اس کے گرد جمع ہو گئی تو حمص کے حاکم امیر لؤلؤ نے اس پر چڑھائی کی اور قتال و مقابلہ کے بعد اس کے آدمیوں کو منتشر کیا اور اسے گرفتار کر کے قید و بند میں ڈال دیا۔

چنانچہ جب احمد بن حسین کانی عرصہ جیل خانہ میں بیمار رہنے کے بعد ہلاکت کے قریب پہنچ گیا تو امیر نے اسے نکال کر توبہ کا مطالبہ کیا۔ اس وقت احمد بن حسین دعوائے نبوت سے تائب ہوا اور اپنے پچھلے تمام دعاوی کو جھٹلایا اور ایک تحریری توبہ نامہ شائع کیا۔ جس میں لکھا تھا کہ

میں تائب ہو کر دوبارہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں اور میرے پچھلے تمام دعاوی غلط اور جھوٹ تھے۔  
اس پر امیر لوگوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ (تاریخ البدایہ والنہایہ)

اختصار کی بناء پر عربی عبارات کو حذف کر دیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر کتاب مذکور کے ص ۲۵۹ پر لکھتے ہیں: ”وقد شرح دیوانہ العلماء بالشعر واللغة نحو امن ستین شرحاً وجیزاً وبسیطاً“ علماء لغت اور علماء شعر نے متنبی کے دیوان کی مختصر اور مطول ساٹھ شرحیں لکھی ہیں۔ یہ ساٹھ شرحیں تو حافظ ابن کثیر کے زمانہ تک لکھی گئیں اور ۷۷۷ھ جو کہ ابن کثیر کا سن وفات ہے۔ اس سے لے کر ۱۳۷۳ھ جو شروع و حواشی لکھے گئے وہ اس کے علاوہ ہیں۔

### قصیدہ اعجازیہ مرزا غلام احمد قادیانی

مرزا قادیانی کو اپنے قصیدہ اعجازیہ پر ناز ہے۔ جو غلطیوں سے بھرا ہوا ہے۔  
مرزا قادیانی اور ان کے متبعین کو جاننا چاہئے کہ مرزا قادیانی کے قصیدہ اعجازیہ کے اشعار کو دیوان متنبی کے اشعار سے کوئی نسبت بھی نہیں۔ ممکن ہے کہ قادیان کے کچھ دہقان مرزا قادیانی کے قصیدہ اعجازیہ پر ایمان لے آئیں۔ مگر زرد دنیا کے ادباء اور شعراء کے سامنے پیش کر کے دیکھیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ قادیان کے دہقان کا کیسا ہڈیان ہے۔ ”فتک عشرہ کاملہ“  
اس وقت ہم فقط ان دس مدعیان نبوت کے نقل اور صلب کے واقعات پر اکتفاء کرتے ہیں۔

اند کے پیش تو کفتم غم دل ترسیدم  
کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است

### مرزا غلام احمد قادیانی

مجملہ مدعیان نبوت ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے۔ جس نے اس زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس زمانہ میں اور بھی بہت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کئے۔ مگر اس زمانہ کا سب سے زیادہ مشہور مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ خوب دعویٰ کرتا ہے اور انبیاء کی نقلیں اتارتا ہے اور اپنے آپ کو ان کا ہمسر بلکہ ان سے برتر بتاتا ہے اور دلیل کا نام و نشان نہیں۔

دعوے سے نہیں ہوتی تصدیق نبوت

پہلے بھی بہت گذرے ہیں نقال محمد

ہندوستان کے علاقہ پنجاب کے ایک ضلع گورداسپور میں ایک گاؤں کا نام قادیان ہے۔ وہاں ایک معمولی زمیندار مرزا غلام مرتضیٰ تھا۔ اس کے گھر میں ۱۸۴۰ء میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔

جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی رکھا گیا۔ مرزا قادیانی کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا۔

مرزا قادیانی بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے۔ اس کے بعد کچھ کیمیا سازی کا شوق پیدا ہوا۔ کچھ عرصہ اس کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ بعد میں کچھ تعلیم حاصل کی اور جب جوان ہوئے تو ایک معمولی محرر (کلرک) کے طور پر عدالت ضلع سیالکوٹ میں ملازم ہوئے تنخواہ کی کمی کے باعث مختاری کے امتحان میں شامل ہوئے۔ مگر فیل ہو گئے۔ اب فکر ہوا کہ مذہبی راستہ سے کچھ حاصل کیا جائے تو پیری مریدی کی راہ اختیار کی اور مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے انہی عقائد اور اعمال کی تلقین کرتا رہا کہ جو اہل اسلام اور اس سلسلہ میں ایک اشتہار اس عنوان سے جاری کیا کہ حقانیت اسلام پر پچاس جلدوں کی ایک کتاب لکھی جاوے گی اور تین سو محکم دلائل پر مشتمل ہوگی اور قیمت اس کی ۵۰۰ افنی جلد پیشگی ہوگی۔ (دیکھو اشتہار براہین احمدیہ)

مسلمانوں نے خدمت اسلام سمجھ کر ہر طرف سے روپیہ بھیجنا شروع کر دیا۔ جس سے مرزا قادیانی مالا مال ہو گئے۔ جب مرزا قادیانی کی منہ مانگی مراد حاصل ہو گئی تو تین سو بیس نظیر دلائل کے بجائے اپنی تعلیموں اور بلند پرداز یوں کو حاشیہ در حاشیہ لکھ کر ایک پستارہ براہین احمدیہ کے نام سے شائع کر دیا اور آخر میں یہ لکھ کر کہ اب براہین احمدیہ کی تکمیل خدا نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ تو اس کی اشاعت کو بند کر دیا۔ جب لوگوں نے اپنے روپیہ کا تقاضہ کیا تو ان کو دنی الطبع کمینہ سفید وغیرہ وغیرہ کے الفاظ سے ڈانٹ دیا اور سارا روپیہ ہڑپ کر گئے۔ اس طرح سے مرزا قادیانی تنگدستی کی حالت سے نکل کر ایک دولت مند ہو گئے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ”مجھے اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ تھی کہ دس روپیہ ماہوار بھی آئیں گے۔ مگر خدا تعالیٰ جو غریبوں کو خاک میں سے اٹھاتا اور تکبروں کو خاک میں ملاتا ہے اس نے میری ایسی دھگیری کی کہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لاکھ کے قریب روپیہ آچکا ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۲۱۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۱، نزول المسح ص ۳۲، اربعین نمبر ص ۴)

## سلسلہ دعاوی

اب اس کے بعد مختلف قسم کے دعوؤں کا سلسلہ شروع ہوا کہ میں مجدد ہوں، محدث من اللہ ہوں، یعنی ملہم من اللہ ہوں، امام الزمان ہوں، مسیح موعود ہوں، مثل مسیح ہوں، مہدی موعود ہوں، حارث موعود ہوں، رجل فارسی ہوں، کرشن ادتار ہوں، ذوالقرنین ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، احمد مختار ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، خاتم الاولیاء ہوں، خاتم الخلفاء ہوں، یسوع کا ایلچی ہوں، مسیح بن مریم سے بہتر ہوں، بروزی محمد و احمد ہوں، مریم ہوں، میکائیل ہوں، بیت اللہ ہوں، حجر اسود



ہوں، آریوں کا بادشاہ ہوں، آدم ہوں، نوح ہوں، ابراہیم ہوں، یوسف ہوں، موسیٰ ہوں، داؤد ہوں، سلیمان ہوں، یعقوب ہوں، تمام انبیاء کا مظہر ہوں، تمام انبیاء سے افضل ہوں۔

اب آگے چلئے! یہ دعاوی تو مقام ولایت و نبوت اور مقام بادشاہت سے متعلق تھے۔ اب اس کے بعد مقام البہیت ہے۔ اس بارہ میں مرزا قادیانی کے دعاوی سنئے۔

مظہر خدا ہوں، خدا ہوں، مانند خدا ہوں، خالق ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، خدا کی بیوی ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار تعلیٰ اور لٹرن ترانیاں ہیں۔ جو کتابوں میں مذکور اور مشہور ہیں۔

اے مرزا نیو! ذرا بتاؤ تو سہی کہ مرزا قادیانی آخر کیا تھے

خدا را غور کرو اور اپنے او پر رحم کرو کہ کدھر جا رہے ہو۔ الغرض مرزا قادیانی نے اپنے زمانہ حیات میں قسم قسم کے دعوے شائع کئے جو بلاشبہ محال اور سراپا لغو تھے۔

..... سب سے پہلے مرزا قادیانی نے ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں نبوت کے ضنعت سے سرفراز کیا گیا ہوں۔ پھر اور آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں وہ موعود اور مبشر ہوں کی جس کی آمد کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ جو قرآن کریم بدین الفاظ مذکور ہے۔ ”واذ قال عیسیٰ بن مریم یابنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسہ احمد“ یعنی جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا رسول ہوں تو ریت کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہے۔

اے مسلمانو! مرزائے قادیان کی جسارت اور دیدہ دلیری کو دیکھو کہ یہ کہتا ہے کہ وہ احمد مبشر میں ہوں۔ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔

..... ۲ اور کہتا ہے کہ یہ آیت ”انما انزلناہ بالقادیان وبالحق نزل“ ہم نے قادیان میں ایک رسول اتارا اور حق پر اتارا۔ (ازالہ اوہام ص ۷۳ حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۱۳۸)

اے مسلمانو! کیا اس سے بڑھ کر کوئی کفر ہو سکتا ہے کہ قرآن کی جو آیتیں خاص محمد رسول اللہ ﷺ کے بارہ میں نازل ہوئیں۔ ان کے متعلق کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ آیت میرے بارہ میں نازل ہوئی یا کوئی گستاخ آیات قرآنیہ میں قادیان یا اپنے کسی شہر کا نام بڑھا کر یہ کہنے لگے کہ یہ آیت میرے اور میرے شہر کے بارہ میں نازل ہوئی۔ کیا ایسے گستاخ اور شوخ چشم کے کافر

ہونے میں کوئی شبہ بھی ہو سکتا ہے۔

۵..... اور کہتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت میری شان میں نازل ہوئی ہے: ”هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ“ یعنی خدا تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے۔

۶..... پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود بن کر آیا ہوں اور میں ہی کلمۃ اللہ اور روح اللہ اور عیسیٰ ہوں اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوں۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی کا قول۔  
ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو  
اس سے بہتر غلام احمد ہے

(درشین اردو)

کوئی دیوانہ اور پاگل ہی اس بات کو مان سکتا ہے کہ قادیان کا ایک دہقان اس عیسیٰ ابن مریم سے بہتر ہے جس کے فضائل اور معجزات کے ذکر سے قرآن اور حدیث بھر پڑا ہے۔  
۷..... پھر ذرا پلٹنا کھایا اور بولا کہ میں مثیل مسیح ہوں۔ یعنی ان کا شبیہ اور مماثل ہوں۔ جب مرزا قادیانی نے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو سوال ہوا کہ آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عیسیٰ بن مریم کا مثیل اور شبیہ ہوں تو آپ میں تو ان آیات باہرہ اور معجزات ظاہرہ کا نام و نشان بھی نہیں کہ جو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت مذکور ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے اور مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں روح پھونکتے تھے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا اور وہ بیماروں کو ڈھیوں جدا میوں کو چنگا کرتے تھے۔

مرزا قادیانی سے سوال ہوا کہ جب آپ مثیل مسیح ہیں بلکہ ان سے بہتر ہیں تو آپ بھی مسیح بن مریم کی طرح کرہمہ میجائی دکھائے۔  
تو جواب میں یہ کہتا ہے

کہ حضرت مسیح بن مریم سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوا۔ بلکہ یہ تمام کام مسمریزم کے ذریعہ کرتے تھے اور میں (مرزا قادیانی) ایسی باتوں کو مکروہ سمجھتا ہوں ورنہ میں بھی کر دکھاتا۔  
چنانچہ مرزا قادیانی (ازالہ اوہام ص ۳۰۹، حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۲۵۷، ۲۵۸) میں لکھتا ہے۔

”بہر حال مسیح کی یہ ترقی کاروائیاں (مسمریزی) زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کی تھیں۔ مگر یاد رکھنا کہ یہ عمل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے

ہیں۔ اگر یہ عاجز (مرزا قادیانی) اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا کے فضل اور توفیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان اجموہہ نمایوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ رہتا۔“

سبحان اللہ! کیا خدا تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ذکر کئے ہیں۔ وہ حقیقتاً معجزات نہ تھے۔ وہ محض مسریم کے کرشمے اور اجموہہ نمایاں تھیں اور خدا تعالیٰ تو ان فضائل و کمالات کو حضرت مسیح بن مریم کی فضیلت اور منقبت میں ذکر فرماتا ہے اور مرزائے غلام ان کو کھیل تماشا اور مکروہ اور قابل نفرت قرار دینا کفر نہیں بلاشبہ کفر ہے۔

نیز اس مرزائے غلام نے بہت سی پیشین گوئیاں کیں اور جب وہ جھوٹی نکلیں تو کہنے لگا کہ مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کی پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں۔

سبحان اللہ! مرزا قادیانی سے جب اپنی صداقت ثابت نہ ہو سکی بلکہ جھوٹا ہونا ثابت ہوا تو بے دھڑک کہہ دیا کہ مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کی پیشین گوئیاں جھوٹی نکل چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کے لئے صادق اور سچا ہونا ضروری نہیں۔ لہذا اگر میری کوئی پیشین گوئی جھوٹی نکلے تو اس سے میری نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ درست فرمایا جھوٹی پیشین گوئی سے جھوٹی نبوت ثابت ہو جائے گی۔ اس کے لئے ہم تیار ہیں کہ آپ کی نبوت کو نبوت کا ذبہ مان لیں اور آپ کو نبی کا ذبہ مان لیں۔ وانا علی ذلك من الشاہدین!

حضرات! ذرا یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا دعوے کئے۔ کیا ان بیہودگیوں کے مرتکب اور اس کے پیروکار اس بات کا حق رکھ سکتے ہیں کہ وہ مسجدیں بنا لیں یا اسلام کا نام استعمال کریں۔ دیکھئے:

دعویٰ الوہیت و ابہیت

پہر ما امسال دعویٰ نبوت کردہ است  
سال دیگر گر خدا خواهد خدا خواهد شدن  
مجملہ وجوہ کفر کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو خدا ہونے کا اور خدا کا بیٹا ہونے کا  
بھی دعویٰ ہے۔

الہام اور نبوت سے دعوؤں کا آغاز ہوا

اور دعوئے الوہیت پر ان کا اختتام ہوا

چنانچہ کہتا ہے: ”رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت انی ہو ولم یبق

لی ارادة ولا خطرة و بینما انا فی هذه الحالة كنت اقول انا نرید نظاما

جديداً وارضاً جديدة فخلقت السموات والارض اولاً بصورة اجمالية لا تفريق فيها ولا ترتيب ثم فرقتهما ورتبتها وكننت اجد نفسى على خلقها كالقادريين ثم خلقت السماء الدنيا وقلت انا زينا السماء الدنيا بمصابيح ثم قلت نخلق الانسان فى احسن تقويم وكننا كذلك الخالقين“

(آيۃ کلمات اسلام ص ۵۶۳، ۵۶۵، جزآن ج ۵ ص ایضاً)

میں نے خواب میں اللہ کی ذات کو دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں اور نہ میرا کوئی ارادہ باقی رہا اور نہ خطرہ۔ اسی حال میں جبکہ میں ہمیں خدا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم ایک نیا نظام، نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ پس میں نے پہلے آسمان اور زمین اجمالی شکل میں بنائے جن میں کوئی تفریق اور ترتیب نہ تھی۔ پھر میں نے ان میں جدائی کر دی اور ترتیب دی اور میں نے اپنے آپ کو اس وقت ایسا پایا تھا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح پھر میں نے کہا ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پس میں نے آدم کو بنایا اور ہم نے انسان کو بہتر صورت پر پیدا کیا اور اسی طرح سے ہم خالق ہو گئے۔“

عبارت مذکورہ میں دعوائے الوہیت وخالقیہ کو اگرچہ خواب کا واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ مگر خود مرزا قادیانی کا یہ قول ہے کہ ٹہی کا خواب اور الہام بھی بیداری کا حکم رکھتا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے: ”میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ خود وہی ہوں۔“ (کتاب البری ص ۸۵، جزآن ج ۱۳ ص ۱۳)

### مرزا قادیانی کا الہام

اور مرزا قادیانی کا الہام تھا۔ ”ما یسطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی“ یعنی مرزا قادیانی اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ وہی کہتا ہے جو اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور (تجلیات الہی ص ۱۰، جزآن ج ۳۰ ص ۴۱۲) پر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ”یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے۔ اگر میں ایک دم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔“ کیا مرزائی حضرات مرزا قادیانی کو عین خدامانے پر تیار ہیں۔ ان کو ضرور تیار ہو جانا چاہئے۔ ورنہ کافر ہو جائیں گے اور ان کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔

مرزا قادیانی کشف کے ذریعہ سے اپنا خالق ہونا لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں اور ایسا کشف جس میں صریح الوہیت کا دعویٰ ہو لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا اور اس کو القاء ربانی کہنا

یہ بھی کفر ہے۔ یہ القاء القاء ربانی نہیں بلکہ القاء شیطانی ہے۔  
خدا نے تعالیٰ کے صاحبزادہ ہونے کا دعویٰ

سبحانہ ان یكون له ولد

.....۱ "انت منی بمنزلہ ولدی تو مجھ سے بمنزلہ فرزند کے ہے۔"

(حقیقت الوحی ص ۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

.....۲ "انت منی بمنزلہ اولادی"

(تادیل المتعالمات)

.....۳ "اسمع ولدی اے میرے بیٹے۔"

(البشری ج ۱ ص ۳۹)

.....۴ "خدا قادیان میں نازل ہوا۔"

(البشری ج ۱ ص ۵۶، مجموعہ الہامات مرزا)

.....۵ "انت بمنزلہ پروزی عینہ تیرا ظہور میرا ظہور ہے۔"

(مکاشفات ص ۶۵۰)

اور ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ کی اہمیت اور فرزندیت کا دعویٰ کرے وہ اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو مرزا قادیانی خدائی اور صاحبزادگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو نصاریٰ کا عقیدہ ہے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ میں ان عیسائیوں کے قتل کے لئے آیا ہوں۔

اے مسلمانو! توحید شریعت اسلامیہ کا ایک امتیازی مسئلہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا اور بے نظیر و بے مثل ہے اور اولاد اور بیوی سے پاک اور منزہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے کہ جو مسیح بن مریم کو عین خدا یا فرزند خدا کہتے تھے اور نمرود اور فرعون کو اسی وجہ سے طعون اور مطرد قرار دیا کہ وہ اپنے کو رب اعلیٰ کہتے تھے۔

اور یہودیہ کہتے تھے: "نحن ابناء اللہ و احبأہ" کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ پس اسی طرح مرزا قادیانی کے دعوائے الوہیت اور اہمیت کو کفر اور ضلال سمجھے۔ مرزائے قادیان اپنے کو کبھی عین خدا کہتا ہے اور کبھی خدا کا فرزند اور کبھی بمنزلہ فرزند کہتا ہے۔ آپ ہی انصاف کریں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کفر اور شرک ہوگا۔

اور اگر کسی مرزائی کو مرزا قادیانی کے ان کفریات و شرکیات میں تاویل ممکن ہے تو فرعون اور نمرود کے ماننے والوں کے لئے بھی تاویل ممکن ہوگی اور گو سالہ پرستوں کے لئے بھی ممکن ہوگی اور جو لوگ رام چندر اور گاندھی کو خدا مانتے ہیں ان کے لئے بھی تاویل ممکن ہوگی۔

دعویٰ تثلیث پاک

"مسیح اور اس عاجز (یعنی مرزا قادیانی) کا مقام ایسا ہے کہ جس کو استعارہ کے طور پر

اہیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ محبت الہی کے چمکنے والی آگ سے ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کا نام روح القدس ہے اس کا نام پاک تثلیث ہے۔ اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور ابن اللہ کے ہے۔“ (توضیح المرام ص ۲۷۲ تا ۲۷۳، خزائن ج ۳ ص ۶۲ تا ۶۳)

مرزا قادیانی کہتے تو یہ ہیں کہ میں نصاریٰ کی تثلیث کو مٹانے کے لئے آیا ہوں اور خود تثلیث کے مدعی ہیں۔ گویا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک تثلیث کی دو قسمیں ہیں۔ ایک پاک تثلیث جس کے مرزا قادیانی قائل ہیں اور ایک نجس تثلیث جس کے نصاریٰ قائل ہیں۔ مرزا قادیانی دوسری تثلیث کے مٹانے کے لئے آئے ہیں۔ نصاریٰ کی تثلیث تو شرک ہے اور مرزا قادیانی کی تثلیث توحید ہے۔

دعوائے حلول ذات ربانی در پیکر انسانی

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ: ”جب کوئی شخص زمانہ میں اعتدال روحانی حاصل کر لیتا ہے تو خدا کی روح اس کے اندر آ جاتی ہے۔“ (توضیح المرام ص ۵، خزائن ج ۳ ص ۷۶)

یاد رہے کہ ہندو بھی اپنے اوتاروں کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور سامری جو گوسالہ کی بابت کہتا تھا کہ هذا الہکم والہ موسیٰ اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ خدا تعالیٰ اس پیکر جسمانی میں حلول کر آیا ہے۔ مرزائی حضرات بتلائیں کہ مرزا قادیانی کے ان تلقینات کے بعد مرزائیوں میں اور عیسائیوں اور مشرکوں میں کیا فرق رہا۔

دعوائے مریمیت و زوجیت خداوندی

مرزا قادیانی (کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰) پر لکھتے ہیں کہ: ”مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نوح کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو دس مہینہ سے زیادہ نہیں بذر لیا اس الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔“

مرزا قادیانی نے اپنی اس مکافہ میں اپنے لئے استقرار حمل کا اقرار فرمایا اور پھر یہ فرمایا کہ دس ماہوں کے بعد میں مریم سے عیسیٰ بن گیا۔ سبحان اللہ!

مرزا قادیانی:

خود کوزہ و خود کوزہ گرو خود گل کوزہ

کا مصداق ہیں۔ کیونکہ ولادت کے لئے وردہ ضروری ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی (کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۱) پر اس وردہ کے متعلق لکھتے ہیں۔ ”پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے۔ دروزہ منہ کجھور کی طرف لے آئی۔“ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کے کچھ اور بھی الہامات

ہیں۔ شرم کی وجہ سے ہم نے ان کو نقل نہیں کیا۔

مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید قاضی یار محمد بی. اوایل پلیدرا اپنے ٹریکٹ نمبر ۳۴ موسم بہ اسلامی قریانی مطبوعہ ریاض ہند پریس امرتسر میں لکھتے ہیں کہ: ”جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقعہ پر اپنی یہ حالت بیان فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔ سمجھنے والے کے واسطے اشارہ کافی ہے۔“ استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ!

اے مسلمانو! دیکھ لو شیطان الہام ایسا ہوتا ہے۔ ایسا الہام تو احتلام سے بدتر ہے۔ اے مسلمانو! مرزا قادیانی کے اس حیا سوز کشف کو آپ نے پڑھ لیا۔ مرزائیوں کے نزدیک تو مرزا قادیانی کے الہامات پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیونکہ خود مرزا قادیانی کا یہ شعر ہے۔

انچہ من بشنوم ز حکم خدا  
بخدا پاک داتم اش از خطا  
ہجو قرآن منزہ اش داتم  
از خطا ہا ہمیں است ایمانم

(درشین فارسی)

اے مرزائیو! خدار اپنے اوپر رحم کر دو اور ان خرافات سے تائب ہو کر خاتم النبیین ﷺ

کے ظل عافیت میں آ جاؤ۔

کرشن ہونے کا دعویٰ

منجملہ وجوہ کفر کے ایک وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو کرشن کا بروز بتلاتے ہیں۔ جو مشرکین ہند اور بت پرستان بھارت کا امام الائمہ تھا۔ جس سے مرزا قادیانی کا امام الایمہ الکفر والشک ہونا ثابت ہوا۔ ہندوؤں کے اعتقاد میں کرشن بھگوان، پریشور کا اوتار تھا۔ جس کی بناء عقیدہ تناخ اور حلول پر ہے۔

مرزا قادیانی کے کفر کی یہ اٹھائیس وجہ ہوئیں جو ہم نے ہدیہ ناظرین کر دیں۔ امید ہے کہ اہل بصارت اور اہل بصیرت کی ہدایت کے لئے یہ وجوہ کافی ہوں گی۔ اس لئے اب ہم اپنے کلام کو ختم کرتے ہیں۔ ورنہ اگر حقیقت پر نظر کی جائے تو مرزا قادیانی وجوہ کفر کم از کم اٹھائیس ہزار لکھیں گی۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی تالیفات ہزاروں ہزار صفحے نہیں کفریات کی تکرار اور اعادہ سے بھرے پڑے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو شخص کلمہ کفر اور شرک سومرتبہ یا ہزار مرتبہ کہے تو یہی کہا جائے گا

کہ اس نے ہزار مرتبہ کفر اور شرک کا ارتکاب کیا۔

اور حقیقت یہ ہے کہ چودہ صدی کے تمام مدعیان نبوت میں اس قدر وجہ کفر نہ ملیں گی۔ جو تہماء ایک مرزا قادیانی کی ذات میں جمع تھیں۔ اس لئے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ گذشتہ مدعیان نبوت کو تمام دعویوں کو مع شے زائد اپنے اند لئے ہوئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرزا چودہ صدی کے دجالین اور کذابین کا نسل اور بروز تھا۔ بلاشبہ مسیح دجال کا اکمل ترین بروز تھا۔

مرزائیوں کے مختلف فرقے اور ان کا باہمی فرق

مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے زیادہ تر تین پارٹیوں پر منقسم ہیں۔ ایک پارٹی ظہیر الدین اروپائی کی ہے اور دوسری پارٹی مرزا محمود قادیانی کی ہے اور تیسری پارٹی محمد علی لاہوری کی ہے۔ پہلی اروپائی پارٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی مستقل نبی تھے اور ناسخ قرآن تھے اور شریعت محمدیہ مرزا قادیانی کے آنے سے منسوخ ہو چکی ہے۔

مرزا محمود قادیانی خلیفہ قادیان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی حقیقی نبی ہیں اور جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر اور جہنمی ہے اور محمد علی لاہوری اور اس کی پارٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی حقیقی نبی تو نہیں مگر مجازی اور لغوی نبی ہیں اور مسیح موعود حقیقی ہیں۔ اذل الذکر دو جماعتوں کا کفر لوگوں کی نظر میں ظاہر ہے۔ البتہ لاہوری جماعت کے بارہ میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جماعت کیوں کافر ہے۔ جب کہ یہ جماعت مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتی۔

جواب یہ ہے

کہ کسی جماعت کا مسلمان یا کافر ہونا اس پر موقوف نہیں کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتی ہے یا نہیں۔ اول دیکھنا یہ ہے کہ خود مرزا قادیانی کیا کہتا ہے۔ سو ہم دعوائے نبوت کے متعلق خود مرزا قادیانی کی عبارتیں نقل کر چکے ہیں کہ جن میں مرزا قادیانی نے صاف صاف الفاظ میں آواز بلند یہ کہہ دیا کہ میں خدا کا نبی اور رسول ہوں اور ہر بات میں تمام انبیاء سے بڑھ کر ہوں اور دعوائے نبوت کے بارے میں مرزا قادیانی کی صد ہا عبارتیں بلکہ ہزار ہا عبارتیں ایسی صریح موجود ہیں کہ جن کی مراد اور مفہوم بالکل واضح ہے

اور مرزا قادیانی نے بار بار اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو میری نبوت کو نہ مانے یا میرے بارے میں متردد ہو وہ کافر اور جہنمی ہے اور اس سے بپاہ شادی کے تعلقات جائز نہیں اور نہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت جائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ اپنے دعویوں کے انکار کرنے والوں کو کافر کہنا انہی نبیوں کی شان ہے۔ جو خدا کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ



لے کر آئے ہوں۔

پس لاہوری جماعت والے مرزا قادیانی کے قول اور فتوے کے مطابق کافر اور جہنمی ہوئے۔ کیونکہ لاہوری جماعت والے مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ بلکہ محض مہمدمانتے ہیں۔

دوم یہ کہ لاہوری جماعت آنحضرت ﷺ کو خاتم النبیین مانتی ہے اور آپ کے بعد کسی کے لئے نبوت کو جائز نہیں مانتی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ایسی بے شمار صریح عبارتوں سے مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت ثابت ہو گیا تو ایسی صورت میں تو مرزا قادیانی کو ادنیٰ درجہ کا مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے۔ جس شخص کا کفر ثابت ہو جائے مدعی نبوت کو تو مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے اور اس کو مہمدمانتے سمجھنا تو اس سے بڑھ کر کفر ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص مسیلمہ کذاب (مدعی نبوت) کو نبی تو نہ مانے۔ لیکن اس کو مہمدمانتے تو یہ شخص بھی بلاشبہ کافر ہے اور مدعی نبوت اور یقینی کفر کرنے والے کے قول میں کسی قسم کی تاویل کرنا یا اس کی طرفداری کرنا یہ بھی بلاشبہ کفر ہے۔

نیز یہ کہ مرزا غلام احمد فقط دعوائے نبوت کی وجہ سے کافر نہیں بلکہ اور وجہ سے بھی کافر ہے۔ جن کا بیان پہلے ہو چکا ہے اور مرزا قادیانی کے یہ عقائد کفریہ صریح اور صاف ہیں اور اردو زبان میں ہیں۔ جس کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں اور پھر ہر کفر سو سو عنوان اور سو سو تعبیر سے مرزا قادیانی کی کتابوں میں مذکور ہے۔ جس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے صریح کافر اور مرتد کو تو ادنیٰ درجہ کا مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے۔ چہ جائیکہ اس کو مہمدمانتے موعود مانا جائے۔

اور لاہوری جماعت اگرچہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتی اور اس کی نبوت کے قائل نہیں۔ لیکن سوائے دعوائے نبوت کے مرزا قادیانی کی ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے اور دل و جان سے ان پر ایمان رکھتی ہے کہ جو بلاشبہ کفر ہیں اور قرآن اور حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ لاہوری جماعت اگرچہ مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت کی تصدیق نہیں کرتی۔ لیکن دیگر عقائد کفریہ میں تو اس کی ہم نوا ہے۔ بالفرض اگر مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ نہ کرتا تب بھی وہ ان عقائد کفریہ کی بناء پر کافر اور مرتد تھا تو اس بناء پر بھی لاہوری جماعت کافر ٹھہراتی ہے۔ اس لئے کہ کافر اور مرتد ادکی ہمنوائی بھی کفر ہے۔

مثلاً اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ تو نہ کرے اور آنحضرت ﷺ کو صدق دل سے خاتم النبیین بھی مانے۔ لیکن وہ شخص ان امور کا انکار کرے جو آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ

سے ثابت ہیں۔ مثلاً

..... انبیاء کرام کی توہین کرے۔

۲..... اور ان کے معجزات کا انکار کرے۔

۳..... اور ان کے حسب و نسب میں طعن کرے تو ایسا شخص بلاشبہ کافر ہے۔

اور جو شخص ان عقائد کفریہ میں اس کا ہموا بنے تو وہ بھی کفر میں ان کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ یہی حال لاہوری جماعت کا ہے کہ اگرچہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتی۔ لیکن مرزا قادیانی کے دوسرے عقائد کفریہ کو دل و جان سے حق سمجھتی ہے۔ علاوہ ازیں پیشوائے جماعت لاہور یہ محمد علی لاہوری نے انگریزی اور اردو میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ جس میں بہت سی آیات قرآنیہ کی تحریف کی ہے۔ یہ تحریفات ہی اس جماعت کے کفر کے مستقل وجوہ ہیں۔ خواہ یہ جماعت مرزا قادیانی کو مانے یا نہ مانے یہ تحریفات اس جماعت کے کفر اور الحاد کے مستقل وجوہ ہیں۔ نیز پہلے گزر چکا ہے کہ مرزا قادیانی صاف اور صریح الفاظ میں با واز بلند یہ کہتے ہیں کہ جو مجھ کو نہ مانے وہ کافر اور جہنمی ہے تو مرزا قادیانی کے اس فتوے کی بناء پر لاہوری جماعت کافر اور جہنمی ٹھہرتی ہے۔ کیونکہ لاہوری جماعت مرزا قادیانی کو بھی نہیں مانتی۔ محض مجدد یا محدث ماننے سے ان کو کفر سے نجات نہیں ملتی۔ بہر حال لاہوری جماعت مرزا قادیانی کے فتوؤں کی رو سے بھی کافر اور جہنمی ہے۔ کیونکہ لاہوری جماعت مرزا قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتی۔

لاہوری مرزائیوں سے سوال

اگر مرزا قادیانی حقیقی نبوت کے مدعی نہ تھے تو یہ بتلایا جائے کہ حقیقی نبوت کا دعویٰ کن الفاظ سے ہوتا ہے اور نبی اکرم ﷺ تو مرزا قادیانی کے نزدیک بھی حقیقی نبی تھے جو الفاظ حضور ﷺ کے نبوت کے لئے قرآن کریم میں آئے ہیں۔ وہی الفاظ مرزا قادیانی نے اپنے لئے استعمال کئے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی حقیقی نبوت کے مدعی نہ تھے۔ صریح مکابروہ اور مجادلہ ہے۔ ایک شخص صراحتاً علی الاعلان یہ کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مراد ظلی اور بروزی اور مجازی اور لغوی وزارت ہے۔ مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت کی عبارتیں عموماً اردو زبان میں ہیں۔ کیا سوائے محمد علی لاہوری کے کوئی اردو زبان سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔

اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مرزا قادیانی نے نبوت حقیقیہ کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ ظلی اور بروزی اور مجازی نبوت کے مدعی تھے تو یہ بتلایا جائے کہ کیا ظلی اور مجازی نبوت پر ایمان لانا فرض ہے اور کیا اس کا انکار کفر اور ارتداد ہے۔

نیز یہ بتلایا جائے کہ لاہوری جماعت اس گروہ کو جو مرزا قادیانی کو حقیقتاً نبی مانتی ہے۔ جیسے بشیر الدین محمود اس کی تکفیر کیوں نہیں کرتی۔ لاہوری جماعت کو چاہئے کہ قادیانی جماعت کے

کفر کا اعلان کرے اور ان سے بیاہ شادی اور میراث کے عدم جواز کا فتویٰ دے۔ لیکن معاملہ برعکس ہے۔ جو لوگ حضور ﷺ کو صحیح معنی میں خاتم النبیین مانتے ہیں لاہوری جماعت ان سے کافروں کا سا معاملہ کرتی ہے اور کسی مرزائیہ لڑکی کا نکاح غیر مرزائی سے جائز نہیں سمجھتی اور نہ ان کے پیچھے نماز درست سمجھتی ہے اور قادیانی جماعت سے بیاہ شادی و میراث وغیرہ سب کو جائز اور حق سمجھتی ہے۔ حالانکہ یہ جماعت ختم نبوت کی منکر ہے اور خاتم النبیین کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانتی ہے۔ جو سراسر عقیدہ نبوت کے خلاف ہے۔

نیز اگر آپ کے نزدیک مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں ہی نہیں دیں اور آنحضرت ﷺ کی مساوات بلکہ افضلیت کا بھی دعویٰ نہیں کیا اور کیا مرزا قادیانی نے اسلام کے قطعی اور اجماعی امور میں تاویل اور تحریف بھی نہیں کی۔

کیا ان باتوں سے آدمی کافر اور مرتد ہوتا ہے یا نہیں۔ بلاشبہ مرزا قادیانی ایک وجہ سے نہیں بلکہ صد ہا وجہ سے صریح کافر اور مرتد ہیں۔ لاہوری مرزائی اگرچہ ظاہراً مرزا قادیانی کو نبی نہیں کہتے۔ لیکن دعوائے نبوت کے علاوہ تو مرزا قادیانی کی تمام کفریات کو حق سمجھتے ہیں اور جو شخص صریح کافر کو کافر نہ سمجھے تو وہ بھی کافر اور مرتد ہے۔ مثلاً کوئی شخص مسلمینہ کذاب کے کفر میں تاویل کرے تو وہ بھی کافر ہے۔

لاہوری جماعت کا عجیب حال ہے

کہ مرزا قادیانی کو ملہم اور مامور من اللہ بھی مانتی ہے اور ان کے خاص دعوائے نبوت سے انکار بھی کرتی ہے۔ قادیان کے منتہی سے بھی وابستہ رہنا چاہتی ہے اور مسلمان بھی رہنا چاہتی ہے۔

ایں خیال است و حال است و جنون

قادیانی جماعت سے سوال

جب آپ کے نزدیک مرزا قادیانی حقیقتاً نبی ہے تو پھر آپ لاہوری جماعت کی تکفیر کیوں نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ آپ کے اعتقاد کے مطابق ایک حقیقی نبی اور رسول کے منکر ہیں۔ حیرت ہے کہ مرزا محمود کے نزدیک تمام دنیا کے مسلمان جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانیں تو وہ کافر اور مرتد ہیں۔ مگر محمد علی لاہوری اور ان کے تبعین اگرچہ مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار کریں وہ کافر اور مرتد نہیں بھائی بھائی ہیں۔

آخر مرزا طاہر بتلائیں کہ وہ لاہوریوں کو کیوں کافر نہیں کہتے۔ آخر وہ بھی ہماری طرح مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے اور تمہارے باپ دادا مرزا غلام احمد کافرتی ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ معلوم ہوا کہ قادیانیوں کا یہ اختلاف سب جنگ زرگری اور نفاق ہے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے کہ لاہوری مرزا قادیانی کو نبی نہ مانیں تو کافر نہیں اور تمام دنیا کے مسلمان مرزا قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر اور مرتد ہیں۔ معلوم ہوا کہ قادیانی اور لاہوری در پردہ سب ایک ہیں۔ ”والکفر ملۃ واحده“

اصل وجہ یہ ہے کہ

جب لاہوری جماعت نے مرزا قادیانی کو مسیح موعود اور مامور من اللہ مان لیا تو گویا نبی ہی مان لیا۔ بلکہ سب کچھ مان لیا۔ ہمارے نزدیک محمد علی لاہوری منافق تھا۔ مرزا محمود اور طاہر منافق نہیں۔ صاف کہتے ہیں کہ میرا باپ حقیقتاً نبی تھا اور لاہوری جماعت بہ نسبت قادیانی جماعت کے زیادہ خطرناک ہے۔ نفاق کے پردہ میں اپنے کفر کو چھپاتی ہے۔

مرزا قادیانی کے تھیلے میں سب کچھ ہے

مرزا قادیانی کی تصانیف میں سب قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایمان کی بھی اور کفر کی بھی۔ اسلام اور عیسائیت اور ہندو مذہب اور مجوسیت سب کچھ ہے۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوئی وہ پیش کر دی جاتی ہے۔ لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مرزائیوں کا یہی طریقہ ہے۔ جہاں ضرورت پیش آئی وہاں مرزا قادیانی کو مجدد اور ملہم من اللہ بتا دیا اور جہاں کچھ گنجائش ملی وہاں مرزا قادیانی کو ظلی اور بروزی نبی بتلا دیا اور جہاں احباب خاص کا مجمع ہوا وہاں مرزا قادیانی کو مستقل اور صاحب شریعت نبی بتلا دیا اور دس لاکھ معجزات بتلا دیئے اور جہاں ہندوؤں کا مجمع ہوا وہاں مرزا قادیانی کو کرشن بتلا دیا۔ کبھی مذکر ہو گئے اور کبھی حاملہ اور جانفہ اور کبھی عاقل اور دانابن گئے اور کبھی خطبی اور مراتی بن گئے۔

مرزائی دھوکہ

مرزائی دھوکہ دینے کی غرض سے مرزا قادیانی کی وہ عبارتیں پیش کرتے ہیں جن میں ختم نبوت کا اقرار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلالت قدر اور عظمت شان کا اعتراف ہے۔ اس قسم کی عبارتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ عبارتیں جن میں دعوائے نبوت اور حضرات انبیاء کرام کی توہین اور تحقیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان مطہرہ میں صریح گالیاں ہیں ان کو

چھپاتے ہیں۔ یہود بے بہود کا یہی شیوہ تھا۔ ”قراطیس تبدونہا وتخفون کثیراً“  
جواب

جواب یہ ہے کہ مرزا قادیانی ماں کے پیٹ سے کافر پیدا نہ ہوئے تھے۔ ابتداء میں اسلامی عقائد رکھتے تھے۔ بعد میں نبوت کا خیال پیدا ہوا۔ لہذا پہلی عبارتوں کا پیش کرنا تب مفید ہو سکتا ہے کہ جب مرزائی مرزا قادیانی کی کوئی صاف اور صریح عبارت ایسی دکھادیں کہ جس میں یہ تصریح ہو کہ میری کتاب میں اس کے خلاف جو پاؤدہ سب غلط ہے۔ صحیح صرف وہی ہے کہ جو میں نے قبل دعوائے نبوت لکھا ہے اور اب دعوائے نبوت سے تائب ہوتا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گالیوں اور حضرات انبیاء کی توہین سے توبہ کرتا ہوں۔ مرزائی اگر مرزا قادیانی کی کوئی ایسی عبارت دکھادیں تو ہم بھی ان کی تکفیر سے تائب ہو جائیں گے۔

ایک ضروری اطلاع

مرزا قادیانی کے وجوہ کفر اگر تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو رسالہ اشد للعذاب علی مسلمة النجائب مصنفہ مولانا مرتضیٰ حسن کا ضروری مطالعہ فرمائیں۔ جس میں مولانا صاحب نے مرزا قادیانی کے اور تینوں پارٹیوں کے عقائد کفریہ کو بالتفصیل بیان کیا ہے۔

مرزا قادیانی کے مضامین میں اختلاف کیوں ہے

مرزا قادیانی کی کتابوں میں جس قدر مختلف اور متعارض مضامین ملتے ہیں غالباً دنیا کے کسی تہمتی اور لٹھ اور زندقہ کے کلام میں ان کا ہزارواں حصہ بھی نہیں مل سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرزا قادیانی چالاکی اور عیاری میں سب سے آگے تھے۔ مرزا قادیانی کی یہ روش دیدہ و دانستہ اور خود ساختہ اور پرداختہ ہے۔ کبھی ختم نبوت کا اقرار اور کبھی انکار کبھی حضرت مسیح بن مریم کی مدح اور کبھی ان میں جرح و قدح بھی نزول مسیح کو متواترات اور قطعیات اسلام سے بتلاتے ہیں اور کبھی اس کو مشرکانہ عقیدہ بتاتے ہیں۔ غرض یہ تھی کہ حقیقت کوئی متعین نہ ہو۔ بات گڑ بڑ ہے اور بوقت ضرورت مخلص اور مفرباقی رہے اور زنادقہ کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کی وہ عبارتیں جو عام اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق ہیں۔ ان کے اقوال کفریہ اور الحاد کا عقارہ نہیں بن سکتیں۔ جب تک دو باتیں صراحتاً ثابت نہ ہو جائیں۔ اول یہ کہ مرزا قادیانی یہ تصریح کریں کہ میری وہ عبارتیں جو عام اہل سنت کے مطابق ہیں ان عقائد سے میری مراد بھی وہی ہے جو جمہور امت نے سمجھی ہیں۔ دوم یہ کہ عبارتیں اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف میری

کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان سے علانیہ طور پر توبہ اور رجوع کرتا ہوں اور کتاب و سنت کی تمام نصوص کو اسی معنی پر جانتا ہوں کہ جس معنی کے اعتبار سے صحابہ و تابعین سے لے کر اس وقت تمام امت محمدیہ قائل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی مدح و ثناء بھی کرتا ہے اور اس کی اطاعت اور محبت کا بھی دم بھرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ذرا دل کھول کر اس کو ماں بہن کی گالیاں بھی دے لیا کرے تو ایسا شخص واقعی اس کا مطیع اور تبع سمجھا جاسکتا ہے؟“ وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“

(۲۷ شوال ۱۴۰۳ھ)

عدالت کے لئے لمحہ فکریہ

ان پیش کردہ حقائق کے بعد عدالت کو بخوبی یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ قادیانی فرقہ کو نہ مسجد کا حق ہے اور نہ ان کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان کو کسی طرح یہ حق ہے۔ وہ اپنے متعلق لفظ اسلام اور مسلمان استعمال کریں اور اپنے کسی رسالہ یا کتاب میں یہ عنوان استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر ایک جعلی نوٹ بنانے والا مجرم اور قابل سزا ہے تو اسلام اور دین کے جعلی سکے ڈھالنے والے کیونکر سزا سے بچ سکتے ہیں۔ اس طبقہ کو یقیناً مجرم اسلام کا غدار کہا جائے گا۔ بلکہ یہ تو حکومت پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ ثبوت کے لئے ایک اخبار کا نوٹوسٹیٹ پیش ہے۔

مرزائی..... اسرائیلی فوج میں شامل ہو کر عربوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں

اسرائیل پاکستان کا دشمن ہے لیکن مرزائیوں کا وہاں مشن موجود ہے

مولانا ظفر احمد انصاری کے لرزہ خیز انکشاف کے بعد حکومت اپنا فرض ادا کرے

ہفتہ وار ظاہر لاہور کی اشاعت مورخہ ۲۸ دسمبر ۱۹۷۵ء میں مولانا ظفر احمد انصاری ایم این اے کراچی کے حوالہ سے پولیٹیکل سائنس کے ایک یہودی پروفیسر آئی ٹی نعمان کی کتاب ”اسرائیل اے پروفائل“ کا یہ لرزہ خیز انکشاف چھپا ہے کہ اسرائیل کی فوج میں مرزائی موجود ہیں اور ۱۹۷۲ء میں ان کی تعداد چھ سو تھی۔

اس سے پہلے یہ خبر اخبارات میں چھپ چکی ہے کہ مرزائیوں کا مشن اسرائیل میں موجود ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ۳ جون ۱۹۶۶ء کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں زیر بحث آئی

تھی۔ اداکارہ کے ایک ایم. این. اے میاں عبدالحق نے قومی اسمبلی میں سوال کیا تھا کہ کیا اسرائیل میں مرزائیوں کا کوئی مشن موجود ہے۔ اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسے مشن کے متعلق ہمیں اطلاع دے گا تو ہم اس کے مشکور ہوں گے۔

راقم الحروف نے مرزائیوں کی مشہور کتاب ”آدرفارن مشن“ حاصل کی میاں عبدالحق صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو اور جناب آغا شورش کاشمیری مرحوم کو اس کی فونوٹائیٹ کا پتلا ارسال کیں۔ تار روانہ کئے ہفتہ وار لولاک نے یہ ساری روئیداد شائع کی۔

اسرائیل کی فوج میں مرزائیوں کی موجودگی کے سلسلہ میں کچھ کہنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ہم مرزائیوں کی کتاب ”آدرفارن مشن“ کے ص ۷۹ سے انگریزی عبارت کا لفظ بلفظ ترجمہ شائع کئے دیتے ہیں۔ تاکہ آئندہ جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کھل کر قارئین لولاک اور حکومت کی سمجھ میں آسکے۔

احمد یہ مشن اسرائیل میں حیفہ (ماؤنٹ کرمل) کے مقام پر واقع ہے اور وہاں ہماری ایک مسجد ایک مشن ہاؤس، ایک لائبریری ایک بک ڈپو اور ایک سکول موجود ہے۔ البشری کے نام سے ایک ماہانہ عربی رسالہ جاری ہے۔ جو تین مختلف ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ مسیح موعو کی بہت سی تحریریں اس مشن نے عربی میں ترجمہ کی ہیں۔

فلسطین کے تقسیم ہونے سے یہ مشن کافی متاثر ہوا۔ چند مسلمان جو اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں۔ ہمارا مشن ان کی خدمت کر رہا ہے اور مشن کی موجودگی سے ان کے حوصلے بلند ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہماری مشنری کے لوگ حیفہ کے میٹر سے ملے اور ان سے گفت و شنید کی۔ میٹر نے وعدہ کیا کہ احمدیہ جماعت کے لئے کباہیر میں حیفہ کے قریب وہ ایک سکول بنانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہ علاقہ ہماری جماعت کا مرکز اور گڑھ ہے۔

کچھ عرصہ بعد میٹر صاحب ہماری مشنری دیکھنے کے لئے تشریف لائے۔ حیفہ کے چار معززین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ان کا پر وقار استقبال کیا گیا۔ جس میں جماعت کے سرکردہ ممبر اور سکول کے طالب علم بھی موجود تھے۔ ان کی آمد کے اعزاز میں ایک جلسہ بھی منعقد ہوا۔ جس میں انہیں سپانسامہ پیش کیا گیا۔ واپسی سے پہلے میٹر صاحب نے اپنے تاثرات مہمانوں کے رجسٹر میں بھی تحریر کئے۔ ہماری جماعت کے موثر ہونے کا ثبوت ایک چھوٹے سے مندرجہ ذیل واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے۔

۱۹۵۶ء میں جب ہمارے مبلغ چوہدری محمد شریف ربوہ پاکستان واپس آ رہے تھے۔ اس وقت اسرائیل کے صدر نے ہماری مشینری کو ایک پیغام بھیجا کہ چوہدری صاحب روانگی سے پہلے صدر صاحب سے ملیں۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر چوہدری صاحب نے ایک قرآن حکیم کا نسخہ جو جرمن زبان میں تھا صدر محترم کو پیش کیا۔ جس کو صدر صاحب نے خلوص دل سے قبول کیا۔ چوہدری صاحب کا صدر صاحب سے انٹرویو، ریڈیو اسرائیل سے نشر کیا گیا اور ان کی ملاقات اخبارات میں جلی سرخیوں سے شائع کی گئی۔

اور فارن مشن ص ۹۷ کی اس عبارت کے پڑھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزائی فلسطین میں اسرائیل کے قیام سے قبل گئے ہوئے تھے اور وہاں یہ یہودیوں کے لئے سنہری خدمات سرانجام دیتے رہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ اسرائیل بن جانے کے بعد کسی دوسرے عیسائی، ہندو، بدھ وغیرہ کو وہاں مشن قائم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن مرزائیوں کو وہاں سکول قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ وہاں اسکول قائم ہو گئے۔ عربی زبان میں اخبار کلکتا شروع ہو گیا۔ وہاں کے حکام سے راز و نیاز قائم رہا۔ جب کہ مرزائیوں کے اس مشن کا مرکز ربوہ پاکستان میں تھا اور پاکستان نے اسرائیل کے وجود کو نہ اس وقت تسلیم کیا تھا اور نہ ہی آج تک تسلیم کیا ہے۔ پھر آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ عیسائیوں کے مشن تو اسرائیل سے نکال دیئے گئے اور مرزائیوں کے مشن کو یہودیوں نے سینے سے لگائے رکھا۔ انہیں مراعات دیں اور ان کے چرچے ریڈیو اسرائیل سے بلند ہوتے رہے۔ اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ مرزائیوں نے عربوں کے خلاف غداری کی۔ ان کے لئے خفیہ خدمات سرانجام دے کر اسرائیل کے قیام میں امدادی اور جب اسرائیل بن گیا تو یہودیوں نے انہیں سابقہ خدمات اور آئندہ کی ضروریات کے لئے وہاں قائم رکھا۔

ہمارا ایمان ہے کہ یہ اب تک مسلمانوں اور عربوں کے خلاف یہودیوں، برطانیہ اور امریکہ کے لئے جاسوسی اور غداری کے فرائض سرانجام دیتے ہیں۔ بہر حال جب ہم نے آدر فارن مشن کے حوالے سے اس وقت حکومت کو یہ اطلاع دی تھی کہ مرزائیوں کا مشن اسرائیل میں موجود ہے۔ جب کہ پاکستان کا کوئی تعلق اسرائیل سے نہیں ہے۔ نہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور نہ وہاں ہمارا سفارت خانہ ہے۔ تو ہمارا خیال تھا کہ اب پاکستانی حکومت اس جرم میں مرزائیوں کو مزادے گی اور انہیں اس اسلام اور عرب دشمنی کا خوب مزا چکھائے گی۔



لیکن کچھ بھی نہ ہوا لٹاؤ و القار علیٰ یمنہی وزارت خارجہ سے بوریا باندھ کر حکومت سے باہر آ گئے۔ بلکہ صدر ایوب خان کے اردگرد مرزائیوں کا گھیرا اور مضبوط ہو گیا۔ ایم۔ ایم احمد، این۔ اے فاروقی اور سائیں مشر عبد السلام اور دوسرے چھپے ہوئے قادیانی حکومت پر خوب چھا گئے۔

مرزائیوں کا مشن بدستور اسرائیل میں قائم رہا اور آج تک قائم ہے مرزائیوں سے کسی نے دریافت نہیں کیا کہ تم لوگ وہاں کیسے آتے جاتے ہو۔ تمہیں وہاں اخراجات کیسے ملتے ہیں اور تم یہ عرب دشمنی اور اسلام دشمنی کا کھلم کھلا رکاب کیوں کر رہے ہو۔

اب مولانا ظفر احمد انصاری نے نیا انکشاف کر دیا ہے اور وہ بھی یہودی پروفیسر کی کتاب کے حوالے سے کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر ۱۹۷۲ء میں چھ سو قادیانی تھے تو اب ان کی تعداد یقیناً ہزاروں تک پہنچ چکی ہوگی اور یہ اسرائیل کی فوج میں بھرتی ہونے والے لوگ ظاہر ہے پاکستان کی فوج سے نکل کر وہاں گئے ہوں گے۔ ہمارے فوجی راز یہودیوں کے قبضہ میں یقیناً چلے گئے ہوں گے۔ اس سے بڑی غداری اور اسلام دشمنی مرزائیوں کو اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ نہ صرف یہودیوں کے لئے اسلامی ممالک خصوصاً عرب ممالک میں جاسوسی کے فرائض سرانجام دیتے رہے ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں۔ بلکہ ان کی فوج میں شامل ہو کر عربوں کو برباد کرنے اور انہیں یہودیوں کا غلام بنانے میں شریک ہیں۔

دنیا نے عرب اسلام کا بیج اور مصدر ہونے کی وجہ سے ہمارے لئے بے حد قابل احترام ہے۔ لیکن اب تو ہم عربوں کے اس لئے بھی ممنون اور احسان مند ہیں کہ ان کی طرف سے ہمیں ہر نازک موقعہ پر ہر طرح کا تعاون ملا ہے اور اب بھی وہ ہماری بے پناہ مالی امداد کر رہے ہیں۔ ہمارے لئے یہ معرہ ناقابل فہم ہے کہ اس قیامت خیز انکشاف کے بعد بھی ہماری حکومت مرزائیوں کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لئے تیار نہیں ہوگی۔ مرزائی جو اسلام ملک اور موجودہ حکومت تینوں کے مسلمہ اور مصدقہ دشمن ہیں۔ ان کی عرب دشمنی کا زندہ ثبوت سامنے ہے۔ ان کے متعلق اس کی غیرت اس کی حمیت اور اس کی رگ احتساب کیوں نہیں پھڑکتی اور وہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لئے کیوں آمادہ نہیں ہے۔

آخر میں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملہ پر سنجیدگی سے غور کرے اور اس کا ایکشن لے۔ مرزائی خواہ بھارت میں خواہ پاکستان میں ہیں۔ خواہ یورپ میں اور خواہ

اسرائیل میں وہ سب کے سب مرزانا صراحمہ کے وفادار ہیں اور ہر جگہ انہی کی ہدایات کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اگر اس خوفناک اقدام کے بعد بھی حکومت مرزائیوں سے کوئی ایکشن نہیں لیتی تو عوام بے شمار شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جانے میں حق بجانب ہوں گے اور کوئی شخص پھر اس طرح بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری وزارت خارجہ کے علم اور مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔

### ربوہ میں بھارتی جاسوس

ایک دفعہ ربوہ کے سالانہ جلسہ کے موقع پر چند غیر ملکی لوگ دنیا کو دکھانے کے لئے لائے گئے تھے۔ ان غیر ملکی لوگوں میں ۱۵ مرزائی بھارت سے بھی آئے ہوئے تھے۔ جلسہ ختم ہو جانے کے بعد ربوہ میں کچھ مخصوص مشاورتیں ہوئیں۔ جتنے مرزائی وکیل آئے ہوئے تھے۔ انہیں جمع کر کے ان کی ایک الگ مشاورت ہوئی۔ اسی طرح اگلے روز تمام ضلعی امیروں کا اجلاس ہوا۔ پھر صوبائی امیروں کا اجلاس ہوا۔ اس کے بعد ۳۰ دسمبر کو بھارتی اور صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان کے مرزائیوں کے اجلاس ہوئے۔ اس کے بعد تمام باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو اجازت دے دی گئی۔ لیکن بھارت، صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان کے مندوبین کو چند دنوں کے لئے روک لیا گیا ہے اور ان سے خفیہ مشاورتیں ہو رہی ہیں۔

ہماری شروع ہی سے رائے ہے کہ مرزائی ایک سازشی ٹولہ ہے۔ یہ لوگ اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ پاکستان کے مخالف اور اسے کسی نہ کسی طرح توڑنا ان کا مذہبی عقیدہ اور جماعتی فرض ہے۔ اس وقت یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اسرائیل کی فوجوں میں بھرتی ہو کر دنیائے عرب اور دنیائے اسلام کی بربادی میں عملاً حصہ لے رہے ہیں۔

مرزانا صراحمہ گزشتہ دنوں علاج کے بہانے لندن اور یورپ کا دورہ کر آئے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق وہ وہاں بھارت، برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل کی اٹیلی جنس کے افسروں سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان ملاقاتوں میں پاکستان اور دنیائے اسلام کی بربادی کے منصوبے ہی زیر بحث آئے ہوں گے۔ ایسے حالات میں حکومت کی سادگی ہے کہ اس نے بھارت کے ان ۱۵ مرزائیوں کو جو یقیناً بھارت کی اٹیلی جنس کے آدمی ہیں۔ پاکستان میں داخل ہونے دیا ہے اور وہ امتیازی طور پر ٹھہرائے گئے۔ ادھر بلوچستان اور سرحد جوسی آئی۔ اے کی سازشوں کی زد میں ہیں ان کے نمائندوں سے مشورے ہو رہے ہیں۔

پھر مرزائیوں کا اتنا خفیہ اور زاردارانہ نظام ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہونے دیتے کہ وہ کیا مشاورتیں کر رہے ہیں اور کون کون سے سازشی منصوبے ان کے زیر بحث ہیں۔ بہر حال حالات ہماری معلومات اور وجدان کی تصدیق کریں گے اور جلد یا بدیر حکومت تسلیم کرے گی کہ ان کا جلسہ محض ایک فراڈ ہے۔ اس میں اسلام اسلام کی تبلیغ ایک دھوکہ ہے۔ اصل میں یہ تنظیم یہودیوں اور دوسری سامراجی طاقتوں کی ایجنٹ ہے اور یہ اجتماع اور ان کی یہ مشاورتیں پاکستان کی سالمیت اور وجود کے خلاف ہوتی رہی ہیں۔

### قابل اعتراض

مرزائیوں کے ربوہ کے سالانہ جلسہ میں ہمیشہ باتیں ایسی سامنے آتی ہیں جو سخت قابل اعتراض ہیں اور جن کا نوٹس لینا ضروری ہے۔ ۷ ستمبر ۱۹۷۷ء کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس وقت سے مرزائیوں کا رویہ پہلے سے کئی گنا زیادہ حکومت اور مسلمانوں کے خلاف ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کو وہ پہلے ہی کافر اور پکے کافر کہتے ہیں۔ ختم نبوت کے دینی عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر انتہائی خلوص سے تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور دمرزائیت کا کام کرنے والوں کو وہ حرامزادہ اور کنجریوں کی اولاد کہتے ہیں۔

گزشتہ حکومت کے دور میں باوجود یکہ ستمبر ۱۹۷۷ء میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ لیکن حکومت کی سطح سے ان کے ساتھ غیر مسلموں کا ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ان کو پوری طرح نوازا جاتا رہا۔ ان کے سالانہ جلسے کے موقعوں پر ان کی بے جا ناز برداری ہوتی رہی۔ پولیس اور سیکورٹی کے بے پناہ انتظامات ہوئے۔

حالانکہ یہ ان کا سالانہ جلسہ تھا۔ اس کے انتظام اور دوسرے کام ان کی اپنی ذمہ داری تھی۔ اسی طرح سرکاری سکولوں کی عمارتیں جو کبھی مرزائیوں کی انجمن کی ملکیت تھیں۔ لیکن اب قومی ملکیت میں آنے کے بعد سرکاری املاک، میں وہ مرزائیوں کو مہمان خانوں کے طور پر استعمال کرنے کے لئے دی گئیں۔ چنانچہ تعلیم الاسلام کالج کی پرانی عمارت میں ضلع و شہر لاہور، ضلع و شہر کیسبل پور ضلع ہزارہ اور ضلع لائل پور کے مرزائی ٹھہرے ہوئے تھے۔ بشیر ہال تعلیم الاسلام ہائی سکول کی بلڈنگ میں ضلع و شہر گجرات کے مرزائی تعلیم الاسلام کی اصل بلڈنگ میں ضلع ساہیوال ضلع جہلم ضلع ملتان اور خیبر پور ڈویژن کے مرزائی اور تعلیم الاسلام ہائی سکول کے بورڈنگ میں ضلع گوجرانوالہ اور ضلع ڈیرہ غازیخان کے مرزائی ٹھہرائے گئے تھے۔

البتہ فضل عمر ہوشل، طیبہ کالج، جامعہ احمدیہ ہوشل، جامعہ احمدیہ ایوان محمود، دارالضیافت دفاتر انصار اللہ اور خیمہ جات مرزائیوں کی اپنی ملکیتی بلڈنگیں اور انتظام تھا۔ اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن سرکاری بلڈنگوں کو کفر کے تعاون کے لئے دینا، سودا عظیم اور خود اسلام کے نزدیک ایک ناجائز فعل تھا اور یہ زیادتی حکومت کے کار برد ازان کی تھی۔ اس سلسلہ میں انتظامیہ یہ کہہ سکتی ہے کہ چنیوٹ کی کانفرنس کے لئے چنیوٹ کے دو تعلیمی اداروں کی بلڈنگیں دے دی جایا کرتی ہیں۔ اگر مرزائیوں کے جلسہ کے لئے ربوہ کے تعلیمی اداروں کی عمارتیں دے دی جائیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ ہم حکومت پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ اسلام اور اسلام کے ایک اہم ترین مسئلہ ختم نبوت کی تبلیغ کے لئے منعقد ہوتی ہے۔ اس کے لئے قومی ذرائع اور وسائل کا استعمال ہونا اس مملکت کے سرکاری مذہب اور نظریہ کے عین مطابق ہے۔ لیکن ربوہ کانفرنس اس مملکت کے سرکاری مذہب اور اس مملکت کے بنیادی نظریہ کے منافی اور مخالفانہ تبلیغ کے لئے ہوتی ہے۔ اس میں سرکاری ذرائع اور وسائل کا استعمال اصولی طور پر غلط اور مملکت کے مفاد کے خلاف ہے۔

اس لئے ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ ربوہ کا جلسہ نظریہ پاکستان اور مملکت کے سرکاری مذہب کے خلاف ہے۔ اس جلسہ کو بالکل بند کر دیا جانا چاہئے۔ دنیا میں چین اور روس نظریاتی ملکیتیں ہیں۔ ان کا بنیادی نظریہ کمیونزم ہے۔ وہاں کمیونزم کے علاوہ کسی نظریہ کی تبلیغ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہاں کمیونزم کے علاوہ کسی دوسرے مذہب یا ازم کی تعلیم تدریس اور تبلیغ کے لئے اجتماع منعقد کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان بھی ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کا بنیادی نظریہ اسلام ہے۔ اس مملکت میں بھی نہ تو اسلام کے خلاف کسی ازم یا دوسرے مذہب کی تبلیغ ہونا چاہئے اور نہ ہی اس کے خلاف کسی نظریہ یا ازم کی تبلیغ کا کوئی اجتماع منعقد کیا جانا چاہئے۔ امید ہے کہ حکومت ہماری گزارشات پر غور و خوض سے غور کرے گی۔

یوم قائد اعظم اور ربوہ

۲۵ دسمبر قائد اعظم کا یوم ولادت ہے۔ اس سال بھی حسب سابق پورے ملک میں یوم قائد اعظم ہر شہر ہر قصبہ اور ہر قریہ میں منایا گیا۔ کہیں اہتمام سے اور کہیں سادگی سے۔ لیکن پورے ملک میں ربوہ ایک ایسا مقام ہے جہاں یوم قائد اعظم نہیں منایا گیا۔

ربوہ والوں نے اپنے جلسہ کے بڑے انتظامات کئے ہوئے تھے۔ لیکن بانی پاکستان

کے یوم ولادت کے سلسلہ میں کوئی ادنیٰ تقریب یا کم از کم قومی جینڈا لہرانے کی رسم تھی وہ بھی نہیں کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزائیوں کے دل میں قائد اعظم یا ان کے پاکستان کے لئے کوئی احترام اور جگہ نہیں ہے۔

چوہدری ظفر اللہ کو قائد اعظم نے وزارت خارجہ عطاء کی تھی۔ لیکن اس نمک حرام نے اپنے اس محسن کی وفات کے بعد ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ موقعہ پر موجود ہوتے ہوئے غیر مسلم سفیروں اور دوسرے لوگوں میں بیٹھا رہا۔ لیکن نماز میں شرکت نہ کی اور دریافت کرنے پر کہا کہ میں تو کافر حکومت کا ایک مسلمان وزیر ہوں۔ اس لئے میں ایک کافر کے جنازے میں کیسے شریک ہوتا۔ جب اس پر ملک میں لے دے شروع ہوئی تو مرزائیوں نے لکھا کہ اگر چوہدری ظفر اللہ خاں قائد اعظم کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے بھی تو ابوطالب کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ ابوطالب اسلام نہ لائے تھے۔ اس لئے حضور نے انہیں غیر مسلم سمجھتے ہوئے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی تھی۔ قائد اعظم بھی چونکہ ظفر اللہ خاں کے نزدیک کافر تھے۔ اس لئے انہوں نے ان کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کی۔

تعجب ہے کہ مرزائی قائد اعظم کے جنازے کے سلسلہ میں بھی اور دوسری کئی جگہ پر مسلمانوں اور اپنے میں کفر و اسلام کا فرق قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب پوری دنیائے اسلام نے رابطہ عالم اسلام میں یہ فیصلہ کیا کہ مرزائیوں کا مذہب مسلمانوں سے جدا ہے۔ وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور دنیائے اسلام کے منتخب علمائے کرام اور مفتیان عظام کے اسی فتویٰ اور فیصلہ کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے دیا تو مرزائی سچ پائیں اور سخت ناراض ہیں۔ مسلمانوں کو جاہد بر باد کرنے پاکستان کو ختم کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ یہاں تک کہ دنیا کی سب سے زیادہ دشمن اسلام طاقت اسرائیل کے ایجنٹ بن گئے ہیں۔ اس کی فوجوں میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور دنیائے اسلام سے فراہم کردہ راز یہودیوں کو دے رہے ہیں۔ وہ مٹھی بھر ہوتے ہوئے اپنے کافرانہ مرتدانہ عقائد و نظریات کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان اور ناجی اور کل دنیا کے مسلمانوں کو کافر، حرامزادے، کجخیروں کی اولاد کہیں تو یہ عقل اور سلامتی کی بات ہے؟ اور اگر پوری دنیائے اسلام ان کے کافرانہ اور مرتدانہ عقائد کی روشنی میں انہیں کافر اور مرتد کہے تو یہ ظلم اور بے عقلی کی بات ہے؟

بسوخت عقل زحمت کہ ایں چہ بوالعصبیت

قادیانیوں نے قرآنی علوم و مضامین اور شریعت اسلام کے اصول ہی اس طرح مسخ کئے کہ اصل اسلام ہی کی کوئی حقیقت باقی نہ رہی۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیں۔

حضرات! ان تمام حقائق اور دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ پاکستان میں مرزائی اور قادیانی جماعت بالکل ان یہودیوں کی طرح ہے جو مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں تھے۔ ان کے بارہ میں قرآن کریم نے کن احکام و ہدایات سے اپنے پیغمبر ﷺ کو مامور فرمایا؟ اس بارے میں پوری سورہ حشر نازل فرمائی گئی۔ جس میں اللہ کی پاکی اور حمد و ثناء کے بعد اسی حکم سے ابتداء فرمائی گئی۔

”هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من ديارهم لاوّل الحشر (حشر: ۶)“ وہی پروردگار ہے جس نے نکالا ان اہل کتاب میں سے منکروں کو ان کے گھروں سے پہلے ہی مرتبہ کی جلاوطنی کے لئے۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اپنے فوائد قرآن میں فرماتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے چند میل کی مسافت پر ایک قوم یہود ہستی تھی۔ جس کو بنی نضیر کہتے تھے۔ ان لوگوں کی قوت و شوکت کی حد تھی۔ مضبوط قلعے تھے۔ جن پر ان کو ناز تھا۔ آنحضرت ﷺ کی مدینہ منورہ تشریف آوری پر پہلے انہوں نے آپ ﷺ سے صلح کا معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ ﷺ کے مقابلہ میں کسی کی مدد نہ کریں گے۔ مگر رد پر وہ کفار مکہ سے ساز باز کرتے رہے۔ حتیٰ کہ ان کے ایک بڑے سردار کعب بن الاشرف نے چالیس سواروں کے ہمراہ مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کے سامنے قریش سے عہد و پیمانہ باندھا جب اس کی سازش بڑھتی رہی تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ نے آنحضرت ﷺ سے اجازت لے کر اس خبیث کا کام تمام کیا۔ پھر دوسری جماعت یہود جو بنو نضیر کہلاتی تھی۔ ان کی طرف سے سلسلہ غدر اور سازشوں کا جاری رہا۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک دفعہ دھوکہ سے آنحضرت ﷺ کو اپنے یہاں بلا کر یہ چاہا کہ اوپر سے پھر آپ ﷺ کے سر مبارک پر پھینک کر نصیب دشمن ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی نے عین اس وقت آگاہ کر دیا اور خفیہ طور پر دو آدمی بھیج دیئے کہ اوپر سے جا کر پھر گرا دیئے جائیں تو اس کے بعد آپ ﷺ نے مسلمانوں کا لشکر ان پر حملہ کرنے کے لئے روانہ فرمایا اور ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ جب یہودی گھبرا گئے تو مجبوراً صلح کی التجا کی۔ آپ نے مصالحت تو قبول فرمائی۔ مگر حکم دیا کہ مدینہ منورہ خالی کر دو۔ چنانچہ ان کو خیبر کی طرف جلاوطن کر دیا گیا۔ مگر یہ پہلی مرتبہ کی جلاوطنی تھی۔ جو اللہ نے پہلے ہی ظاہر کر دی تھی۔ آنحضرت ﷺ نے مرض الوفا میں وصیت فرمائی۔

”اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب (بخاری و مسلم)“ کہ یہود اور نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اس وجہ سے فاروق اعظم نے ان لوگوں کو دوسری مرتبہ جلا وطنی کا حکم دیا اور شام کے علاقہ کی طرف ان سب کو جلا وطن کر دیا گیا۔

اقلیتی فرقہ کی سازشی روش اور تخریبی کاروائیوں کے باعث یہ فیصلہ صرف قرآن کریم ہی کا نہیں بلکہ برطانیہ کے قدیم زمانے کے قوانین میں تو اسی طرح کی نظرس ملتی ہیں کہ ایسے گروہ کو اس طرح کی کوئی آزادی نہیں دی گئی کہ وہ خود اپنی مذہبی و ثقافتی روایات ہی کو نمایاں کر سکیں۔ حالانکہ ان کے اس طرح کی باتوں میں برطانیہ کے عیسائی کسی درجہ میں بھی من حیث الہد ہب متاثر نہیں ہوتے تھے۔ مثلاً ۱۱۹۰ء میں ایڈورڈ اڈل نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے یہودیوں کو ملک بدر کر دینے کی تاکید کی اور ان کی جلا وطنی ایک قانون کی شکل میں جاری کی گئی۔

یہودیوں کی مذہبی آزادی کے سلسلہ میں برطانیہ میں ۱۲۷۱ء میں ایک قانون نافذ کیا گیا۔ جس کی رو سے ہنری ثالث نے یہودیوں کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں دی تھی اور نہ ہی ان کو اس کی اجازت تھی کہ وہ عیسائیوں کو نوکر بنا کر رکھیں اور یہ حکم جاری کیا گیا کہ یہودی اپنے لباس کے ساتھ ایک پہچانچ استعمال کیا کریں۔ جو ان کے واسطے ایک امتیازی نشان ہو اور سالانہ ٹیکس بھی ان پر تھا۔ جو کنوڑیہ کے زمانہ تک رہا اور ۱۸۲۶ء میں اسے منسوخ کیا گیا۔ ۱۸۵۳ء تک یہودیوں کو قانونی تحفظ حاصل نہ تھا۔ حتیٰ کہ یہودی کے اپنے مذہبی اداروں کے لئے وصیت کے باوجود یہ درست تھا کہ وہ وصیت کردہ سرمایہ عیسائی مذہبی اداروں میں استعمال کر لیا جائے۔ یہودیوں کے مذہبی اداروں کا رجسٹریشن کا ۱۸۵۵ء میں قانون نافذ ہوا۔ اگر موازنہ کیا جائے تو اس زمانے کے برطانیہ میں بسنے والے یہودی ہمارے ملک میں بسنے والے قادیانیوں سے کم خطرناک تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان پر قسم قسم کی پابندیاں عائد تھیں۔ ہمارا مدعا یہ نہیں کہ بالکل اسی درجہ میں اسی وقت ان کو قرار دیا جائے۔ اگر وہ غیر مسلم اقلیت کے فیصلہ کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت کے آرڈیننس کا احترام کریں تو ان کو اقلیتوں کے حقوق پاکستان میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس اس فیصلہ کا مقابلہ اور اس کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اصولاً ان کو پاکستان کی دی ہوئی مراعات میں کسی چیز کا حق نہ ہوگا اور حکومت کو پھر وہی کرنا چاہئے جو فاروق اعظم نے یہودیوں کے لئے فیصلہ فرمایا تھا۔ اب یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے بارے میں اسلام کا لفظ اختیار کریں اور نہ ہی اصولاً اس بات کا حق ہے کہ اپنی عبادت گاہیں مسجد کی حیثیت پر بنائیں۔ حکومت پر بھی یہ فرض عائد ہے کہ اگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو ان پر قانونی چارہ جوئی کرے۔ کیا کسی

حکومت میں یہ برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی گروہ جعلی کرنسی ملک میں پھیلائے تو پھر یہ کیسے برداشت کیا جاسکتا ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں جعلی اسلام جو سراسر کفر ہے اور اس کے کفر ہونے کا فیصلہ بھی ہو چکا۔ پھیلا یا جائے۔

تاریخ اسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ خارجیوں کے ساتھ قتال کیا گیا۔ حالانکہ خوارج نے کوئی نئی نہیں بنایا تھا۔ بلکہ ان کی گمراہی اسلام کے مسلمہ اصول و نظریات سے انحراف کرتے ہوئے ایک باطل اور غلط نظریہ اختیار کرنے کی وجہ سے تھی۔ کیونکہ اسلام کا یہ طے شدہ قانون ہے کہ جب تک اسلام کے جملہ بنیادی نظریات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اس وقت تک کوئی فرد یا جماعت مسلمان نہیں اور اگر اسلام کے کسی ایک بنیادی عقیدہ اور نظریہ کے خلاف کوئی عقیدہ اختیار کیا جائے تو وہ قابلِ عفو جرم نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت علیؑ نے خارجیوں سے قتال کیا جس کی تفصیلات تاریخ میں موجود ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ روزے بھی رکھتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ لیکن اس لئے کہ اسلام کا قانون تو یہی ہے ”ادخلوا فی السلم كافة“ ان سے قتال کیا گیا۔ ان تاریخی حقائق اور اسلام کے اصول کے پیش نظر اس قوم سے بدترین قوم کوئی نہیں ہو سکتی۔ جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا اور جھوٹے مدعی نبوت کی نبوت پر ایمان لائے۔

غرض پاکستان میں بسنے والے قادیانی تاریخ قدیم کے برطانیہ میں بسنے والے یہودیوں اور قرن اڈل کے خارجیوں سے زیادہ خطرناک قوم ہیں۔ ان حالات میں کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مسجدیں بنا کر اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر دھوکہ دیں۔ بس یہ ناچیز ان ہی الفاظ پر اکتفاء کرتے ہوئے عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہے کہ پاکستان کے قادیانیوں کو پوری قوت کے ساتھ مسجدوں کی تعمیر اذان اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور قادیانیت کو اسلام کے عنوان سے تعبیر کرنے پر پابندی عائد کرے۔ میں پوری امید رکھتا ہوں کہ پاکستان جیسی عظیم اسلامی مملکت کی عدالت عالیہ قانون اسلام کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے قادیانیوں کے اسلام دشمنی کے تمام مراکز کو ختم کرنے کا بھی فیصلہ کرے گی۔ تاکہ یہ ان مراکز سے اسلام اور پاکستان کی تخریب کا کوئی کام نہ کر سکیں۔ ”واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین“

احقر: محمد مالک کاندھلوی

شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، ۲۷ اگست ۱۹۸۳ء



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مَنْ لَمْ یَلْمِ الْیَهُودَ لَمْ یَلْمِ الْاِسْلَامَ  
وَمَنْ لَمْ یَلْمِ الْاِسْلَامَ لَمْ یَلْمِ اللّٰهَ  
وَمَنْ لَمْ یَلْمِ اللّٰهَ فَهُوَ کَافِرٌ  
مَنْ لَمْ یَلْمِ الْاِسْلَامَ لَمْ یَلْمِ اللّٰهَ  
وَمَنْ لَمْ یَلْمِ اللّٰهَ فَهُوَ کَافِرٌ

# فتنہ ازکار ختم ہوت

(حقائق و واقعات کی روشنی میں)

حضرت مولانا سید پیر محمد کرم شاہ الازہریؒ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## عرض ناشر

مجلس الدعوة الاسلامیہ کے زیر اہتمام ”آل پاکستان  
عظمت تاجدار ختم نبوت کانفرنس“ منعقدہ مورخہ ۲، ۳، ۴ اپریل ۱۹۸۲ء  
کے موقع پر ادارہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز ایک مفید اور علمی مقالہ ”فتنہ  
انکار ختم نبوت“ شائع کر رہا ہے۔ جس میں عقیدہ ختم نبوت کی  
وضاحت کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے اس فتنہ کو بھی پوری طرح بے  
نقاب کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ اس مقالہ کے مطالعہ کے بعد قاری کا  
ذہن اس مسئلہ سے متعلق بالکل صاف ہو جائے گا۔

یہ مقالہ ”مجلس الدعوة الاسلامیہ“ کی فرمائش پر شائع  
کیا جا رہا ہے۔ یقین ہے کہ فرزندان توحید کے علمی استفادہ کے  
ساتھ یہ ”گرفزاران فتنہ قلوبانیت“ کے لئے بھی ہدایت و راہنمائی کا  
باعث بنے گا۔

نمبر: ضیاء القرآن پبلی کیشنز (وقف)

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے ان چند بنیادی عقیدوں میں سے ایک ہے جن پر امت کا اجماع رہا ہے۔ اگرچہ بد قسمتی سے امت اسلامیہ کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ باہم تعصب نے بارہا ملت کے امن و سکون کو درہم برہم کیا اور فتنہ و فساد کے شعلوں نے بڑے المناک حادثات کو جنم دیا۔ لیکن اتنے شدید اختلافات کے باوجود سارے فرقے اس پر متفق رہے کہ حضور ﷺ آخری نبی ہیں اور حضور ﷺ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ گذشتہ تیرہ صدیوں سے جس نے بھی نبی بننے کا دعویٰ کیا اس کو مرتد قرار دے دیا گیا اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کر کے اس کی جھوٹی عظمت کو خاک میں ملا دیا۔ مسیلہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبرؓ نے نتائج کی پرواہ کئے بغیر اس کے خلاف لشکر کشی کی اور تب چین کا سانس لیا جب اس جھوٹے نبی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بیشک اس جہاد میں کافی مسلمان بھی شہید ہوئے۔ جن میں سینکڑوں حفاظ کرام اور عظیم المرتبت صحابہ بھی تھے۔ لیکن حضرت صدیق اکبرؓ نے اتنی قربانی دے کر بھی اس فتنے کو چلانا ضروری سمجھا۔ آپ نورِ صمدیّت سے دیکھ رہے تھے کہ اگر ذرا تساہل برتا تو یہ امت سینکڑوں گروہوں میں نہیں سینکڑوں امتوں میں بٹ جائے گی۔ ہر امت کا اپنا نبی ہوگا اور وہ اسی کی شریعت اور سنت کو اپنائے گی۔ اس طرح رحمت للعالمین ﷺ کے زیر سایہ اسلام کے پلیٹ فارم پر انسانیت کے اتحاد کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی اور ”انسی رسول اللہ الیکم جمیعاً“ کا سہانا منظر کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔

ناظرین! کو یہ بھی مد نظر رکھنا چاہئے۔ مسیلہ حضور ﷺ کی نبوت کا منکر نہیں تھا۔ بلکہ اپنے دعویٰ نبوت کے ساتھ ساتھ وہ حضور ﷺ کی رسالت کو بھی تسلیم کرتا تھا۔ چنانچہ حضور خاتم الانبیاء والرسول ﷺ کی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں اس نے جو عریضہ ارسال خدمت کیا تھا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ ”من مسیلمة رسول الله الى محمد رسول الله“ کہ یہ خط مسیلہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، محمد رسول اللہ کی طرف لکھا جا رہا ہے۔

علامہ طبری نے اس امر کی بھی تصریح کی ہے کہ اس کے ہاں جواز ان مروج تھی۔ اس میں ”اشهد ان محمد رسول الله“ بھی کہا جاتا تھا۔ ہاں ہمہ حضرت صدیق اکبرؓ نے اس کو مرتد اور واجب العتل یقین کر کے اس پر لشکر کشی کی اور اس کو واصل بچھم کر کے آرام کا سانس لیا۔ اسلام کی تیرہ صد سالہ تاریخ میں جب بھی کسی سر پھرے طالع آزمایا فتنہ پرداز نے اپنے آپ کو نبی کہنے کی جرأت کی اس کو گل کر دیا گیا۔

انگریز کی غلامی کے دور میں ملت اسلامیہ کو جس طرح کئی مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی طرح ایک جھوٹی نبوت قائم کر کے امت میں انتشار پیدا کیا گیا۔ وہ مدعی نبوت بظاہر عیسائیت کا رد کرتا تھا اور پادریوں سے مناظرے کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ انگریز کا پرلے اور بے کا وفادار تھا۔ مملکت انگلستان کی شان میں اس نے ایسے تعریفی پمفلٹ لکھے کہ کوئی باغیرت مسلمان ان کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ انگریز کی اسلام دشمنی اظہر من الشمس ہے۔ جنہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا تختہ الٹا۔ سلطنت عثمانیہ کو پارہ پارہ کر دیا۔ ایسی ظالم اور اسلام دشمن حکومت کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا اسلام سے غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ انگریز نے اس کی نبوت کو اپنی سنگینیوں کے سایہ میں پروان چڑھنے کا موقع دیا اور اس کو قبول کرنے والوں کے لئے بے جا نوازشات کے دروازے کھول دیئے۔ ہر مرزائی کے لئے کسی استحقاق کے بغیر اچھی سے اچھی ملازمتیں مختص کر دی گئیں۔ سیاسی میدان میں بھی ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ بے شک وہ شخص عیسائیت کے خلاف لکھتا اور بولتا تھا۔ لیکن انگریز نے اس کے ذریعہ امت مسلمہ میں ایک نئی امت پیدا کر کے اور ان کے متفقہ بنیادی عقیدہ میں تشکیک پیدا کر کے جو مقصد عظیم حاصل کیا وہ بہت بڑا کارنامہ تھا اور اپنے دور رس نتائج کے اعتبار سے بڑا اہم تھا۔ اگر ایسا شخص عیسائیت کے خلاف کچھ بولتا ہے تو بولا کرے۔ اس سے انگریزی سیاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ بلکہ عیسائیوں کی مخالفت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے وہ انگریزی استعمار کی خدمت پوری دل جمعی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ اگر وہ عیسائیوں کے خلاف کچھ نہ کرتا تو اس کی بات کوئی آدمی سننے کے لئے تیار نہ تھا۔

مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا پیغام لے کر جب مرزائی مبلغ اسلامی ممالک میں گئے۔ وہاں ان کا جو حشر ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ کئی ممالک میں تو انہیں مرتد قرار دے دیا گیا۔ عالم اسلام کے تمام علماء نے بالاتفاق اس مدعی نبوت کو مرتد اور خارج از اسلام قرار دیا۔

یہ عرض کرنے کا مقصد صرف اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ان بنیادی عقیدوں میں سے ایک ہے۔ جن پر گونا گوں اختلافات کے باوجود سترہ صدیوں تک امت کا کلی اتفاق اور قطعی اجماع رہا ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ کی توحید، قیامت، حضور ﷺ کی رسالت کسی دلیل کی محتاج نہیں۔ اسی طرح ختم نبوت کا مسئلہ بھی کبھی زیر بحث نہیں آیا اور اس کے ثبوت کے لئے کسی مسلمان کو کسی دلیل یا بحث و تمحیص کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔

لیکن مرزا قادیانی نے وہ کام کر دکھایا جس کی جرأت آج تک شیطان کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس مسئلہ پر شرح و بسط سے لکھا جائے تاکہ حضور ﷺ کا امتی کسی غلط فہمی کے باعث اپنے آقائے کریم سے کٹ کر نہ رہ جائے۔ رہے وہ لوگ جو شک کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں اور مال و دولت کے حصول کی خاطر دین بدلنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ بلکہ اسے کمال ہوشمندی سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ ہمیں ان کے لئے ملول نہیں ہونا چاہئے۔ نہ ایسے ابن الوقتوں کی خدا کو ضرورت ہے اور نہ اس کے رسول کو۔

ہمارا دعویٰ بلکہ غیر متزلزل عقیدہ اور ایمان یہ ہے۔ ”حضور سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ سب سے آخری نبی ہیں۔ حضور ﷺ کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضور ﷺ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آسکتا اور جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جو بد بخت اس کے اس دعویٰ کو سچا تسلیم کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے اور اسی سزا کا مستحق ہے۔ جو اسلام نے مرتد کے لئے مقرر فرمائی ہے۔“

اس عقیدہ کو ثابت کرنے کے لئے ہم ایسے دلائل پیش کریں گے جو قطعی اور یقینی ہیں اور جن میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے: ”ملکان محمد ابنا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما (الاحزاب: ۴۰)“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم ﷺ کا اسم گرامی لے کر فرمایا ہے کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی انبیاء کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں۔ جب مولا کریم جو بکل شیء علیم ہے۔ نے یہ فرمایا کہ محمد ﷺ مصطفیٰ نبیوں کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں تو حضور ﷺ کے بعد جس نے کسی کو نبی مانا اس نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تکذیب کی اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی ارشاد کو جھٹلاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔

خاتم النبیین کا جو معنی یہاں کیا گیا ہے۔ اہل لغت نے اس کا بھی معنی لکھا ہے۔ اس وقت میرے پاس علم لغت کی دوسری کتب کے علاوہ الصحاح للجوہری اور لسان العرب لابن منظور موجود ہیں۔ جن کا شمار لغت عرب کی امہات الکتب میں ہوتا ہے۔ آؤ! ان کے مطالعہ سے اس لفظ کی تصحیح کریں۔ لیکن جہت میں نظر رہے کہ صحاح کے مصنف علامہ حماد بن اسماعیل جوہری کا سن ولادت ۳۳۲ ہجری اور سال وفات ۳۶۳ ہ یا ۳۶۸ ہ ہے اور لسان العرب کے مؤلف علامہ

ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الافرقی المصری کا سن ولادت ۶۳۰ھ اور سال وفات ۱۱۷ھ ہے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ (موجودہ) فتنہ انکار ختم نبوت سے صد ہا سال پہلے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے مذہبی تعصب یا ذاتی عقیدہ کے باعث لکھا ہے۔ تاکہ ان کا قول حجت در ہے۔ بلکہ ان کی نگارشات اور ان کی تحقیقات المل لغت کے اقوال کے عین مطابق ہیں۔ پہلے صحاح کی عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

”ختم اللہ له بخیرا“ خدا اس کا خاتمہ بالخیر کرے۔ ”وختمت القرآن بلغت آخره“ یعنی میں نے قرآن مجید آخر تک پڑھ لیا۔ ”اختتمت الشی نقیض افتتحته“ افتتاح کی نقیض اختتام ہے۔ ”والخاتم والخاتم والخاتم“ الخاتم کلہ بمعنی واحد وخاتمة الشی آخره“ یعنی خاتم خاتم خاتم خاتم سب کا ایک ہی معنی ہے اور کسی چیز کے آخر کو خاتمۃ الشی کہتے ہیں۔ و محمد ﷺ خاتم الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ حضور ﷺ تمام نبیوں سے آخر میں تشریف لے آئے۔

علامہ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں۔ ختام الوادی، اقصاء، و ختام القوم و خاتمہم و خاتمہم آخرہم و محمد ﷺ خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام۔ وادی کے آخری کو نہ کو ختام الوادی کہتے ہیں۔ قوم کے آخری فرد کو ختام، خاتم اور خاتم کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے نبی پاک ﷺ کو خاتم الانبیاء کہا گیا ہے۔ لسان العرب میں العہد یب کے حوالے سے لکھا ہے۔ الخاتم والخاتم من اسماء النبی ﷺ و فی التنزیل العزیز ولكن رسول الله وخاتم النبیین ای آخرہم ومن اسمائہ العاقب ایضاً ومعناه آخر الانبیاء یعنی خاتم اور خاتم نبی کریم ﷺ کے اسماء میں سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ ”ولكن رسول الله وخاتم النبیین“ یعنی سب نبیوں سے پیچھے آنے والا اور حضور ﷺ کے اسماء میں سے العاقب بھی ہے۔ اس کا معنی آخر الانبیاء ہے۔

المل لغت کی ان تصریحات سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ خاتم کی تاء پر زیر ہو یا زبر اس کا معنی ”آخری“ ہے۔ اس معنی کی تائید کے لئے المل لغت نے ایک دوسری آیت سے بھی استدلال کیا ہے۔ ”وختامہ مسک ای آخرہ مسک“ یعنی المل جنت کو جو مشروب پلایا جائے گا اس کے آخر میں انہیں کستوری کی خوشبو آئے گی۔

قادیانی اعتراض

ختم نبوت کے منکرین اس موقع پر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ خاتم کا جو معنی آپ نے

بیان کیا ہے (آخری) وہ یہاں مراد نہیں بلکہ اس کا دوسرا معنی مراد ہے اور یہ معنی بھی ان لغت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جن کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ جب ایک لفظ کے دو معنی ہوں تو وہاں ایک معنی مراد لینے پر بھند ہونا اور دوسرے معنی کو ترک کر دینا تحقیق حق کا کوئی اچھا مظاہرہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس آیت کو مانتے ہیں اور اس کے معنی اپنی طرف سے نہیں گھڑتے۔ تاکہ ہم پر تحریف قرآن کا الزام نہ لگایا جائے۔ بلکہ لغت عرب کے مطابق ہی اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ کسی کو ہم پر اعتراض کا حق نہیں پہنچتا۔

صحاح اور لسان العرب دونوں میں خاتم کا معنی مہر یا مہر لگانے والا مذکور ہے۔ آیت کا یہی معنی المبلغ اور شان رسالت کے شایان ہے کہ حضور ﷺ انبیاء پر مہر لگانے والے ہیں۔ جس پر حضور ﷺ نے مہر لگادی وہ نبوت کے شرف سے مشرف ہوگا اور جس پر مہر نہ لگائی۔ وہ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔

### جواب

اس کے متعلق گزارش ہے کہ بیشک لغت کی کتابوں میں خاتم کا معنی مہر یا مہر لگانے والا مرقوم ہے۔ لیکن انہوں نے تصریح کر دی ہے کہ مذکورہ آیت میں خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین ہے۔ یہاں فقط یہی معنی مراد ہے اور یہ لوگ اگر مصر ہوں کہ یہاں خاتم کا دوسرا معنی مراد ہے تو اس سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالعہ کرتے ہوئے غور و تدبر سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے مہر سے مراد ڈاکخانہ کی مہر یا کسی افسر کی مہر سمجھی ہے کہ لکافہ یا کارڈ پر مہر ٹھپہ لگایا اور اسے آگے بھیج دیا، یا کسی کی درخواست پر اپنی میرٹھت کی اور اسے مناسب کارروائی کے لئے متعلقہ دفتر روانہ کر دیا۔ حالانکہ مہر کا جو مفہوم اہل لغت نے لیا ہے وہ قطعاً اس کے خلاف ہے۔ کاش انہیں بے جا تعصب اس امر کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ائمہ لغت کی عبارتوں میں غور کرتے۔

آئیے! ہم آپ کی خدمت میں یہ عبارتیں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کسی صحیح فیصلہ پر پہنچ سکیں۔ لسان العرب میں ہے۔ ”ختمہ، یختمہ ختماً و ختاماً۔ طبعہ فہو مختوم و مختم شدد للمبالغة“ یعنی ختم کا معنی مہر لگانا ہے اور جس پر مہر لگادی جائے اس کو مختوم اور مبالغہ کے طور پر ختم کہتے ہیں۔

اس کے بعد لکھتے ہیں۔ ”و معنی ختم و طبع فی اللغة واحد هو التغطية علی الشئ و الاستیثاق عن ان لا یدخله شئ کما قال جل و علا ام علی قلوب

اقفالہا“ اس عبارت کا ترجمہ ذرا غور سے سنئے۔ یعنی ختم اور طبع کا لغت میں ایک ہی معنی ہے اور وہ یہ کہ کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ دینا اور مضبوطی سے بند کر دینا کہ اس میں باہر سے کسی چیز کے داخلہ کا امکان ہی نہ ہو۔ پہلے زمانہ میں خلفاء، امراء، سلاطین وغیرہ اپنے خطوط کو لکھنے کے بعد کسی کاغذ کے لفافہ اور کپڑے کی خصلی میں رکھ کر سر بہمہر کر دیتے کہ جو کچھ لکھا جا چکا ہے اب اس کو سر بہمہر کر دیا گیا ہے۔ تاکہ اس مہر کی موجودگی میں اس میں کوئی رد و بدل نہ کر دے۔ اگر کوئی رد و بدل کرے گا تو وہ پہلے مہر توڑے گا تو پکڑا جائے گا۔ اس پر احکام سلطانی میں تغیر و تبدل کرنے اور امانت میں خیانت کرنے کے سنگین الزامات میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس صورت میں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ حضور ﷺ کی تشریف آوری کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا اور اس پر مہر لگادی گئی۔ تاکہ کوئی کذاب، دجال اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اگر کوئی شخص زبردستی اس زمرہ میں گھسنا چاہے گا تو پہلے مہر توڑے گا اور جب مہر توڑے گا تو پکڑا جائے گا اور اسے جہنم کی دھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔

قرآن کریم کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے میں عربی زبان کی لغات سے بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں بھی قول فیصل اور حرف آخر حضور ﷺ کی بیان کردہ تشریح ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ارشاد فرماتے ہیں۔

آئیے اب احادیث نبویہ کا بغور مطالعہ کریں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ حضور خاتم الانبیاء نے خاتم النبیین کے کلمات کا کیا مفہوم بیان فرمایا ہے۔ خاتم النبیین کے معنی کی وضاحت کے لئے بے شمار صحیح احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں۔ سب کے ذکر کی یہاں منجائش نہیں۔ فقط چند احادیث یہاں تحریر کی جاتی ہیں۔ جن کے دلوں میں ہدایت کی سچی طلب ہوگی۔ مولا کریم اپنے حبیب روئے رحیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل ہدایت کی راہیں ان کے لئے کھول دے گا اور اس کی توفیق ان کی دست گیری کرے گی۔

”قال النبی ﷺ ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بغی بیتاً فأحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هل لا وضعت هذه البنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین“

(بخاری ج ۱ ص ۵۰۱، کتاب المناقب باب خاتم النبیین)

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال



ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی۔ مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔

اگر آپ اس حدیث میں غور کریں گے تو بلاغت نبوی کے اعجاز کا آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ جب ایک عمارت مکمل ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی خالی جگہ نہیں رہتی تو کوئی ماہر سے ماہر انجینئر بھی اس میں ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کی ایک ہی صورت ہے کہ پہلی اینٹوں میں سے کوئی اینٹ توڑ کر وہاں سے نکال لی جائے اور پھر اس خالی کرائی ہوئی جگہ پر کوئی نئی اینٹ لگا دی جائے۔ حضور کریم ﷺ کی تشریف آوری سے قصر نبوت مکمل ہو گیا اب اس میں کسی اور نبی کی گنجائش نہیں۔ بجز اس کے کہ سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی کو وہاں سے نکالا جائے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے لئے جگہ بنائی جائے کیا کوئی عقل سلیم اس کو گوارا کرے گا۔ قصر نبوت کی اس توڑ پھوڑ کو کیا اللہ تعالیٰ کی غیرت برداشت کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک حدیث ہی اتنی جامع اور اتنی معنی نیز اور اتنی بصیرت افروز ہے کہ ختم نبوت کے لئے مزید کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے کتاب الفہائل باب خاتم النبیین میں اور امام ترمذی نے کتاب المناقب اور ابوداؤد طیالسی نے اپنی مسند میں مختلف اسناد سے نقل کیا ہے۔

۲..... "ان رسول اللہ ﷺ قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجداً وطهوراً وارسلت الی الخلق كافة وختم بی النبیین"

(مسلم ج ۱ ص ۱۹۹، ترمذی، ابن ماجہ)

رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ مجھے چھ باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا۔ یعنی الفاظ مختصر اور معانی کا بحر بے پیرا کنار۔ رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی۔ میرے لئے غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔ میرے لئے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور اس سے تیمم کی اجازت دی گئی۔ مجھے تمام مخلوق کے لئے رسول بھیایا گیا۔ میری ذات سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔

۳..... حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے: "قال رسول اللہ ﷺ ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی"

(ترمذی ج ۲ ص ۵۳)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔

سرورِ دو عالم ﷺ کی اس تصریح کے بعد جس کی کوئی تاویل ممکن نہیں۔ کسی نبوت کا دعویٰ کرنا اور کسی کا اس باطل دعوے کو تسلیم کرنا سراسر کفر اور الجاد ہے۔

۳..... ”قال رسول الله ﷺ ان الله لم يبعث نبياً الا حذرا امتة الدجال وانا آخر الانبياء وانتم آخر الامم وهو خارج فيكم لا محالة“ (ابن ماجہ)  
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ وہ ضرور تمہارے اندر ہی نکلے گا۔

اس حدیث سے جس طرح حضور ﷺ کا آخر الانبیاء ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ کی امت کا آخر الامم ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے۔

۵..... امام ترمذی نے کتاب المناقب میں یہ حدیث روایت کی ہے: ”قال النسبی علیہ السلام لوکان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب“ (ترمذی ج ۲ ص ۲۰۹)  
اگر میرے بعد کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر بن الخطاب نبی ہوتے۔

۶..... امام بخاری اور امام مسلم نے فضائل صحابہ کے عنوان کے نیچے یہ ارشاد نبی ﷺ نقل کیا: ”قال رسول الله ﷺ لعلی انت منی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی“ (بخاری ج ۲ ص ۶۳۳)

رسول اللہ ﷺ نے غزوة تبوک پر روانہ ہوتے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مدینہ طیبہ ٹھہرنے کا حکم دیا۔ آپ کچھ پریشان ہوئے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کی تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

آخر میں ایک اور حدیث سامعے فرمائیے اور اسی کے ذکر پر احادیث کی نقل کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔

۷..... ”عن ثوبان قال رسول الله ﷺ وانه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی“

(ابوداؤد ج ۲ ص ۱۲۷، کتاب المغن)

حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں تمیں کذاب ہوں گے۔ جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

علامہ ابن کثیر متوفی ۷۷۷ھ متعدد احادیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ ”فقد اخبر الله تعالى في كتابه ورسوله ﷺ في السنة المتواترة عنه انه لا نبی بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب، افاك دجال، ضال مضل“ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول کریم ﷺ نے سنت متواترہ میں بتایا ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تاکہ ساری دنیا جان لے کہ جو شخص بھی حضور ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے۔ جھوٹا ہے، دجال ہے، گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔

علامہ سید آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ روح المعانی میں لکھتے ہیں: ”وكونه ﷺ خاتم النبیین مما نطق به الكتاب وصرحت به السنة واجمعت عليه الامة فيكفر مدعى خلافه ويقتل ان اصر“  
یعنی حضور ﷺ کا خاتم النبیین ہونا ایسا عقیدہ ہے جس کی تصریح قرآن و سنت نے کی ہے۔ جس پر امت کا اجماع ہے۔ پس جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس دعویٰ پر مصر رہا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔

علامہ ابن حیان اندلسی متوفی ۷۳۵ھ اپنی تفسیر بحر محیط میں رقمطراز ہیں۔ ”ومن ذهب الي ان النبوة مكتسبة لا تنقطع اوالى ان الولی افضل من النبى فهو زندیق يتجب قتله وقد ادعى ناس النبوة فقتل هم المسلمون على ذلك وكان فى عصرنا شخص من الفقراء ادعى النبوة بمدينة مالقه فقتله السلطان بن الاحمر ملك الاندلس بغرناطة وصلب حتى تناسر لحمه“ یعنی جس شخص کا یہ نظریہ ہو کہ نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور اسے اب بھی حاصل کیا جاسکتا ہے یا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے وہ زندیق ہے اور واجب القتل ہے۔ آج تک جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا۔ ہمارے زمانے میں بھی فقراء میں سے ایک شخص نے شہر مالقہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تو اندلس کے بادشاہ نے غرناطہ میں اس کا سر قلم کر دیا اور اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دیا اور وہ اسی حالت میں لٹکا رہا۔ یہاں تک کہ اس کا گوشت گل کر گر پڑا۔

ان مذکورہ بالا اقتباسات سے امت کا ختم نبوت کے عقیدہ پر اجماع ثابت ہو گیا اور ہر زمانے کے علماء نے مدعی نبوت کو گردن زنی قرار دیا۔ آخر میں ہم ختم نبوت پر عقلی دلیل پیش کرتے ہیں۔

## ختم نبوت کے عقلی دلائل

قدرت کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔

جب حضور نبی کریم ﷺ کی نبوت جملہ اقوام عالم کے لئے اور قیامت تک کے لئے ہے۔ جب حضور ﷺ پر نازل شدہ کتاب بغیر کسی ادنیٰ تحریف کے جوں کی توں ہمارے پاس موجود ہے۔ جب سرور عالم ﷺ کی سنت مبارکہ اپنی ساری تفصیلات کے ساتھ اس کتاب کی تشریح و توضیح کر رہی ہے۔ جب کہ شریعت اسلامیہ روز اول کی طرح آج بھی انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری راہنمائی کر رہی ہے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ آج بھی اعلان کر رہی ہے۔ ”الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (المائدہ: ۳)“ تو پھر کسی اور نبی کی بعثت کا کیا فائدہ ہے اور اس سے کس مقصد کی تکمیل مطلوب ہے۔ آفتاب محمدی طلوع ہو چکا۔ عالم کا گوشہ گوشہ اس کی کرنوں سے روشن ہو رہا ہے۔ تو پھر دن کے اجالے میں کسی چراغ کو روشن کرنا قطعاً قرین دانشمندی ہے؟

مزید غور فرمائیے! نبی کی آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتی کہ نبی آیا۔ جس نے چاہا مان لیا اور جس نے چاہا انکار کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ بلکہ نبی کی بعثت کے بعد کفر اور اسلام کی کسوٹی نبی کی ذات بن کر رہ جاتی ہے۔ کوئی کتنا نیک، پاکباز، پارسا اور عالم باعمل ہو۔ اگر وہ کسی سچے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کا نام مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا اور کفار منکرین کے گمراہ میں اس کا نام درج کرویا جائے گا اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔

اب ذرا عملی دنیا میں مرزا قادیانی کی آمد کا جائزہ لیجئے۔ مسلمانوں کی تعداد کم سے کم اعداد و شمار کے مطابق پچاس کروڑ سے زائد ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کو خدا کا کلام یقین کرتے ہیں۔ تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ان کی نبوت اور صداقت کا اقرار کرتے ہیں۔ قیامت کی آمد کے قائل ہیں۔ عملی طور پر غافل اور کامل سہی۔ لیکن احکام خداوندی اور ارشادات نبوی کے برحق ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ ضروریات دین میں سے ہر چیز پر ان کا ایمان ہے اور اس امت میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں

ایسے بندگان خدا بھی ہر زمانہ میں موجود رہے ہیں۔ جو شریعت پر پوری طرح کار بند اور عبادات پر سختی سے پابند رہے ہیں۔ ان کے اخلاص و التزمیت پر فرشتے رشک کرتے ہیں اور ان کے کارہائے نمایاں پر خود ان کے خالق کو ناز ہے۔ اسی پاک امت میں آ کر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان کی آمد سے پہلے تو یہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ چلو! بعض میں عملی کوتاہیاں ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کم از کم نعمت ایمان سے تو وہ بہرہ ور تھے۔ اب حقیقت حال یہ ہے کہ پچاس سالہ کوششوں کے باوجود چند لاکھ کی نفی نے مرزا قادیانی کو نبی مانا اور باقی پچاس کروڑ نے ان کو دجال اور کذاب قرار دیا۔ نبی کو ماننا اسلام ہے اور انکار کفر ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنا سبز قدم جب دنیائے اسلام میں رکھا تو یہ بہار آئی کہ سارے کے سارے مسلمان مرتد قرار پائے اور اسلام سے محروم ہو کر کفر میں مبتلا ہو گئے۔ صرف گنتی کے چند آدمی مسلمان باقی رہے۔ ان میں بھی غالب اکثریت بلیک مارکیٹ کرنے والوں، رشوت لینے والوں، اقرباء نوازی اور مرزائیت پروری کی قربان گاہوں پر لاکھوں ہقداروں کے حقوق بھینٹ چڑھانے والوں کی ہے۔ ان میں اکثر بے نماز، ڈاڑھی منڈے اور آوارہ مزاج لوگ ہیں۔ ہر قسم کی رذیل حرکتیں کرنے والوں کا ایک لشکر جراثمٹھیں مارتا ہوا۔ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ دنیا اسلام کے لئے عملی طور پر مرزا قادیانی کی آمد برکت کا باعث بنی یا نحوست کا؟

اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کو پسند نہیں کرتی کہ مرزا قادیانی کو سچا نبی بنا کر بھیجا جائے۔ تاکہ اسلام کے سارے ہرے بھرے بیڑ اپنے خشک سائیوں، بیٹھے پھلوں، رنگین اور مہکتے ہوئے پھولوں سمیت اکھاڑ پھینک دیئے جائیں اور چند خاردار جھاڑیوں کے جھرمٹ پر ”گلشن اسلام“ کا بورڈ آویزاں کر دیا جائے۔ متقیوں، پرہیزگاروں، عالموں اور عاشقوں کی امت پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے اور چند زانغ صفت طالع آزما افراد کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ مرزا قادیانی کے امتی بڑی ڈبگیں مارتے ہیں کہ ہم دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام پہنچا رہے ہیں۔ ہماری کوششوں سے یورپ میں اتنی مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ اتنے لوگوں کو ہم نے کلمہ پڑھایا۔ گذارش ہے تم مرزا قادیانی کو اس لئے نبی کہتے ہو کہ انہوں نے چند کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ ہم اولیاء کرام کے زمرہ سے آپ کو ایسے ایسے مبلغ دکھاتے ہیں۔ جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کفار کو کفر کی ظلمتوں سے نکال کر ہدایت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الحق والدین اجمیری نے لاکھوں مشرکوں کے زنا توڑے اور ان کی پیشانیوں کو بارگاہ

رب العزت میں شرف سمود بخشا۔ داتا گنج بخش، جو بری تمہ نے اس کفرستان میں راوی کے کنارے پر توحید کا جو پرچم گاڑا تھا وہ آج بھی لہرا رہا ہے اور لاکھوں خستہ بختوں کو خواب غفلت سے جگا رہا ہے۔ مشائخِ چشت اور دیگر اولیاء کرام نے اسلام کی جو تبلیغ کی اور جو فرشتہ صفت مرید بنائے۔ ان کے مقابلے میں ساری امت مرزائیہ کی تبلیغی کوششوں کی نسبت سمندر اور قطرہ کی بھی نہیں۔ ان کا رہائے نمایاں کے باوجود حضرات نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ نہ مہدیت کا، نہ مسیحیت کا، نہ ظلی کا، نہ بروزی کا، بلکہ اپنے آپ کو غلامانِ مصطفیٰ ہی کہا اور اسی کو اپنے لئے باعثِ صداقت اور موجبِ سعادت دارین سمجھا۔

### مسح علیہ السلام زندہ ہیں

مرزا قادیانی کو اپنی نبوت تک پہنچنے کے لئے بڑا اور کاچکرا کاٹا پڑا۔ آخر کار اس کی کند فکر یہاں آ کر رکی کہ یہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے۔ میں کیوں نہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہنا شروع کر دوں۔ تاکہ مجھے لوگ مسیح مان لیں۔ لیکن اس میں مشکل یہ پیش آئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام تو زندہ ہیں ان کی زندگی میں مسیح کیسے بن سکتا ہوں۔ خیال آیا کہ پہلے مسیح کو مردہ ثابت کر دوں وہ مردہ قرار پاگئے تو پھر میرے لئے میدان صاف ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنا سارا زور دقتِ مسیح علیہ السلام ثابت کرنے پر لگا دیا۔

بیشک رحمت عالم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت سے قبل حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ جن احادیث میں نزولِ مسیح کے متعلق تشریح کی گئی ہے۔ وہ اس کثرت سے مروی ہیں کہ معنوی طور پر وہ درجہ تو اترا تو اتر کر پہنچی ہوئی ہیں۔ آئیے! آپ بھی ان احادیث کی جھلک ملاحظہ کیجئے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی برحق نے کوئی مبہم پیشین گوئی نہیں کی۔ کسی ایسے مسیح کی آمد کی اطلاع نہیں دی۔ جس کی پہچان نہ ہو سکے اور جس شاطر کا جی چاہے وہ آنے والا مسیح بن بیٹھے۔ بلکہ نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو اس کا نام بتایا۔ اس کی والدہ کا نام بتایا۔ اس کے لقب سے خبردار کیا۔ اس وقت اور مقام کی نشان دہی کی جس وقت اور جس مقام پر وہ نزول فرمائے گا جو کارہائے نمایاں وہ انجام دے گا۔ اس کی تفصیل بیان فرمادی اور اس کے مدفن کا بھی تعین فرمایا اور اس کا علیہ بھی بیان کر دیا۔ اب اگر وہ احادیث صحیح ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر دی گئی ہے۔ تو ان تفصیلات کو بھی من و عن صحیح اور صحیح تسلیم کرنا پڑے گا جو ان کے متعلق بتائی گئی ہیں اور اگر کوئی شخص ان تفصیلات کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ تو پھر اسے ان

تمام احادیث کو بھی ساقط الا اعتبار قرار دینا پڑے گا۔ جن میں ان کی آمد کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ تحقیق اور انصاف کا یہ کیسا معیار ہے کہ ایک روایت کی مفید طلب آدمی بات تو مان لی اور اسی روایت کی دیگر تفصیلات کو نظر انداز کر دیا۔

ان کثیر التعداد احادیث میں سے چند احادیث جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے۔ ملاحظہ کریں۔

پہلی حدیث جسے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور امام احمد نے اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔

..... ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها“ (بخاری ج ۱ ص ۳۹۰، کتاب احادیث الانبياء، باب نزول عیسیٰ بن مریم، مسلم ج ۱ ص ۸۷، باب بیان نزول عیسیٰ، ترمذی، ابواب العن باب فی نزول عیسیٰ منذ احمد روایات ابی ہریرۃ)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اس خدا کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم عادل حاکم کی حیثیت سے پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو مار ڈالیں گے اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے اور مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا اور (دینداری کا یہ عالم ہوگا) کہ اپنے پروردگار کی جناب میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔

۲..... امام بخاری نے کتاب المظالم باب کسر الصلیب میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں: ”لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم“ اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک عیسیٰ بن مریم کا نزول نہ ہو۔

۳..... مکتوٰۃ المصابیح میں حضرت ابی ہریرہ سے منقول ہے: ”فبيناهم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذا اقيمت الصلوة فينزل عيسى بن مريم فامهم فانا راه عدو الله يذوب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه انذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربة“ حضور علیہ السلام نے خروج و حال کے ذکر کے بعد فرمایا۔ اس اثناء میں کہ مسلمان اس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ صفیں درست کر

رہے ہوں گے اور نماز کے لئے اقامت کبھی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی امامت کرائیں گے اور دشمن خدا و جاں ان کو دیکھے گا تو پتھلنے لگے گا۔ جیسے نمک پانی میں پھلتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی حالت پر ہی چھوڑ دیں تو وہ از خود پھل کر مر جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ اس کو ان کے ہاتھ سے قتل کروائے گا اور آپ اپنے نیزے میں اس کا خون لگا ہوا لوگوں کو دکھائیں گے۔

۴..... ”عن ابی ہریرۃ ان النبی ﷺ قال لیس بینی و بینہ نبی (یعنی عیسیٰ) و انہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ رجلا مربوعاً الی الحمرة و البیاض بین مصرتین کأن راسہ یقطروان لم یصبہ بلیل فیقاتل الناس علی الاسلام فیدق الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع الجزیہ و یهلك اللہ فی زمانہ الملل کلہا غیر الاسلام و یهلك المسیح الدجال فیمکث فی الارض اربعین سنة ثم یتوفی فیصلی علیہ المسلمون“

(مسند احمد مرویات ابو ہریرہ ج ۲ ص ۳۷، تفسیر ابن جریر ج ۶ ص ۲۲، ابوداؤد، کتاب الملاحم، باب خروج الدجال) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میرے اور ان (یعنی عیسیٰ علیہ السلام) کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور یہ کہ وہ اترنے والے ہیں۔ پس جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا۔ ان کا قد درمیانہ ان کی رنگت سرخ و سفید و وزر در رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے۔ ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا اب ان سے پانی ٹپکنے والا ہے۔ حالانکہ وہ بھیکے ہوئے نہ ہوں گے۔ وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے۔ صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ خنازیر کو مار ڈالیں گے۔ جزیہ ختم کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں اسلام کے بغیر تمام ملتوں کو ختم کر دے گا اور وہ (مسح) دجال کو قتل کر دیں گے اور وہ زمین میں چالیس سال قیام فرمائیں گے۔ پھر وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

۵..... ”عن جابر بن عبد اللہ سمعت رسول اللہ ﷺ فینزل عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فیقول تعال فصل بنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة اللہ لہذہ الامۃ“

(الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۶۳، مسلم بیان نزول عیسیٰ علیہ السلام بن مریم، مسند احمد، مرویات جابر بن عبد اللہ) حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کو یہ فرماتے سنا۔ عیسیٰ بن مریم



علیہ السلام اتریں گے۔ مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا کہ حضور تشریف لائیے اور امامت فرمائے تو آپ فرمائیں گے نہیں تم میں سے بعض دوسروں کے امیر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تکمیل کے طور پر ہے۔

۶..... ”عن النّوأس بن سمعان (فی قصة الدجال) بینهما هو كذلك اذا بعث الله مسیح بن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقی دمشق بین مہرودتین واصغاکفیه علی اجنحة ملکین اذا طأ طارأسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كالؤلؤلؤ فلا یحل لکافر یجد ریح نفسه الامات ونفسه ینتھی الی حیث ینتھی طرفه فیطلبه حتی یدرکه بباب لد فیقتله“

(ابوداؤد کتاب الملاح ج ۲ ص ۱۳۵، مسلم ج ۲ ص ۴۰۱، ترمذی ابواب الفتن ج ۲ ص ۴۸)

حضرت نواس بن سمعان نے دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ اس اثناء میں اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو بھیج دے گا اور وہ دمشق کے مشرقی حصہ میں سفید منارہ کے پاس زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو یوں محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں اور جب سر اٹھائیں گے ان کے سانس کی ہوا جس کا فرنگ پینچے گی اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی وہ زندہ نہ بچے گا۔ پھر ابن مریم دجال کا پیچھا کریں گے اور لد کے دروازے پر اسے جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔

آخر میں ایک اور حدیث سماعت فرمائیے: ”عن ثوبان مولی رسول اللہ ﷺ عصابتان من امتی احرزهما اللہ تعالیٰ من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تکون مع عیسیٰ بن مریم علیہ السلام“

(نسائی کتاب الجہاد ج ۲ ص ۶۳، مسند احمد روایات ثوبان ج ۵ ص ۲۷۸)

حضور نبی کریم ﷺ کے غلام ثوبان سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میری امت کے دو لشکر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے بچالیا۔ ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ دوسرا وہ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔

آپ نے ان احادیث کا مطالعہ فرمایا۔ ان میں مسیح موعود کا حلیہ، نام، والدہ کا نام، مقام اور وقت نزول آپ کے کارہائے نمایاں سب کے سب مذکور ہیں۔ خدا کی شان ملاحظہ ہو کہ یہ شخص جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نام بھی عیسیٰ نہیں۔ حالانکہ ہزاروں مسلمان اس نام

کے موجود ہیں۔ ان کی والدہ کا نام بھی مریم نہیں۔ حالانکہ ہزاروں مسلمان عورتیں اس نام کی اب بھی ہیں اور خود قادیان میں اس نام کی کئی لڑکیاں ہوں گی۔ صلیب کو توڑنا، خنزیر کو قتل کر کے عیسائیت کو نیست و نابود کرنا تو کجا میاں جی ساری عمر عیسائی حکومت کے جھولی چک بنے رہے اور اس کی خیرات پر پلٹے رہے اور اس کی اسلام کش سرگرمیوں پر تعریف و توصیف کے قصیدے لکھتے رہے۔ ساری دنیا کو دارالاسلام بنا کر جزیہ ختم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ خدائے مصطفیٰ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ قادیان کا خطہ پاکستان کا حصہ بنے۔ اب بھی جو لوگ انہیں مسیح موعود مانتے ہیں ان کی نادانی قابلِ صدمہ و افسوس ہے۔

### فقہ منکرین ختم نبوت کے بارے تاجدار ختم نبوت کا انتہا

اللہ عز و اٰلہ نے اپنے نبی مکرم حبیب معظم ﷺ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ وحی نبوت کا نزول ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔ ہر راہ رو جو حق کا جو یا ہے۔ اس پر لازم ہو گیا کہ وہ اس نبی مکرم کے نقوش پا کر اپنا حضور راہ بنائے۔ یہی وہ چشمہ فیض ہے جس سے تمام نوع انسانی کو روز قیامت تک سیراب ہونا ہے۔ اس کی بتائی ہوئی راہ کو چھوڑ کر کوئی بھی منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو اس چشمہ شیریں سے اپنی پیاس نہ بجھائے اس کے مقدر میں تشنہ لہی کے سوا کچھ نہیں جس نے اس کے دامن رحمت کو چھوڑ دیا وہ ہمیشہ کے لئے شقاوت و محرومی کی دلدل میں پھنس کر رہ گیا۔

جب حقیقت یہ ہے تو پھر یہ کیونکر ممکن تھا کہ کاروان انسانیت کو یہ نبی ان تمام خطرات سے آگاہ نہ کر دے۔ جو قیام قیامت تک پیش آنے والے ہیں۔ ان فتنوں کی واضح طور پر نشاندہی نہ کر دے۔ جو ان کے خرمن ایمان پر بجلیاں بن کر گرنے والے ہیں اور انہیں ایسے موڑوں اور چوراہوں سے باخبر نہ کر دے۔ جہاں سے وہ بھٹک سکتے ہیں اور غلط ڈگر پر چل کر اپنے آپ کو برباد کر سکتے ہیں۔ اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان ختم نبوت کا یہ تقاضا تھا کہ حضور ﷺ ان فتنوں اور فتنہ بازوں و دراز ہنزونوں سے اپنی امت کو مطلع فرمادیں جو کسی زمانہ میں لوگوں کی گمراہی اور تباہی کا سبب بننے والے تھے۔ چنانچہ کتب احادیث میں بکثرت ایسی احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ جن میں خاتم النبیین ﷺ نے ایسے فتنوں اور فتنہ بازوں کی مکمل طور پر نشاندہی فرمائی ہے۔

..... حضرت حذیفہؓ جو صاحب سز رسول اللہ ﷺ (رازدان رسالت) کے لقب سے معروف ہیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”واللہ انی لا علم الناس بکل فتنۃ ہی کاشنة فیما بینی و بین الساعة و مالی الا ان یکون رسول اللہ ﷺ اسرالی فی

ذلك شيئا لم يحدثه غيري..... لكن رسول الله قال وهو يحدث مجلساً انا فيه فقال رسول الله وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكون يزرن شيئاً ومنهن فتن كرياض الصف منها صغار ومنها كبار قال حذيفة فذهب اولئك الرهط كلهم غيري“

بخدا ہر فتنہ جو قیامت تک برپا ہونے والا ہے۔ میں اسے تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں اس کی وجہ یہ نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ہی رازداری سے ان کے متعلق بتایا ہو۔ بلکہ حضور ﷺ نے ایک مجلس میں انہیں بیان کیا۔ جس میں میں بھی حاضر تھا۔ حضور ﷺ نے قتلوں کا شمار کرتے ہوئے فرمایا۔ ان میں سے تین ایسے فتنے ہیں جو کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے اور ان میں سے کئی فتنے موسم گرما کی آندھیوں کی طرح ہیں۔ ان میں بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا ان حاضرین مجلس میں سے اب میرے سوا کوئی باقی نہیں۔

۲..... انہی حضرت حذیفہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا: ”والله ما ادري انس اصحابي ام تناسوا والله ماترك رسول الله ﷺ عن قائد الفتنه الى ان تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاث مائة فصاعداً الا قد سماه لنا باسمه واسم ابيه واسم قبيلة“

(ابوداؤد کتاب الفتن ج ۲ ص ۱۳۶)

حضرت حذیفہ کہتے ہیں۔ بخدا میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھیوں نے اسے فراموش کر دیا یا دانستہ انجان بنے بیٹھے ہیں۔ بخدا اہتمام دنیا تک جتنے فتنے برپا ہونے والے ہیں ان کے ایسے قائد جن کے پیرو تین سو یا زائد ہوں گے۔ حضور ﷺ نے ایسے قائد کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام ہمارے سامنے ذکر فرمادیا۔

ان ارشادات سے مقصد یہ تھا کہ امت اسلامیہ ان فتنہ بازوں کے دام فریب میں پھنس کر راہ حق سے منحرف نہ ہو جائے۔ کوئی بد قماش ان کی متاع ایمان کو لوٹ کر نہ لے جائے۔ ان تمام فتنوں میں سب سے مہلک فتنہ وہ تھا جو انکار ختم نبوت کی صورت میں نمودار ہونے والا تھا۔ کئی طالع آزمائشی ناموسی اور شہرت کے لئے نبوت کا سوا ننگ رچانے والے تھے۔ ان لوگوں کی فتنہ انگیزیوں سے صرف یہی نہیں کہ مملکت اسلامیہ کا امن و سکون برباد ہونے والا تھا۔ لوگوں کے ایمان و یقین میں شک وارتباب کا زہر گھولا جانے والا تھا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ فتنہ طعت اسلامیہ کی وحدت اور یکجہتی کو پارہ پارہ کرنے والا تھا اور اسلام میں تحریف و تغیر کا ایسا دروازہ

کھولنے والا تھا۔ جس سے اس چشمہ فیض کے کدر ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اس لئے سرور کونین خاتم  
النبیین ﷺ نے خصوصیت سے اس فتنے کا ذکر کر کے اپنے غلاموں کو ہوشیار کر دیا کہ وہ ایسے  
جموٹے اور کذاب مدعیان نبوت کے چنگل میں اسیر نہ ہو جائیں۔ حضرت ثوبانؓ سے مروی ہے۔  
”قال رسول اللہ ﷺ وانہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ  
نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی“ (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۲۷، ترمذی ج ۲ ص ۳۵)

یعنی میری امت میں تیس جموٹے نمودار ہوں گے۔ ان میں ہر ایک دعویٰ کرے گا وہ  
نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آسکتا۔

اسی مفہوم کی ایک دوسری حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں۔ جس میں  
حضور ﷺ نے فرمایا ”لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریباً من  
ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ“ یعنی قیامت نہیں ہوگی جب تک تیس کے قریب دجال  
اور کذاب نمودار نہ ہوں۔ ہر ایک ان میں سے دعویٰ کرے گا کہ وہ رسول اللہ ہے۔

آپ ان احادیث میں مکرر فرمایا ہے۔ ہادی برحق نے تقنی فصاحت سے اپنی امت کو  
ایسے بد بخت لوگوں کی شرانگیزیوں سے متنبہ فرمایا۔ پہلی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ تیس کذاب  
دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ پھر خاتم النبیین کی تشریح بھی خود  
فرمادی کہ کوئی محرف اس کی غلط تاویل کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کر دے۔ فرمایا: ”لا نبی بعدی“  
میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری حدیث میں ان جموٹے مدعیان نبوت کو کذاب کے ساتھ  
دجال بھی فرمایا۔

لغت عرب میں دجال کی یہ تشریح کی گئی ہے۔

”الدجال المموہ وسمی دجالاً لتمویہہ علی الناس وتلبیہ وتزینہ

الباطل (لسان العرب)“

یعنی دجال طمع ساز کو کہتے ہیں جو لوہے پر سونے کا پانی چڑھا کر لوگوں کو دھوکہ دے۔  
دجال کو دجال اس لئے کہا جائے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے پکٹی چڑی ہاتھیں کرے گا۔ باطل کو حق کا  
لباس پہنائے گا اور اس کو اپنی ان ترانوں سے حیرن کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔

ان واضح تصریحات کے بعد ہر وہ شخص جو نبی مکرم رسول معظم ﷺ پر صدق دل سے  
ایمان لایا اور حضور ﷺ کے جملہ ارشادات کو برحق اور صحیح تسلیم کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی طمع ساز کے

دجل و فریب کا فکار ہو کر عقیدہ ختم نبوت سے انکار نہیں کر سکتا اور نہ کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر اس کی نبوت کا اقرار کر سکتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان روشن ارشادات سے تمام فرزند ان اسلام پر حجت تمام کر دی۔ اب اگر کوئی گمراہی کے اس غلیظ اور گہرے گھڑے میں گرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی اس کے مرشد کامل نے تو اس کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔

جب نبی صادق و مصدوق نے یہ فرمایا کہ میں دجال، کذاب قیامت سے پہلے نبوت کا دعویٰ کریں گے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ایسا نہ ہوتا۔ چنانچہ امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ والسلام کی چودہ صد سالہ تاریخ حضور ﷺ کی اس پیشین گوئی کی تصدیق کر رہی ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ خلافت صدیقی میں ہی شروع ہو گیا تھا اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی آنجہانی تشریف فرما ہوئے۔ ان کے دعاوی، ان کی تعلیمات، ان کے فرمودات اور ان کے طریقہ کار کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو ان میں ہمیں کوئی جدت نظر نہیں آتی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے سابقہ پیشروؤں کی تعلیمات اور نظریات سے پوری طرح استفادہ کیا ہے اور متفرق لوگوں سے متفرق چیزیں لے کر اپنی نبوت کی دکان سجائی ہے۔ مرزا قادیانی ختم نبوت کے قائل بھی ہیں اور ساتھ ہی اپنے آپ کو نبی بھی کہتے ہیں۔ اس تضاد کو انہوں نے یہ کہہ کر دور کیا ہے کہ حقیقی نبی تو حضور ﷺ ہیں اور میں ظلی اور بروزی نبی ہوں۔ درحقیقت یہ تاویل کتنی ہی بھونٹی کیوں نہ ہو۔ بہر حال مرزا قادیانی کی ذہنی سطح سے بلند تر ہے۔ ظاہر بین شخص ضرور اس ندرت آفرینی پر حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ مراد مرزا قادیانی کا سرقہ ہے۔ جو انہوں نے اپنے ایک پہلے پیشرو اسحاق اُخرس مغربی مدعی نبوت سے کیا ہے۔ یہ کم بخت شمالی افریقہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے تمام علوم رسمیہ کی تکمیل کی۔ مختلف زبانیں سیکھتا رہا اور قرآن کریم کے علاوہ تورات، انجیل، زبور میں مہارت تامہ حاصل کی۔ پھر اپنے وطن سے نقل مکانی کر کے بہت دور اصفہان میں آ پہنچا اور ایک عربی مدرسہ میں قیام کیا اور دس سال تک گونگا بنا رہا۔ ایک رات اس نے اچانک زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ مدرسہ کے تمام لوگ بیدار ہو گئے۔ جب اس کے پاس پہنچے وہ نماز میں مشغول ہو گیا اور ایسی خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ بآواز بلند قرآن پڑھنے لگا کہ بڑے بڑے قاری بھی عیش عیش کرا گئے۔ جب لوگوں کے دلوں پر اس کی دھاک بیٹھ گئی تو اس نے ایک دن اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ جس طریقہ سے اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا وہ قابل غور ہے۔ کہنے لگا۔ ”فرشتہ نے ایک سفید سی چیز میرے منہ میں رکھ

دی۔ یہ تو معلوم نہیں وہ چیز کیا تھی۔ البتہ اتنا جانتا ہوں وہ شہد سے زیادہ شیریں منکھ سے زیادہ خوشبودار اور برف سے زیادہ سرد تھی۔ اس نعمت خداوندی کا حلق سے نیچے اترتا تھا کہ میری زبان گویا ہو گئی اور میری منہ سے یہ کلمہ نکلا۔ ”اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله“ یہ سن کر فرشتوں نے کہا کہ محمد کی طرح تم بھی رسول ہو۔ میں نے کہا میرے دوستو! تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ مجھے اس سے سخت حیرت ہے۔ بلکہ میں تو عرق غجالت میں ڈوبا جاتا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے۔ خدائے قدوس نے تمہیں اس قوم کے لئے نبی مبعوث فرمایا ہے۔ میں نے کہا کہ جناب باری نے تو سیدنا محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام روحی فداہ کو خاتم الانبیاء قرار دیا اور آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا۔ اب میری نبوت کیا معنی رکھتی ہے۔ کہنے لگے درست ہے۔ مگر محمد ﷺ کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تمہاری بالبعث اور ظلی و بروزی ہے۔

(آئہ تلبیس ص ۱۱۰)

مرزا قادیانی نے اس موضوع پر جو طومار لکھے ہیں ان کا مطالعہ فرمائیے۔ یہی چیز ہے جس میں ہیر پھیر کر کے انہوں نے اپنی نبوت کا سوا نگ رچایا ہے۔ مرزا قادیانی نے وحی کا جو انداز اپنایا ہے وہ بھی ان کے قاری کو ورطہٴ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا کوئی حصہ لیا۔ حدیث کا کوئی فقرہ چرایا۔ ایک دو لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیئے اور اسے وحی کا نام دے کر سادہ لوح لوگوں پر اپنی نبوت کا رعب جمایا۔ لیکن ان کا یہ انداز بھی طبع زاد نہیں بلکہ اس کوچہٴ ضلالت میں جو لوگ پہلے آوارہ گردی کرتے رہے انہی کی ان صاحب نے بھی نقل اتارنے کی کوشش کی ہے۔ حمدان بن اعمش ایک صاحب گزرے ہیں۔ اس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور امام محمد بن حنفیہ کے فرزند احمد کی رسالت کا اعلان کیا۔ اس نے اپنے معتقدین کو ایک خود ساختہ سورت نماز میں پڑھنے کی تلقین کی۔ اس سورت کے چند فقرے آپ بھی ملاحظہ فرمائیے:

”الحمد لله بكلماته وتعالی باسمه قل ان الالهة مواقیت للناس ظاہرہا لیعلم عدد السنین والحساب اتقوا فی یا ولی الالباب وانا الذی الالستل عما فعل وانا العلیم الحکیم“

مرزا قادیانی نے بھی بے شمار دعوے کئے ہیں۔ میں مسیح ہوں۔ میں عیسیٰ ہوں۔ میں

۱ اسحاق اُخرس ہو یا مرزا قادیانی ہر دو کی یہ ہرزہ سرائی کہ میں ظلی نبی ہوں یا بروزی نبی ہوں۔ ان کے ذہنوں کی یہ شیطانی تلبیس ہے۔ وگرنہ پورے اسلامی کلچر (قرآن، حدیث، کتب سیر وغیرہ) میں اس کا کوئی وجود نہیں۔

مہدی ہوں وغیرہ وغیرہ ان دعاوی میں بھی انہوں نے اپنے استاد حمدان کے استاد اول قرصط نے اپنے پیروؤں پر رات دن میں پچاس نمازیں فرض کیں۔ جب انہوں نے اس سے شکوہ کیا کہ نماز کی کثرت نے انہیں دنیاوی اشغال اور کسب معاش سے روک دیا ہے تو بولا اچھا میں اس کے متعلق ذات باری سے رجوع کروں گا۔ چنانچہ چند روز بعد لوگوں کو ایک نوشتہ دکھانے لگا جس میں حمدان کو خطاب کر کے لکھا تھا کہ تم بھی مسیح ہو تم ہی عیسیٰ ہو تم ہی کلمہ ہو تم ہی محمد بن حنفیہ ہو تم ہی جبرائیل ہو۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ جناب مسیح بن مریم میرے پاس انسانی صورت میں آئے اور مجھ سے فرمایا کہ تم ہی داعی ہو تم ہی حجت ہو تم ہی ناقہ ہو تم ہی دلہہ ہو تم ہی روح القدس ہو اور تم ہی یحییٰ بن زکریا ہو۔ مرزا قادیانی آنجناب نے اسی حمدان کے الفاظ کو کچھ اضافوں کے ساتھ دہرایا ہے۔ البتہ ان نابکاروں میں سے کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کہہ سکتا یہ گستاخی اور دکات مرزا قادیانی کے لئے ہی مختص تھی۔

مرزا قادیانی نے بھی اپنی صداقت کے لئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں عربی میں قصیدہ لکھ سکتا ہوں۔ میں عربی میں تفسیر لکھ سکتا ہوں۔ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ بھی محض لغو اور لہجہ ہے۔ انہوں نے جو اشعار عربی میں لکھے ہیں اور جو عربی نثر لکھی ہے ذوق سلیم کو اس سے گھن آتی ہے۔ اہل زبان نے اسے کبھی بھی لائق التفات نہیں سمجھا۔ بلکہ اسے اغلاط کا پلندہ کہا ہے۔ خود ہندوپاک کے علماء نے اس کے ایک ایک صفحہ میں بیسیوں اغلاط کی نشاندہی کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اس کی بیشتر عبارتیں سرقہ ہیں اور فضلاء نے ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں سے مرزا قادیانی نے سرقہ کیا ہے۔ ایسے آدمی کو یہ زب نہیں دیتا کہ اس قسم کی ڈینگیں مارے۔ بفرض محال اگر وہ عربی لغت گو شاعر یا صاحب طرز ادیب تسلیم کر بھی لئے جائیں تو اس سے ان کی نبوت کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا ان سے بہتر ہزر ہا شعراء اور نثر نگار ادبا نہیں گزرے ہیں جن کے سامنے انہیں یارائے تکلم بھی نہیں اگر اس قسم کی اناپ سناپ عربی لکھ کر یہ انسان نبی بن سکتا ہے تو جنتی ابو نواس، فرزدق، جریر نے کیا گناہ کیا تھا کہ وہ شرف نبوت سے محروم رہے۔ مرزا قادیانی نے یہ دلیل بھی از خود پیش نہیں کی۔ بلکہ یہ بھی اپنے ایک پیشرہ سے اخذ کی ہے۔ مرزا علی محمد باب نے جب مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو ایران کے علماء نے ان سے پوچھا کہ اپنی کوئی کرامت بیان کیجئے۔ جس سے ثابت ہو کہ واقعی آپ مہدی موعود ہیں۔ باب نے کہا میری کرامت یہ ہے کہ میں ایک دن میں ہزار بیت لکھتا ہوں۔ علماء نے کہا اگر یہ بیان صحیح بھی ہو تو اس سے صرف اتنا ثابت ہوگا کہ تم ایک زود نویس کا تب ہو۔ مہدی کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔ جنتی کو بھی کچھ عرصہ اپنی قادر الکلامی نے

نبوت کا دعویٰ کر کے قسمت آزمائی پر براہِ حقیت کیا تھا۔ لیکن اسے جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور بیچارے مرزا قادیانی آخر وقت تک فریبِ نفس میں مبتلا رہے۔

قرۃ العین طاہرہ مرزا علی محمد باب کی عقیدت مند تھی۔ وہ خود بھی ضال اور مضل تھا اور یہ بھی ساری عمر دشتِ ضلالت میں خاکِ بسر رہی۔ اس نے باب کی شان میں بھی قصائد لکھے ہیں۔ لیکن بیان میں وہ زور ہے۔ کلام میں وہ بلا کی آمد ہے۔ ذوق و شوق کا وہ عالم ہے کہ درد و سوز الفاظ کے آئینوں سے چھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایک باطل شعار اور گمراہ کے کلام کا مطالعہ کرنے سے ایک عجیب سی کیفیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس مرزا قادیانی کا کلام اپنے منکمل کی طرح عبقّرِ قطریہ کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ چند شعر طاہرہ قرۃ العین کے پڑھئے۔ جو اس نے باب کی محبت میں وارفتہ ہو کر لکھے ہیں۔ کہتی ہیں۔

گر بتو افتدم نظر چہرہ بچہ روبرو شرح وہم غم تراکتہ بتکتہ موبو  
از پے دیدن رخت ہچو صبا افتادہ ام خانہ بخانہ در بدر کوچہ بکوچہ کو بکو  
سے رود از فراق تو خون دل از دو دیدہ ام دجلہ بدجلہ ہم بیم چشمہ بچشمہ جو بجو  
درد دل طاہرہ گشت و نیافت جز ترا صفحہ بصفحہ لا بلا پردہ پردہ تو بتو  
بیچارے مرزا علی محمد باب کو بھی یہ خط سوار تھا کہ قرآن کریم کی آیات کو اپنے اوپر

چسپاں کیا کرتے۔ چنانچہ ”ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثھا عبادی الصالحون (الانبیاء: ۱۰۵)“ کی تفسیر کرتے ہوئے باب کے مشہور مرید حاجی مرزا جانی بابی نے لکھا ہے کہ آیت میں لفظ ذکر سے مراد علی محمد باب ہے۔ مرزا قادیانی بیچارے بھی ان آیات طیبات کو اپنے اوپر بڑی ڈھنائی سے چسپاں کرتے رہے جو خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی شان میں نازل ہوئی تھیں۔ جن کا تذکرہ قدرے تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔

ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ علم ہو جائے کہ مرزا قادیانی کے سارے دعوے ان کی ساری دلیلیں ان کی تعلیم اور ان کا انداز کار ان کا طبع اور انہیں بلکہ ان سے پہلے جو بد قماش اور بد طینت لوگ گلشنِ اسلام کو برباد کرنے کے لئے مختلف لباس پہن کر آتے رہے ہیں۔ ان صاحب نے ان سے ہی در یوزہ گری کی ہے۔ البتہ ایک چیز میں مرزا قادیانی بالکل منفرد اور یکتا نظر آتے ہیں۔ ان کے پیشروؤں میں سے کسی میں یہ جرأت نہیں کہ اس وصف میں مرزا قادیانی آنجہانی کی ہمسری تو کجا محض شرکت کا بھی دعویٰ کر سکے۔ ان سے پہلے جتنے جموں نے مدعیانِ نبوت اور مہدویت گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی مخالف حکومتوں سے ٹکر لی ہے۔ بڑی



عزیمت اور بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اپنے دعوئی کی سر بلندی کے لئے خون کے دریا بہائے ہیں۔ اپنی جانیں قربان کیں ہیں۔ شجاعت و بہادری کی دنیا میں امنٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ لیکن جناب مرزا غلام احمد قادیانی نے ساری عمر انگریزوں کی کاسہ لیسی کی ہے۔ حکام و وقت کی خوشامد اور شاگستری میں اپنی ساری عمر برباد کی ہے۔ اس میں اور اس کے ماننے والوں میں کبھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اسلام کے دشمنوں سے نبرد آزما کی کا خیال بھی دل میں لاسکیں۔ ملت اسلامیہ کے عام افراد انگریزی استعمار کے قلعہ کی بنیادیں کھودتے رہے۔ قید ہوتے رہے۔ کوڑے کھاتے رہے۔ تختہ دار پر مسکراتے ہوئے جان دیتے رہے۔ لیکن مرزا قادیانی ان کے خلفاء اور ان کے مریدوں نے ہمیشہ باطل کی کاسہ لیسی میں ہی اپنی عزت سمجھی۔

اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے ختم نبوت کے عقیدہ کے خلاف سازش کی اور اپنی نبوت کا سوا لگ رچا یا ملت اسلامیہ کے اجتماعی ضمیر نے اسے اپنی صفوں سے خارج کر دیا اور ان کی کسی تاویل کو بھی درخور اعتنا نہ جانا۔ ایسے فتنہ بازوں کے خلاف اعلان جہاد کیا اور جب تک اس فتنہ کو جڑ سے اکھڑ کر پھینک نہیں دیا۔ اس وقت تک آرام کا سانس نہیں لیا۔ اس جہاد میں کسی جانی اور مالی اور وقت کی قربانی سے دریغ نہیں کیا گیا۔ یہاں ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کی دکان اس لئے چل نکلی کہ یہاں کوئی آزاد مسلمان فرمانروا نہ تھا۔ انگریز جیسے دشمن دین و ایمان کی عمل داری تھی۔ یہ امت اور اس کا جھوٹا نبی ان کی خوشامد اور بے جا ستائش میں میرا میوں سے بھی چار قدم آگے تھے۔ نیز انگریز کی سیاسی مصلحتیں بھی اس کی متقاضی تھیں کہ یہ فتنہ پھلے پھولے۔ تاکہ ملت اسلامیہ اپنی انتشار و افتراق کا شکار ہو کر کمزور ہو جائے۔ بیرون ہند جہاں بھی کوئی مسلمان حکمران تھا۔ وہاں مرزائیت کے مبلغ جب پہنچے تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کی یاد سے مرزائی مبلغوں پر آج بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔

ہر زمانہ میں اور ہر جگہ مگرین ختم نبوت کے خلاف اس اجتماعی اور یکساں رد عمل سے کیا یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ ختم نبوت کا عقیدہ ملت اسلامیہ کے لئے روح کی حیثیت رکھتا ہے جو شخص اس سے انحراف کرتا ہے۔ وہ ملت اسلامیہ کا فرد نہیں رہ سکتا۔ بلکہ وہ مرتد ہے اور لائق گردن زدنی اس لئے حضرت امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت پر فقط دلیل طلب کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

الف لیلہ کے سند باد جہازی کا سفر نامہ تو آپ نے مزے لے لے کر پڑھا ہوگا۔ آئیے! آج آپ کو قادیان کے منچلے سند باد جہازی کی داستان سفر سنائیں۔ یہ اس سے بھی زیادہ

ورطہ حیرت میں ڈالنے والی اور لچسپ ہے۔ تفصیل کی گنجائش نہیں۔ صرف موٹی موٹی باتیں عرض کروں گا کہ کس طرح مرزا قادیانی سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی کچھری میں دس پندرہ روپے کی ملازمت اختیار کرنے کے بعد اور پھر بخاری کے امتحان میں فیل ہونے کے بعد نبوت کے قہر ریف میں ایک مرصع اور زرنگار تخت پر جلوہ افروز ہو گئے۔

ابتداء میں یہ عام مسلمانوں کی طرح ختم نبوت کے قائل تھے اور حضور کریم ﷺ کے بعد کسی نبی کے آنے اور اس پر نزول وحی کو محال سمجھتے تھے اور ایسے دعویٰ کرنے والے کو کافر اور کاذب کہا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی اپنی تحریروں سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔

(ازالہ اوہام) پر فرطرازی ہیں: ”قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔“

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۵۷۵، خزائن ج ۳ ص ۳۱۰)

(اس کتاب کی جلد دوم ص ۲۹۲) پر لکھتے ہیں: ”ماکان محمد اباحد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین یعنی محمد ﷺ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ مگر وہ رسول اللہ ﷺ ہے اور ختم کرنے والا ہے۔ نبیوں کو یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔“

تیسرا حوالہ ملاحظہ ہو فرماتے ہیں: ”یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد جبرائیل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ کو مضمون میں قرآن شریف سے تو اور رکھتی ہو۔ پیدا ہو جائے اور جو امر مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے۔“

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۵۸۷، خزائن ج ۳ ص ۲۱۳)

آخر میں ایک اور حوالہ سنئے۔ جس میں مرزا قادیانی نے صاف الفاظ میں ایسے شخص کو کافر اور کاذب کہا ہے جو حضور ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے۔

”سیدنا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔“ (دین الحق ص ۲۷، مجموعہ اشتہارات ج اول ص ۲۳۰، ۲۳۱)

یہ خیال رہے کہ مرزا قادیانی کے یہ ارشادات اس زمانہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ جب وہ دس پندرہ روپے کے مشاہرہ پر سیالکوٹ کچھری میں ایک معمولی ملازم تھے یا ابھی وہ کوہرانہ تقلید کی منزل طے کر رہے تھے۔ بلکہ یہ اس زمانے کی تحریریں ہیں۔ جب کہ ان پر ان کے قول کے مطابق براہ راست الہام ہوا کرتا تھا اور معارف قرآن کا ان کے دل میں منجانب اللہ القاء ہوا کرتا تھا۔ آگے چل کر انہوں نے ان عقائد کے برعکس نئے عقائد کو اپنایا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس

زمانہ کے الہامات جن کو وہ منجانب اللہ خیال کر رہے تھے۔ وہ شیطانی الہامات تھے۔ ان کا حق و صداقت سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ عین ممکن ہے بلکہ یہ حق ہے کہ ان کے بعد والے خیالات جنہیں وہ وحی الہی کہنے پر مصر ہیں۔ وہ اہلبیس لعین کی وسوسہ انگیزیوں تھیں۔ ان کا حق و صداقت سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ ورنہ یہ کیسے تسلیم کیا جائے کہ ایک مرتبہ تو من جانب اللہ انہیں یہ القاء ہو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد کسی رسول کا آنا جائز نہیں۔ اجرائے نبوت محال ہے اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کاذب اور کافر ہے اور اسی خدا کی طرف سے وحی ہو کہ تو نبی ہے اور رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب اس تین تضاد کی نسبت کو جہالت اور حماقت کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے؟

آنجمانی مرزا قادیانی ان مراحل سے گزر کر ۱۸۸۲ء میں مجدد بنے اور مامور من اللہ کے لقب سے اپنے آپ کو نوازا۔ ۱۸۹۱ء میں مسیح موعود ہونے کا سوا نگ رچایا۔ آخر کار انگریز کی عقل فتنہ زانے بناوٹی نبوت کا جو سنگھاس نثار کیا تھا اس پر آ کر براجمان ہو گئے۔

۱۹۰۰ء میں اپنی مسجد کے خطیب مولوی عبدالکریم سے ایسا خطبہ دلویا جس میں ان کی نبوت کا کھلا اعلان تھا۔ خطیب صاحب نے مرزا قادیانی کے لئے نبی اور رسول کے الفاظ استعمال کئے۔ اس خطبہ کو سن کر مولوی احسن صاحب امروہی نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ مولوی عبدالکریم نے ایک اور خطبہ پڑھا۔ جس میں مرزا قادیانی کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر میں غلطی کرتا ہوں تو حضور ﷺ مجھے بتلائیں۔ میں حضور کو نبی اور رسول مانتا ہوں۔ جب جمعہ شتم ہو چکا تو مولوی صاحب نے اپنے سوال کا پھر جواب پوچھا۔ مرزا قادیانی نے مڑ کر کہا مولوی صاحب ہمارا بھی یہی مذہب اور دعویٰ ہے جو آپ نے بیان کیا۔ مرزا قادیانی چلے گئے اور مولوی احسن اور مولوی عبدالکریم کے درمیان اس بارے میں خوب جھگڑا ہوا اور آواز بہت بلند ہو گئی تو مرزا قادیانی مکان سے نکلے اور یہ آیت پڑھی: ”یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی (حجرات: ۲)“ ”اے ایمان والو! نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔“

یہ تھا مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت کرنے کا انداز۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں ان کی وہ ہرزہ سرائی جو بزم خولیس بحیثیت ایک نبی کے وقتاً فوقتاً ان سے سرزد ہوتی رہی۔ ۱۹۰۲ء میں آنجمانی نے ایک رسالہ ”تحفہ الندوہ“ کے نام سے لکھا اس میں کہتے ہیں۔ ”پس جیسا کہ میں نے بار بار اعلان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے۔ جیسا کہ قرآن اور توراہ خدا کا کلام ہے اور میں خدا کا ظلی و بروزی نبی ہوں اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے۔“

(تحفہ الندوہ ص ۳، خزائن ج ۱ ص ۹۵)

(تحریر حقیقت الوسی) پر لکھتے ہیں: ”میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس نے مجھے بھیجا اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔“

(تحریر حقیقت الوسی ص ۶۸، خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۲)

(حقیقت الوسی ص ۳۹۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۶) پر مرقوم ہے: ”نبی کا نام پانے کے لئے میں مخصوص کیا گیا۔“

دافع البلاء میں اپنے بارے ڈیک مارتے ہوئے لکھتے ہیں: ”تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گو ستر برس تک رہے قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔“

(دافع البلاء ص ۱۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰)

اسی صفحہ پر آگے لکھتے ہیں: ”اب اگر اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس نشان سے کسی کو انکار ہو کہ فقط رکھی نمازوں اور دعاؤں سے..... باوجود مخالفت اور دشمنی اور نافرمانی اس رسول کے طاعون دور ہو سکتی ہے تو یہ خیال بغیر ثبوت کے قابل پذیرائی نہیں۔“ (دافع البلاء ص ۱۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰)

مرزا قادیانی کی تصنیف لطیف ایک غلطی کا ازالہ کا ایک حوالہ بھی پیش خدمت ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: ”خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پرنازل ہوئی ہے۔ اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ صد ہا دفعہ۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۱۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۶)

مرزا بشیر الدین آنجمانی نے مرزا قادیانی کی نبوت کے بارے میں جو تشریح کی ہے۔ اس کے بعد اس مسئلہ میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وہ لکھتے ہیں: ”ہم حضرت مسیح موعود کی نبوت پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی نبوت میں وہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں جو نبی اللہ کے لئے نعت و قرآن و محاورہ انبیاء گذشتہ سے لازمی معلوم ہوتی ہے..... پھر یہ کہ آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے نبی رکھا ہے۔ پس آپ قرآن کریم و نعت اور محاورہ انبیاء گذشتہ کے مطابق نبی تھے۔“

(حقیقت النبوة حصہ اول ص ۶۳)

اس قسم کے دعاوی سے مرزا قادیانی کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ان واضح اقتباسات کے مطالعے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا وہ صرف اپنے آپ کو مجدد یا مہدی کہا کرتے تھے۔ ایسے شخص کی سادہ لوحی پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔

صرف مرزا آنجمانی نے اپنے کو نبی نہیں کہا۔ بلکہ اس کی دریدہ ذہنی کا یہ عالم ہے کہ وہ قسم نبوت کے عقیدے کو لغو اور باطل کہتا ہے اور یہاں تک کہتا ہے کہ ایسا مذہب شیطانِ مذہب اور جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضور سرور عالم ﷺ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو یہ اس امت کو خیر الام کہنا جھوٹ ہوگا۔ بلکہ یہ شرالام ہوگی۔ اس چیز کو اب ان کی عبارتوں سے ملاحظہ فرمائیے۔

”یہ کسی قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ بعد آنحضرت ﷺ کے دجی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا ہے۔“ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۸۳، خزائن ج ۲۱ ص ۳۵۴)

اس کتاب کے دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: ”میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے اور کوئی نہ ہوگا۔ میں ایسے مذہب کا نام شیطانِ مذہب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۸۳، خزائن ج ۲۱ ص ۳۵۴)

ایک اور ارشاد سنئے۔ فرماتے ہیں: ”گویا اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ جو کہا کہ ”کنتم خیرا امۃ“ یہ جھوٹ تھا۔ نعوذ باللہ! اگر یہ معنی لئے جائیں کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دروازہ ہر طرح سے بند ہے تو پھر خیر الامت کی بجائے شرالام ہوگی۔“ (الحکم قادیان مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مرزا قادیانی نے بڑے محتاط انداز سے قدم جمانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے گرد عقل و دل کے کئی اندھے جمع ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنی عظمت شان اور دیگر انبیاء کی تنقیص کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لیکن عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے جب حضور ﷺ کا ذکر کرتے تو بڑے مؤدبانہ انداز سے اپنے آپ کو حضور کا ادنیٰ غلام کہتے اور اپنی نبوت کو حضور کا فیضان نبوت تسلیم کرتے۔ اس طرح جب انہوں نے کئی اور برگشہ قسمت لوگوں کو اپنے دام تزویر میں پھانس لیا تو اب انہوں نے اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہم پلہ اور ہم پایہ کہنا بھی شروع کر دیا۔ چنانچہ ان کی ایک بڑی ملاحظہ ہو۔ لکھتے ہیں: ”دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ میں آدم ہوں۔ میں نوح ہوں۔ میں ابراہیم ہوں..... میں محمد ہوں (ﷺ) یعنی بروزی طور پر۔“

(تمہ حقیقت الوحی ص ۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۵۱۱)

حدیث پاک میں ہے: ”اذا لم تستحی فاصنع ما شئت“ جب تو حیا کی چادر اتار دے۔ تو پھر جو چاہے کرتا رہ۔ مرزا قادیانی نے بھی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیا اور داعی

جہاں باتیں شروع کر دیں۔ بھلا ان پاک انبیاء سے مرزا قادیانی کو کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ آدم علیہ السلام کے علم کا یہ حال ہے کہ: ”علم آدم الاسماء کلھا (البقرہ: ۳۱)“ کی شان عطا ہوئی۔ فرشتے آپ کے علم کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں اور مرزا قادیانی ہیں کہ مختاری کے امتحان میں نفل ہو رہے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ نمرود کی طاغوتی طاقت کو لٹکارتے ہیں اور بڑی جرأت سے آتش کدہ نمرود میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور مرزا قادیانی ہیں کہ ساری عمر انگریزوں کی خوشامد اور شاگردی میں گزار دیتے ہیں۔

چہ نسبت خاک راہ بعالم پاک

ایک جگہ لکھتے ہیں: ”برایں احمدیہ میں میراث محمد اور احمد رکھا ہے۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۸، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۲)

درمیان میں کہتا ہے۔

احمد آخر زماں نام من است

آخریں جام ہمیں جام من است

میراث احمد آخر زماں ہے اور میراث جام ہی سب سے آخری جام ہے۔ یعنی حضور تو خاتم

النبیین نہیں۔

(نزول اسح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۲۷۷) میں لکھتا ہے۔

آنچہ داوست ہر نبی راجام

داد آل جام رامابہ تمام

مزید کہتا ہے۔

انبیاء گرچہ بودہ اندبے من بعرفان نہ کترم زکے

آدم نیز احمد مختار در برم جلسہ ہمہ امراہ

میں ہی آدم ہوں، میں ہی احمد مختار ہوں، میں نے تمام امراہ کا لباس پہنا ہوا ہے۔

پھر کہتا ہے۔

زندہ شد ہر نبی بآدم

ہر رسولے نہاں بہ پھر پانم

(نزول اسح ص ۱۰۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۷۸)

میرے آنے سے ہر نبی زندہ ہو گیا ہے اور ہر رسول میرے کرتے میں چھپا ہوا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھتے یہ شاعرانہ مبالغہ آرائی ہے اور اشعار میں ایسی تک بندیاں ہونی جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو فخر کائنات سید موجودات سے بھی برتر سمجھتا ہے اور اس کے لئے اس نے تنازع اور حطول کا شرکاء اور لہرانہ نظریہ بھی اسلام میں داخل کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ اپنے خطبہ الہامیہ میں آنجناب نے لکھے ہیں۔ عربی متن اور ترجمہ دونوں ان کا اپنا ہے۔

”واعلم ان نبینا ﷺ کما بعث فی الالف الخامس كذلك بعث فی آخر الالف السادس باتخاذہ بروز منسیح الموعود“ اور جان کہ ہمارے نبی ﷺ جیسا کہ پانچویں ہزار میں مبعوث ہوئے ایسا ہی مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے چھٹے ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے۔

آپ مقصد سمجھ گئے کہ مرزا قادیانی کی شکل میں حضور ﷺ کی دوسری بعثت ہوئی۔ اب ذرا دل تمام کر یہ بھی پڑھئے۔

”بل الحق ان روحانیۃ علیہ السلام کان فی آخر الالف السادس اعنی فی هذه الایام اشد واقوی واکمل من تلك الاعوام بل کالبدر التام“ بلکہ حق یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں یہ نسبت ان سالوں کے قوی اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ گستاخ اپنے آپ کو چودھویں کا چاند کہہ رہا ہے اور حضور ﷺ کو ہلال سے تشبیہ دے رہا ہے۔

اے مرزا بھو! ”لقد جئتم شیئاً اذ تکاد السموات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا (مریم: ۹۰)“

ان خرافات سے بھی زیادہ دلوں کو مجروح کرنے والی وہ تحریقات ہیں جو مرزا قادیانی آنجناب نے ان آیات الہیہ میں روا رکھیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختلف انعامات و احسانات سے سرفراز فرمایا۔ اس نے ازراہ گستاخی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

چنانچہ (اربعین نمبر ص ۲۳) پر لکھتا ہے: ”اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”وما ارسلنک الا رحمة للعالمین“ نیز اسی آیت کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی میرے

حق میں نازل ہوئی ہے۔“

(اربعین نمبر ۳۳، خزائن ج ۷ ص ۴۰)

”داعياً الى الله وسراجاً منيراً“ (حقیقت الوقی ص ۷۵، خزائن ج ۲۲ ص ۷۸)

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شرف معراج سے مشرف فرما کر تمام انبیاء کرام پر فضیلت عطاء فرمائی اور اس مقام تک مردج ہوا۔ جہاں کسی کا طائر خیال بھی پرواز نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ صاحب کہتا ہے کہ یہ آیتیں بھی میرے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ ”سبحن الذی اسری بعبده لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ“

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے محبوب! جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور یہ بے ادب کہتا ہے کہ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ”ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یداللہ فوق یدیہم“ (حقیقت الوقی ص ۸۰، خزائن ج ۲۲ ص ۸۳)

پھر کہتا ہے: ”انا اعطینک الکوثر“ میں بھی مجھ سے خطاب ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطاء فرمایا۔ (حقیقت الوقی ص ۱۰۲، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۵)

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام محمود کی بشارت دی۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا۔ ”اراد اللہ ان یبعثک مقاماً محموداً“ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تجھے (مرزا قادیانی) مقام محمود تک پہنچا دے۔ (حقیقت الوقی ص ۱۰۲، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۵)

(۱) اچھا احمدی) میں لکھتا ہے: ”اور مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے کہ ”هو الذی ارسل رسوله بالہدیٰ و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ“ یعنی اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول (مرزا غلام احمد قادیانی) کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ تاکہ وہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرے۔ (نعوذ باللہ)“ (۱) اچھا احمدی ص ۷۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳)

(ایک غلطی کا زوال ص ۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۷) پر لکھتا ہے: ”محمد رسول اللہ والذین معہ (محمد: ۲۹) اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔“ یہ چند حوالے اس کے طومار خرافات سے مشت نمونہ از خردارے کے طور پر نقل کئے ہیں۔ ایک معمولی درجہ کا مسلمان جب ان گستاخوں اور ہرزہ سراؤں کو پڑھتا ہے تو اس کا کلیجہ شق ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔



کیا ایسے شخص کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے متعلق ہمیں کسی عالم سے مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ہرزہ سرانیاں ہیں۔ جن کی جرأت اس سے پہلے آنے والے جھوٹے مدعیان نبوت کو نہ ہو سکی۔ اسے ہم اپنے ایمان کی کمزوری کہیں یا انگریز کی نگینوں کا کرشمہ اس کے وجود کو برداشت کیا جاتا رہا ہے۔ ورنہ راجہال اور لکھنؤ اور دیگرہ کی بکواسیات اس کے مقابلہ میں کوئی وقعت نہیں رکھتیں۔

اب آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ عقیدہ جس پر ابتداء سے آج تک امت محمدی علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ والسلام کا اجماع رہا ہو اور جس زمانہ میں جس کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اسے صرف کافر و مرتد قرار نہ دے دیا گیا ہو۔ بلکہ اس کا استیصال اور قلع قمع کر دیا گیا ہو تو آج ایسا شخص یا گروہ ملت اسلامیہ کا جزو کیسے رہ سکتا ہے؟ خصوصاً مرزا غلام احمد قادیانی جس کی گستاخیاں اور آیات قرآنی میں تحریفات کی یہ کیفیت ہو اس کو اسلام اپنے ماننے والوں کی صفوں میں کیسے برداشت کر سکتا ہے؟

مرزا قادیانی اور ان کے جانشینوں کی مستند تحریروں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انہیں نہ امت مسلمہ کے ماضی سے کوئی عقیدت ہے نہ اس کے حال سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ مستقبل کے بارے میں ہماری امنگوں میں کوئی یکسانیت ہے۔ ملت اسلامیہ کے جو دشمن تھے یہ لوگ انہیں سر پرست سمجھتے رہے۔ جس انگریز نے برصغیر میں اسلامی اقتدار کا چراغ گل کیا۔ ہماری ثقافتی اور تہذیبی قدروں کو بے رحمی سے روند ڈالا۔ ہمارے اوقات کو درہم برہم کر دیا۔ ہمارے مدارس اور علمی ادارے مقفل کر دیئے۔ وہ انگریز جن کی خون آشام تلوار ہمارے لاکھوں بے گناہوں کے قتل کے بوجھ سے خم ہے۔ جنہوں نے ہمارے فخر روزگاں علماء و فقہاء و اقلیاء کو درختوں کے تنوں کے ساتھ باندھ کر گولی سے اڑا دیا۔

حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی اور ان کے جاں نثار ساتھی رحمۃ اللہ علیہم جزائر اعظمیہ میں انگریزوں کی سفاکانہ قید میں جام شہادت نوش کر گئے۔ وہ انگریز جن کے ناپاک ہاتھ ملت کی ردائے ناموس کو تار تار کرنے میں اس وقت بھی کوشاں تھے۔ کیا کسی باغیرت مسلمان کے دل میں ان دشمنان اسلام کے لئے خیر سگالی کے جذبات پائے جاسکتے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی ساری عمران کی چالوسی میں لگے رہے۔ انہی کی مدح سرانیاں، انہی کے لئے دعائیں، انہی کے ہنچہ استبداد کو مضبوط کرنے کے لئے تقریری اور تصنیفی میدان میں مخلصانہ کوششیں، خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اگر ملت اسلامیہ اور فرقہ قادیانیہ میں ان کے علاوہ اور کوئی اختلاف نہ ہوتا تو کیا ایسے خدایوں

اور ملت فروشوں کو اپنی منوں میں جکدینے کے لئے ہم تیار ہوتے۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں ایک بار نہیں بار بار حکم دیا گیا۔

”یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یدی القوم الظالمین (مائدہ: ۵۱)“ اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو شخص ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ ان میں سے ہوگا۔ (ملت اسلامیہ سے خارج کر دیا جائے گا) بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تو ہے اللہ کا فرمان اور الٰہی فتویٰ۔

اب ذرا اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کی بے شمار تحریروں سے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔ اپنی کتاب ”شہادۃ القرآن“ کے آخر میں لکھتے ہیں: ”میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کرو۔ دوسرا اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سائے میں پناہ دی ہو۔ سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔“ (شہادۃ القرآن ص ۸۴، خزائن ج ۶ ص ۳۸۰)

ایک دوسری جگہ وہ اور کھل کر اپنی نیاز مندی اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں: ”مجھ سے جو سرکار انگریزی کے حق میں خدمت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے پچاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھپوا کر اس ملک اور نیز دوسرے بلاد اسلام میں اس مضمون کے شائع کئے کہ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔ لہذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہئے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے اور دل سے اس دولت کا شکر گزار اور دعا گو رہے اور یہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں یعنی اردو، فارسی، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلا دیں۔“ (ستارۃ قیصرہ ص ۴۳، خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۴)

مرزا قادیانی نے اپنے عربی رسالہ نور القرآن میں انگریز کے بارے میں جو خوشامدانہ الفاظ لکھے ہیں اور اپنے بارے میں جو تعلیاں کی ہیں وہ بھی ملاحظہ فرمائیں؟

”فلی ان ادعی التفرد فی هذه الخدمات ولی ان اقول اننی وجید فی هذه التائیدات ولی ان اقول اننی حرزلہا وحصن حافظ من الآفات وبشرنی ربی وقال ماکان اللہ لیعذبہم وانت فیہم فلیس للدولۃ نظیری ومثیلی فی نصری وعونی وستعلم اللدولۃ ان کانت من المتوسمین“ مجھے حق ہے کہ میں دعویٰ کروں کہ میں ان خدمات کو انجام دینے میں منفرد ہوں اور مجھے حق ہے کہ میں ان

تائیدات میں یکتا ہوں اور مجھے حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اس حکومت کے لئے تعویذ اور ایسا قلعہ ہوں جو اس کو آفات و مصائب سے محفوظ رکھنے والا ہے اور میرے رب نے مجھے بشارت دی اور فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ جب تک تم ان میں ہو۔ بس حقیقتاً اس حکومت کے پاس میرا کوئی ہمسرا اور نصرت و تائید میں میرا کوئی مثل نہیں۔ اگر خدا نے اس حکومت کو مردم شناسی کی نگاہ عطاء کی ہے تو وہ اس کی تصدیق کرے گی۔“ (نور الحق حصہ اول ص ۳۲، ۳۳، خزائن ج ۸ ص ۲۵)

آپ ان الفاظ کو بار بار غور سے پڑھئے کیا انگریز جیسی دشمن دین و ملت قوم کے لئے کسی گنہگار سے گنہگار مسلمان کی زبان سے یہ جملے نکل سکتے ہیں جو شخص انگریزوں کی حکومت کے لئے قلعہ کا کام دے رہا ہو اور جس کا وجود اس ناپاک اقتدار کی ضمانت ہو۔ وہ غلامانِ مصطفیٰ ﷺ کی صفت میں کھڑا ہونے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔

خوشامد و تملق کا یہ سلسلہ بڑا طویل ہے۔ آخر میں ایک اور حوالہ پیش کرنے پر اکتفاء کرتا ہوں۔ یہ انداز لگانا آپ کا کام ہے کہ مرزا قادیانی ذلت کی کن پستیوں میں گر چکے تھے۔ چوبیس فروری ۱۸۹۸ء کو انہوں نے ایک درخواست لیفٹیننٹ گورنر پنجاب کی خدمت میں ارسال کی۔ جس کا ایک پیرا آپ بھی پڑھئے۔

”یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیا میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں۔ خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم و احتیاط سے تحقیق و توجہ سے کام لے اور اپنے کام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے۔“

(کتاب البریہ ص ۱۳، خزائن ج ۱۳ ص ۳۵۰)

کوئی شخص اس غلط جہی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ انگریز مذہباً عیسائی تھے۔ مرزا قادیانی نے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے بھی کئے۔ اشتہار بھی نکالے۔ پمفلٹ بھی چھاپے اور کتابیں بھی تصنیف کیں اور ان میں عیسائیوں کو خوب رگیدار ہے۔ ان کی یہ خدمت کیا کوئی کم ہے۔ اس کے بارے میں عرض ہے کہ پس پردہ حقیقت کچھ اور ہے جس سے مرزا قادیانی نے پردہ اٹھایا ہے۔ ان کی تصنیف (تزیان القلوب ضمیر نمبر ۳ ص ۱۵، ج ۱، خزائن ج ۱۵ ص ۳۹۰) ہے۔ جن کا عنوان ملاحظہ کے قابل ہے۔

## حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجزانہ درخواست

اس کے ضمن میں لکھتے ہیں: ”میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کہ بعض پادریوں اور عیسائی مشزیوں کی تحریر نہایت سخت ہوگئی اور حد اعتدال سے بڑھ گئی..... تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال وینے والا اثر پیدا ہو۔ جب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے لئے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے۔ تاکہ سرلیج الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں کوئی بد امنی پیدا نہ ہو۔“ اس اقتباس سے معمولی فکر و دانش کا آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ عیسائیت اور اس کے رو میں یہ جوش و خروش مرزا قادیانی کی محض حکمت عملی تھی۔ ورنہ ان کا اصل مقصد تو صرف انگریز کی چا پلوسی کرنا اور قصیدہ خوانی کرنا تھا۔

اب میں آپ کو ایک دوسری چیز کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ افراد کی طرح قوموں پر بھی اوبارہ و انحطاط کے دور آیا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اپنی قوم سے قلبی انس ہوتا ہے وہ ان ناسازگار حالات میں بھی اپنی قوم کے جذبات غیرت و حمیت کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے۔ وہ انہیں ہر انداز سے اٹھنے اور ابھرنے پر براہیجت کرتے رہتے ہیں۔ وہ ان میں اپنی کھوئی ہوئی عزت و آزادی کو حاصل کرنے کی امنگ کو زندہ رکھتے ہیں۔ جب بھی حالات مساندت کرتے ہیں وہ دشمن کے خلاف جہاد کا نثارہ بجا دیتے ہیں۔ اسی وقت ان کے آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے جذبات سیلاب کی طرح اٹھ آتے ہیں۔ چشم زون میں وہ قوم جو بھینڑوں کے گلہ کی طرح بے بس اور ضعیف تھی۔ شیروں جیسی جرات کے ساتھ دشمن پر چھٹی ہے اور اسے خاک میں ملا دیتی ہے اور فضاے آسمان میں ان کی عظمت کا پھریرا اونچا بہت اونچا لہرانے لگتا ہے۔ یہ کبھی نہیں دیکھا گیا ہے کہ قوم کا کوئی خیر اندیش ہو اور وہ ان جذبات حیرت کو کچل دینے کے لئے اپنی ساری عمر کھپا دے اور ان کو تلقین کرے کہ تم اپنے انجمنی آقا کے قدم چائے رہو اور کتوں کی طرح بے غیرتی کی زندگی بسر کرو۔ ایسا کہنے والا قوم کا دشمن ہوتا ہے۔ قوم کا غدار ہوتا ہے۔ دشمن کا فتنہ کالم ہوتا ہے۔ نبی کا مقام تو بڑا اونچا ہے۔ اسے تو ایک شریف انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔

اب آپ ذرا مرزا قادیانی کے دفتر پند و نصائح میں سے چند نصائح دل تھام کر غور سے

پڑھے۔ آنجہانی کی حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں: ”میری عمر اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ اگر وہ اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب، مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ بن جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔“

(تزیان القلوب ص ۱۵، خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۵، ۱۵۶)

ایک دوسرے مقام پر اپنی کتابوں کی کثرت کا اظہار کرنے کے بعد ان کے اثرات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: ”اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے غلط خیال چھوڑ دیئے۔ جو تاہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ یہ ایک ایسی خدمت مجھ سے ظہور میں آئی ہے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ برٹش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی نظیر کوئی مسلمان نہیں دکھلا سکتا۔“

(ستارۃ قیصرہ ص ۴، خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۴)

مرزا قادیانی نے منارۃ المسیح کی تعمیر کے لئے چندہ کرنے کے لئے جو اشتہار دیا اس کے چند الفاظ بھی ملاحظہ فرمائیں: ”سو آج سے دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دین کے لئے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی کا نام رکھوا کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔“

(اشتہار چندہ منارۃ المسیح ضمیمہ خطبہ الہامیہ ص ۳، خزائن ج ۱۶ ص ۱۷)

ان کے دو شعر بھی سن لیجئے کہتے ہیں۔

دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد  
منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد  
اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال  
دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قتال

(درشمن ص ۵۴، تحفہ گولڈویہ ص ۲۶، ۲۷، خزائن ج ۱۷ ص ۷۷، ۷۸)

جس نے امت کو انگریزی کی ابدی غلامی کے لئے تیار کرنے میں ساری عمر کھپا دی ہو ہم مجبور ہیں کہ اسے ملت کا بدخواہ اور خدا قرار دیں۔ جس طرح خارش زدہ کتے کو مسجد میں ہم داخل نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح ہم ایسے فلسفوں کو حرم ملت کے پاس تک نہیں بھٹکنے دیں گے۔ اس

مخض کی بولچھوں اور اسلام پر اس کی زیادتیوں اور ملت کے خلاف اس کی سازشوں کی کوئی انتہاء نہیں۔ مرزا قادیانی نے صرف اسی پر بس نہیں کی۔ بلکہ امت محمدیہ کے مستحکم قلعہ میں شکاف ڈالنے کی جسارت سے بھی وہ ہازنہ آئے۔ وہ عمر بھر ملت اسلامیہ کو پارہ پارہ کر کے اپنے انگریز محسنوں کے قدموں پر لا ڈالنے کے لئے سرگرداں رہے۔

ان دشمنان دین و ملت کی گستاخیاں، قرآن کریم کی آیات میں واضح تحریف اور امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ والتسلیمات کے خلاف ریشہ دوانیوں کی طویل داستان آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ لیکن اس گھناؤنی سازش کے ایک انتہائی سنسنی خیز کردار کو بے نقاب کرنے کے لئے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ قارئین کی خدمت میں مفکر اسلام شاعر مشرق ترجمان حقیقت حضرت علامہ اقبالؒ کے اس مضمون کا اقتباس پیش کیا جائے۔ جو انہوں نے جوہر لال نہرو کے سوالات کے جواب میں لکھا تھا۔

اس میں انہوں نے مسئلہ کی نزاکتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بحث کی ہے اور آخری فقرے میں اس چیز کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ ان مندرجہ بالا اختلافات کے باوجود مرزائی امت مسلمہ سے اپنے آپ کو ایک الگ امت کیوں نہیں مانتے۔

علامہ لکھتے ہیں۔ ”اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے جس کی حدود مقرر ہیں۔ یعنی وحدت الوہیت پر ایمان، انبیاء پر ایمان اور رسول کریم کی ختم رسالت پر ایمان دراصل یہ آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے اور اس امر کے لئے فیصلہ کن ہے کہ فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ مثلاً برہمن سماج خدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریم کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں۔ لیکن انہیں ملت اسلامیہ میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ قادیانیوں کی طرح وہ انبیاء کے ذریعہ وحی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حد فاصل کو عبور کرنے کی جسارت نہیں کر سکا۔

ایران میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً بھٹلایا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحیثیت دین کے خدا کی طرف سے ظاہر ہوا۔ لیکن اسلام بحیثیت سوسائٹی یا ملت کے رسول کریم کی شخصیت کا مرہون منت ہے۔“

میری رائے میں قادیانیوں کے سامنے صرف دو راہیں ہیں یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں یا

ختم نبوت کی تاویلیوں کو چھوڑ کر اس اصول کو پورے مفہوم کے ساتھ قبول کر لیں۔ ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار حلقۂ اسلام میں ہوتا کہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔

(حرف اقبال ص ۱۳۶، ۱۳۷)

مرزائی اپنے آپ کو امت تسلیم کرتے ہیں۔ وہ صرف سیاسی اور معاشی فوائد حاصل کرنے

کے لئے ملت اسلامیہ میں گھس رہنا چاہتے ہیں۔ جس کے متعلق حضرت علامہ نے اشارہ کیا ہے۔

جب کبھی پہلے حضرت علامہ اور پھڑت نہرو کے اس علمی مباحثہ کے پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو

مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ پھڑت نہرو کے دل میں قادیانیوں کی امدادی کا کیسے لگا یک جذبہ پیدا ہو گیا۔

سیاسی، ذہنی اور نظریاتی اعتبار سے مرزائیوں کے درمیان اور ان کے درمیان

بعد المشرقین تھا۔ وہ انگریزوں کے خوشامدی اور ان کے اقتدار کے مضبوط کرنے کے لئے ہر طرح

کوشاں اور پھڑت نہرو و ہندوستان کی آزادی کے لیڈر اور انگریزی اقتدار کے دشمن، خدا کے منکر،

شوہلسٹ انہیں کیا سوچھی کہ وہ قادیانیوں کی وکالت کرنے لگ گئے۔ آخر کار پروفیسر الیاس برنی

مرحوم و مغفور کی شہرہ آفاق کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ڈاکٹر شکر داس کا ایک مضمون نظر سے

گزرا۔ جس سے وہ اضطراب ختم ہو گیا۔ اخبار بندے ماترم مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۳۲ء میں ڈاکٹر شکر

داس کا ایک مضمون شائع ہوا۔ اس کے ضروری اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں: ”اس سے

اہم سوال جو اس وقت ملک کے سامنے درپیش ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر کس

طرح قومیت کا جذبہ پیدا کیا جائے..... ہندوستانی مسلمان اپنے آپ کو ایک الگ قوم تصور کئے

بیٹھے ہیں اور وہ دن رات عرب کے ہی گیت گاتے ہیں۔ اگر ان کا بس پہلے تو وہ ہندوستان کو بھی

عرب کا نام دے دیں۔“

”اس تاریکی میں اس مایوسی کے عالم میں ہندوستانی قوم پرستوں اور عجمان وطن کو ایک

نئی امید کی شعاع دکھائی دیتی ہے اور وہ آشا کی جھلک احمدیوں کی تحریک ہے۔ جس قدر مسلمان

احمدیت کی طرف راغب ہوں گے وہ قادیان کو اپنا مکہ تصور کرنے لگیں گے اور آخر میں محبت ہند اور

قوم پرست بن جائیں گے۔ مسلمانوں میں احمدیہ تحریک کی ترقی ہی عربی تہذیب اور پان اسلام

ازم کا خاتمہ کر سکتی ہے۔“

”جس طرح ایک ہندو کے مسلمان ہو جانے پر اس کی شردھا اور عقیدت رام کشن،

وید، گیتا اور رامائن سے اٹھ کر قرآن اور عرب کی بھومی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی

مسلمان احمدی بن جاتا ہے تو اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ حضرت محمد ﷺ میں اس کی عقیدت کم

ہو جاتی ہے۔ مکہ، مدینہ اس کے لئے روایتی مقامات رہ جاتے ہیں۔ یہ بات عام مسلمانوں کے لئے جو ہر وقت پان اسلام ازم اور پان عربی سنگٹن کے خواب دیکھتے ہیں کتنی ہی مایوس کن ہو۔ مگر ایک قوم پرست کے لئے باعث مسرت ہے۔“

حضرت علامہ اقبالؒ کے مقالہ کے اقتباسات اور ڈاکٹر شکر داس کے مندرجات سے یہ بات پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مرزائی جماعت کی اصلیت کیا ہے اور یہ کس مسلم کش تحریک کا شاخسانہ ہے۔ اب جب کہ مملکت خداداد پاکستان کی ایک منتخب اسمبلی کی طرف سے اس خطرناک اقلیت کو غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے اور اسی اسمبلی کی طرف سے یہ قرارداد بھی پاس ہو چکی ہے کہ مرزائیوں کو کلیدی آسامیوں سے الگ کر دیا جائے اور انہیں اپنے باطل عقائد کی تبلیغ کی ہرگز اجازت نہ دی جائے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج تک ارباب بست و کشاد کی طرف سے اس سلسلہ میں بحرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور آج تک کوئی واضح اقدام نہیں کیا گیا۔

ستم کی بات تو یہ ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ کے مختلف تعلیمی اداروں میں غیر مسلم مرزائی اسلامیات کی تعلیم دینے پر مامور ہیں اور طلباء کے معصوم اذہان کو مسموم کرنے کے دھندوں میں مصروف ہیں۔ عوام کے بازار اصرار کے باوجود محکمہ تعلیم کے کارپردازوں سے مس نہیں ہوتے۔

واضح رہے کہ مرزائی جماعت پٹیل اور گاندھی سے بھی زیادہ پاکستان کے بارے بداندیش ہے۔ ان کے کارکنوں نے کسی زمانہ میں بھی پاکستان کو کمزور بنانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ سر ظفر اللہ کی وزارت کا دور ہو یا ایم ایم احمد کی اقتصادی پالیسی ہر ایک نے پاکستان کو کھوکھلا ہی کیا ہے۔ اس لئے مملکت خداداد پاکستان کی ہر بی خواہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس اقلیت کو کلیدی آسامیوں خصوصاً محکمہ تعلیم سے دور رکھے اور ان کی نام نہاد مذہبی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرے۔ کیونکہ کسی بھی اسلامی نظریاتی سلطنت میں خلاف وین اور خلاف وطن سرگرمیوں کو برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ وہ اپنے محبوب کریم روؤف رحیم ﷺ کے طفیل امت مسلمہ کو ہر قسم کے ظاہری و باطنی دشمنوں سے محفوظ رکھے اور اس مملکت خداداد پاکستان کی آپ حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق ارزانی فرمائے کہ ہم یہاں اس کے محبوب ﷺ کا لایا ہوا نظام نافذ کر سکیں۔ آمین بجاہ حبیبہ الامین ﷺ!

۱۔ گورنمنٹ انٹر کالج بھیرہ ضلع سرگودھا اور گورنمنٹ البیرونی ڈگری کالج پنڈ دادخان اس کی واضح مثالیں ہیں۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مَدْرَسَةُ اَلْمَدِیْنَةِ الْعِلْمِیَّةِ  
مَدْرَسَةُ اَلْمَدِیْنَةِ الْعِلْمِیَّةِ  
مَدْرَسَةُ اَلْمَدِیْنَةِ الْعِلْمِیَّةِ

# قندمراست پاکستان

حضرت مولانا سید پیر محمد کرم شاہ الازہریؒ

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مرزائیوں نے ۱۹۸۸ء میں انسٹیٹیوٹ ایلوٹیشنل کے پاس درخواست دائر کی۔ پاکستانی حکومت ہمارے حقوق پامال کر رہی ہے اور ہمیں اس مملکت سے جائز مراعات سے محروم رکھا جاتا ہے۔ یہ حرکت وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت کے ملک کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے اس عالمی پبلسٹی کا ہم پر مملکت خداداد پاکستان کی نمائندگی کے لئے حضور ضیاء الامتؑ (پیر سید کرم شاہ) کا انتخاب کیا۔ آپ نے اس اہم ترین موقع پر جس حسین انداز میں پاکستان اور اسلام کی نمائندگی کی وہ تاریخ کا جزو بن چکی ہے۔ آپ ”فتنہ مرزائیت اور پاکستان“ کے عنوان سے تقریر فرماتے ہیں۔

سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت ایڈیٹنگ کا اجلاس ۳۰ جولائی ۱۹۸۸ء سے لاہور میں منعقد ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں مرحوم و مغفور شہید صدر محمد ضیاء الحق کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ جس میں انہوں نے مجھے فرمایا کہ یو این او کے ذیلی ادارہ ہیومن رائٹس (حقوق انسانی) کے سب کمیٹیشن کا اجلاس ۸ اگست ۱۹۸۸ء سے جینوا میں منعقد ہو رہا ہے۔ وہاں مرزائیوں نے بڑا اودھم مچا رکھا ہے۔ پاکستان کے بارے میں انہوں نے یہ پراپیگنڈا زور و شور سے شروع کر رکھا ہے کہ پاکستان میں ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ان کو ملازمتوں سے جنم جنم کر نکالا جا رہا ہے۔ ان کی عبادت گاہوں کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ ان کے افراد کو زد و کوب کیا جاتا ہے اور ہر قسم کے انسانی حقوق سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ صدر مرحوم نے مجھے حکم دیا کہ میں وہاں جا کر پاکستان کی نمائندگی کروں۔

مجھے اس قسم کے اجتماعات میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ پہلے تو میں سہا اور خیال کیا کہ صدر محترم سے معذرت کر لوں اور درخواست کروں کہ کسی اور موزوں آدمی کا اس اہم کام کے لئے انتخاب کیا جائے۔ لیکن پھر مجھے یہ حدیث شریف یاد آئی جس میں حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”جس منصب اور ذمہ داری کا کوئی شخص مطالبہ کرتا ہے اور وہ منصب اسے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ذاتی قابلیت کے حوالے کر دیتا ہے کہ تم نے یہ منصب طلب کیا تھا۔ ہم نے تمہیں دے دیا۔ اب تو جان اور تیرا کام، لیکن اگر بن مانگے وہ

منصب اور ذمہ داری کسی کو سپرد کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس شخص کی امداد کرتا ہے اور راہنمائی فرماتا ہے۔“

میں نے سوچا کہ اس چیز کا مطالبہ میں نے تو نہیں کیا اور نہ اس قسم کی طلب میرے حاشیہ خیال میں کبھی نمودار ہوئی۔ اب اگر یہ فرض میرے ذمہ لگایا گیا ہے تو مسب ارشاد مصطفوی ﷺ، اللہ تعالیٰ میری مدد اور راہنمائی فرمائے گا اور جب اس کی امداد میرے شامل حال ہوگی تو پھر مشکلیں خود بخود آسان ہوتی جائیں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے صدر محترم کی اس خواہش کی تکمیل کا عزم کر لیا۔

لاہور سے میں ۸ اگست کو بحیرہ واپس آیا۔ ۹، ۱۰ اگست دو روز یہیں ٹھہرا اور ضروری انتظامات کئے اور اپنی طویل غیر حاضری میں جو منصوبے زیر تکمیل تھے ان کے بارے میں اپنے احباب کے ساتھ مشورہ بھی کیا اور انہیں مناسب ہدایات بھی دیں۔ ۱۱ اگست کو بحیرہ سے روانہ ہوا۔ ساڑھے تین بجے فارن مشنری کے دفتر میں مطلقہ حکام سے ملاقات کی، رات کو ڈیڑھ بجے پی. آئی. اے کی فلائٹ سے جینیوا کے لئے روانہ ہو گیا۔ فریگٹ میں دو اڑھائی گھنٹے انتظار کرنا پڑا پھر لفٹننٹ ایئر لائن کے طیارے سے تین بجے دوپہر جینیوا پہنچا۔ عزت مآب سعید دہلوی ایئر پورٹ پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور انٹر کانٹینینٹل کے کمرہ نمبر ۱۰۲۰ میں مجھے ٹھہرایا۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے یہاں کے حالات سے بالتفصیل آگاہ کریں اور جو پروگرام ہوا اس سے بھی مطلع کریں۔

چنانچہ انہوں نے مجھے وہ پمفلٹ دیئے۔ جس میں مرزا بیوں نے حکومت پاکستان پر اور پاکستان کے عوام پر ہر قسم کے بے سرو پا الزامات عائد کئے ہوئے تھے۔ یہ پمفلٹ باقتضیٰ تھے اور ایک خانی الذہن انسان کو طرح طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا کرنے کے لئے مؤثر ثابت ہو سکتے تھے۔

سفیر صاحب نے بتایا کہ ”ہیومن رائٹس“ (حقوق انسانی) کے سب کمیشن کا اس دفعہ پاکستان ممبر نہیں ہے۔ اس لئے ہم نہ اس میں تقریر کر سکتے ہیں نہ کسی مقرر کے اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ دو ٹوک میں حصہ لے سکتے ہیں۔ البتہ بحیثیت مبصر اس اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ہم نے یہ طے کیا کہ ہر روز ان ممبران میں سے دو تین ممبران کو لے کر (صبح کے کھانا) پر مدعو کیا جائے ایک بجے سے تین بجے تک میٹنگ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس وقفہ

میں ان سے تبادلہ خیال کیا جائے اور حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے۔ اس کے بغیر ہمارے لئے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔

محترم سفیر صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ ہر روز کے لئے تین ممبران کو مدعو کریں گے۔ ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے یہ دو دن مطالعہ میں اور اس موضوع کی تیاری میں صرف کئے۔ سخموار کو میں سفیر کے ساتھ سب کمیشن کے اجلاس میں بحیثیت مبصر شریک ہوا۔ اس اجلاس کے چیئرمین مسٹر بھنڈارا تھے۔ جو بھارت کے نمائندہ تھے۔ نصف گول دائرہ کی شکل میں سٹیج کے سامنے کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ پہلی قطار میں کمیشن کے ممبر صاحبان تشریف فرما تھے۔ دوسری قطار میں ان کے معاونین کے بیٹھنے کے لئے نشستیں تھیں۔ تیسری قطار میں مبصر بیٹھے تھے۔ جن میں میں بھی تھا اور چھٹی دو لائنوں میں غیر حکومتی انجمنوں کے نمائندگان تھے۔ کافی دیر تک میں ممبران کی تقاریر کو سنتا رہا۔ ایک بجے وقفہ ہوا تو میں واپس چلا آیا۔

ہم نے لنچ پر مختلف ممبران سے ملاقات اور تبادلہ خیالات کا جو پروگرام تشکیل دیا اس کی پہلی نشست ۱۶ اگست ۱۹۸۸ء بروز منگل ہوئی۔ ان میں مصر اور اردن کے معزز ارکان مدعو تھے اور رات کو خصوصی طور پر چین کے ممبر کو ہم نے ڈنر پر بلایا تھا۔ چنانچہ یہ سلسلہ ۲۵ اگست ۱۹۸۸ء تک جاری رہا۔ اس روز بھی خلاف معمول رات کو ہم نے مسٹر بھنڈارا اور مسز بھنڈار کو ڈنر پر مدعو کیا۔ ان نشستوں میں ماحول بڑا دوستانہ اور تکلف و تصنع سے بالکل مبرا تھا۔ میں نے ان کو دو تین باتیں سمجھانے کی کوشش کی۔

پہلی بات! تو یہ تھی کہ دنیوی نقطہ نظر سے قوموں کے علیحدہ علیحدہ ہونے کی چند وجوہات ہیں۔ ان میں وطن، زبان، نسل، چہرے کی رنگت وغیرہ کو اہمیت حاصل ہے۔ لیکن مذہبی نقطہ نظر سے امتوں کی علیحدگی کا ایک ہی سبب ہے جب کسی امت کا خصوصی تعلق ایک نبی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ایک علیحدہ امت معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ میں نے انہیں کہا مثال کے طور پر آپ مسلمانوں کو لیجئے۔ ہم مسلمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اسی طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صاحب کتاب، صاحب معجزات نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نہ ہم یہودی ہیں نہ ہم عیسائی۔ چونکہ ہمارا خصوصی تعلق سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ سے ہے۔ اس لئے ہم مسلمان ہیں اور ایک علیحدہ امت ہیں اور جو عیسائی ممبر ہمارے ساتھ ہوتا میں اس سے عرض کرتا کہ آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے

ہیں ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہودی نہیں۔ بلکہ آپ عیسائی ہیں۔ کیونکہ آپ کا خصوصی تعلق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ بھی نبی ہے۔ اس وقت ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس کا وہ دعویٰ سچا تھا یا جھوٹا..... بہر حال اس نے نبی بننے کا دعویٰ کیا اور بعض لوگوں نے اس کو نبی تسلیم کیا۔ جن لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کیا۔ ان کو مرزا قادیانی کے ساتھ وہی خصوصی تعلق ہو گیا جو مسلمانوں کا سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہے۔ عیسائیوں کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے یا یہودیوں کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس خصوصی تعلق کی بناء پر وہ ایک الگ امت بن گئے۔ جن کو مرزائی یا قادیانی یا احمدی کہا جاتا ہے۔ لیکن امت اسلامیہ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ وہ کہیں کہ ہم حضور نبی کریم ﷺ کو نبی مانتے ہیں جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر بھی ان کے امتی نہیں۔ اسی طرح یہ بھی حضور ﷺ کو نبی ماننے کے باوجود حضور ﷺ کی امت نہیں۔ کیونکہ ان کا خصوصی تعلق مرزا غلام احمد قادیانی سے ہے۔

میں نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے نام بطور مثال ذکر کئے ہیں۔ چونکہ یہ جلیل القدر رسول ہیں اور ہر شخص ان کے ناموں سے آشنا ہے۔ ورنہ جس شخص کا جس نبی کے ساتھ خصوصی تعلق ہو گا وہ اسی کا امتی ہو گا۔

دوسری بات! جو میں نے ان صاحبوں کو ذہن نشین کرائی وہ یہ تھی کہ تکفیر کا آغاز آنجہانی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے ہوا۔ انہوں نے ہی حکم دیا کہ جو میری نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ نیز اپنے متبعین کو حکم دیا کہ ان میں سے کوئی بھی کسی مسلمان کے ساتھ مل کر نماز ادا نہ کرے۔ کسی مسلمان کی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ خواہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہو۔ خواہ وہ چھ ماہ کا محصوم بچہ ہو۔ نیز انہیں منع کیا کہ وہ اپنی بچیوں کے رشتے مسلمانوں کو نہ دیں۔ پھر یہ حکم صادر کیا کہ ان کے متبعین میں سے اگر کوئی شخص ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے گا تو اس کا نام میری امت کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا اور یہ واقعہ تو آفاق عالم میں مشہور و معروف ہے کہ جب پائی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے انتقال فرمایا تو لاکھوں مسلمانوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی لیکن سرفظیر اللہ خان، جو اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ تھے۔ انہوں نے موجود ہوتے ہوئے قائد اعظم کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ جب اخباری نمائندوں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے یہ کہا: ”اگر قائد اعظم مسلمان تھے تو آپ یوں سمجھیں کہ میں ایک

مسلمان حکومت کا کافر وزیر خارجہ ہوں اور اگر وہ مسلمان نہ تھے تو میں ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ ہوں۔“

پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیئے جانے کی تفصیلات سے آپ آگاہ ہوں گے۔ لیکن اتنی بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ قرارداد مذہبی علماء کی کسی کانفرنس اور کسی اجتماع میں منظور نہیں کی گئی۔ بلکہ اسے پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے اتفاق رائے سے منظور کیا تھا اور وہ بھی ہمتوں بلکہ مہینوں کی سوچ بچار اور غور و فکر کے بعد وہ طویل مباحثہ اور علمی مذاکرہ یکطرفہ نہیں تھا۔ بلکہ قادیانی جماعت کے اس وقت کے امیر جناب مرزانا صراحہ نے بھی اپنی جماعت کے علماء اور فضلاء کے ساتھ اس میں شرکت کی تھی اور ایک ایک نکتہ پر گرما گرم بحث ہوئی تھی اور آخر میں مرزانا صراحہ نے جب یہ اعلان کیا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہوں اور جو شخص ان کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو کافر سمجھتا ہوں تب پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کے تمام ارکان نے متفقہ طور پر اس قرارداد کو پاس کیا اور آپ جانتے ہیں کہ جو قرارداد قانون ساز اسمبلی میں پاس ہو اور اس کو صرف اکثریت نے ہی منظور نہ کیا ہو بلکہ اتفاق رائے سے منظور کی گئی ہو۔ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اور اس قرارداد کو اتفاق رائے سے پاس کرنے میں بھی مرزانا صراحہ کے اس اعلان کا بڑا دخل ہے جو انہوں نے آئین ساز اسمبلی کے ہال میں سب کے سامنے کیا کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

اس وقت مسلمانوں کی تعداد دنیا میں ایک ارب کے لگ بھگ ہے اور قادیانی ایک لاکھ پچیس ہزار ہیں۔ اگر ان کے امیر کے کہنے کے مطابق صرف یہی مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو بیک قلم دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ یہ قادیانیوں کا ہی دل گردہ ہے۔ کوئی منصف مزاج شخص ایسا کہنے کی بلکہ ایسا سوچنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتا۔

تیسری بات! جو میں نے ان صاحبان کے گوش گزار کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے انسانی حقوق پامال کئے جا رہے ہیں۔ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے۔ ہماری عبادت گاہوں کو بچو نہ خاک کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے۔ وغیرہ وغیرہ! اس کے بارے میں عرض ہے کہ پاکستان کے عوام، اسلام کی برکت سے اتنے فراخ دل اور عالی ظرف واقع ہوئے ہیں کہ اس ملک میں بہت سی غیر مسلم اقلیتیں آباد ہیں۔ ہندو،

عیسائی، پارسی وغیرہ لیکن جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک وہاں کبھی فرقہ وارانہ فساد روپ نہ نہیں ہوا۔ کبھی کسی غیر مسلم کی جان، مال، آبرو پر دستِ تعدی دراز نہیں کیا گیا تو ان لوگوں پر ظلم و تعدی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سا ایسا انسانی حق ہے جو کسی اور پاکستانی کو میسر ہے۔ لیکن یہ اس سے محروم ہیں۔

مثال کے طور پر آپ سب سے پہلے تعلیمی میدان کو لیجئے۔ پرائمری سکول، ہائی سکول، کالج، پروفیشنل کالج، ٹیکنیکل کالج، پوسٹ گریجویٹ اور یونیورسٹی کی سطح تک حصولِ تعلیم کے جتنے مرحلے ہیں۔ ان میں داخلہ کے لئے ان قادیانوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ ان کے بچے میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج اور دوسرے کالجز میں سینکڑوں کی تعداد میں اب بھی زیرِ تعلیم ہیں اور جنہوں نے اس سال فائنل کے امتحان پاس کئے ہیں وہ حسبِ قواعد ملازمتوں پر متعین کر دیئے گئے ہیں۔ مقابلہ کے امتحانات میں بھی شریک ہونے پر بھی ان پر کوئی پابندی نہیں۔ ان میں سے جو کامیاب ہوتے ہیں ان کو اعلیٰ مناصب پر فائز کیا جاتا ہے۔

جہاں تک سرکاری محکموں میں ملازمت کا تعلق ہے۔ سب سے اہم محکمے محکمہ دفاع کے ہیں۔ ان میں وہ ہوائی، بحری، بری تمام افواج میں اعلیٰ ترین عہدوں پر متمکن ہیں۔ اعلیٰ جینس محکمہ جو از حد اہم اور حساس محکمہ ہے۔ اس میں بھی بنیادی پوسٹوں پر یہ لوگ فائز ہیں۔ وزارتِ خارجہ میں اہم ممالک میں اس جماعت کے لوگ سفارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ملیں، فیکٹریاں، کارخانے ان کے تصرف میں ہیں۔ سینکڑوں مربع زرعی زمین کے یہ مالک ہیں۔ مشہور مقامات پر کاروباری مرکوزوں کے یہ مالک ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کے علاوہ کون سا وہ حق ہے جو کسی اور پاکستانی کو تو حاصل ہے اور انہیں میسر نہیں۔ البتہ ایک حق ہے جو اور کسی پاکستانی کو حاصل نہیں۔ لیکن یہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یعنی اپنے ملک کی بدگوئی کرنا، اپنے ملک کو بدنام کرنا، اس درخت کی جڑیں کاٹنا۔ جس کے ٹھنڈے سائے میں یہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جس کے ٹیٹھے اور لذیذ پھلوں سے یہ اپنی کام دہن کی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں۔ بیرونِ پاکستان آپ کہیں چلے جائیں ان ناشکر گزاروں کو آپ پاکستان کا گلہ کرتے اور برائی کرتے ہوئے پائیں گے۔ اس کے باوجود پاکستان کا دامن پھر بھی ان کے لئے کشادہ ہے۔ پھر بھی وہ اپنے انعامات و کرامات سے ان کو محروم نہیں کرتا۔ پاکستان کا اور کوئی شہری یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ غیر اقوام کے سامنے اپنے ملک کی غیبت کرے اور یہ لوگ اپنے ملک پر اسرارِ جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور اس کو

بدنام کر کے خوش ہوتے ہیں۔

اثنائے گفتگو میں ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ کلمہ شریف کا بیج لگاتے ہیں، آپ یہ بیج نوچ لیتے ہیں اور اس پر اپنی برہمی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کی انسانی حقوق کی پامالی کے زمرہ میں آتی ہے۔

میں نے انہیں عرض کی کہ بیشک ہمیں ان کے اس بیج پر اعتراض ہے اور ہمیں ان کے سینوں پر یہ بیج آویزاں دیکھ کر ناگواری ہوتی ہے۔ لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سورۃ الفتح کی یہ آیت: ”محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم“ اس میں پہلا جملہ ”محمد رسول اللہ“ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہ ذات پاک نہیں جس کا نام ”محمد“ ان کے جدا محمد نے رکھا جو چودہ سو سال سے اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے دوست بھی، ان کے دشمن بھی، ان کے ماننے والے اور انکار کرنے بھی اسی نام سے ان کو جانتے ہیں۔

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد فقط وہ نہیں بلکہ میں بھی ہوں۔ اس سے بڑی جسارت بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم جو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آسمانی صحیفہ ہے۔ اس میں اپنی من مانی تاویل بلکہ من مانی تحریف سے کیا ہمارے دل نہیں دکھتے۔ اگر اقلیت کے انسانی حقوق ہیں تو کیا اکثریت کا کوئی انسانی حق نہیں۔ اگر اقلیت کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا بری بات ہے تو کیا اکثریت کے جذبات کو مجروح کرنا کارثواب ہے؟

یہ آیت لکھ کر وہ آیت کا غلط معنی لیتے ہیں۔ اس لئے ہماری غیرت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کا نام پاک ذکر کر کے اس سے کوئی ایسا شخص مراد لیا جائے جسے ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔

اس گفتگو میں سفیر صاحب جناب سعید دہلوی میری معاونت فرماتے رہے اور جب بھی مجھے ان کی اعانت کی ضرورت محسوس ہوئی بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ وہ اپنا مدعا مہمانوں کے ذہن نشین کراتے رہے۔ اس کاوش کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ گزشتہ سال ممبران نے کھل کر ان لوگوں کی تائید کی تھی اور پاکستان پر تازہ توڑ حملے کئے تھے۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل و کرم فرمایا کہ کسی ایک ممبر نے بھی ہمارے خلاف ایک لفظ تک نہیں بولا۔



اسی اثناء میں ۱۷ اگست ۱۹۸۸ء کو ایک عظیم سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ جس نے قلوب و اذہان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ۶ بجے میں اپنے کام سے فارغ ہو کر بستر پر آرام کرنے کے لئے لیٹا ہی تھا کہ ٹیلیفون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ جناب سفیر صاحب بول رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور شاید ان کے کرب و الم کی ایسی ہی کیفیت تھی۔ انہیں بھی معلوم نہ تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آخر بمشکل تمام وہ اتنا کہہ سکے کہ صدر صاحب کا طیارہ حادثہ کا شکار ہو گیا۔ یہ سن کر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کیفیت تھی۔ بارہا دل نے مجبور کیا کہ واپس پاکستان چلا جاؤں۔ لیکن پھر اس خیال نے راستہ روک لیا کہ میں جس فرض کی ادائیگی کے لئے یہاں بھیجا گیا ہوں اس فرض کی ادائیگی سے پہلے اپنا مورچہ چھوڑنا یہ مردانگی نہیں۔ یہ وفاداری نہیں۔ دل جتنا چاہے تملائے اسے یہیں رہنا ہوگا۔ اپنا فرض ادا کرنے کے لئے اپنی ساری صلاحیتوں کو مصروف کار رکھنا ہوگا۔

ہفتہ کے روز میں اپنے ہوٹل کے کمرہ میں تھا تھا۔ اخبار میں پڑھا تھا کہ دو بجے پاکستان کے وقت کے مطابق شہید اسلام صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جب گھڑی پر گیارہ بجے تو میں نے سوچا اب پاکستان میں دو بج رہے ہوں گے۔ شاید ٹیلی ویژن والے جنازہ کی کچھ جھلکیاں دکھائیں۔ میں نے ٹیلی ویژن آن کیا۔ سامنے وہ منظر نظر آیا جسے دیکھ کر دل تھام کر رہ گیا۔ پاکستانی فوج کے جیالے اپنے مرحوم صدر کے صندوق کو اٹھا کر لارہے تھے۔ ایک گھنٹہ تک سوئٹزر لینڈ کے ٹیلی ویژن نے براہ راست تمام مناظر براڈ کاسٹ کئے۔ وہ لمحہ بھی آیا کہ وہ دبلا پتلا جنرل ضیاء الحق جس کی آواز کی گرج سے عالمی قوتوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اپنی آخری آرام گاہ میں رکھ دیا گیا۔ جس کے اوپر سینکڑوں من مٹی وال دی گئی۔ وہ آنسو، جو قوم نے اس کے فراق میں بہائے وہ آنکھیں جو گھنٹوں اس کی جدائی پر اٹکنا رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے اور اس کے ساتھی شہداء کے لئے اس کی رحمت کی بھیک مانگتی رہیں۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو کبھی بھلا یا نہ جاسکے گا۔ لاکھوں انسانوں کا ٹھانٹیں مارتا ہوا سمندر موجزن تھا۔ فیصل مسجد کے ارد گرد حدنگاہ تک جتنے میدان، جتنی پہاڑیاں، جتنی سڑکیں، جتنی کوٹھیاں تھیں سب لوگوں سے کچھ کچھ بھری ہوئی تھیں۔ حتیٰ کہ مسجد کی چھت پر بھی لوگوں کا جھوم تھا۔ انتہائی غم و اندوہ کے لمحات میں پاکستانی قوم کا نظم و ضبط دیکھنے والوں کو درطہ حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ سب انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ سراپا عجز و نیاز بن کر اپنے رحمن اور رحیم، غفار اور ستار خدا کی بارگاہ میں اپنے شہید

صدر کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے دعائیں مانگ رہے تھے۔

نماز عصر کے بعد جینوا کی مسجد میں جنرل صاحب کے ایصال ثواب کے لئے ختم قرآن کریم کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نماز عصر سے پہلے میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ بہت سے پاکستانی اسکیمیں اور پاکستانی مشن کے افسر اور ملازمین اور عام پاکستانیوں کی کثیر تعداد وہاں جمع ہو گئی۔ قرآن کریم کے کئی ختم ہوئے، کلمہ شریف اور درود شریف پڑھا گیا۔ سب نے اس کا ثواب جنرل صاحب اور آپ کے شہید ساتھیوں کی ارواح طیبہ کو پہنچایا۔

سبھی رنجیدہ اور غزدہ تھے۔ لیکن جو پٹھان وہاں آئے تھے ان کی حالت بڑی تکلیف دہ تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے آج ہم یتیم ہو گئے۔ ہمارا باپ رخصت ہو گیا۔ اسلام اور پاکستان کی جس دل میں جتنی محبت تھی اسی قدر وہ المناک حادثہ پر غمناک تھا۔ ہفتہ اور اتوار کو مشن کی ہفتہ وار چھٹی تھی۔ سوموار کو پھر اجلاس شروع ہوا۔ سب سے پہلے صدر صاحب اور ان کے ساتھیوں کی حسرتناک وفات پر دلی غم و اندوہ کا اظہار کیا گیا اور احتراماً ایک منٹ کھڑے ہو کر اظہار تعزیت کیا گیا۔

۲۶ اگست کو جمعہ تھا۔ میں نے سفیر صاحب سے پوچھا کہ اگر میرا یہاں کوئی کام ہو تو میں ٹھہرنے کے لئے تیار ہوں۔ لیکن اگر میرا کام ختم ہو گیا ہو تو مجھے واپسی کی اجازت دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کا کام اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اب سب کمیشن کے ممبران خفیہ اجلاس کریں گے۔ جن میں وہ امور جو کمیشن میں زیر بحث آتے ہیں۔ ان پر خفیہ رائے شماری کریں گے۔ اس میں ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس لئے آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ چنانچہ بروز جمعہ ساڑھے ۶ بجے کی فلائٹ پر میں فرینکلرفٹ (جرمن) پہنچا۔

فرینکلرفٹ (جرمنی) کا ایک مشہور شہر ہے اور جرمنی کا ہوائی اڈہ ہے۔ وہاں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے فارغ التحصیل صاحبزادہ عابد حسین صاحب عرصہ دو سال سے خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کا اصرار تھا کہ میں ان کے پاس آؤں۔ چنانچہ میں نے واپسی پر ان کے پاس جانے کا پروگرام بنایا اور انہیں اپنی آمد سے مطلع کیا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایئر پورٹ پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہاں سے ہی پاک دارالاسلام مسجد تک پہنچے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز ادا کی اس کے بعد احباب کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔

باتوں باتوں میں صاحبزادہ عابد صاحب نے بتایا کہ یہاں کے مرزا بیوں کو آپ کی

آمد کی اطلاع مل گئی ہے۔ وہ ملاقات کے لئے وقت مانگ رہے ہیں۔ میں نے دوسرے روز نماز عصر کے بعد انہیں ملاقات کے لئے وقت دیا۔ رات کو آرام کیا۔ نماز صبح کے بعد ناشتہ سے فارغ ہو کر سیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ وہاں سے ساٹھ ستر کلومیٹر دور دریائے رامیں کے کنارے ایک بڑا خوبصورت قصبہ ہے۔ جس کا نام اس وقت یاد نہیں۔ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک یادگار بنی ہوئی ہے۔ جس پر لوہے کے رسوں کے ساتھ چھوٹے ڈبے آویزاں ہیں۔ جس میں چار آدمی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ بجلی سے رے چلتے ہیں جانے والے مسافران پر بیٹھ کر اوپر جاتے ہیں اور خالی ڈبوں میں پہلے گئے ہوئے مسافر سیر و تفریح کے بعد لوٹ کر واپس آتے ہیں۔ یہ فاصلہ ڈیڑھ دو کلومیٹر کے برابر ہے۔ اس کے نیچے دامن کوہ ہے۔ جس پر بڑی خوبصورتی سے انگور کی بیلین لگی ہوئی ہیں۔ انگور کی بیلوں کو تقریباً دو دو فٹ کے فاصلوں پر لائنوں میں لگایا گیا ہے اور ان لائنوں میں تار کھینچ دی گئی ہے۔ تاکہ وہ بیلین سیدھی رہیں اور لائنوں میں گڑبڑ نہ ہو۔ انگور کی بیلین از حد سرسبز و شاداب ہیں۔ سامنے دریا کا پاٹ ہے۔ اس کی دوسری طرف بھی انگوروں کے کھیت نظر آتے ہیں جو دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ جنہیں بڑے سلیقے اور ہنرمندی سے کاشت کیا گیا ہے اور ان کی نشوونما کے لئے بڑی توجہ اور محنت سے کام لیا جاتا ہے۔ سارا منظر انتہائی دلکش اور سہانا ہے۔ جب ہم اس پہاڑی پر پہنچے تو ہم ان ڈبوں سے باہر نکلے۔ سامنے پتھر کا ایک بڑا کشادہ چبوترہ بنا ہوا ہے۔ اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری کا مجسمہ ہے اور اس کے نیچے پتھر پر کندہ قیصر ولیم کی تصویر ہے جو اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ارد گرد اس کے فوجی مصاحب برابر میں کھڑے ہیں۔ کچھ دیر ہم وہاں ٹھہرے۔ پھر واپس اسی جگہ آئے۔ جہاں خالی ڈبے ہماری راہ دکھ رہے تھے۔ چنانچہ ان میں سوار ہو کر ہم واپس پہنچے۔ ہم اپنی کار نیچے چھوڑ گئے تھے۔ وہاں تک پیدل آنا پڑا۔ وہاں پہنچ کر کار میں سوار ہوئے اور فرینکفرٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔

جرمنی میں جہاں جہاں جانے کا اتفاق ہوا سرکیس بڑی ہموار، کشادہ اور آرام دہ ہیں۔ جانے کے لئے الگ اور آنے کے لئے علیحدہ شاہراہ بنی ہوئی ہے۔ بیک وقت تین تین گاڑیاں آ جا سکتی ہیں۔ زمین بڑی زرخیز معلوم ہوتی ہے۔ انہیں آپاشی کے لئے مصنوعی ذرائع اختیار کرنے کی بہت کم ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بارش اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ ہر موسم کے کھیتوں کے لئے کافی ہوتی ہے۔ درختوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر شہر کے باہر کافی وسیع قطعہ زمین

درختوں کے لئے مخصوص ہوتا ہے۔ سڑکوں کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت ہیں جو اپنے گھنے اور ٹھنڈے سائے سے مسافروں کو آرام اور سکون پہنچاتے ہیں۔

ہم مناظر قدرت کو دیکھتے ہوئے ان کے خوبصورت چھوٹے چھوٹے گاؤں سے گزرتے ہوئے دو بجے کے قریب اپنی قیام گاہ پر پہنچے۔ نماز ظہر ادا کی۔ کھانا کھایا اور ستانے کے لئے لیٹ گئے۔ عصر کی نماز ساڑھے چھ بجے ادا کی اور قادیانیوں کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ پونے سات بجے کے قریب پہلے دو آدمی آئے۔ کچھ دیر کے بعد دو آدمی پھر آئے۔ پھر کچھ وقفے کے بعد دو تین آدمی پھر آئے۔ یہاں تک کہ ان کی تعداد نو دس کے لگ بھگ ہو گئی۔ انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں گفتگو کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک صاحب کے ہاتھ میں چند پمفلٹ تھے۔ وہ انہوں نے میری طرف بڑھائے اور کہا یہ ہمارے امام نے مہبلہ کا چیلنج دیا ہے۔ کیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ہم نے آپ کا یہ چیلنج عرصہ ہوا قبول کر لیا ہے اور اس کا اعلان اخبارات کے فرنیٹ پیج پر کر دیا گیا ہے۔ ہم نے اس کے لئے بارہ ربیع الاول کی رات متعین کی ہے اور آپ کے مرزا طاہر کو کہا ہے کہ وہ اس رات مینار پاکستان کے میدان میں تشریف لے آویں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں وہاں آنے کی ضرورت نہیں وہ اپنے گھر میں دعا کریں گے۔ آپ اپنے گھر میں دعا کریں میں نے کہا آپ نے چیلنج دیتے ہوئے مہبلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ قرآنی اصطلاح ہے اور اس پر اسی طرح عمل کیا جائے گا۔ جس طرح آیت کریم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور اس کا طریق کار بتایا ہے۔

جب یمن کے علاقہ نجران کے عیسائیوں کے پادری مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور عقیدہ تثلیث پر رحمت دو عالم ﷺ سے گفتگو کی اور حضور ﷺ نے تثلیث کے بطلان اور عقیدہ توحید کے اثبات کے لئے دلائل پیش کئے تو انہوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مہبلہ کا حکم اپنے حبیب ﷺ کو دیا اور اس آیت میں اس کی وضاحت فرمائی۔

”فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین (آل عمران: ۶۱)“ ﴿آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بھی۔ اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی۔ اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور الحجاج کریں۔ پھر بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔﴾

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے اہل خانہ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میدان میں جمع ہوں گے۔ پھر مل کر بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اس کی لعنت ہو۔

مہبلہ کا قرآن کریم نے یہی طریقہ بیان کیا ہے۔ اگر آپ کے مرزا طاہر میں یہ ہمت نہ تھی تو انہوں نے مہبلہ کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ کہنے لگے پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ جو حق کے علمبردار ہوتے ہیں وہ جان کی پروا نہیں کرتے اور ہر قیمت پر اور ہر حالت میں اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے آتش کدے سے ڈر کر دعوت توحید سے پہلو تھکی کر لی تھی۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے جاہل اور شکر کے سامنے کلمہ حق بلند نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ اس بات پر ہی بند رہے کہ آپ اپنی جگہ بیٹھ کر بددعا کریں اور وہ اپنی جگہ بیٹھ کر بددعا کریں گے۔ ان کو بار بار سمجھایا گیا کہ مہبلہ کا لفظ آپ کے مرزا طاہر قادیانی نے استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ استعمال کرنے سے پہلے انہیں چاہئے تھا کہ اس لفظ کا مفہوم سمجھتے اور اس مفہوم پر پورا اترنے کی انہیں ہمت نہ تھی یا خاموشی اختیار کرتے اور یا کوئی اور لفظ استعمال کرتے۔ لیکن بجز سکوت کے ان صاحبان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ چنانچہ کچھ وقت کے بعد وہ تشریف لے گئے۔

اتوار کے روز ظہر کی نماز کے بعد عظیم الشان جلسہ ہوا۔ جس میں اس فقیر نے تقریباً سوادو گھنٹے مرزائیت کے رد میں تقریر کی۔ جس سے مجھے یقین ہے کہ بفضلہ تعالیٰ حاضرین کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اور ان میں وہ روایتی بے خبری ختم ہوگئی ہوگی۔ جس کے باعث قادیانی شاطر انہیں باسانی اپنا صید زبون بنالیا کرتے تھے۔

۲۹ اگست ۱۹۸۸ء کو ساڑھے گیارہ بجے کی فلائٹ پر میں فرینکفرٹ سے جدہ کے لئے روانہ ہوا۔ جہاز ساڑھے آٹھ بجے کے قریب جدہ کے ہوائی اڈا پر اترا۔ وہاں محترم حکیم نذیر احمد صاحب، محترم گل احمد خان صاحب کار نے کر تشریف لائے ہوئے تھے اور بھائی عزیزم حاجی مہر محمد صدیق صاحب بھی آئے تھے۔ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ رات گل احمد خان صاحب کے پاس بسر کی۔ نماز صبح کے بعد پر کھلف ناشتہ کا اہتمام فرمایا۔ وہاں سے میں اور عزیز محمد صدیق صاحب مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک عمرہ صدر شہید کی روح کو ایصال ثواب کے لئے کیا۔ منگل اور بدھ کے دو دن مکہ مکرمہ بسر ہوئے۔ بروز بدھ سواچھ بجے بذریعہ بس

مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہوا۔ رات کے بارہ بج کر چند منٹ ہوئے تھے کہ اس مقدس اور پاکیزہ بستی میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ جس کی گلی کی خاک کے ذرے اپنی چمک دمک میں مہر و ماہ کو شرمادیتے ہیں۔

جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کی رات دیار حبیب ﷺ میں بسر ہوئی۔ ان مقامات پر حاضری کی لذتیں اور کیف و سرور ناقابل بیان ہے۔ اس کو وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کو اس سے لطف اندوز ہونے کی سعادت ارزانی کی جاتی ہے۔ بھائی غلام رسول صاحب اپنی کام میں مجھے واپسی پر مکہ مکرمہ لے آئے۔ واپسی پر بھی عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ پھر آخری بار غلاف کعبہ کو بوسہ دے کر الوداع کیا اور جدہ کے لئے روانہ ہوا۔ ساڑھے آٹھ بجے پی. آئی. اے کی فلائٹ پر کراچی اور وہاں سے چھ بجے صبح اسلام آباد پہنچا۔

اپنے مکان پر پہنچ کر پہلا کام یہ کیا کہ برن میں سفیر صاحب کو ٹیلیفون کیا تاکہ معلوم ہو کہ اس رائے شماری کا کیا نتیجہ نکلا۔ اتفاقاً فوراً رابطہ ہو گیا۔ انہیں جب پتہ چلا کہ ٹیلیفون پر میں ہوں تو بے ساختہ ان کی زبان سے مبارکباد، مبارکباد کے کلمے نکلے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو اس معرکہ میں شاندار کامیابی ہوئی ہے۔ یہ مژدہ جانفزا سن کر میں نے اپنے رب کریم کا شکر ادا کیا۔ جس نے اس ناچیز اور نااہل کو یہ خدمت سرانجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائی۔

”الحمد لله رب العالمين . والصلوة والسلام على خاتم الانبياء

والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين“

اس خوشی کے باوجود دل میں ایک قلق تھا کہ کاش یہ خوشخبری میں اپنی زبان سے اس گرامی قدر ہستی کو سنا سکتا۔ جس نے اس عظیم خدمت کے لئے اس بندہ ناچیز کا انتخاب کیا تھا۔ میرے پاکستان واپس آنے سے پہلے ہی شہادت کا تاج پہن کر وہ اپنے رب کریم کی بارگاہ رحمت میں پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ میں ان کے مزار پر گیا جو عمرہ میں نے ان کے لئے کیا تھا اس کا ثواب ان کی پاک روح کو نذر کیا اور انہیں یہ بھی عرض کی کہ جس کام کے لئے آپ نے مجھے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس میں سرخروئی عطا فرمائی ہے۔ یقیناً ان کی روح نے یہ سنا ہوگا۔ یقیناً انہیں بے پایاں مسرت ہوئی ہوگی۔

”رحمة الله عليه وعلى اخوانه وعلى جميع المسلمين الى يوم الدين“

سید الشہداء علیؑ کے بارے میں جو سب سے پہلے لکھا گیا ہے

چودھویں صدی

مسح

حکیم مظہر حسین قریشی صدیقی میٹھی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم  
صد شکر کہ ہستم مہمان دو کریم

دیباچہ

ہر ایک زمانے کا دستور عام ہے کہ ملک کے مشہور مشہور لوگوں کے حالات مختلف پیرائیوں میں لکھے جایا کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کی شہرت کسی دینی پیشوائی یا ملکی خیر خواہی کی وجہ سے ہو۔ مؤرخ کو اس سے مطلب نہیں وہ تو واقعات حقہ کے اظہار کا پابند ہوتا ہے۔ پنجاب میں مرزا قادیانی کو جو شہرت ہے۔ وہ مقتضی اس بات کی تھی کہ ان کے حالات سوانح عمری کو لکھے جاتے، مگر افسوس کہ ان کے مریدوں میں کسی نے اس کام کو (جو بحیثیت ارادت ان کا فرض منصبی تھا اور مرزا صاحب کی زندگی میں آسان بھی تھا) نہیں کیا۔ اس لیے مصنف رسالہ ہذا کو واقعات کی تلاش میں جو وقت اور محنت برداشت کرنی پڑی وہ کس قدر حق سے زائد ہے، غالباً ان سے بعد جو لوگ اس کام کو کریں گے۔ یہ کتاب ان کو اس کام میں راہ نمائی کا کام دے گی۔

چونکہ زمانہ رواں میں انگریزی تعلیم کے اثر سے لوگوں میں ناول کا طرز پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ اس لیے مصنف نے بھی یہی طریق اختیار کیا۔ اصل واقعات بالکل صحیح اور سچے ہیں:

منبر





سناز کردہ نام تو رسائی پہ انجا

## پہلا باب

### ترقی کی فکر

ہمارے ناول کا سلسلہ ۱۸۶۷ء کے اخیر سے شروع ہوتا ہے۔ جب ملک پنجاب میں چیف کورٹ کا انتظام بنایا گیا اور وکالت کے امتحان کے واسطے قانون پاس ہو چکا تھا۔ کراب کوئی شخص بغیر لائسنس وکالت حاصل کرنے کسی مقدمہ میں بیروکار یا مختار ہونے کا مجاز نہیں ہوگا۔ شام کا وقت ہے۔ آفتاب مغرب کی طرف جا کر منہ چھپانے لگا ہے۔ اس کی زرد شعاعیں درختوں کے پتوں پر سنہری جھلک ڈال رہی ہیں۔ کچھری ضلع کے احاطہ سے اہل مقدمہ اٹھ اٹھ کر شہر کی طرف رخ کئے جا رہے ہیں۔ عرائض نوٹس بھی اپنا اپنا بوریا بندھنا لپیٹ بغل میں بستہ قلمدان ہاتھ میں جھٹا اٹھا کر چل دئے ہیں۔

صاحب ڈپٹی کسٹرن بہادر کے کمرہ کے دروازہ پر گاڑی کھڑی ہے۔ یہ لوہہ بھی سوار ہو گئے۔ گھوڑا فرانے بھرتا ہوا سے ہاتھیں کرتا دم اٹھائے اڑا جا رہا ہے۔ گاڑی نظر سے غائب: الہکار بھی اپنے اپنے کاغذات سنہال بستہ باندھ چڑا سی کے کندھے پر رکھ کوئی پیادہ کوئی سوار چل کھڑے ہوئے۔ شہر سیالکوٹ کے گوشہ غرب و شمال کی جانب کچھری سے جو سڑک شہر کو آتی ہے۔ اس کے کنارہ کنارہ ایک جوان خوب روہ خوش قطع، ثقہ صورت۔ میانہ قد، گندی رنگ۔ بیضاوی چہرہ مختصر سے کاغذات اور ایک دور جستر رومال میں لپیٹے بغل میں دبائے آہستہ آہستہ اپنے خیال سے ہاتھیں کرتا مغموم و متشکر شکل کسی گہری فکر میں مستغرق آ رہا ہے: ”کچھ کچھ لہوں میں ہی جنش ہے۔ کبھی کبھی ابرو پر تل پڑ جاتا ہے اور گردن بھی مل جاتی ہے۔“

چلو پاس چل کر دیکھیں یہ کون ہے؟ اہل مقدمہ تو نہیں، ضرور کوئی الہکار ہے۔ اس کی حالت بتا رہی ہے۔ کہ بہت چھوٹے عہدہ کا ملازم ہے۔ مگر عالی حوصلہ اور بلند خیالات کا انسان ہے: ”جو عہدہ دار پاس سے گزرتا ہے اس پر نفرت اور کراہت سے نظر ڈالتا ہے۔ اپنی کم ہمتی کے مقابل کسی کا وجود نہیں سمجھتا مگر بعض کے لیے ہا اکراہ و جبر سلام کے واسطے ماتھے تک ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔“

دور سے ایک فینس آ رہی ہے۔ اٹھ کھار اٹھائے قدم جگائے ہونہہ ہونہہ کرتے آتے ہیں۔ قریب آ کھاروں نے کندھا بلا فینس روکی:

جوان ..... اپنے خیال کا سلسلہ توڑ کر آہا، رائے صاحب تسلیم مزاج شریف:  
رائے صاحب ..... بندگی آج اس وقت کیا آج کل کام کی کثرت ہے۔ ملنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ عید کا  
چاند کہیں یاد سہرہ کا نیل کٹھ۔ ایک مکان میں رہنا اور یہ دوری۔

جوان ..... اپنی رفتار بدل کر تیز قدمی کے ساتھ۔ جی ہاں ماہواری ہے نا۔ دوسرے آج صاحب  
ڈپٹی کمشنر بھی دیر سے اٹھے۔ آپ بھی اب چلے ہیں۔ آزادی میں بھی۔ آپ تو کسی کے نوکر نہیں۔  
بس جاتے ہی داخل دفتر ہو جاؤ گے۔ پھر الٹی شکایت:

رائے صاحب ..... ہاں ایک دیوانی مقدمہ میں بحث تھی اور ایک فوجداری مقدمہ سشن کا تھا۔ ڈپٹی  
صاحب تو ابھی بیٹھے ہیں رات کو ملیں گے۔

جوان ..... بہتر ڈپٹی صاحب (کچھ آگے کہنے کو تھا) فنس نکل گئی یہ جاوہ چاہتا ہو گئی اور یہ پھر اسی  
خیال اور دھن میں لگ گئے۔ شہر میں داخل ہوئے۔ دروازہ پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اندر قدم  
رکھتے ہی نوکر سے۔ پانی گرم ہے۔

نوکر ..... جی ہاں لیجیے۔

جوان ..... وضو کرتے ہوئے۔ عرب کہاں گئے۔

نوکر ..... مسجد میں نماز کے واسطے گئے ہیں۔ ابھی آ جاتے ہیں۔

جوان ..... نے وضو سے فراغت پانماز مغرب ادا کی۔ وظیفہ میں تھے۔ کہ دروازہ کھلا ایک شخص  
بزرگ صورت گول عمامہ سر پر ٹخنوں تک نیچا کرتا اور عربوں کی وضع کی تسبیح ہاتھ میں ماتھے پر سجدہ کا  
گھٹ پڑا داخل ہوئے۔ السلام علیکم!

جوان ..... وعلیکم السلام کہہ کر بیٹھے کا اشارہ کیا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ مصلیٰ اٹھا کر ایک طرف رکھا۔

عرب ..... آج بہت دیر لگائی نماز بھی اخیر وقت پڑھی ہوگی۔

جوان ..... بندگی پابندی اسی سبب سے تو میں ملازمت کو پسند نہیں کرتا۔ نوکری میں آدمی تقسیم  
اوقات کا پابند نہیں رہ سکتا۔ خصوصاً ماتحتی طرفہ بلا ہے۔ چھ پانچ برس ہو گئے ہنوز روز اول ہے اور نہ  
آئندہ کوئی امید ترقی۔

عرب ..... ہم آپ کو ایک عمل بتلاتے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے ورد میں خدانے چاہا تو نوکری کی  
پرواہ نہ رہے گی۔

جوان ..... درد و طائف کا مجھ کو لڑکپن سے شوق ہے اور ہمیشہ پڑھتا ہوں۔

عرب ..... استقلال چاہے۔ بے صبری اور تلون مزاجی میں حسرت و یاس کے سوا کچھ نہیں ملتا:

کمال ضبط کو عاشق کرے اگر پیدا

کہاں کی آہ کرے بات یہی اثر پیدا

اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاں نہیں جانے دیتا۔ من کان یرید حرث الاخرة

نزدله فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها

جوان ..... آخر دیر بھی اتنا عرصہ تو گزرا۔

عرب ..... پھر وہی دیر آید درست آید پیش از وقت و پیش از قسمت

بے وقت کسی کو کچھ ملا ہے

پتا کہیں حکم بن ہلا ہے؟

جوان ..... کوئی دست غیب کا عمل بھی یاد ہے مگر مجرب ہو یوں تو بہت لکھی ہوئی ہیں۔

عرب ..... اس کا بندہ قائل نہیں یہ تو قصہ کہانی سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔

جوان ..... جعفر میں اس کے بہت سے عمل اور ان کے قاعدے لکھے ہیں۔

عرب ..... ہاں ہیں۔ مگر یہی دست غیب ہے۔ کہ کسی کار میں انسان کی رجوعات اور فتوحات ہو

جائے۔

جوان ..... تو پھر یہ کیا ہوتا دیر اور محنت سے ہر ایک روپیہ پیدا کر سکتا ہے:

عرب ..... فقط پیر کے گندہ ہی سے کار براری نہیں ہوتی کچھ ہمت بھی درکار ہے۔ نہ فقط تدبیر اور

محنت سے کام نکلتا ہے اور نہ بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ سے اگر تائید ہو تو تدبیر درست

ہو جاتی ہے۔ غرض کہ کوئی کام یا کارخانہ انسان جاری کرے۔ اگر اس میں فتوحات اور رجوعات ہو

جائے۔ تو وہی دست غیب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی کے واسطے دعا اور اوراد ہیں

ہاں جعفر کے قاعدے سے اگر ترکیب اور ترتیب کر کے کوئی عمل کیا جائے تو اس کا اثر جلد اور حسب

مراد ہوتا ہے۔

جوان ..... نوکری ہی میں ترقی ہو جانی چاہیے تھی۔

عرب ..... ہر ایک انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ پیدا کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے فطرتی

مادہ کے موافق میلان رکھتا ہے۔ آپ کی فطرت میں یہ مادہ نہیں ہے۔ کہ آپ نوکری کے ذریعہ

سے فائدہ اٹھاویں۔ آپ ہمیشہ افسروں کے شاکی رہتے ہیں اور افسر آپ سے ناراض پھر آپ کو

نوکری میں فائدہ معلوم۔

جوان ..... میرا ارادہ ہے کہ قانون یاد کروں اور وکالت کا امتحان دوں۔ وکالت میں معقول آمدنی ہے اور آزادی ہے اور عزت بھی، ملازمت میں فرمانبرداری اور خوشامد بری بلا ہے۔ اگر امتحان پاس ہو گیا تو پو پو بارہ ہیں۔

عرب ..... اللہ تعالیٰ کامیاب کرے یہ بات ہم کو بھی پسند آئی۔ نوکری میں ترقی کرنے کا مادہ آپ کی فطرت میں نہیں۔ انسان کے پاؤں کی چاپ معلوم ہوئی۔

جوان ..... دروازہ کی طرف دیکھ کر ہیرا (آنے والے کا نام) لالہ کھانے سے فارغ ہو گئے: ہیرا ..... نہیں تو جی مجھے تمہارے کئے بھیجا ہے۔ کہ کہیں چلے نہ جانا۔ ہم کھانا کھا کر آتے ہیں۔ ابھی رسوئی میں گئے ہیں۔

آواز ..... السلام علیکم!

جوان ..... وعلیکم السلام، میر صاحب آج تو کئی دن بعد نظر آئے کہاں تھے۔

میر صاحب ..... آپ ہی نہیں ملتے کچھری سے آئے اور سیدھے ملک شہادہ کے پاس وارد۔ لوگ آتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں کہو آج پنڈت صاحب (سرشدت دار ضلع) سے کیا جوڑ ہو رہی تھی۔

جوان ..... عجب آدمی ہے۔ کیا کہوں بڑا ہی متعصب، مسلمانوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا اور خصوصاً مجھ پر تو روکھا ہی نہیں کھاتا۔ سوہم بذات کشمیری پنڈت۔ یہ کشمیری پنڈت اپنی قوم کو چاہتے ہیں اور کوئی نہ ہو۔

میر صاحب ..... آخر بات کیا تھی صاحب ڈپٹی کمشنر نے تو منہ پھیر لیا تھا اور مسکراتے تھے۔

جوان ..... صاحب تو میری لیاقت سے واقف ہیں۔ اس دن جو یہ (عرب) ٹائیس ہوئے تو ضلع میں سے کوئی بھی ان کی بات نہ سمجھ سکا اور نہ سمجھا سکا اور پھر بندہ درگاہ ہی ترجمان ہوا۔ جب سے

صاحب ڈپٹی کمشنر کے خیال میری طرف سے اچھے ہیں۔ یہ شیطان جب مجھ پر کوئی اعتراض کرتے ہیں۔ تو صاحب کے رو برو بلا کر کرتے ہیں۔ تاکہ میں جواب نہ دے سکوں اور آپ جانتے ہیں۔

میر صاحب ..... آخر آج کا واقعہ تو سناؤ کیا تھا۔

جوان ..... مجھ سے فرماتے تھے کہ اتنے عرصہ میں تم کو رو بکا اور پروانہ کی تمیز نہیں ہوئی میں نے کہا کہ انفری ماتحتی ہی دیکر ہے ضلع میں بھی آپ کسی کو میرے مقابلہ کے واسطے بلا لیجیے۔ یہ گویا میدان۔

میر صاحب ..... آخر وہ انفر ہیں اور ہم ماتحت:

جوان..... میں نے تو یہ کہنا تھا کہ آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ مگر صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ سوچ کر بات کا پہلو بدل گیا۔ میاں کی اطاعت درست نہیں اور ہم پر اعتراض۔

بت کریں آرزو خدائی کی  
شان ہے تیری کبریائی کی

زینہ سے آہٹ کسی کے اترنے کی محسوس کر کے لالہ بہیم سین صاحب آئے۔  
سب تھکھا کھڑے ہو کر آئے آئے رائے صاحب تسلیم عرض۔

رائے صاحب..... بندگی کہیے۔ صاحبوں کے مزاج شریف حکیم صاحب (جوان سے) آپ کے چہرے سے کچھ طال پیدا ہے۔ راستہ میں جو آپ ملے تھے۔ آپ کی شکل سے پریشانی برتنی تھی۔ آپ جانتے ہیں۔ مجھ کو ان دنوں میں امتحان کی وجہ سے قانون یاد کرنے کے لیے رات ہی کا وقت ملتا ہے۔ دن تو موٹلوں کے ساتھ جھک جھک بک بک میں گزر جاتا ہے۔ میں نے کہا امتحان میں تو ابھی بہت دن ہیں۔ اپنے دوست قدیم کی پریشانی کا سبب حیرانی کا باعث تو دریافت کروں۔ یہ جھگڑا تو روز چلا ہی جائے گا۔ عدیم الفرستی ہے ورنہ ایک مکان میں رہ کر کئی کئی دن صورت آشنا نہ ہوں۔

حکیم صاحب..... (جوان) یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ کہ میں اس نوکری سے ابتدا ہی سے بیزار ہوں۔  
رائے صاحب..... یہ امر تو محتاج بیان نہیں میرا آپ کا کتب کے زمانہ سے اتحاد ہے۔ جب ہم بنالہ میں پڑھا کرتے تھے۔ میں تو آج کی پریشانی کا سبب پوچھتا ہوں۔

حکیم صاحب..... پانچ چھ سال سے یہاں نوکر ہوں۔ ہنوز روز اول اس قلیل تنخواہ میں بسر اوقات محال اور آئندہ ترقی کا لا طائل خیال افسروں کی ناز برداری مسترد اس سے تاک میں دم ہے۔

رائے صاحب..... آخر اس کی خبر بھی لکھے گی یا یوں ہی جملہ معترضہ چلا جائے گا۔  
حکیم صاحب..... آپ سے عرض کیا نا۔

رائے صاحب..... لاحول ولا قوۃ مجھ سے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ آخر اتنے دن نوکری کرتے ہی تھے۔  
آج کیا ملی نے پھینک دیا۔

میر صاحب..... ابھی آج ان کی پنڈت صاحب سے جوڑ ہو گئی۔

رائے صاحب..... خوب یوں کہو نہ، مگر یہ بات بھی کچھ نئی نہیں اس کا اتنا چکر کیوں دیتے تھے۔  
ہمارے حکیم صاحب گرو بننا چاہتے ہیں۔ چیلہ بننا نہیں چاہتے اور یہ نہیں جانتے کہ چیلہ بنے بغیر گرو کیونکر بن سکتے ہیں۔ بھائی صاحب نوکری میں بے افسر کی خوشنودی کے نہ ترقی، نہ عزت، نہ

لیاقت، نہ آسائش، نہ مفاد۔ اگر افسر خوش ہیں۔ تو یہ سب باتیں میسر۔ ملازمت میں افسر کی اطاعت اکسیر اور خود پسندی ہم قاتل کا حکم رکھتی ہے۔ آخر افسر افسر اور ماتحت ماتحت۔ حکیم صاحب..... یہی ہم سے نہیں ہو سکتا۔

رائے صاحب..... یہ تو میں جانتا ہوں کہ مادہ آپ کی فطرت میں نہیں ہے۔ یہ بات اگر نہ ہوتی۔ تو آپ گھر سے نکل کر یہ پندرہ روپے کی نوکری کیوں کرتے۔ خدا کا فضل تھا وہاں کس بات کی کمی تھی۔ مگر یہ آپ کی غلطی ہے بلکہ خام خیالی۔ بغیر خوشامد اور اطاعت کے کوئی کام بھی نہیں چلتا۔ جب دس آپ کی خوشامد کریں۔ تو ایک دو کی خوشامد میں آپ کا کیا ہرج ہے اور پھر خدا نخواستہ وہ آپ سے کیا کسی سے بھی بے جا خوشامد اور ناجائز اطاعت نہیں چاہتے۔ ایسے نیک افسر تو تقدیر سے ملتے ہیں۔

حکیم صاحب..... بگڑ کر اور غصہ کو خلاف عادت ضبط کر کے۔ نہیں صاحب یہ رعایت کی بات ہے۔ یہ امر تو ہم سے بعید بلکہ دشوار نہیں ناممکن۔

رائے صاحب..... یہ تو میں جانتا ہوں کہ ضد آپ کی ارٹ ہے یا یوں کہ آبائی سنت، بڑھے حکیم صاحب بھی پیسہ کی جگہ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ مگر ہٹ نہیں چھوڑتے تمام جائداد ضد مقدمہ بازی میں برباد کر دی۔

حکیم صاحب..... آشفٹ ہو کر وہ آدمی ہی کیا ہے۔ جس میں بات کی بیخ نہ ہو: رائے صاحب..... شرافت اور کمینہ کا آپ نے معیار خوب نکالا۔ گویا ہٹ جزہ شرافت ہے۔ کیا شیخ کا قول آپ نے نہیں سنا۔

نہ ہر جائے مرکب تو اں تاختن

کہ چاہا پھر باید انداختن

بھلا عقل سلیم اس کی مقتضی ہے؟ کہ دریا میں رہنا مگر مجھ سے بیرون نوکری کرنی اور ضلع کے

سرشتہ داروں سے مخالفت انجام اس کا:

حکیم صاحب..... اسی واسطے تو میں نوکری کرنی نہیں چاہتا۔ وکالت کا امتحان دینے کا ارادہ ہے۔

رائے صاحب..... آپ سے یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس خیال است و محال است و جنون۔ اول تو وکالت کا امتحان پاس کرنا کیا خالہ جی کا گھر ہے۔ مرمر کی سنگ فلاخن کا کاشا، لوہے کے چنے چبانے ہے۔ پھر امتحان (خدا جانے وہ کیا پوچھے زباں میری سے کیا نکلے) کا نام براہ اور اس میں کیا

خوشامد نہیں۔ محنت نہیں۔ اطاعت نہیں۔ کیا نہیں۔ حضرت بدون خوشامد اور محنت کی تو کوئی کام نہیں چلتا۔ بلکہ وکالت میں تو موکلوں کی ناز برداری اس سے بدرجہا زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ایک سے ذرا ناک چڑھا کر بولے۔ چلو دکان چوڑ چپٹ ہوئی۔ یہاں تو فقط ایک افسر کی خوشنودی کی ضرورت اور وہاں دکان داری۔ یہ بین تفاوت رہ از کجاست تاکجا۔ سب کچھ جائز اور ناجائز کاروائی کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ دکان چلتی ہے۔

حکیم صاحب..... اجی اس میں آزادی اور عزت ہے اور آمدنی معقول جو سب کی جڑ ہے۔ اے رز تو خدا نئے ولیکن بخدا ستار عیوب قاضی الما جاتی

رائے صاحب..... ہاں یہ تو درست ہے۔ اگر امتحان پاس ہو جائے اور دکان چل جائے۔ آپ کو یاد ہوگا۔ کہ ہم جب مکتب پڑھا کرتے تھے اور آپ ایک گھڑیا (سیو چنگلی) کو پانی میں بھر کر دو لٹروں کے ہاتھوں کی انگلیوں کے سہارے ایک طرف ایک لڑکے کو اور دوسری طرف ایک لڑکے کو پکڑاتے تھے اور کیمیا کے نسخے کی ادویہ علیحدہ علیحدہ کاغذ پر لکھ کر گولیاں بناتے تھے اور ایک ایک گولی اس گھڑیا میں ڈالتے جاتے اور کوئی ام پڑھتے جاتے تھے۔ جس گولی کی نوبت گھڑیا چکر میں (گھوم) آ جاتی تھی۔ اس کو علیحدہ رکھتے تھے اور پھر اس نسخے کا تجربہ کرتے تھے۔ اگر ان نسخوں میں ہی کوئی نسخہ آپ کے علم اور عمل کے رو سے کامل نکل آتا اور کیمیا بن جاتی۔ تو کیا وہ اس نوکری اور وکالت سے اچھا اور اولی نہیں ہے۔ پھر آپ کو کسی اور کام سے ضرورت پڑتی۔

اس بیان میں لالہ بہیم سین صاحب وکیل کی تصدیق اشاعت السنہ سے ہوتی ہے۔ نمبر ۱۵ صفحہ ۳۰ سوال بست وکیم بیٹالہ کو مولوی گل علیشاہ اور ان کے بعض متعلقین علم جعفر میں دخل رکھتے تھے اور آپ کو ان سے صحبت و استفادہ کا تعلق تھا یا نہیں۔ صاحب اشاعت السنہ اور لالہ بہیم سین صاحب اور ہمارے ناول کے ہیرو بیٹالہ میں مولوی گل علیشاہ کے پاس پڑھتے تھے۔

حکیم صاحب..... اگر وہ نسخہ ہماری ترکیب یا عمل اور کوشش سے بن جاتا یا کوئی نسخہ کیمیا کا کامل مل جاتا تو ہم کو نوکری وکالت یا کسی اور کام کی کیا ضرورت تھی۔ مگر وہ ہماری ترکیب سے بننا ہی نہیں اور نہ اور کوئی کامل اور مجرب نسخہ ملا۔

رائے صاحب..... پھر آپ مکتب کے زمانہ میں ہی تحفۃ الہند۔ تحفۃ الہنود۔ و خلعت الہنود وغیرہ کتابیں اور سنی شیعہ اور عیسائی۔ اور مسلمانوں کی مناظرہ کی کتابیں دیکھا کرتے تھے۔ اور ہمیشہ آپ کا ارادہ تھا کہ کل مذاہب مخالف اسلام کی ترویج میں کتابیں لکھ کر شائع کرائیں۔ تو عمدہ معاش اور شہرت ہو جائے گی۔ اور خوب گزرے گی۔ کیونکہ مناظرہ کی کتابیں خوب فروخت ہوتی ہیں۔

اگر یہ بات بھی آپ کے ارادہ کے مطابق پوری ہو جاتی اور یہ کارخانہ جاری ہو جاتا تو کیا پھر بھی آپ کو نوکری کی ضرورت ہوتی؟

حکیم صاحب..... ہاں پھر بھی ہمیں نوکری کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ مذہبی کتابیں مخصوص مناظرہ کی خوب فروخت ہوتی ہیں۔ اور خاطر خواہ قیمت وصول ہوتی ہے۔ اگر یہ تدبیر درست آجاتی تو بھی نوکری یا وکالت کی ضرورت کیا تھی۔ چین سے گزرتی۔ دیکھو سرسید بالقابہ اور سمبھیا لعل، الکھ دہاری، پنڈت دیانند سرتی نے تصانیف کے ذریعہ سے کیا عروج حاصل کیا اور کس مرتبہ کو پہنچے۔ یہاں تک کہ رفتار مرقوم جس کو نبی اور مرسل بھی کہہ سکتے ہیں۔ بن گئے یہ خیال تو اب بھی اگر کرسی نشین ہو گیا۔ تو دیکھو گے کیا ہوتا ہے۔ یار زندہ اور صحبت باقی۔ ان میں اول روپیہ کی ضرورت ہے۔ کہ زرزور کھد در جہان گنج گنج۔ مشہور مقولہ ہے۔

رائے صاحب..... فالحمد للہ یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ کہ انسان کا کوئی ارادہ اس کی مرضی کے موافق نہیں ہوتا جب تک کہ مشیت ایزدی اور تائید ربی نہ ہو۔ اور اس کا وقت نہ آئے۔  
حکیم صاحب..... یہ تقریر جو آپ نے فرمائی تسلیم کرتا ہوں۔ اور آپ کی ہمدردی کا مشکور ہوں مگر میرا ارادہ مصمم ہو گیا ہے کہ وکالت کا امتحان دوں۔ اگر اس میں کامیابی ہوئی۔ تو فہو اعداد اور نہ اور تدبیر کریں گے۔ نوکری کو تو اب استعفا دیتا ہوں۔

رائے صاحب..... پھر وہی بھائی صاحب زمانہ کی رفتار اختیار کرنی چاہیے۔ زمانہ تو نسا زد تو بازمانہ بساز۔ قانون میرے ساتھ یاد کرو۔ جب امتحان پاس ہو جائے استعفا دینا اختیاری امر ہے دے دینا پھر نوکری کی ضرورت ہی کیا ہے۔

حکیم صاحب..... امتحان میں کتابیں کیا کیا ہیں۔

رائے صاحب..... میں صبح کو فہرست لکھ کر دیدوں گا۔ جو جو کتاب آپ مصلحت سمجھیں۔ مطبع سے منگوا لینا۔ باقی میرے پاس بھی کتابیں موجود ہیں۔ کل سے ہم باہم مل کر قانون یاد کیا کریں گے۔  
حکیم..... یہ تو سب کچھ ہو گیا۔ مگر اس روز کی تو تو میں میں کا کیا علاج ہے۔

رائے صاحب..... میں نے اس کی تدبیر بھی سوچ لی ہے۔ اس کا بندوبست بھی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ آپ یہاں صرف پندرہ روپے پاتے ہیں۔ اس تدبیر میں آپ کی پندرہ کی ترقی بھی ہو جائے گی اور ان کی (سرشتہ داروں کی) ماتحتی سے نکل جاؤ گے۔ یوں تو ایک طرح سے تمام ملازم ضلع پرنٹنگ ضلع کے تحت حکومت ہیں۔ مگر کام کا تعلق ان سے بھی براہ راست نہ رہے گا۔ اور وہ یہ کہ آج مجھ کو صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے بلایا تھا یہ گھنگو ہوئی۔



صاحب..... تمہاری رخصت کے انتظام میں جو لوگ قائم مقام ہیں۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ ہم کو مستقل کیا جائے یا ہماری اصلی جگہ پر واپس کیا جائے اب تم یا تو استعفیٰ دے دو یا اپنی جگہ پر واپس آؤ۔  
 میں..... اپنی جگہ پر واپس آ جاؤں گا۔ استعفیٰ دینا نہیں چاہتا۔  
 صاحب..... اب تم کو کیا آمدنی ہوتی ہے اور تمہاری اصلی عہدہ کی کیا تنخواہ تھی۔  
 میں..... اب مجھ کو سو روپیہ ماہواری اوسط پڑتی ہے۔ اور عہدہ کی تنخواہ بند ہے۔  
 صاحب..... تو اس صورت میں تمہارا بڑا نقصان ہے۔ پھر استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے واپس آنے میں تمہارا کیا فائدہ ہے۔

میں..... وکالت میں امتحان کی شرط ہے۔ اگر میں امتحان میں (جو اختیار امر نہیں) ناکام رہا تو اپنے عہدہ پر واپس آ سکتا ہوں۔ بصورت استعفیٰ دینے کے، نہ ادھر کار ہوں گا نہ ادھر کا۔  
 صاحب..... (کچھ سوچ کر تامل کے بعد) اچھا کوئی تدبیر سوچو جس میں تمہارا نقصان نہ ہو، ہم کو کل جواب دو اس میں میں نے ایک تدبیر سوچی ہے۔ میری رخصت کے انتظام کے اخیر سلسلہ میں علی حسنؒ ہے اگر میں اپنے عہدہ پر واپس گیا تو علی حسنؒ برخواست ہو جائے گا۔  
 حکیم صاحب..... بھلا پھر اس میں میری ترقی اور پریزنٹ اور ڈپٹی پریزنٹ کی ماتحتی سے کیونکر نجات ہوگی۔

رائے صاحب..... میں کل میر عصمت اللہ سے صبح ہی ملوں گا۔ اور کہوں گا۔ اگر میں اپنی جگہ واپس آ گیا اور ضرور آؤں گا۔ تو آپ کا بھی نقصان ہے۔ کہ آپ کا رشتہ دار برخواست ہو جائے گا۔ اور میرا بھی نقصان ہے۔ یہاں (مجھے وکالت میں) ایک معقول آمد ہو جاتی ہے۔ اور وہاں پر جانا پڑے گا۔ تو وہ مجھ سے اس کی انسداد کی تدبیر پوچھیں گے۔ تو آپ کا نام لے کر یہ تدبیر بتاؤں گا۔ کہ ان کو (یعنی آپ کو) میری جگہ مقرر کر دیا جاوے۔ اور علی حسنؒ کو آپ کی جگہ مقرر کر دیں۔ اور جو لوگ اب قائم مقام ہیں۔ ان کو اپنے اصلی عہدہ پر واپس بھیج دیا جائے۔ اس تجویز کو وہ خواہ مخواہ منظور کریں گے۔ تو یہ تجویز صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر سے عرض کروں گا۔ اور داروغہ صاحب (یعنی میر عصمت اللہ صاحب) اس کی تائید کریں گے۔ تو غالباً کیا، قطعی امید ہے۔ کہ اس تجویز کو منظور کر لیں۔ اور ضرور ہی منظور کریں گے۔ کیونکہ اول تو ان کو میرا نقصان بھی منظور نہیں ہے۔ دوسرے وہ داروغہ صاحب کی بہت خاطر کرتے ہیں اور غیر کے واسطے جس کاری سفارش کرتے ہیں۔ تو انکار نہیں ہوتا اور یہ تو ان کا ذاتی کام ہے۔

حکیم صاحب..... تجویز تو عہدہ ہے خوب سوچی ہے: ”چہ خوش بود گر بر آید بیک کر شمد و کا“ اگر درست

آجائے۔ خدانے چاہا تو ضروری ہی درست آئے گی۔ مگر کام کا انتظام کیا ہوگا۔ حساب کا کام ہے۔  
 رائے صاحب..... شام آپ سب کا غذات یہاں لے آیا کرنا۔ میں پندرہ منٹ میں کر دیا کروں  
 گا۔ جلسہ برخواست ہوا۔ لالہ بہیم سین صاحب اور بالا خانہ چلے گئے۔ اور میر صاحب اپنے گھر کو۔  
 حاشیہ جات

۱۔ یہ عرب سیالکوٹ میں مسافرانہ وارد ہوئے تھے۔ لوگوں کی ان کے پاس جو آمد رفت  
 زیادہ ہوئی تو پولیس نے ان کو ایگیشن ایکٹ کے بموجب صاحب مجسٹریٹ بہادر ضلع کے روبرو  
 پیش کیا۔ چونکہ یہ ہندی نہیں بول سکتے تھے۔ صاحب ڈپٹی کمشنر نے ان سے گفتگو کے واسطے تمام  
 عملہ ضلع میں تلاش کیا۔ کہ ترجمان ملے جو اس کے واسطے سے گفتگو کی جائے ہمارے ناول کے ہیرو  
 کے سوا عربی اور ان اہلکار ضلع کے عملہ میں نہ ملا ان کو پیش کیا گیا۔ اور ان کے واسطے سے گفتگو ہوئی۔  
 اسی روز ہی صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کے دل میں ہمارے جوان ناول کی ہیرو کی لیاقت کی جگہ ہو  
 گئی۔ اور جب ہی عرب ان کے پاس رہتے تھے۔ سنا ہے اس عرب کو علم فقہ میں اچھا ملکہ تھا۔

۲۔ اشاعت السنۃ جلد ۱۵، صفحہ ۲۹ سوال بست سیالکوٹ کے ملک شاہ علوم نجوم یارٹل،  
 میں کچھ دخل رکھتے تھے۔ اور آپ کو ان سے محبت و ملاقات اور استفادہ کا کوئی تعلق رہا ہے یا نہیں۔

۳۔ ہمارے ناول کے ہیرو ضلع میں اہمد متفرقات تھے اور لالہ بہیم سین لوکل بورڈ میں  
 اہمد تھے۔ جن کی ۳۰ روپے تنخواہ تھی۔ صاحب ڈپٹی کمشنر کو ان کی خاص رعایت منظور تھی۔ کہ یہ ایک  
 اسٹنٹ کمشنر کے رشتہ دار ہیں جو صاحب ممدوح کے ملاقاتی ہیں۔ اور انہوں نے صیغہ مال اور  
 فوجداری میں ایک سرسری امتحان پاس کیا ہوا ہے۔ جس وقت پنجاب میں چیف کورٹ کا انتظام ہوا تو  
 صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے ایک تحریر خاص کے ذریعہ سے ان کو وکالت کی اجازت منگادی تھی۔  
 تاکہ پاس کرنے امتحان وکالت کے اور شرط تھی کہ اگر امتحان میں ناکام رہیں تو اپنے اصلی عہدہ پر  
 واپس آجائیں اس واسطے ان کو رخصت پر دکھلایا جاتا اور ان کی جگہ پر جو کام کرتے تھے۔ وہ قائم مقام  
 دکھائے جاتے تھے۔ اور یہ وکالت کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ناول کے ہیرو اور یہ مولوی گل علی شاہ  
 صاحب کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے لالہ بہیم سین کے مکان پر رہتے تھے۔

۴۔ علی حسن ایک امیدوار ہے۔ جو سید عصمت اللہ صاحب داروغہ جیل کا داماد ہے اور  
 داروغہ صاحب موصوف کا صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کی مزاج میں بڑا دخل ہے صاحب ممدوح کو  
 موصوف الیہ کی از حد خاطر منظور ہے۔

## باب دوم

## پیری، مریدی

رات کا وقت ہے جاڑے کی موسم آسمان پر ابر چھایا ہوا ہے۔ ہوا اس سناٹے سے چل رہی ہے۔ کہ کچھ سنا کی نہیں دیتا۔ مینہ کی نوار برس رہی ہے۔ جاڑے کی شدت سے لوگ باگ شام سے کواڑ بند کر کے اپنے اپنے گھروں میں منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ امراء نے انگیٹھی روشن کر رکھی ہیں۔ کمرہ گرم ہیں لہجہ کی روشنی میں کپ اڑ رہی ہیں۔ غریب اپنی گدڑی میں منہ سر لپیٹے جان کی خیر منار ہے ہیں آدمی تو کیا کسی جانور کا پتہ گلی کوچہ میں نہیں ملتا۔ ایک فقیر پھٹی کھلی اوڑھے گلیوں میں صدالگا تا پھرتا ہے۔ کوئی ہے جو خدا کی راہ پر بھوکے کودے۔ ہوا کے سناٹے میں کون سنتا ہے۔ اور اگر کوئی سنے بھی تو اٹھے کون۔ کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں دیتا۔ نہ کہیں اس بارش میں بیٹھے کو پناہ ملتی ہے۔ ایک شخص نے اپنے مکان کا دروازہ کھولا۔

شخص ..... ارے بھائی تو کون ہے۔ یہ اندھیری رات جاڑے کی شدت ہوا کا زور بارش کا شور ہے۔ آدمی گھر سے باہر قدم نہیں رکھتا۔ اور تو بھیک مانگتا پھرتا ہے۔

فقیر ..... جس کا گھر ہو۔ وہ منہ چھپا کر بیٹھا ہے۔ صبح سے بھوکا ہوں۔ کچھ کھایا نہیں، کوئی اللہ کا بندہ ایک ٹکڑا نہیں دیتا۔ روٹی ایک طرف کہیں اتنی جگہ ہی مل جاتی کہ اس بارش میں سر چھپا کر بھوکا رات کاٹ دوں۔

شخص ..... آ جا یہاں پڑہ میں روٹی لاتا ہوں۔ ڈیوڑھی کی ایک گوشہ کی طرف اشارہ کیا۔  
فقیر ..... بابا، خدا تیرا بھلا کرے اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں رحم دیا ہے۔ اس نامراد گمری میں کسی نے جواب تک بھی تو نہیں دیا۔ ایسے بے رحم ناخدا ترس انسان کسی گاؤں یا بستی میں نظر نہیں آئے خدا تو کسی کو یاد ہی نہیں۔

شخص ..... اندر گھر میں گیا اور دو روٹی اور ترکاری کا ایک پیالہ لایا۔ فقیر کو دے کر۔ لے سائیں۔  
فقیر ..... روٹی کھا کر پانی پیا۔ مالک مکان کو دعائے خیر دے کر۔ بابا تم حقہ بھی پیتے ہو۔  
شخص ..... سائیں حقہ تو ہمارے یہاں ہو، مگر ہم تجھ کو نہیں جانتے۔ تو کون ہے اس واسطے اپنا حقہ تو نہیں دیتے۔

فقیر ..... بابا چلم ہی سہی ہوں تو میں مسلمان اللہ کا بندہ اور رسول کی امت۔ پر مسافرت میں کسی کی پریت نہیں۔ خدا تجھ کو جزائے خیر دے گا۔ اور اس کے عوض تیرا گھر روپیوں سے بھر دے گا۔

فخص ..... چلم دے کر۔ سائیں تمہارا گھر کہاں ہے اور کون فقیر ہو۔

فقیر بابا..... فقیروں کی کیا موت، کیا زندگی جس جگہ مل رہی پڑ گئے۔ ہمارا گھر یا کہاں؟ جہاں رات کو سر چھپانے کو جگہ مل گئی۔ سیرا کر لیا۔ مرشد بھی تمام عمر سیلائی رہے۔ کسی جگہ قیام نہیں کیا۔ ہم کو ہی حکم ملا ہے۔ پھرتے رہا کرو۔ قلندری فقیر ہیں۔

فخص ..... سائیں پھرنے سے حاصل کسی جگہ جم کر بیٹھو۔ تو یار لوگوں کا بھی لٹکا دیکھو مرشد سے جو پایا اس کا مزہ تو پایا تمہاری تقریر سے پایا جاتا ہے کہ آپ کو مرشد کے بھی مرشد نے بھوکا ہی رکھا ہے۔ اب ہمارے چیلے بنو۔ تو تم کو لٹکا دکھائیں۔ یار جی بچتے لگو۔ ڈونے چڑھیں تھالیاں آئیں مشائیاں اڑائیں۔ پری رخسار ماہوش کا تمکھھا لگا رہے۔ ہر دم کھیموں میں ہیں بنے بیٹھے رہو۔ اندر کا اکھاڑ نظروں سے گر جائے۔ مگر یار جی تمہارے تو بال نہیں۔ بچہ نہیں۔ اچھا کھانا کھاؤ۔ خدمت کے واسطے دو چار چیلے موٹے مزے اڑاؤ۔ چڑھاؤ ہمارا لنگر اور چیلوں کا خرچ ہم سے لو۔ اور مہنت بنے بیٹھے رہو۔ بچو ادینا ہمارا ذمہ۔

فقیر..... (خوشی کے لہجہ میں) باوا اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں۔ رات دن مارے مارے پھرتے ہیں۔ پیٹ بھرائی کھڑا نہیں ملتا۔ اچھا کھانے کو آرام کے ساتھ مل جائے۔ اس کے سوا اور کیا چاہے۔ چڑھاؤ سے ہمیں کیا سروکار فخص دیکھو لالچ برا ہوتا ہے۔ ”طبع راسہ حرف، ست ہر سہ نبی“ کبھی اکھڑ جاؤ۔

فقیر..... قول مردان جان دارو: زبان سے جو کہا جان کے ساتھ ہے سر جائے مگر بات نہ جائے۔ فخص..... دیکھو تم جانو اگر اقرار پر پورے رہے تو پانچوں گھی میں ہیں۔ سر کڑھائے میں اور اگر خلاف کیا خطا پاؤ گے۔

باتوں میں رات بہت گزر گئی مالک مکان اندر جا کر سو رہا فقیر ڈیوڑھی میں پرغین ہو گیا۔ جب صبح ہوئی۔ اور سورج نکلا۔ کسی نے دروازہ کھٹکایا۔

آواز..... چودھری! چودھری! لالو۔ دروازہ کھلا۔

چودھری..... (چودھری لالو مالک مکان کا نام ہے اور یہ فخص سبزی فروشان کا چودھری ہے۔ اس نے جیل خانہ پر ترکاری کا شہیکہ لیا ہوا ہے۔) اوہو آج تو بڑا دن چڑھ گیا مزاری (آواز دینے والے کا نام) جیل خانہ پر ترکاری پہنچا دی یا نہیں۔

مزاری..... آج تو تم رات کو گھوڑے بیچ سوئے۔ ترکاری تو مزدوروں کے سر پر رکھ کر بھیج دی ہے۔ تم کو خیر کرنے آیا تھا۔

چودھری..... آج ہم تو نہیں جاتے میرا نانا کو آواز دی وہ چلا جائے گا۔ میرا نانا (چودھری کا بیٹا) کو آواز دے کر بھائی تو جیل خانہ جا اور ترکاری دے آ۔

میرا نانا..... آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا اچھا کہہ کر پھر اندر گیا منہ ہاتھ دھو کپڑے پہن جیل خانہ کو چلا گیا۔ چودھری للو نے بھی منہ ہاتھ دھویا حقہ پیا۔ فقیر کو کچھ کھانے کو دیا اور ساتھ لے کر شہر سے آبادی سے ایک طرف نکل گیا۔ اور ایک مناسب جگہ تجویز کر کے کہا تو یہاں بیٹھ جا کوئی آئے۔ کچھ کہے جواب نہ دینا۔ خاموش رہنا کھانا وہ تو وقت پر پہنچ جایا کرے گا۔ کسی سے بھی کچھ غرض نہ رکھیو۔ فقیر کو وہاں بٹھایا اور آپ شہر میں واپس آیا۔ ایک رنگرین کی دوکان آ کر یار بنا (رنگرین کا نام) کیا کر رہے ہو۔

بنا..... آؤ چودھری جی اب تو مدت میں نظر آئے۔ جیل خانہ کا ٹھیکہ کیا لیا۔ قیدی ہی بن گئے۔ نہ کبھی ملتے ہو۔ نہ چلتے ہو۔ رات آدمی اور مینہ نے ہوش اڑا دیے کہو کیا حال ہے۔ ٹھیکہ میں کچھ فائدہ ہے یا نقصان۔

چودھری..... بھائی جی ٹھیکہ کے نفع و نقصان کا حال تو سال ختم ہونے پر معلوم ہوگا۔ اگر نقصان ہو تو ٹیرا لٹ جائے گا۔ ہم تین چار آدمی گھر کے ہیں۔ اور دونو کر ہیں۔ اور اگر فائدہ ہوا تو بس یہی سال بھر پیٹ بھر کے روٹی کھالی۔ نہ کسی سے ملنے کے نہ کہیں آنے جائیں گے۔

بنا..... روٹی دوکان میں کھاتے ہی تھے اب کیا ہو گیا مفت کی مصیبت خرید لی راہ جاتے بلا گلے ڈال دی۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے۔ تھوڑا کھانا سکھ کی نیند ہونا نہ کسی کی ٹیس ٹیس نہ میں میں۔

چودھری..... یار ایک بات کہیں اگر تمہاری صلاح ہے۔ شریک ہو جاؤ تو پھر چین ہی چین ہے۔

بنا..... بتانا یا روہ کیا بات ہے جس میں دو پیسہ جیب میں پڑیں وہ بات ہو۔ مفت کا جھگڑا تو ہم پسند نہیں کرتے۔ نہ جھگڑے کا کام اگر مارے دن مر کر شام کو دو چار آنہ بچے۔ تو اس سے تو یہ ہی مزدوری اچھی ہے۔ نہ کسی کا سلام نہ بچر دو چار روپہ سے دن میں رنگ دے۔ تو کنبہ کی روٹی نکل آتی ہے۔ شام کو تقاضا کے لیے رٹلیوں میں جا کر آنکھ سینک، ایک دو چلم تمباکو پی، گپ شب اڑا، رات کو اپنے گھر آ پڑتے ہیں۔

چودھری..... ایک فقیر اور کامل فقیر خدا کی قسم کوئی ولی اللہ اور خدا رسیدہ انسان ہے اور راجہ کے قلعہ کے ٹیلہ پر بیٹھا ہے۔ بڑا صاحب کرامات ہے۔ اور اکیلا بھی ہے۔ کوئی چیلچو پڑا ساتھ نہیں آؤ ہم تم مل کر اس کو اڑائیں۔ وہ مست ہے چڑیا اور یاروں کے کام آئے گا۔ نصفاضلی تھوڑی سی کوشش میں چاندی ہے۔

ہنا..... ایسی بات تو خدا دے۔ چٹری اور دودو یہ تو یاروں کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔ آج ہی دو چار رٹھیوں کو جو نہ ابھارا ہو۔ اور شام سے پہلے طبلہ کھڑکتا ہوا دیکھ لو میں جو بات کہوں تم اس کی تصدیق کر دیتا۔

چودھری..... یہی میرا مطلب تھا۔ مگر یار تم سائیاں ہو۔ اسی واسطے تو میں صبح ہی تمہارے پاس آیا۔ شام کو بنا رگنریز اور لالو کو بجزوہ تمام رٹھیوں میں پھر گئے۔ اور ایک نئی داستان تراش نمک مریج لگایا۔ اور سائیں صاحب کے دربار میں بھرا ہونے لگا۔ آج منگتی اور کل عمان، پرسوں۔ سلطانو۔ چونہ رمضانوں روز ہجر کا نمبر لگ گیا۔ ۴ بجے شام سے آٹھ بجے رات تک اچھا میلہ ہو جاتا۔ شہر کے سرکاری خوش طبع انسان شام کو کپڑا بدل وہاں موجود ہو جاتے دو چار خواجہ والے بھی آ جاتے اب شہر میں مہاجینوں کو بھی اس کی خبر پہنچی۔ پھر کیا تھا۔ تھالی پر تھالی آنے لگی۔ چڑھاوا چڑھنے لگا۔ چودھری لالو اور بھائی بنا پانچ چھ روپیہ کے روز مکہ ٹول لے جانے لگے۔ سائیں صاحب کے کھانے کا انتظام ان کے ذمے تھا۔ مگر آخر پھوٹ پڑتے ہی پڑی۔

فقیر..... کیوں جی یہ بات تو اچھی نہیں۔ جو کچھ آئے وہ سب آپ ہی لے جائیں اور ہم فقط روٹی بارائیں۔

چودھری..... دیکھو سائیں ہمارا تمہارا کیا معاہدہ ہوا تھا۔ اب اگر یہ رنگ لاؤ گے تو آپ کی دکان پھسکی پڑ جائے گی۔ تم کو روٹی کے سوا اور کیا ضرورت ہی کیا ہے؟ مزہ سے پریوں کے درشن کرو ہمارے سر کی خیر مناد۔ درنہ تم تو وہی ہو جو گلیوں میں کلڑے مانگتے پھرتے تھے۔ اور کلڑا نہیں ملتا تھا۔ فقیر..... بگڑ کر اب کو بجز تیری عقل ماری گئی ہے۔ یہ ہماری کرامات ہے۔ اور مرشد کی مہربانی اور توجہ سے رجوعات اور فتوحات ہے۔

آخر لالو اور بتا کی آمد رفت بند ہوئی اور لوگوں کی آمد رفت میں فرق آنے لگا۔ پیران نے پرند۔ مریدان سے پرانند۔ پھر سائیں صاحب وہی ڈھاک کے تین پات رہ گئے۔ اور گلیوں میں چکر کھانے لگے۔

### باب ۳ سوم

#### لالہ بھیم سین کے ساتھ مختاری کا امتحان

سیالکوٹ سے جو امرتسر کو سرک جاتی ہے۔ اس پر تین چار یکہ جا رہے ہیں۔ کچی سڑک ریت میں تین یکہ پھنسے ہوئے ہیں۔ گھوڑے ہیں کہ کیوں کو کھینچ رہے ہیں۔ پینے ریت میں دھسنے

جاتے ہیں۔ گھوڑے ہانپ رہے ہیں۔ اور پسینے کی جگہوں میں سفید ہو رہے ہیں۔ یکے والا بھی یکے کو دھکیلتا ہے۔ کبھی گھوڑے کو شراب شراب مارتا ہے۔ تلخ مگر گھوڑا گھٹنے ریت میں ٹیکے ہوئے غوں غوں کر رہا ہے۔ سر کا چینٹا۔ ساون بھادوں کی دھوپ کہ ہرن کالا ہو۔ سواریاں نیکوں سے اتر پڑی ہیں۔ اور پایادہ چلی جاتی ہیں جو تہہ میں ریت بھر جاتا ہے۔ ایک قدم اٹھاتے ہیں۔ ریت پیچھے کو کھینچ کر لے جاتی ہے جو تا کو جماڑ پھر آگے قدم رکھتے ہیں۔ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ دھوپ کا نٹی ہے۔ کپڑے پسینے میں نچڑ رہے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی ابر کا ٹکڑا سر پہ سایہ انگن ہو جاتا ہے۔ تو جان آ جاتی ہے۔ ہوا کا جھونکا آیا اور نسیم سحری کا لطف دکھا گیا۔ کبھی پھر دھوپ نکل آئی اور بدن کو جھلس دیا با۔ ہمہ مرگ انبوہ خمشی دارد کے مصداق دہنیا دہ پائی۔ اور باد یہ پیائی نا گوار معلوم نہیں ہوتی۔ خوش خوش ہنستے کودتے مذاق اڑاتے راستہ طے ہو رہا ہو۔

۱..... مشفق اگر امتحان پاس ہو گیا تو پو بارہ ہیں یہ محنت مبدل براحت ہو جائے گی۔

۲..... لالہ بہیم سین کو امتحان میں بڑی سہولت ہوگی اول تو فوجداری اور مال میں ایک مرتبہ پاس کر چکے ہیں۔ دوسرے ایک سال سے دکالت کرتے ہیں۔ قانون آ گیا ہے۔ تیسرے سوائے قانون یاد کرنے اور قانون کا استعمال کرنے کے اور کچھ کام نہیں، مشکل تو ہم لوگوں کو ہے۔ کہ نوکری کے فرائض منصبی انجام دیتے رہے۔ اور قانون بھی یاد کرتے رہے۔

۳..... اس میں تو شک نہیں آخرش ہم نے بھی تو محنت کی ہے۔ نا امید کیوں ہوں۔ حزن فال بد کا رو در حال بد:

۴..... بھائی مشکل تو ہماری ہے ہم کو اول تو سرکاری کام آپ جانتے ہیں۔ تحصیلوں کا کام اس پر تحصیل دار صاحب کی درباری سے اٹھے تو نائب تحصیلدار صاحب کے مکان پر جاؤ پھر قانون کا چرچا نہ گفتگو نہ بحث نہ تقریر آپ لوگوں کو صدر مقام میں بہت سہولیات قانون یاد کرنے کی یہ میسر ہو سکتی ہے جو کتاب اپنے پاس نہ ہو دوسرے سے لی۔ جو بات اپنی سمجھ میں نہ آئی دوسرے سے پوچھ لی۔

۵..... ہمارا حال بھی بشرح صدر ہے۔ بھائی صاحب صدر میں بحث اور تقریر کا بڑا فائدہ ہے۔ اگر کوئی بات اپنی سمجھ میں غلط آئی تو فوراً صحیح ہو جائے۔ مفصلات میں تو فرصت سرکاری کار سے ہی نہیں ملتی۔ صبح سے آٹھ بجے رات تک کچھری ہوتی ہے۔ پھر دربار واداری قانون یاد کرنے کو ہم لوگوں کو کونسا وقت ہے۔

لالہ بہیم سین صاحب..... یارو یہ باتیں ہی باتیں ہیں۔ امتحان کا نام برا ہوتا ہے جن کو اپنی یاد اور لیاقت پر بھروسہ ہے۔ وہ رہ جاتے ہیں۔ اور ناواقف اور اور نالائق نکل جاتے ہیں۔ (پاس ہو

جاتے ہیں) ہمارے دوست حکیم جنہوں نے قانون یاد کرنے کے سوا عمل بھی کئے ہیں۔ اور چلے بھی کھینچے ہیں۔ خدا نے چاہا تو وہ بھی پاس ہوں گے کیوں پنڈت صاحب۔  
پنڈت نند لال صاحب..... کیا حکیم صاحب نے چلے بھی کھینچے ہیں۔  
لالہ بھیم سین صاحب..... یہ تو ان کی لڑکپن سے عادت ہے جب کوئی بات ہوئی اور جھٹ و طیفہ شروع کر دیا۔

پنڈت موہن لعل صاحب تو یار ہمارے واسطے بھی دعا کرنا ہم نے تو قسم علم کی جو کچھ بھی یاد کیا ہو اور یاد کرتے بھی کس وقت ہم کو فرصت ہی کہاں تھی۔ مگر حکیم صاحب نے چھ ماہ کی رخصت لے کر ان میں قانون بھی یاد کیا اور تبلیغ بھی پھیری بھائی انہوں نے تو دعا اور درود انوں سے کام لیا ہے۔  
لالہ رام کشن..... حضرت ہمیں یاد رکھنا بھول نہ جانا۔

خواجہ عبدالصمد..... نہ ہاتھوں میں طاقت نہ پاؤں میں جنبش جو لیس کھینچ دامن ہم اس دربار کا۔ سر راہ بیٹھے اور یہ صدا ہے کہ اللہ ہی والی ہے بے دست و پا کا۔

لالہ گوگل چند..... یار وہم تو خدا سے امید نہیں توڑتے خدا نے چاہا تو ضرور پاس کریں گے۔  
ہنستی مذاق میں کچی سڑک کا راستہ طے ہوا۔ یکے والوں نے گھوڑوں کو ملا اور مالش کر کے نہلایا بھی پانی پلایا وانہ کھلایا۔ گھاس ڈال دی ہمارے رنگیلے اور بے فکرے مسافر بھی ایک درخت کے نیچے دری بچھا آرام لینے لگے۔ جب دن ڈھلا سورج نیچے کو ہوا۔ کچھ کچھ ٹھنڈک ہوئی۔ یکے جوڑے گئے۔ مسافر سوار ہوئے۔ دو گھنٹہ میں امرتسر داخل رات سرائے میں کاٹی۔ صبح کو ضلع کی کچھری کے احاطہ میں حاضر ہوئے ایک کمرہ میں مسٹر دان صاحب اسٹنٹ کمنشنر مہتمم امتحان زیب وہ کرسی اجلاس ہوئے اور کمرہ کے اندر اور باہر براۓ میں امیدوار بیٹھ گئے۔ ضلع گورو اسپور اور امرتسر اور سیالکوٹ کے امیدوار حاضر تھے۔ سوالات کئے گئے۔ جواب لکھا گیا۔ لفافہ بند کیا اور سہ ماہر اور سیدھے لاہور کو بھیج دئے اسی طرح دوسرے تیسرے دن امتحان ہوا اور کاغذات لاہور بھیجے گئے۔

## باب ۴ چہارم امتحان میں ناکامی

دو پہر کا وقت ہے گرمی کا موسم کچھری کے اہلکار دھوپ میں چلتے چھتری کا سایہ سر پر کئے درختوں کے نیچے پناہ پکڑتے۔ رومال سے منہ کا پینہ پونچتے ہوئے آرہے ہیں۔ اور شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایک مکان کے دروازہ پر تین ٹھنڈے کھڑے ہوئے چھتریوں کو بند کر کے اندر



داخل ہوئے اور صحن مکان پر پہنچ کر آف آج گرمی کا بھی شباب ہی پھونک دیا دیکھئے لو کیسی گرم ہے۔ ان دنوں میں تو تعطیل ہو جایا کرتی۔

۱..... اس (شمال رویہ مکان کی طرف اشارہ کر کے) میں چھڑکا ذکر ایسے اور چار پائیاں بچھوائی جائیں میں بھی کپڑے اتار کر اور اشنان (غسل) کر کے کھانا کھا کر آتا ہوں۔

۲..... لالہ روپ چند یہ اہتمام آپ کے ذمے رہا میں بھی ذرا کپڑے اتار کر بدن پر پانی ڈال لوں۔ اور ایک دالان میں داخل۔ لالہ روپ چند نے جہتور کو آواز دی۔

جھسور..... بنارنی پانی لایا اور چھڑکاؤ کر کے اور حکم

لالہ روپ چند..... تین چار پائی بچھا کر رائے صاحب کا بستر کر دے۔

جھسور نے تعمیل حکم کی اور چلا گیا۔ لالہ روپ چند چار پائی پر بیٹھے۔ اور گرمی گرمی بولے

تھوڑی دیر بعد اوپر سے وہی صاحب واپس آئے۔ لالہ روپ چند اور روپ چند الہی خیر سانپ سوگھ گیا کیا لالہ روپ چندارے بھائی عجب آدمی ہو۔ اس آواز کو سن دوسرے صاحب بھی دالان سے

برآمد ہوئے حکیم صاحب دیکھنا یہ دوسرے لوگوں میں پہنچ گئی ان کے اٹھانے کی فکر کیجیے۔ کیا خوب آدمی تھا۔ خدا مغفرت کرے۔

حکیم صاحب..... آپ کو کچھ شوق بھی تو ہے شاید۔

لالہ بھیم سین صاحب..... وہی صاحب اول انہی نہیں ابھی تو ہمارے ساتھ کچھری سے چلے آتے ہیں۔ حکیم صاحب..... پھر اتنی دیر میں سو بھی گئے اور سوئے بھی ایسے کہ مردوں سے شرط باندھ کر۔

لالہ صاحب..... یہ تو ایسے ہی سونے والے ہیں۔ راستہ میں چلتے چلتے سو جاتے ہیں۔ یہ دونوں صاحب بیٹھ گئے اور گفتگو ہونے لگی۔

لالہ صاحب..... ابھی کچھ نتیجہ تو نکلا نہیں۔ معلوم نہیں کیا ہوا بڑی تنی فکر ہے۔

حکیم صاحب..... آپ کو کیا سب نے محنت کی ہے۔ محنت کے سوائے بندہ پروری کے نقصان مایہ و گرشات ہمسایہ پاس نہ ہونے میں مفت کی ندامت ہوتی ہے۔ اور ندامت بھی سخت منہ دکھانے کو

دل نہیں چاہتا۔

لالہ صاحب..... جناب نوکری میں اگر امتحان پاس نہ ہو اپنی نوکری پر قائم ہو۔ مشکل تو ہماری ہے۔ ہم سے صاحب ڈپٹی کیشنر نے استعفا بھی لے لیا۔ اگر امتحان میں ناکام رہے تو بڑا ہی غضب ہے۔

گئے دونوں جہاں کے کام سے ہم  
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم

نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

آپ جانتے ہیں ہمارا تو بھائی نوکری کے سوا اور کار نہیں۔ نہ جاگیر نہ کوئی اور وجہ معاش رکھتے ہیں۔ پھر خوش خرچ یہ بھی نہیں کہ جو آج کی آمدنی میں سے کوئی پیسہ بچا کر کل کی فکر رکھیں جو کھانا وہ کھا لیا حضرت متوکل جس کا نام ہے وہ ہماری قوم ہے۔

حکیم صاحب..... مسٹر وان صاحب بڑا ہی نیک نیت اور شریف مزاج حاکم ہے اس نے تو اس غرض سے کہ ان لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچے۔ چشم پوشی کی تھی۔ ایسے انسان دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں۔ خیر محض ہے۔ مگر ہماری قوم فائدہ اٹھانا ہی نہیں جانتی۔ جس کا انجام یہ ہوا۔ اس امتحان میں جس قدر سہولت تھی اگر ہم لوگ انسانیت سے اس کا فائدہ اٹھاتے تو کوئی کم بخت ہی محروم و ناکام رہتا۔ اب نتیجہ یہ ہوا۔ کہ حاکم کو بھی بدنام کیا۔ اور وہ دریائے بے تیزی طغیانی پر آیا کہ شور مچا دیا۔ نوبت بائیچار سید چیف کورٹ تک شکایت گئی۔ اور چنے کے پیچھے گہن بھی پس گئی۔ کئی بے قصور مارے گئے۔ اب کیا ہوگا۔ غالباً امتحان کینسل (منسوخ) ہو جائے گا۔ اور سب جوں کے توں کو رہے رہیں گے۔

لالہ صاحب..... ہونا تو ایسا ہی چاہیے۔ اور غالباً ایسا ہی ہو گا مگر ایک بات ہے۔ فٹنی جیشی رام صاحب اسٹراٹنٹ کمشنر بہادر ہماری ذات برادری ہیں اور وہ محضوں میں ایک ممبر ہیں۔ مسٹر گرلین صاحب وغیرہ دوسرے محضوں سے مشورہ کر کے یہ قرار دیا کہ بالکل امتحان کو کینسل (منسوخ) کرنا تو انصاف کا خون کرنا ہے۔ یہ تو مصلحت نہیں۔ ہر ایک ضلع کے ایک ایک دو دو امیدوار پاس ہونے چاہئیں۔ آخر ان میں وہ محض بھی تو ہیں جو لائق ہیں۔ اس وسطے مسٹر وان صاحب سے دریافت کیا گیا ہے کہ تمہاری زیر نظر کون کون محض ہے جن پر تم کو یقین ہے کہ انہوں نے سازش نہیں کی بجواب اس کے مسٹر وان صاحب نے اوس کمرہ کا نقشہ جس میں امتحان ہوا تھا۔ کچھوا کر ہر ایک محض کو جہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس جگہ دیکھا کہ جو محض کمرہ کے اندر بیٹھے تھے اُن کو لکھ دیا کہ یہ اشخاص میرے زیر نظر تھے مجھ کو یقین ہے کہ انہوں نے سازش نہیں کی۔

حکیم صاحب..... تو آپ خوب رہے۔ پہلے تو برآمدہ میں ہمارے پاس ہی بیٹھے تھے پھر اٹھ کر جنگلہ کے اندر صاحب کی کرسی کے پاس جا بیٹھے تھے۔ کیا آپ کو اس واقعہ کا الہام ہو گیا تھا۔

لالہ صاحب..... نہیں، الہام تو کیا ہونا تھا۔ جب مجھ کو آپ لوگوں نے زیادہ تنگ کیا کوئی کچھ دریافت کرتا اور کوئی کچھ تو میں اس خوف سے کہ کوئی حاکم دیکھ کر بے عزت نہ کرے وہاں سے اٹھ

کر صاحب کی کرسی کے پاس جا بیٹھا کہ یہاں تو کوئی نہیں ستائے گا کیونکہ پہلے ایسا تجربہ کئی مرتبہ ہوا ہے۔ میں اکثر مدارس کے امتحان میں طالب علمی کے زمانہ میں شامل ہوا ہوں اور قانونی امتحان میں بیٹھنے کا بھی مجھ کو اتفاق ہوا ہے۔

حکیم صاحب..... بھائی صاحب وقت کی بات ہے جو امر شدنی ہوتا ہے اس کے اسباب اسی طرح پیدا ہو جاتے ہیں۔

لالہ صاحب ہاں آپ سب صاحب تعطیل کے سبب اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ مجھ کو صاحب ڈپٹی کمشنر نے بلا کر فرمایا تھا کہ چیف کورٹ سے اس بارہ میں چھٹی آئی ہے۔ وہاں تم لوگوں نے کیا بے احتیاطی کی ہے۔

مین..... حضور میں تو خاص مسٹر وان صاحب کو کرسی کے پاس بیٹھا تھا۔ دوسرے حضور پر روشن ہے۔ کہ میں محتاج کس سے دریافت کرنے کا بھی نہیں تھا۔ البتہ مجھ سے لوگ دریافت کرتے تھے۔ صاحب..... بے شک یہ تو ہم خوب جانتے ہیں کہ تم ہمارے ضلع کے امیدواروں میں سے قانون میں عمدہ واقفیت اور لیاقت رکھتے ہو۔

مین..... حضور میں نے صیغہ مال اور فوجداری میں ایک مرتبہ امتحان پاس کیا ہوا ہے سال ڈیڑھ سال سے وکالت بھی کرتا ہوں۔

صاحب..... اور ہم کو خوب یاد دلایا ہم سے دریافت کیا گیا ہے۔ تمہارے ضلع میں کون لائق امیدوار ہے۔ جس کی نسبت تم یقین رکھتے ہو کہ وہ پاس ہونے کے قابل ہے۔ ہم نے تمہارا حاصل مفصل لکھ کر سفارش کر دی ہے۔

چنانچہ صاحب ممدوح نے بہ تفصیل لکھ کر میری سفارش بھی کی ہے۔

حکیم صاحب..... تو امید واثق ہے۔ کہ آپ تو ضروری کامیاب ہو جاؤ گے مثل مشہور ہے سو یا سو چو کا۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ ہم سب غیر حاضر تھے اور آپ نے تمہاری میں اپنا کام نکال لیا اگر اور کوئی ہوتا تو شاید اس کو بھی کچھ مل جاتا۔ آنچہ نصیب ست بہیم میر سدور نہ ستانی بہ تم میر سد

لالہ خوجہند (سوتے ہوئے برعایت) پاس ہو گیا۔

دونوں صاحب حیرانی دیکھ کر ہیں لالہ خوجہند لالہ خوب چند کون پاس ہو گیا ارے بھائی

خوب چند کون پاس ہو گیا۔

خوب چند..... پاس ہو گیا بس پاس ہو گیا۔

لالہ صاحبہ..... مالک مکان تو بس کر، فلاں مخلص ہے۔

خوب چند..... پاس ہو گیا سب حیران ہیں کہ اس کو آسیب ہے۔ یا سایہ ہو گیا۔ دماغ کو گری چڑھ

گئی مالک مکان کے شاگرد پیشہ لوگ سب اکٹھے ہو گئے اٹھا کر بیٹھا دیا۔ وہ چلا گیا چلا گیا۔

لالہ صاحبہ..... ارے بھائی کون چلا گیا۔ آج تم کو کیا ہو گیا ہے کیا بک رہے ہو۔

خوب چند..... وہ جوگی جی جوگی جی۔

لالہ صاحبہ..... اب تک ہوش نہیں آیا منہ پر پانی کے چھینٹے دو (اب خوب چند صاحب کے حواس

ختمہ درست ہو گئے) کیا حال ہے تم کو کیا ہوا تھا۔ بڑی بھکی بھکی باتیں کرتے ہو۔

خوب چند..... ایک جوگی صاحب ہیں۔ وہ اکثر مجھ کو دکھائی دیا کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں۔

میری یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا حال ہوا ہے آج بھی نظر آیا تھا۔ چلا گیا۔

دونوں صاحبہ..... اور امتحان کس کا پاس ہو گیا۔

خوب چند..... مجھ کو کیا خبر میں کیا جانوں۔

دونوں صاحبہ..... ابھی تم کہتے تھے کہ پاس ہو گیا۔

خوب چند..... نہیں مجھ کو خبر نہیں۔

کچھ دیر اس خواب پریشان کا تذکرہ اور ٹیسی مذاق رہ کر اپنے اپنے مشاغل میں مشغول

ہو گئے۔ جلسہ برخواست ہر وقت نتیجہ امتحان کے ذکر اذکار کے سوا اور خیال نہ تھا۔ چو میر دبتلا میر د

چو خیز دبتلا خیز خواب بھی اسی کے کرتے ہیں۔

ایک دن

حکیم صاحبہ..... رائے صاحب (لالہ بھیم سین) رات ہم نے خواب میں دیکھا کہ امتحان کے

پرچہ سب کو تقسیم کئے گئے ہیں۔ وہ سب زرد رنگ کے ہیں۔ اور آپ کو جو پرچہ دیا گیا ہے وہ سرخ

رنگ کا ہے۔ جس کی تعبیر ہم نے یہ نکالی کہ تم پاس ہو جاؤ گے اور سب ناکام۔

لالہ صاحبہ (مذاقاً) اب آپ ولی بننا بھی چاہتے ہیں۔ آپ کے حکیم اور عامل وغیرہ

ہونے کے تو ہم پہلے سے معترف ہیں۔ اگر فرمائیں۔ تو ولایت کی بھی منادی کراویں۔ دو آنے کا

خرچ ہے زیادہ تو نہیں۔

حکیم صاحبہ..... آپ مذاق سمجھتے ہیں۔ نہیں سچ کہتا ہوں آپ پاس ہوں گے۔

لالہ صاحبہ..... نہیں مذاق کی بات نہیں جس خیال میں انسان ہوتا ہے۔ خواب دیکھتا ہے۔ اور اکثر خواب سچ بھی ہو جاتے ہیں۔ کئی دن ہوئے نشی چیشی رام صاحب کو عطا گیا ہے۔ جواب نہیں آیا۔ دروازہ کھٹکایا۔ اور چمشی رسان اندر آیا۔ لالہ جی یہ آپ کی چٹھی ہے۔  
لفافہ

لالہ بھیم سین صاحب وکیل سیالکوٹ

کھولا گیا تو ایک زرد رنگ کے کاغذ (یوہو مین) لکھا ہوا تھا۔ (یعنی تم ہوئے) نہ نام کاتب نہ مکتوب الیہ اور نہ آگے جملہ کے کچھ عبارت جس سے معلوم ہو گیا ہوئے (یعنی پاس یا فیل) مگر یہ یقین کیا گیا۔ کہ یہ تحریر نشی چیشی رام صاحب کی ہے۔

حکیم صاحبہ..... اجی آپ پاس ہو گئے۔ اس میں کوئی کلام نہیں۔ ہماری خواب کہتی ہے۔

لالہ صاحبہ..... یوں اس دن خوب چند کا بڑا نا بھی ایسا ہی واقع ہے جیسا آپ کا خواب۔ اس کے اگلے دن ان کے ایک دوست کا خط لالہ بھیم سین صاحب کے نام ایک سرخ رنگ کے کاغذ پر لکھا ہوا۔ ایک بڑے لمبی چوڑی مبارک مبارک مبارک کے بعد تم پاس ہو گئے اور کل کے گزٹ میں تمہارا نام درج ہو کر شائع ہوگا۔ خط پڑھ کر مبارک سلامت کا شورا اٹھا۔  
حکیم صاحبہ..... دیکھو ہماری خواب سچی ہوئی نا۔

لالہ صاحبہ..... یوں تو خوب چند کی خواب آپ سے پہلے ہوئی تھی۔ وہ ایک رند مشرب۔

انسوس دنیا میں کیا ہٹ دھری اور ناقدر دانی ایسی رو یا صادقہ جس کا فوری اثر ظاہر ہو گیا۔ ایک رند مشرب کے اخفاٹ الاحلام کے برابر کر دی۔ اس دیرینہ مواسست اور قدیمی محبت کو بالائے طاق رکھ دیا۔

من زیاراں چشم یاری داشتم

خود غلط بود آنچه من ہنداشتم

کم سے کم سیالکوٹ کے گلی کوچہ میں تو اس کا اشتہار اور سیالکوٹ کے خاص خاص کی زبان پر ذکر و اذکار ہوتا۔

ہفتہ کے گورنمنٹ گزٹ میں لالہ بھیم سین صاحب کا نام درج ہو کر شائع ہو گیا۔ اور

سب ناکام رہے ہمارے ناول کے ہیرو حکیم صاحب بھی علیٰ ہذا القیاس۔

## باب ۵ پنجم

### پارسائی کا پکھنڈ

اساڑھ اور سادون گزر کر بھادوں کے بھی پکھنڈوں اور پر گئے۔ برسات کے عین شباب کے دن میں مگر بار باران کا تو کیا کہیے، پروا ہوا بھی نہیں چلتی تالاب اور چشموں کے پانی کیا کنوؤں کے سونت بھی خشک ہو گئے ہیں۔ چشم عشاق فراق دیدہ رنج مہاجرت کشیدہ سے بھی اگر کوئی اشک گرنا ہے۔ تو گو ہر کی طرح خشک ہوتا ہے۔ تری کا نام نہیں پایا جاتا، گرمی کا وہ زور کہ الامان والحقیظ آسمان تاجے کا لگتا ہے۔ زمین لوہے کی طرح تھتی ہے۔ جانوروں کو پانی پینے کو نہیں ملتا۔ زبان نکالے پڑے منہ کھلا ہوا ہے۔ اور آنکھیں بند دم نکل گیا۔ قحط کا یہ حال کہ آدمی کو آدمی کھاتا ہے۔ جنگل یا پہاڑوں میں سبزی کا نمونہ نہیں۔ جدھر دیکھو خاک اڑتی ہے پکھوا ہوانے درخت سکھادیے ہیں۔

نہ بر کوہ سبزی نہ درباغ شمع  
ملخ بوستان خورد مردم ملخ

کا مصداق ہے۔ دریائے ستلج سے روپڑ کے مقام پر ایک نہر کاٹی جا رہی ہے۔ ہزار ہا مزدور ٹھیکیداروں کی طرف سے نہر کی کھدوائی پر لگے ہوئے ہیں۔ اور تین جیل خانے جس میں دو ڈھائی ہزار قیدی رہتا ہے۔ خاص اس غرض سے اس جگہ قائم کئے گئے ہیں۔ قیدی نہر پر کھدائی کا کام کرتے ہیں۔ اور نہر کا ایک بڑا ٹکڑا یہاں پر موجود ہے۔ ایک یورپین صاحب اسٹنٹ کمشنر بھی یہاں پر رہتا ہے۔ روپڑ کی کیا ایک مختصر کی چھاؤنی کا نمونہ (قصبہ روپڑ جو چند دنوں پیشتر ایک گاؤں تھا) بن گیا ہے۔

روپڑ کے نیچے آبادی کے قریب ریلوں کے جیل خانہ سے اس طرف ایک ندی (جواب خشک پڑی ہے) میں ریت کے ٹیلے کے اوپر ایک جوان سا نولارنگ میاں قد اوسط اندام بچپس یا تیس برس کا سن بیٹھا ہے۔ دھوپ کے تمازت اور ریت کی پیش میں قدم نہیں رکھا جاتا۔ مگر اس شخص کے سر پر نہ کوئی سایہ ہے، نہ نیچے بستر ہے، یکہ و تمہا، نہ کوئی آس نہ پاس، نہ کھانے کا سامان، نہ پانی کا برتن اس گرمی اور پیش میں بھوک نہیں تو پیاس کا اندک قحط تو ضروری ہے۔ تین دن اور رات اسی ہیئت سے گزرے چوتھے دن ایک خیرا ستادہ ہے۔ اور پانی کا چمڑ کا ذخیرہ کے اندر

اور دور دور کے فاصلہ تک باہر ہوا ہے۔ اور بہت سے آدمی خیمہ کے اندر ہیں ہزاروں نہیں سینکڑوں کا ٹھکٹھا خیمہ سے باہر ہے ڈھولک بج رہی ہے۔ بھجن گائے جاتے ہیں۔ ناقوس پھونکا جاتا ہے نہر کے حکمہ کے تقریباً کل اہل ہنود باہر موجود ہیں۔

شہر کی کھترائیاں عمدہ عمدہ لباس پہن کر اور زیورات سے آراستہ ہو کر تھالی میں کچھ لیے دوپٹے کے آچھل سے ڈھکے ہاتھ پر رکھے آ رہی ہیں۔

خیمہ کے اندر نوبت بہ نوبت باریاب ہوتی ہیں۔ اور مہنت جی کو متھا (ماتھا) ٹیک اور چرن لسا کر روپس آتے ہیں۔

یار لوگ لطف نظارہ اٹھا آٹھ گٹھ سنک کر خوش گپیاں اڑا رہے ہیں۔ کل جہاں ایک ریتی کے ڈھیر اور جلتے ہوئے بنگریوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آج جنگل میں منگل ہو رہا ہے۔ چہل پہل ہنسی مذاق خوش طبعیاں ہوتی ہیں۔ عمدہ میلہ کا ہجوم ہے۔ دس جاتے ہیں بیس آتے ہیں۔

۱..... بھائی یہ مہنت جی کہاں سے آئے ہیں۔ اور کس پنتھ کے ہیں۔ اور یہاں بیٹھے کیا غرض ہے۔

۲..... ارے میان کوئی بد معاش ہوگا۔ کسی عورت کی خاطر یہ کھنڈ پھیلایا ہے ہم نے ایسے جوگی بہت دیکھے ہیں۔ یہ ہنود کی قوم عجیب ضعیف الاعتقاد ہے۔ جہاں ذرا کسی کو سنا فقیر ہے لگے ڈونہ چڑھنے اور جب کسی عورت کو لے کر بھاگ گیا تو معلوم ہوا کہ مہنت جی اس مقصد سے یہاں بیٹھے تھے۔

۳..... ہنود کی قوم پر ہی کیا منحصر ہے۔ پنجاب کے عموماً اور مالک تھمدہ کے خاص خاص مسلمان بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ پیر پرستی کو دارین کا در لیونجات اور موجب خیر و برکات سمجھتے ہیں۔

۴..... اس ملک کی بھیڑ چال ہے کہ جس طرف چار آدمیوں کو جاتے دیکھا اسی طرف کو ہوئے پر سال کا تو واقعہ ہے۔ دو چار سال تو نہیں گزرے۔ رام سنگھ کھمان نے کو کون کا پنتھ چلایا تھوڑے دنوں میں کئی لاکھ آدمی کی جمعیت ہو گئی۔ یہاں تک کہ گورنمنٹ کو دست اندازی کی ضرورت پڑی۔ اور اس کو جلا وطن کیا۔

۵..... ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے۔ مسلمانوں میں بھی بزرگوں کی قبروں کی پرستش اور زندہ پیروں کا عقیدہ کچھ اس سے کم نہیں ہے۔ عام کا ذکر نہیں۔ جو عالم فاضل کہلاتے ہیں۔ وہ پیر کو خدا سے کم نہیں جانتے سینکڑوں موضوع حدیثیں اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کو دلیل لاتے ہیں مصرع

تسلی داد ہر یک را بر یکے..... خدا کے کارخانہ میں کسی کو دخل نہیں۔ ہر ایک شخص اپنی اپنی

فطرت اور عقل کے مذاق کے موافق جما ہوا ہے۔ اور اپنے کو حق پر اور دوسروں کو گمراہ جانتا ہے۔ ہر یکے کا صحیح برائے دیگران: تاصح خود کم یا تم اندر اندر جہاں۔  
ایک صاحب نو دارو..... کہو صاحب کیا جھگڑا ہو رہا ہے۔ اور آج یہ میلہ کیسا پہلے تو کبھی یہاں ہجوم دیکھا نہیں۔

..... اچھی یہاں تین چار دن سے ایک ہندو فقیر آن کر بیٹھا ہے۔ کوئی جوگی یا اتھت سناسی یا او داسی وغیرہ میں سے معلوم نہیں ہوتا۔ نہ کوئی پیراگی یا منڈا ہوا معلوم ہوتا ہے دو تین روز تو یہاں دھوپ میں بے سایہ اور آڑ کے بیٹھا رہا آج یا کل شام سے خیمہ اور شامیانہ لگ گیا ہے نہر کے باہر اور شہر کے چند شوقین مزاج یہاں پر ہر وقت جبرے رہتے ہیں۔ راگ رنگ ڈھولک طنبورہ اور ستار بجاتا ہے۔ گیس اڑاتے ہیں۔

شخص اول..... (وہی صاحب) چلو دیکھیں تو کیا فقیر ہے۔ اور کس غرض سے بیٹھا ہے۔ سب متفق ہو کر شامیانہ کے نیچے خیمہ کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ اور مہنت جی کے درشن کی آرزو دکھاہر کی۔  
پوچھنا..... (یا یوں کہو مہنت جی کے مصاحب اور سیوک) خالی ہاتھوں درشن کرنے تو مصلحت نہیں کچھ لنگر کے خرچ کے واسطے نذرانہ کے طور پر دینا چاہیے۔ فقیروں اور بادشاہوں کے دربار میں خالی ہاتھ جان بدسوئی بے شری اور کم جیتی ہے۔

شخص..... بھائی تو لکٹ لگا دینا تھا۔ پہلے جو لکٹ لیتا وہ یہاں تک آتا اور ویش کی نذر نیاز خوشی اور رضا و رغبت سے ہوتی ہے۔ نہ کسی لکٹ کے طور پر

دوسرا پوچھنا..... جی ہاں سچ کہتے ہیں۔ نہیں صاحب آپ کی مرضی ہم کوئی حصہ دار یا پوچھنا یا چیلہ تو مہنت جی کے ہیں نہیں۔ آپ جیسے تماشائی ہیں ہم خوش عقیدت نہیں۔ اور میاں صاحب اس قول پر عمل ہے۔

ہر کہہ راجا مہ پارسابنی..... پارسا دان ویک مروانگار۔ خاکساران جہاں رہا کھارت منگر توچہ دانی کہ درین گرد شواری باشد۔

شخص..... صاحب ہم بھی ان (مہنت) کے مخالف نہیں۔ فقط درشن کے مشتاق ہیں۔  
پوچھنا..... بابو کا منار پر شاد صاحب یہ بابو محمد رمضان صاحب بابو حسین بخش صاحب وغیرہ درشن کرنا چاہتے ہیں۔

کہ پھر یہاں کوئی پہرہ چوکی یا ممانعت ہے۔ فقیر کا رو بار ہے۔ جس کا دل چاہے



آئے۔ جائے ہم بھی آپ صاحبوں کی طرح ہیں۔ کوئی مدارالہمام تو ہیں نہیں۔ ہاں مہنت صاحب کا منشا ہے۔ کہ یہاں ایک ننگر جاری کیا جائے۔ چونکہ یہ کار خیر ہے۔ اس کا سرانجام اور اہتمام اپنے ہاتھ لیا جائے۔

غرض ان صاحبوں نے بدقت تمام خیمہ کے اندر دخل پایا ایک سید قام مضبوط جو ان شخص کو ایک لکڑی کی چوکی پر جس پر ایک کیبل کا آسن بچھا تھا۔ اس کے پاس پا انداز کے طور پر مرگ چھالا بڑا بیٹھا ہوا دیکھا اور گردن میں پر آدمیوں کا ہجوم ہے جو کثرت کے سبب نظر کو بھی دخل پانے کی گنجائش نہیں کسی کے سر پر کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ پاؤں پر یا زانو پر قدم رکھتے گرتے پڑتے باریاب پہنچے۔ اور چھتے چھپاتے شرمی شرماتے روپیہ یا کچھ کم و پیش نذرانہ پیش کیا۔ سلام کر کے ان ہی قدموں والہیں اپنی جگہ پر آئے اور گفتگو ہونے لگی۔

۱..... یہ بڑے کامل فقیر ہیں کسی سے گفتگو یا بات چیت نہیں کرتے۔ نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ پہلے یہ یہاں سے چار پانچ کوس کے فاصلہ پر رہتے تھے اب چھ سات دن سے یہاں آ کر بیٹھے ہیں اور یہ عہد کیا ہے۔ کہ جب تک بارش نہ ہوگی۔ اور ندی کا پانی مجھ کو یہاں سے بہا کر نہ اٹھائے گا۔ تو اس جگہ سے نہیں اٹھوں گا۔ اور نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔

کئی دن یہ دھوپ میں بے دانہ پانی بیٹھے رہے۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی تو سایہ کے واسطے خیمہ کھڑا کر دیا۔ اب سائیں صاحب نہ کچھ کھاتے ہیں۔ نہ پیتے ہیں۔ نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ اس دن نے اسی طرح پیک چلے بیٹھے ہیں۔

۲..... اجی رات دن یہاں آدمیوں کا مجمع رہتا ہے۔ ہلتے تک بھی نہیں دیکھا۔ جس نشست سے بیٹھے ہیں۔ نہ لیٹے ہیں، نہ کھانا کھایا، نہ رفع حوائج ضروری کے واسطے اٹھنا، نہ رات کو سوتے ہیں، نہ لیٹتے ہیں نہ کھڑے ہوتے ہیں۔

۳..... یہاں رات کو کوئی دیوانہ یا الپ وغیرہ روشن نہیں کیا جاتا۔ مگر روشنی اس سے بھی زیادہ رہتی ہے۔ تمام دنیا میں گرمی کے مارے لوگ جھلے جاتے ہیں۔ پکھا ہاتھ سے ایک دم کو نہیں چھوٹا پھر سے کل نہیں پڑتی۔ مگر اس جگہ رات کو رضائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

۴..... کیوں نہ ہو فقیروں میں بڑی قدرت ہے۔

مردان خدا خدا نہ باشند  
لیکن زخدا جدا بنا شند

اور بڑے بڑے اظہار کمالات ہوتے رہے۔ یہ سب صاحب اٹھ کر اپنے گھر کو چلے۔  
خیمہ کے پیچھے ایک مختصر سا باغچہ ہے۔ اس میں کڑوا چڑھے ہوئے ہیں۔ سینکڑوں آدمی کھانا کھاتا  
ہے۔ بلا امتیاز ہندو مسلمان۔ عیسائی جو بڑا۔ چمار کے باشندے آتے ہیں۔ بیس جاتے ہیں۔ تانتا  
لگا ہوا ہے۔

۱..... ارے میاں میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس فقیر کو خوب جانتا ہوں۔ اور اچھی طرح  
پہچانتا ہوں۔ یہ فلاں موضع کا ماگھی ہے۔ اور فلاں بابو کے برتن مانجے پر نوکر تھا میرے پاس اکثر  
یہ اس بابو کی چٹھی و پیام لایا کرتا تھا۔ یہ تو محض مکر اور فریب ہے۔ کسی خاص کار کے واسطے یہ جال  
بچھایا گیا ہے۔ اس میں کوئی اسرار ضرور ہے۔

۲..... دیکھو بد معاشوں نے لنگر بھی جاری کر دیا۔ تاکہ شہرت ہودے۔ اور لوگ کھانے کے  
لاٹج سے یہاں آئیں۔ اور اس بات کا چچا کریں۔

۳..... کچھ ان کے پہلے سے خرچ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ جس کا درد ہو۔ دیکھو لوگ کیسے اندھے  
ہیں۔ کہ برسوں یہ شخص مہنت بنا یہاں رہا ہے۔ اور اس کو سب جانتے ہیں مگر اندھے ہی ہوتے ہیں۔  
پندرھویں دن مغرب کی جانب سے ابر سیاہ اٹھا۔ اور زمانہ تیرہ و تار ہو گیا۔ ٹھنڈی  
ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی بوندیں پڑنے لگیں۔ تو لوگوں کی آنکھیں جو آسمان کو لگی  
ہوئی تھیں۔ شوق کی نظر سے دیکھنے لگیں۔ تھوڑی دیر میں اس زور شور سے بارش ہوئی کہ تمام تختہ جل  
تھل گیا۔ خدا کی شان کبر پائی ہے۔ کہ پلک مارنے کی دیر تھی۔ کہ جہاں نظر کام کر سکتی تھی۔ پانی کے  
تختہ کے سوا زمین نظر نہ آتی تھی۔ ندی کے پانی نے مہنت جی کے خیمہ و شامیانہ کی طٹا میں اکھاڑ کر  
پھینک دیں۔ نہ خیمہ کا ہاتھانہ چوب خیمہ کا۔ سبج نزدیک تھا۔ پانی نے بہا دریا میں ڈال دیا مہنت  
جی کو لوگوں نے اٹھایا۔ باغچے میں جو لنگر خانہ کے ذخیرہ کا خیمہ تھا۔ لے جا کر بٹھایا تین رات اور دن  
وہ موسلا دھار سینہ پڑا کہ بس کرا دی مکانون کا گنا شروع ہو اور اوہوں کی آواز چاروں طرف سے  
آنے لگی چوتھے روز سینہ بند ہوا۔ ابر کھلا سورج نے منہ دکھایا۔

نہر کے بابو اور شہر کے زندہ دل شوقین مزاج رئیس جو فقیر صاحب کے مشیر اور معاون  
تھے۔ انہوں نے ایک رئیس کا ہاتھی منگایا۔ اور مہنت جی کو اس پر سوار کیا:

باجا اور ڈھولک اور گھنٹا اور ناقوس بجاتے اور بھجن گاتے آگے آگے ہوئے اور کئی طاقت

رقص کننا سواری کے ساتھ تھے۔

مہنت جی کی سواری کا بڑے جلوس کے ساتھ تمام قصبہ کے بڑے بڑے گلی کوچہ کا گشت کرایا۔

سفر ہند کے کسی نامہ نگار نے پادری رجب علی اڈیٹر اخبار مذکور کو اس کا پرچہ دیا۔ مفصل کیفیت اس اخبار مذکور میں شائع ہوئی۔

چند نمبر کے بابوؤں نے اڈیٹر اخبار پر غلط بیانی کا مقدمہ دائر کیا۔ ایک عرصہ اس کی تاریخیں پڑتی رہیں۔

مہنت صاحب کچھ دن اس باغ میں رونق افروز رہے۔ لنگر بدستور جاری رہا مگر آخر ہوا اکھڑ گئی۔ پھر وہی بے آبروئی نصیب ہوئی۔

## باب ۶ ششم

مولانا محمد حسین بٹالوی کے حضور میں

دل کو ہمارے سینہ میں ایک دم نہیں قرار

یہ وہ غریب ہے کہ مسافر وطن میں ہے

دو پہر کا وقت ہے۔ جیٹھ اساڑھ کی دھوپ کی چیل انڈا چھوڑتی ہے۔ درختوں کے

پتوں میں پرندے منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ لوکی تھڑی منہ پھیرے دیتی ہے۔ بدن جھب جاتا

ہے۔ چار پائے گرمی کے مارے زبان نکالے ہانپ رہے ہیں۔ درندہ گڑھوں میں زبان نکالے

کانپ رہے ہیں۔ آدی کیا حیوان بھی دم چراتے ہیں کوسوں کیا منزلوں انسان یا حیوان کا سایہ نظر

نہیں آتا۔ بے مارے مرے جاتے ہیں گھر میں بیٹھے اعطش اعطش کا شور ہے۔ پنکھا ہاتھ سے

نہیں چھنتا۔ پسینا ہے کہ اشک عشاق کی طرح جاری ہے سانس بند ہوا جاتا ہے۔ کلیجہ منہ کو آتا

ہے۔ الامان الھیط کا کلمہ جاری ہے۔ زبان پر کانٹے کھڑے ہیں۔ تقریر سے عاری ہے۔ انسان کیا

پرندوں کے پر جلتے ہیں۔ پیک خیال قدم نہیں اٹھاتا۔ قصدر قرار سے چھالے پڑتے ہیں۔

ہیں یہ وقت اور سفر یہ یکہ کیسا آ رہا ہے۔ اللہم اعظنا کچی سڑک اور یہ دھوپ اور ایک

مریل ٹومٹلی رنگ کا جوتا یکہ والا پیادہ پاہاں ہاں نچ نچ شروپ سائنا لگا کر ہانکتا ہوا چادر سے منہ

چھپائے آ رہا ہے۔ گھوڑا زبان نکالے کتے کی طرح ہو تک رہا ہے۔ پسینے میں خوں خوں کرتا دو قدم

چلتا ہے۔ اور گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے۔

یکہ والا..... اسی میاں جی دو سواریاں تھوڑی دیر کے واسطے اتر ہی لو ذرا یکہ ہلکا ہو جائے۔ ریت نکل جائے تو پھر بیٹھ جانا۔

سواری..... ارے میاں کرا یہ کیا کیا عذاب خرید لیا مقدمہ کر لیا۔ اس سے پیدل چلے آتے تو دن چلا اور تین کوس:

۲..... بھائی: یہ مصیبت بھی یاد رہے..... یکہ ایک اونچے ٹیلہ پر چڑھا اور الٹا ایک طرف سے اور ایک اس طرف سے تیسری سواری نے یکہ کا ڈنڈا پکڑا اور جم گیا۔

۱..... اللہ

۲..... لاحول ولا قوۃ الا باللہ!

یکہ والا میں تو پہلے ہی کہتا تھا ”صاحب تھوڑی دیر کے لیے اتر لو۔ بیچ گئے چوٹ تو نہیں لگی۔

۱..... کپڑے جھاڑ کے نہیں خیریت ہے۔ رسیدہ بود بلائے ولے بے تیر گزشت۔

۲..... ذرا انگڑا اتے ہوئے اور مٹی جھاڑتے ہوئے بڑی خیر ہوئی یکہ بھی شیطان کا چرخرہ ہوتا ہے (یکہ والہ کی طرف جھلا کر) ا بے روک۔

یکہ والہ میں نے کیا کیا میاں اور جو میرا یکہ ٹوٹ جاتا یا گھوڑے کے چوٹ آ جاتی میں

تو پہلے ہی پکار پکار کر کہہ رہا تھا۔ بھائی دو آدی اتر پڑو۔ پر آپ تو پاؤں کو مہندی لگا کر بیٹھے تھے۔

۳..... (تیسرے سوار جو یکہ میں بیٹھے تھے) میاں ہم نے رات خواب میں دیکھا تھا۔ اس سفر میں ہم کو ضرور تکلیف ہوگی۔ سو ہونی چاہیے تھی۔ اس کا (یکہ والا) کیا قصور تھا۔

۲..... آمنا و صدقا آپ کی خواب خلاف تو ہوتی نہیں۔ پہلے شخص کی طرف متوجہ ہو کر شخص صاحب ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے۔ سو بندہ سے ایک خواب بھی غلط نہیں کہتے۔ جو فرماتے ہیں۔

وہی ہوتا ہے۔

شخص..... صاحب بے شک جناب بالکل صحیح مومن کا خواب چالیسواں حصہ نبوت کا ہوتا ہے۔

دونوں سوار جو یکہ سے گرے تھے۔ اپنے کپڑے جھاڑ یکہ کے ساتھ ساتھ پایادہ چلے

اور ایک صاحب جوان عمر بزرگ صورت زرد رنگ آنکھوں میں حلقہ پڑے رخساروں کی ہڈی نکلی

ہوئی۔ چہرہ پر مردنی چھائی ہوئی۔ رشک پری ہے۔ جوانی مری کی صداق یکہ میں سوار ہے۔ اور

یکہ اپنی اسی رفتار سے آگے روانہ ہوا۔

بزرگوار (یکہ والہ سے) آج تم نے اور تمہارے گھوڑے نے ہم کو سخت تکلیف دی۔

یکہ والد..... حضرت جی سفر میں آرام تو ہوتا ہی نہیں۔ تکلیف ہی ہوتی ہے۔ چلا ہی جاتا ہے آخر گھوڑا بھی جاندار جانور کچھ ریل تو نہیں۔ کچی سڑک دھوپ کی طش گرمی کی شدت ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ یہ بچا رہ بوجھ کھینچتا ہے۔

بزرگ وار..... بھائی اب تو بوجھ بھی ہلکا ہو گیا۔ ہانکے چل۔ کیا تمام دن دھوپ میں ہی چلائے گا۔ یکہ والد..... دیکھئے ہانک تو رہا ہوں۔ شہراب سا نٹا جاکر تلخ گھوڑے نے پستک جڑی الہی خیر۔ شیخ صاحب..... اب تو منزل طے کر چکے ہیں۔ وہ مثالہ نظر آتا ہے۔ مرزا صاحب آج اس تکلیف کا سبب میں ہوا سخت شرمندہ ہوں۔

مرزا صاحب..... (بزرگوار) نہیں صاحب یہ تکلیف تو مقرر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو امتحان کے واسطے ابتلاء میں ڈالا کرتا ہے۔ اس کا آپ کے اد پر کیا احسان تھا۔ دین کا کام ہے۔ اور اس عاجز نے تو اپنی زندگی اور جان اور مال کو اس کار کے واسطے وقف کر دیا ہے۔ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ مخالف مذاہب وادوں سے مناظرہ کر کے حقیقت اسلام کو ثابت کروں۔

شخص صاحب..... حضرت دنیا میں نام رہ جاتا ہے۔ کوئی نیکی کے ساتھ چھوڑ جائے۔ کوئی بدی کے ساتھ آپ کا ارادہ نہایت مبارک ہے فی زمانہ ذرائع اشاعت کافی ووفانی ہیں۔ تصنیف و تالیف کے واسطے مطالع اور سفر کے واسطے ریل تھوڑے دنوں میں نزدیک و دور ملک و دیار شہر و احصار میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اور شہرت ہی ہر ایک کار کی حوثق اور گرم بازاری کا سبب ہے۔ ہماری یاد میں پنجاب میں فقط ایک کوہ نور اخبار تھا۔ اور اب کتنے ہو گئے۔ اور روز بروز ترقی ہے۔ اب دیکھئے نہ مولوی محمد حسین، مولوی بن کر آیا ہے۔ اپنا مذہب ہی نیا نکال لیا۔ کل ابھی مثالہ میں اس کو کوئی نہ جانتا تھا۔ اب دلی لاہور۔ امرتسر پنجاب ہندوستان میں مولوی کر کے پکارا جاتا ہے۔

مرزا صاحب..... مولوی محمد حسین ہمارا ہم کتب ہے۔ ساتھ کھیلے، ساتھ پڑھے اب دہلی جا کر مولوی صاحب بن آئے۔ اب دیکھو گے اسی مسئلہ کو بحث میں جس کے واسطے ہوان کو کیسا نچا دیکھاتا ہوں۔

شیخ صاحب..... دیکھئے صاحب ہماری تو آپ تک ہی دو تھی۔ اور تھا ہی کون جس کو بلا تے سب بھائیوں نے کہا کہ بھائی مرزا صاحب کو لاؤ۔ وہی اس کو سیدھا کریں گے پس حضرت بندہ درگاہ تو یہ چاہتا ہی تھا۔ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس تکلیف شائق کا باعث ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت جی تمام محلہ کے آدمی نکلے ہیں۔ دو چار دیلہ چڑے اور بنا لیے ہیں، نماز پڑھتے ہیں

کہ مسجد کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ اب بتائیے مسجد چھوڑ دیں یا دین۔ چھوڑ دیں۔ آخر ایک کو جواب ہے۔

مرزا صاحب..... اس تذکرہ کو چھوڑو۔ قضیہ زمین بر زمین۔ یہ فرماؤ ٹھہریں گے کہاں۔

شیخ صاحب..... مکان آپ کے واسطے خالی کیا گیا ہے۔ اس میں قیام فرما کر آرام فرمائیے۔ صبح کو

منادی کرادی جائے گی۔ کہ مناظرہ ہوگا۔ مناظرہ کے واسطے جگہ اور شرائط فریقین کی مرضی پر۔

مرزا صاحب..... میرے خیال میں یہ مصلحت نہیں کہ اول ہی بساط مناظرہ قائم کر کے پیام دیا

جائے۔ یوں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اُن کا ہی مہمان ہوں کیونکہ میرے لنگوٹے یار ہیں۔ ہم

کتاب ہم نوالہ وہم پیالہ ہیں۔ اول ان کو دوستانہ طور سے سمجھایا جائے اگر مان لیں۔ فہو المراد!

ورنہ پھر مناظرہ کیا جائے۔

شیخ صاحب..... بہتر جو آپ کا منشا ہو، ہم کو تو اپنے مطلب سے مطلب ہے۔ گڑدے سے مر جائے

تو زہر کیوں دیں۔

مرزا صاحب..... بات وہ کیجیے جس میں سانپ مرے اور لاٹھی نہ ٹوٹے سیخ و کباب دونوں رہ

جائیں۔ میری ان کی لڑکپن کی ملاقات اور محبت ہے۔ اول اول ان سے مجادلانہ تقریر اور مخالفانہ

مجلس آراستہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ مناظرہ میں بات کی بیج پڑ جاتی ہے۔ سخن پروری حق کو بالکل

چھوڑ دیتی ہے۔

یکہ والد..... لہذا صاحب بٹالہ بھی آگیا وہ مکانات بٹالہ کے دکھائی دیتے ہیں۔

فتح خاں..... (ملازم مرزا صاحب) ہاں کوئی دو میل ہوگا یہاں سے۔

شیخ صاحب..... اچھا تو اب میں رخصت ہوتا ہوں دوسرے راستے سے شہر میں چلا جاؤں گا۔

مرزا صاحب..... کیوں یہ کیا۔ کیا ناراض ہو گئے؟

شیخ صاحب..... نہیں حضرت اگر میں آپ کے ہمراہ گیا۔ تو شہرت ہو جائے گی کہ مرزا صاحب کو

مناظرہ کے واسطے لائے ہیں۔ دوسرے راستے جا کر جن صاحبوں کے مشورہ سے میں قادیان گیا

تھا۔ آپ کے ارادہ سے ان کو مطلع کر دوں گا۔ کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔

مرزا صاحب..... خوب سوچھی۔ والہد کیا سوچھی آخر کو قانون گو کو دور کی سوچتی ہے۔

شیخ صاحب تو علیحدہ ہو گئے۔ مرزا صاحب نے آواز دی۔ کہ میاں فتح خان آؤ تم

بھی بیٹھ جاؤ۔

فتح خان..... جی نہیں اب تو منزل قریب آگئی ہے۔ گھوڑا تھکا ہوا ہے۔ اور حضور کو بھی گرمی کے سبب

تکلیف ہوگی۔ میں درختوں کے سایہ میں چلتا ہوں۔ کچھ رستہ اور طے کیا بہ خرابی بسیار داخل شہر ہوئے۔ اور گلیوں میں کھڑکھڑ کرتے ایک جگہ یکہ ٹھہرا فتح خان نے مرزا صاحب کو جوتی نکال کر دی۔ مرزا صاحب نے جوتا پہنا اور فتح خان کا سہارا لے کر یکہ سے اترے اُف پھونک دیا کمر پر ہاتھ رکھ کر السفر سقر لوکان میلا۔ بڑی تکلیف اٹھائی۔ دستک نہ دی دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہو کر۔ السلام وعلیکم!

مولوی محمد حسین صاحب نشست میں کتاب کا ملاحظہ کر رہے تھے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ و برکاتہ غورتا مل کے بعد آئیے آئیے اور مصافحہ کو ہاتھ بڑھایا۔

مرزا صاحب..... آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں۔

مولوی صاحب..... کھڑے ہو کر معافتہ کرتے ہوئے اوہو

بعد مدت کے ملا مجھ سے وہ دھوکہ دے کر

یاد ہے جب مجھے وہ شوخ سی صورت تیری

باللہ العظیم میں نے آپ کو آپ کی کلام سے پہلے بالکل نہیں پہچانا۔ میاں یہ جوانی اور

مانجھا ڈھیلا عنقوان شباب میں پھری وصدعیب کے مصداق ہو گئے خوب مزاج شریف اور سب خیریت۔

مرزا صاحب..... الحمد للہ آپ کا مزاج مصافحہ اور معافتہ کے بعد مرزا صاحب کو صدر کی جگہ بٹھایا۔ شربت کا گلاس کیوڑا پڑا ہوا سامنے آیا۔ مرزا صاحب نے غٹ غٹ پیا۔ چوغہ کوٹ اتار کر فتح خان کے حوالہ کیا تھا۔

مولوی صاحب..... بڑے مرزا صاحب کے مزاج کی کیا کیفیت ہے۔

مرزا صاحب..... خدا کا شکر ہے۔ خیر و عافیت ہے۔ وہی مزاج جبل گرد و جبلی نہ گرد۔

مولوی صاحب..... ہاں یاد آیا۔ آپ تو شیخ چلی ہو گئے ہیں۔ سنا کہ چوبارہ سے نیچے نہیں اترتے اور اوراد خوانی یا کتاب کے اوراق گردانی۔ بھائی صاحب مشغلہ تو اچھا ہے۔ خدا تو فیق دے میں آپ کا حال سن کر بہت خوش ہوتا تھا اور خدا کا شکر کرتا تھا۔ ہم میں سے ایک شخص اس مذاق کا بھی ہے۔

مرزا صاحب..... بے شک دنیا میں لذت ہیں تو دو ہیں۔ عبادت یا مجامعت کچھ تھوڑی لذت حکومت کی ہے۔ مگر مشفق عبادت کی لذت خدا کی نعمت اور عنایت ہے۔ جس کو چاہے وہ تو فیق دے۔ زہے طالع اور زہے محنت اس شخص کی جس کے حق میں یہ انعام ہو۔ میں نے جب سیالکوٹ

کے سلسلہ ملازمت کو ترک کیا ایک سال تو قانون یاد کرنے میں کھویا۔ اور عمر عزیز کو برباد کیا۔ نتیجہ یاس و حرمان کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں نہیں قانون تو میں نے ملازمت کے زمانہ ہی میں رخصت لے کر یاد کیا تھا۔ جب سے میں ملازمت سے علیحدہ ہوا کچھ دنوں والد صاحب مقدمات کی پیردی کے واسطے بھیجتے رہے پھر میں نے گوشہ تہائی اختیار کیا نو ماہ تک چوبارہ سے سوائے حوائج ضروری کے قدم باہر نہ نکالا دن صوم اور رات صلوة سے گزاری اب ہفتہ عشرہ سے باہر نکلا ہوں۔ آپ کے ملنے کی طبیعت نہایت مشتاق تھی۔ مگر ہر ایک کام کے واسطے وقت مقرر ہے۔ آج اتفاق ہوا۔

مولوی صاحب..... میں آپ کی عنایت کا نہایت کامشکور ہوں۔ میری آنکھیں ہی آپ کو ڈھونڈتی تھیں۔ دل ملاقات کا خواستگار تھا۔ کئی مرتبہ ارادہ کیا قادیان جا کر آپ سے ملوں۔ مگر ہر بار یہی خبر ملتی رہی۔ کہ آپ عرصہ سے محکف ہیں۔ کسی سے ملتے نہیں اگر میں جاتا یا آپ کا ہرج ہوتا یا مجھ کو رنج و ندامت کا سامنا کرنا پڑتا۔

مرزا صاحب..... اب میرا ارادہ بھی قادیان کو چھوڑنے کا اور کسی شہر کے قیام کا ہے۔ مولوی صاحب..... میری رائے میں بھی یہ امر مصلحت ہے۔ جب آپ کا ارادہ ہو مجھ کو اطلاع دینا اگر لاہور کا قیام پسند کرتے ہیں۔ تو میں آپ کی ہمت کو داد دیتا اور میرا قیام بھی لاہور ہی ہے۔ یہاں اتفاقاً آجاتا ہوں۔ ہاں مرزا صاحب وہ آپ کے یار عرب کہاں ہیں اس کے کمال کی بڑی تعریف سنی گئی ہے۔ ان کی ملاقات کا تو ہمیں بھی شوق رہا۔ سنا ہے حضرت اور مل میں کامل ہے۔ مرزا صاحب..... ان کا مجھ کو پتہ نہیں لاہور ہی میں مجھ سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ پھر پتہ نہیں لگا کہاں گئے۔ زندہ ہیں یا چل بے۔

مولوی صاحب..... چل بے کون سی گاڑی لدی ہیں۔ دنیا نا پائیدار ہے۔ اس کا کیا اعتبار ہے۔ جو آیاد م تو دم ہے۔

اب شام ہو گئی رات کا کھانا مرزا صاحب نے مولوی صاحب کے مکان پر کھایا جس مسئلہ کے بحث کو آئے تھے۔ اس میں گفتگو ہوئی۔ مرزا صاحب کو بھی منظور نہ تھی فیصلہ ہو گیا۔

مرزا صاحب..... میرا مدت سے ارادہ ایک کتاب جملہ مذاہب غیر اسلام کے رد میں لکھنے کا ہے۔ مولوی صاحب..... درکار غیر حاجت بیچ استخارہ بخت پھر دیر کیا ہے۔ آپ لکھیں اور ضرور لکھیں۔

مرزا صاحب..... روپیہ کی اشد ضرورت ہے۔ بدون روپیہ کے ایشیا و ہندوستان مولوی صاحب..... خدا خود پیرسان ماست ارباب توفل را آپ کا روزی شروع کریں۔ اور



اخبارات شائع کریں۔ میں بھی کوشش کروں گا۔ اور اپنے احباب کو بھی اس بارہ میں کوشش کے واسطے تاکید کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مسہب الاسباب ہے جس قدر کتاب شائع ہوتی جائے گی۔ قیمت آتی جائے گی۔ مگر قادیان کے قیام میں بے شک آپ اس کار کو انجام نہیں دے سکتے۔ لاہور یا امرت سر کے قیام میں انشاء اللہ نہایت آسانی سے اس کا سرانجام ہو جائے گا۔

## باب ۷ ہفتم

### سیالکوٹ کا محرم

بجری آیا محرم خون بہایا چاہیے

مرثیہ پڑھ پڑھ مجھوں کو رولایا چاہیے

بازاروں میں دھاچہ کڑی مچ رہی ہے۔ جدھر دیکھو غٹ غول کے غول جا رہے ہیں چاروں طرف سے ماتم کی آواز آرہی ہے۔ تعزیہ داری کی دھوم ہے گلی کوچہ میں تماشاخیوں کا جھوم ہے۔ ہمارے ناظرین کہیں گے۔ سیالکوٹ اور محرم یہ کیا۔ ایک زمانہ تھا کہ میر وزیر علی اکشر اسسٹنٹ کمشنر اور میر قائم حسین تحصیل دار اور میر مظہر علی سپریڈنٹ ضلع شیعہ مذہب تھے۔ پھر محرم کی دھوم دھام تعزیوں کی کثرت عزا داروں کا جھوم اور اڑدھام کیوں نہ ہو آج وہ رونق ہے کہ لکھنؤ کے محرم کا نقشہ آنکھوں میں پھر گیا۔ جو حسین مظلوم کے نام سے بھی واقف نہیں وہ عزا دار حسین ہے۔ ماتمی لباس چہرہ اور اس جس گھر میں دیکھو گریہ ہے زاری ہے شور ہے۔ شوق ہے ہر کہ و مدہ برہنہ سر ننگے پاؤں پھر رہے ہیں۔ کوئی بیک بنا ہوا ہے۔ سبز قبا برسیاہ و سفید بکیا سر، بڑے بڑے گھوگر و کمر میں لٹکائے چمن چمن کرتا پتھر ابدلتا یہ گیا۔ وہ گیا ہر ایک مقام پر محفل عزا کا اہتمام ہے۔ انعقاد بزم عزا کے وقت کی خبر پہنچانا ان کا کام ہے۔ فلاں دقت سے فلاں وقت تک وہاں محفل ہوگی۔ میر زادکر حسین صاحب مرزاد بیر کے شاگرد لکھنؤ کے مرثیہ تحت لفظ پڑھیں گے۔ مرزا عباس علی منور سنائیں گے۔ رات ہو گئی ہے۔ محفل کی تیاریاں چاروں طرف شروع ہو گئی ہیں۔ ایک محفل برخواست ہوئی دوسری جگہ لوگ اٹھ کر جاتے ہیں۔ اور باہم گفتگو ہوتی ہے۔

..... بھائی ساں باندھ دیا۔ مرثیہ خوانی بس لکھنؤ والوں کا کام ہے۔ غم کی تصویر مجسم کھڑی ہی

کر دیتے ہیں۔

۲..... سبحان اللہ صلی علی کیا پڑھا ہے مگر یہ پنجابی دھکے (ڈھکے) کیا سمجھتے ہیں۔

شرمندہ شاہ شہدات ہے پانی  
کیا ہی فیض ہے محروم رہا ہے پانی  
گرے ہیں اشک چشم سے ثابت یہ ہوا  
یعنی نظروں سے گر گیا ہے پانی

۳..... ہائے مار ڈالا کیا مضمون ہے، کیا بندش ہے، مگر بھائی جی اس کا مذاق بھی اُن ہی کے واسطے پنجاب کے لوگ کیا جانیں۔

۴..... حضرت سمجھو یا نہ سمجھو کوئی کم بخت ہی آنکھ ہوگی۔ جو آنسو سے تر نہ ہوئی ہوگی۔ یہ راگ راگنی سے بھی خوب واقف ہے یہاں کے تو مرا سی بھی اتنا نہ جانتے ہوں گے۔

۵..... میاں تم ہی..... ہو یہ ایک ملک کی زبان اور روزمرہ ہے۔ اس کا لطف ان کو ہی آتا ہے۔ جو اہل زبان ہیں۔ وہی پڑھتے ہیں۔ اور وہی سمجھتے ہیں۔ اور وہی اس کا لطف اور حظ اٹھاتے ہیں۔ سیالکوٹ کے بھی تو ایک دو آدمیوں نے پڑھا تھا۔ کیا خاک اڑائی:

کلاخی تنگ کبک درگوش کرد  
کہ رفتار خود را فراموش کرد

وہی مضمون وہی واقعہ مگر رونے کی جگہ ہنسی آتی ہے۔

۶..... نہیں یاروہ جو پنجابی میں مرثیہ پڑھا تھا۔ اس میں ورد تھا۔

۷..... بھائی وہ تو ان کی زبان تھی۔ مگر جو اس پنجابی نے تحت لفظ پڑھا تھا۔ کس زور کا مرثیہ تھا۔ گلگو نہ شفق جو ملاحظہ صبح نے مگر اس کو ایسا بگاڑا کہ بس..... شاعر کی روح قبر میں روتی ہوگی اور کہتی ہوگی:

صائب دو چیز می ہلند قدر شعر را  
حمسین ناشناس و سکوت سخن شناس

غرض راستہ میں چہ میگوئیاں کرتے ایک محفل سے دوسری محفل میں پہنچے۔ یہاں کوئی امام بارگاہ تو تھا ہی نہیں۔ یہ محرم اور مجالس عزت ایک بہار کا میوہ تھا۔ مسجدوں کو راستہ و پیرا راستہ کر کے دلہن تیار کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد ہے۔ یاروضہ رضوان مگر علموں پر جو کپڑا پہنا ہے۔ اس میں پنجابی بھدا پن نہیں گیا۔ تعز یہ گوچار چار منزل کے بتائے ہیں۔ گنوار پن اس پر ہے۔ بارش کس طرح برستی ہے وہ لکھنؤ کی صنعت اور سادگی کہاں۔

جم غنیر اور مجمع سے بازاروں اور گلیوں میں چلنے کو راستہ نہیں ملتا ہے۔ شانہ سے شانہ چھلتا ہے۔ کپڑے لٹے ہوئے جاتے ہیں۔

چھوٹی سی مسجد آدمیوں کی کثرت محفل میں جگہ نہیں ملتی یا نیا چاؤ تازہ تازہ شوق کل جدید لذیذ کے مصداق آدمی پر آدمی گرا پڑتا ہے۔ غل ہے۔ شور ہے۔ مرثیہ خوان گلا پھاڑ پھار کے چلا رہا ہے۔ مگر سنے کون اپنے اپنے آلاپ رہے ہیں۔ ہلڑ ہے نہ محفل تہذیب۔ آدمیت۔ بازار میں بکتی ہی نہیں۔ جو مول لے آئیں یہ آدمی بننے سے آتی ہے آدمی بننا بہت دشوار ہے۔ ایک دریائے بے تیزی طغیانی پر تھا۔ مجلس ختم ہوئی فاتحہ پڑھی گئی۔ تبرک تقسیم ہوا تعزیرہ گشت کے واسطے اٹھائے گئے۔ سفیدہ صبح نمودار ہوا۔ تو اپنی اپنی جگہ پر آئے۔ دوپہر کے قریب پھر تعزیرے اٹھائے گئے اور کربلا کو چلے۔ اب جھاڈنی کے بھی تعزیر نہایت آب و تاب سے دھوم دھڑک کے ساتھ تاشی اور ڈھول سے ماتم بجاتے اکھاڑہ والد اپنی اپنی پکھستی اور نیولے کا ہنر دکھاتے آگے آگے مرثیہ خوان گشتی پڑھتے ہوئے آگے اور شہر کے دروازہ پر مٹھ بھیر ہو گئی۔ اکھاڑا جہا۔ میر ہاد علی ایک جج کا جوان چہ برہ بدن سانولہ رنگ سادہ مزاج وضع دیکھو تو ایک معمولی سا انسان اکھاڑے کا استاد گنگا ہاتھ میں لیے میدان میں کود پڑا اور ساتھ ہی پندرہ بیس پٹھے اونچے بنے۔ گنگالے کودے۔ اب دیکھیے بیس گنگے برابر پڑتے ہیں۔ اور خالی پر میر ہاد علی ہیں۔ کہ بجلی کی طرح چمک کر وہ گئے۔ اور چھلاوہ کی طرح اچھل کر پھر موجود کبھی گنگے سے چوٹ کاٹی۔ کبھی بدن کو چورایا اور پتا گئے۔ کبھی بینترابلا اور شاگردوں کو لکارا خبردار اور تڑ سے رسید کیا کسی کی پگڑی اور کسی کی ٹوپی اڑائی۔ اب شاگرد ہیں کہ جھلا جھلا کر چوٹ پر چوٹ لگاتے ہیں۔ پھر منہ کی کھاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ سے گنگا نثار دہے اور کسی کے پھر ہے۔ آخر سب کا دم ٹوٹ گیا۔ سانس پھول گئی مگر وہ شیر (استاد) اس طرح تازہ دم ہے۔ وہی دم دہی خم۔ ذرا گنگے کو ٹیکا بیس ہاتھ اڑ گئے۔ شوراٹھا۔ واہ رے استاد کمال کرتا ہے۔ پھر نبونے سیرم کٹار کی وہ وہ ہاتھ دکھائے۔ لوگ حیران رہ گئے پھر سیف سنبھالی۔ اس کے ہاتھ نکالے لیموں پر نشان لگایا۔ اور دو کھڑے برابر کر دئے۔ کسی کے ناک پر مرج کو رکھ کے کاٹا کوڑے کو بال میں باندھ کر اڑایا۔ تلوار کی دہار سے آنکھوں میں سرمہ لگایا شور اٹھا۔

.....۱ یہ ہاتھ کا کرتب نہیں، نظر بندی ہے۔

.....۲ مالبہ یہ تو جادو ہے، بے جادو کے یہ ممکن ہی نہیں۔

.....۳ کچھ بھی ہو، ہے کمال۔ کسب کمال کن کہ عزیز جہان شوی۔

چار پانچ گھنٹہ یہ ہنگامہ رہا۔ شام کے قریب امام صاحب (کر بلا جہان تعزیرہ دفن ہوتے ہیں) میں تعزیرہ پہنچنے۔ گڑھا کھودا گیا۔ اور تعزیرہ دفن کئے گئے۔ اس موقع پر امام صاحب کا عرس ہوتا ہے۔ کچھ محرم کی دھوم کچھ منیلہ کا ہجوم قابل دید تھا۔ نہ لائق شنیدہ کوسوں تک آدمی ہی آدمی تھا۔

## باب ۸، ہشتم

### مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کا دربار

ایک بزرگ، خضر صورت، فرشتہ خصلت، سرخ و سفید رنگ، لال لال بڑی بڑی ہزن کی سی آنکھیں۔ نورانی چہرہ رعب دار۔ سفید ریش، کشیدہ قامت حب دنیا سے دل خالی یاد الہی میں سرگرم دنیا سے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ خدا سے لو لگائے۔ ایک مسجد میں معطلی بچھائے ممبر سے سہارا لیے بیٹھا ہے۔ ارد گرد صوفیاء اور طلباء کا مجمع ہے۔ پیر و امیر و فقیر حلقہ کئے ہوئے جیسے چاند کے گرد ہالہ میں بیٹھے ہیں۔ کوئی حدیث کا درس لیتا ہے۔ کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے کسی طرف متوجہ ہوئے ہر ایک استنثار حال فرما سائل کا جواب دے رہے ہیں۔ کوئی کسی مسئلہ میں استنثا کرتا ہے۔ کوئی حاجت روائی کی دعا مانگتا ہے۔ ہر ایک کو جواب با صواب دے کر تشفی فرماتے ہیں۔ موذن نے نماز عصر کی اذان دی۔ صدائے اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی سب اپنا اپنا کام چھوڑ کر کتابوں کو طالب علم خلاف کر کے نماز کے واسطے آمادہ ہو گئے۔ وضو کی تیاریاں کرنے لگے۔ اقامت کہی گئی۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوئی بعد انقراغ نماز و دعا پیر مرد (بزرگ موصوف) نے کچھ کلمات بطور وعظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے کچھ دیر قال اللہ وقال الرسول کا ذکر رہا پھر محن مسجد میں بطور چہل قدمی ٹہل رہے تھے۔ ایک مسافر تازہ وارد قطع و وضع سے جو متوسط درجہ کا انسان معلوم ہوتا ہے۔ وارد ہوا۔

مسافر..... سلام علیکم!

بزرگ..... وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

مسافر نے آلتابہ پانی کالیا۔ وضو کر کے نماز ادا کی۔ ایک گوشہ مسجد میں بیٹھ گیا۔

اخون صاحب..... (وہی بزرگ) فارسی زبان میں جوان کی مادری زبان تھی) تم مسافر معلوم ہوتے ہو۔

مسافر..... حضرت کا قیاس درست ہے آہلیہ تو ہمارے ناول کے ہیرو و حکیم صاحب ہیں۔ یہاں کہاں۔

اخون صاحب..... آپ کا کیا نام ہے اور کہاں رہتے تھے۔

مسافر..... مجھے غلام احمد کہتے ہیں۔ اور گود اسپور کے ضلع میں ایک موضع قادیان ہے وہاں رہتا ہوں۔

اخون صاحب..... یہاں کس تقریب سے آنے کا اتفاق ہوا۔  
 مرزا صاحب..... (مسافر) حضرت کی توجہ باطنی کی کشش یا تصرف ہے۔ ایک مدت سے حضرت  
 کے اوصاف حمیدہ سنتا تھا۔ قدم بوسی کا مشتاق تھا۔ مکروہات زمانہ خارج کار تھیں۔ آج بفظلمہ تعالیٰ  
 امید برآئی۔ مراد پوری ہوئی۔

اخون صاحب..... میں کیا اور میرے اوصاف کیا آخر میں بھی اس کا ایک بندہ ہوں۔ جیسے کہ تم ہو  
 میرے خیال میں کوئی ماہہ الا تیار نہیں۔ ان اگر مکرم عند اللہ اتفاق میں تو گناہ گار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے  
 مجھ کو اور آپ کو اور سب مسلمان بھائیوں کو توفیق کی توفیق دے دے۔

حاضرین جلسہ آمین! آمین! آمین!!!

مرزا صاحب..... میں مدت سے حضرت کی ملاقات کی آرزو رکھتا تھا۔ آج حسن اتفاق سے میسر آئی۔  
 اخون صاحب..... جزا کم اللہ آپ کیا کام کرتے ہیں۔

مرزا صاحب..... میرے والد میرزا غلام مرتضیٰ صاحب رئیس قادیان زمین دار ہیں۔ میں پہلے ضلع  
 سیالکوٹ میں ملازم تھا۔ تنخواہ قلیل میں اوقات بسری نہیں ہوتی ہے۔ استعفیٰ دیا قانون یاد کیا۔  
 دکالت کا امتحان دیا۔ تقدیر سے اس میں بھی ناکامی رہی۔

اخون صاحب..... اگر دنیا بانشاء درد مندیم دگر باشد بمرہش پائی چندیم بلائے این جہاں آشوب  
 برنت کہ درنج خاطر است۔

آپ مرزا صاحب کے صاحب زادہ ہیں۔ وہ تو ایک رئیس آدمی ہیں۔ گھر کام ہی بہت  
 ہے۔ اگر قناعت ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا۔ اب کیا ارادہ ہے۔

مرزا صاحب..... میرا ارادہ نوکری وغیرہ کا تو ہے ہی نہیں۔ تو کل پر گزارہ کرنا چاہتا ہوں۔  
 رجوعات اور فتوحات کی دعا کا خواستگار ہوں۔ دعا فرمادیں۔

اخون صاحب..... اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے ارادہ میں ثابت قدم رکھے اور برکت دے تم گھر کے  
 رئیس ہو۔ خدا کا فضل ہے۔ اگر نیک نیتی سے کام لو تو خدا اسی میں برکت دے گا۔

مرزا صاحب..... میرا قصد ہے کہ میں مخالفین اسلام کے جملہ مذاہب کے رد اور ابطال میں  
 کتابیں۔ اثبات حقیقت اسلام و کتاب اللہ و سنت خیر الانام لکھ کر شائع کروں۔ بقیۃ العر کا حصہ اپنا  
 اسی مشغل اور اشغال میں بسر کروں۔

اخون صاحب..... جزاک اللہ! چھاعزم ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت خیر کی توفیق دے۔ اور برکت عطا

فرمائے۔ آپ کو کیا مشکل ہے۔ عنایت ایزدی سے صاحب اقتدار ہو۔ اور جب یہ کارخانہ چل پڑے گا۔ تو چنداں بار بھی تم پر نہ پڑے گا۔ ایسی کتابوں کے خریدار اب اس گئے گزرے زمانہ میں بھی اسلام کی قدر کرتے ہیں۔ اپنا خرچ وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ درکار خیر حاجت ہیچ استخارہ نیست..... اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حمایت کا قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے۔

مرزا صاحب..... یہ ارشاد تو بجا ہے۔ مگر ابتداء میں اس کار کے واسطے روپیہ کی اشد ضرورت ہے۔ اور روپیہ معلوم اور اس کا انتظار دشوار جائیداد بالکل رہن منکول ہے۔ اگر خدا نخواستہ والد ماجد کی اب آنکھیں بند ہو جائیں تو اغلباً تمام جائیداد بیع فروخت کے کرنے پر بھی بارِ قرضہ سے سبک دوش ہونا قرین قیاس نہیں۔ والد صاحب کا ہیروئی مقدمات میں ستر ہزار روپیہ کے قریب خرچ ہوا ہے۔

اخون صاحب..... بہر کار یکہ ہمت بستہ گردو اگر خاری بود گلہ ستہ گردو

اس عرصہ میں شام ہوگئی آفتاب غروب ہوا۔ مؤذن نے اذان دی۔ مغرب کی نماز جماعت سے ادا ہوئی۔ اخون صاحب اور میدان باغلاص وردو طائف میں مصروف ہوئے۔ کوئی مراقبہ میں بیٹھا تھا۔ کوئی ذکر و اذکار میں مشغول تھا۔ طالب علم چراغ کی روشنی میں اپنا اپنا سبق یاد کر رہے ہیں۔ کھانا آیا سب نے مل کر کھایا عشاء کی نماز کے بعد اخون صاحب اندر زنان خانہ میں تشریف لے گئے۔ مرزا صاحب کے واسطے بسترہ وغیرہ کا انتظام کیا گیا۔ رات کو آرام کیا۔ صبح کے وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوئی اخون صاحب نے دعا سے فارغ ہو کر وعظ کے طور پر کچھ بیان فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق و استغفر لذنوبک و سبح بحمد ربک بالعشی و الابرار اس آیت میں صبر اور استغفار اور تسبیح اور تحمید کے واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے علاوہ بہت جگہ صبر اور تقویٰ اور استغفار اور تسبیح اور تحمید کے واسطے فرمایا ہے۔ جیسا کہ یوسفی الصابرون اجرہم بغیر حساب حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ترازو کھڑی کی جائے گی اور ہر ایک عمل کا بدلہ قول کر دیا جائے گا مگر صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب دیا جائے گا۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ پورا دیا جائے گا ثواب بے شمار اور استغفار کے فضائل احادیث میں بہت بیان ہوئے ہیں حضرت رسول کریم ﷺ دن میں سو بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ بندہ ہر دم تصور وار ہے اپنے حالات کے موافق ہر شخص کو استغفار پڑھنی چاہیے۔ استغفار کے معنی طلب بخشش کے ہیں اور وہ کبھی محض من توبہ ہوتی ہے۔ اور کبھی نہیں جیسا کہ کہا جاوے توبہ استغفار کرو اور استغفار زبان سے ہوتی ہے۔ اور توبہ دل سے اور توبہ کے معنی ہیں پھرنا گنا

ہوں سے طرف اطاعت کے اور غفلت سے طرف ذکر کے اور غیبت سے طرف حضور کے اور بخشش اللہ کے بندہ کے لیے یہ ہے کہ دنیا میں اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کر کے رسوا نہ کرے اور آخرت میں پردہ پوشی گناہوں سے فرما کر اس کی گناہوں پر عذاب نہ کرے پس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور نبی کریم ﷺ کو فرمایا کہ صبر کر اپنی قوم کے ایذا پر وعدہ اللہ کا یعنی تیرے پروردگار کا سچا ہے یعنی تیری مدد کرنے کا تیرے بول ماننے کا اور تیرے دشمنوں کے ہلاک کرنے کا یہ حکم بخشش مانگنے کا فرمایا کہ زیادہ ہو بسبب اس کے درجہ اور قرب حضرت کا اور سنت ہو امت کے واسطے اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ بخشش مانگ اپنی امت کے گناہوں کے لیے، حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا آنحضرت ﷺ نے کہ میرے دل پر ایک پردہ سا آجاتا ہے۔ اس میں بخشش مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دن میں ستر بار، اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ استغفار حضرت ﷺ کے واسطے زیادتی قرب حق میں وارد ہے۔ بھائیو بموجب حکم اللہ تعالیٰ تو بوبو الی اللہ جمیعاً کی ہر بندے پر واجب ہے۔ کیونکہ ہر ایک شخص بحیثیت حال و مرتبہ اپنے مرتبہ کے گناہ اور چوک سے خالی نہیں۔ پس ہر ایک کو لازم ہے۔ کہ تمام گناہوں گزشتہ سے توبہ کرے اور بخشش چاہے۔ اور آئندہ کو تمام گناہ ترک کرے۔ اور صبح شام و استغفار کا ورد کرے تاکہ کفارہ ہوتا رہے تمام گناہوں کبیرہ و صغیرہ کا قصد اٹکے ہوں یا خطایا یا سہوا اور بسبب شوخی گناہوں کے توفیق اطاعت سے محروم نہ رہے اور ظلمت اصرار کے گناہ پر دل کو بالکل گھیر نہ لے اور کفر اور دوزخ کو نہ پہنچ جائے، حدیث شریف میں استغفار کے فائدے بہت آئے ہیں۔

فرمایا رسول اللہ ﷺ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجاً و من کل ہم فرجا و رزقہ من حیث لا یحسب یعنی جو کوئی لازم کرے استغفار کو مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے واسطے ہر تنگی سے راہ نکلنے کی اور ہر غم سے خلاصی اور روزی دیتا ہے اس کو اس جگہ سے کہ گمان نہیں رکھتا۔ اور دوسری جگہ فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیۃ استغفار کثیر یعنی خوشحالی اس کے لیے ہے کہ پائے اپنے اعمال نامہ میں استغفار بہت اور یہ فضیلت اس لیے ہے۔ کہ جو کوئی مداومت کرتا ہے استغفار کی تو اس کا دل تعلق اور اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اور بخشے جاتے ہیں گناہ اس کے اور حکم متقی اور متوکل میں آجاتا ہے۔ اور اس کی شان میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے۔

ومن یتق اللہ یجعل له مخرجاً و یرزقہ من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ترجمہ جو ڈرتا ہے اللہ سے گردانتا ہے اس کے لیے نکلنے کی ہر ایک تنگی سے اور رزق دیتا ہے اس کو اس جگہ سے جہاں سے گمان نہ ہو اور جو اعتماد کرتا ہے۔ اللہ پر

بس وہ کافی۔ اور غرض ہماری اس بیان سے یہ ہے کہ صبر اور تقویٰ اور توکل جس کو حاصل ہو جائے اس کے واسطے اللہ کافی ہے۔ اور واسطے تنقار کی مداومت سے یہ باتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا کوئی کام نہیں رہتا۔ جو دنیا چاہے گا اللہ تعالیٰ دنیا دے گا۔ اور جو آخرت چاہے گا اس کو آخرت دے گا۔ اور دنیا میں بھی برکت دے گا۔ من کان یرید حرث الاخرة نزلہ فی حرثہ و من کان یرید حرث الدنيا نوتہ منها و ما لہ فی الاخرة من نصیب

مرزا صاحب کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور اس کے توکل سے چنگل مارو اس سے بہتر کوئی عمل کوئی وظیفہ فتوحات اور رجوعات کے واسطے نہیں۔

چوں از دستہ شستی ہمہ چیز از تو گشت

سورج نکل آیا چار رکعت نماز نفل پڑھ کر زنان خانہ میں تشریف لے گئے مرزا صاحب رخصت ہوئے۔

## باب ۹ نم

### لاہور کی چنیاں والی مسجد

مسجد کے صحن میں چند صاحب صالح صورت نیک سیرت علماء و فضلاء کا مجمع ہے۔ ان کی قبل و قال اور صورت و حال سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ صاحب حمایت اسلام اور ترقی دین خیرا نام میں ہمہ تن سرگرم ہیں۔ ایک طرف مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب بناہولی تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے برابر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی رونق افروز ہیں۔ ارد گرد انہیں بائیں سامنے اور بہت صاحب جمع ہیں کچھ عالم معلوم ہوتے ہیں۔ کچھ طالب علم۔

مرزا صاحب کچھ اخبار سادہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اشتہار پر نظر پڑی۔ کسی دوائی کی تعریف میں کالم کے کالم سیاہ۔ خدائی کا دعویٰ مسیحا کی معجزہ کا ادعا بیمار کا اچھا ہونا تو کیا ایک معمولی بات ہے۔ صد سالہ مردہ ایک قطرہ منہ میں ڈالنے سے زندہ ہو جائے۔ اگر زندہ کھالے موت کے ذائقہ سے کبھی آگاہی نہ ہو۔ مسکرا کر مولوی صاحب کو مخاطب کر کے کمال کیا ہے۔ کوئی لفظ اور کلمہ تعریف کا باقی نہیں چھوڑا۔

مولوی صاحب..... آپ نے ایک اشتہار دیکھ کر حیرانی ظاہر کی ہے۔ جناب کوئی اخبار اور کتاب آپ نہ دیکھیں گے۔ جس میں کسی نہ کسی شے کا اشتہار نہ ہو۔ پہلے انگریزی کارخانوں میں یہ دستور تھا۔ اب نئی تعلیم کا اثر ہندوستان میں ہو گیا ہے۔ اردو اخباروں کی روز بروز ترقی ہے۔ اور تہذیب



کے ساتھ لوگ گرہ کترتے ہیں۔

مرزا صاحب..... یہ لیجیے یہ کتاب کا اشتہار ہے۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ تعریف کے پل بانہ دیے ہیں۔ آدم سے تا ایدم کوئی ایسی کتاب نہیں ہوئی۔ اور نہ آئندہ ممکن قلم توڑ دے ہیں۔ اب فرمائیے اب اسی کے بعد کوئی کیا لکھ سکتا ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہوئے خدا سے بھی نہیں شرماتے۔ مولوی صاحب..... حضرت ابھی کیا ہے۔ چند روز لاہور میں قیام رہا تو آپ واقف ہو جائیں گے۔ دنیا کمانے کے ڈھنگ ہیں تہذیب کا زمانہ ہے۔ تعلیم کی وجہ سے ہر شخص اپنے فطرتی جوش کی ترقی کر سکتا ہے نیک نے نیکی کی بد نے بدی کی۔

مرزا صاحب..... ہنس کر یہ لیجیے یہ ایک نئے مضمون کا اشتہار ہے۔ ہم کو آلو خریدنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص آلو فروخت کرنا چاہے۔ پاد سیر آلو نمونہ کے اور نرخ ہمارے پاس بھیج دے۔ جس کے آلو سب سے بڑے ہوں گے نرخ کے مطابق خریدے جائیں گے۔

مولوی صاحب..... دیکھا اس میں مشتہر نے کیا چالاکی کی ہے۔ ہزار ہا آڈی نمونہ بھیج دیں گے۔ ان کے پاس کئی من آلو جمع ہو جائیں گے۔ ایک سے خرید لیے تو کیا۔  
مرزا صاحب..... لوگوں کو خوب دور کی سمجھتی ہے۔

مولوی صاحب..... آپ نے جو اشتہار براہین احمدیہ کا شائع کرایا ہے۔ کچھ درخواستیں خریداری کی آپ کے پاس آئیں۔

مرزا صاحب..... ابھی تک کچھ نہیں (کیا آلوؤں سے بھی گر گئی) میرا ارادہ ہے کہ میں ایک اشتہار شائع کروں۔ کہ یہ کتاب ایسی لا جواب ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس کا جواب لکھے گا۔ اس کو ہم دس ہزار روپیہ انعام دیں گے۔

مولوی صاحب..... اگر آپ کے خیال میں وہ کتاب ایسی ہے۔ تو پھر یہ اشتہار کس دن کے واسطے رکھ چھوڑا ہے۔ کارامرو زراہ فرمائیں۔ اور دیگر اصحاب جلسہ کی طرف خطاب کر کے آپ صاحب بھی اس کا خیر میں سعی فرمادیں۔ اور امداد کریں۔ سب صاحبوں نے وعدہ کیا اور جلسہ برخواست ہوا۔

اب مرزا صاحب کالاہور میں قیام ہے اور مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب کا ربط ضبط بڑھا ہوا ہے۔ اور فشی الہی بخش اکونٹ اور بابو عبدالحق صاحب اور حافظ محمد یوسف صاحب ضلع دار وغیرہ وغیرہ معاونین ہیں عمائد شہر کی آمد رفت شروع ہو گئی ہے۔ مشورے ہوتے ہیں۔ تدبیریں کی جاتی ہیں۔ کبھی آریوں سے مباحثہ کی چھیڑ چھاڑ ہے کبھی سیاستوں کو حل من مبارز کی صدا سنانی جاتی

ہے۔ کبھی سکھوں کو مقابلہ کے واسطے ڈانٹتے ہیں۔ کوئی گھر کوئی جگہ نہیں۔ کہ جس جگہ مرزا صاحب کا ذکر نہیں۔ ہر گلی کوچہ بازار میں مرزا صاحب ہی مرزا صاحب ہیں۔ کہیں مناظرہ کا تذکرہ، کہیں حمایت اسلام کا بیان، کہیں زہد و تقویٰ عبادت و ریاضت کا اظہار ہے۔ کوئی وقت مرزا صاحب کو دربار داری سے فراغت نہیں۔ یہ گیا وہ آیا۔ دس بیس کا ہر وقت جم گھاگا رہتا ہے۔ مرزا صاحب کسی سے جواب کا بیان فرما رہے۔ اور کس کو الہام سنار ہے ہیں۔

مولوی محمد حسین صاحب والہی بخش صاحب و بابو عبدالحق صاحب وغیرہ آپ کی مدح میں رطب اللسان ہیں۔ ان کی مدح سرائی سونے پر سہاگہ کا کام کر رہی ہے۔

ہر وقت میلہ لگا رہتا ہے۔ آریوں کا سلسلہ نیا ہی نیا ہے اور آریہ سماج تیار ہوتے ہیں۔ مسٹر عبد اللہ آتھم پنشن لے چکے ہیں۔ لیڈر قوم کہلانے کے نام پر مٹے ہوئے ہیں۔ اور سکھوں کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی واعظ شام کو بازار میں آجاتا ہے۔ مرزا صاحب ہیں۔ کہ آج نراین سنگھ سے جا ڈٹے ہیں۔ کل کسی پادری سے جا ٹکرائے آج کسی آریہ سے منہ بھر ہو گئے کچھ دن یہ چہ چارہا وکیل اسلام کے نام سے نامزد ہو گئے۔ اور اشتہارات سلسلہ بھی جاری ہو گیا ہے۔ کہیں شی اندر من مراد آبادی کو ڈانٹ بتلائے جاتے ہیں۔ کہیں فلاسفوں کو لٹکارتے ہیں۔ کبھی عیسائیوں کبھی دہریوں کو بلایا جاتا ہے کبھی کسی نیچری کو سمجھایا جاتا ہے۔ کہیں براہین احمدیہ کا اشتہار ہے کہیں سرمہ چشم آریہ کا مرادہ۔

براہین احمدیہ کا اشتہار جاری کیا گیا کہ میں اسلام کا وکیل بن کر کل ادیان باطلہ کی صلاحیت کروں گا ہندو عیسائی۔ یہود۔ آریہ۔ سکھ وغیرہ وغیرہ پر اسلام کی حقیقت اور قرآن کے الہام الہی ثابت کرنے کے بارہ میں میں نے کتاب تصنیف کی ہے۔ اس کتاب میں سو دلائل عقلی جو قرآن سے نکالے گئے ہیں شائع کرنے ہیں۔ اور یہ کتاب سو جزو کی ہوگی۔ اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ یہ اشتہار بڑے جلی قلم سے لکھ کر لگا دیا۔ کہ جن انصاف سے جو شخص اس کتاب کا جواب دے گا۔ اس کو دس ہزار روپیہ انعام دوں گا۔

یہ اشتہار کیا تھا۔ گویا جادو کی پڑیا تھی۔ اور براہین احمدیہ کی پہلی جلد مکمل سبھی اشتہار ہے۔ اس اشتہار کے پڑھتے ہی مسلمان نہایت گرویدہ ہوئے۔

نہ تھا عشق از دیدار خیزد

لسہا کین دولت از گفتار خیزد

کی صدق نادیدہ اس کے عاشق زار اور مشتاق دیدار کیا والہ و شیداء ہو گئے۔

## باب ۱۰ اہم

ہر آنکھ زاوینا چار بایدرش نوشیدز جام دہر مئے کل من علیہا فان

ایک پختہ اینٹوں کی عمارت دو منزلہ کا مکان ہے۔ جو اس جگہ کی آبادی کی لحاظ سے خیال کیا جاتا ہے۔ کہ مالک اس مکان کا اس گاؤں یا قصبہ کا رئیس ہے۔ زنان خانہ کے قریب ایک مردانہ نشست کا مکان بنا ہوا ہے۔ آگے ایک وسیع دالان ہے اس کے پیچھے کوٹھا ہے۔ کوٹھے کے دروازہ کے آگے دالان کے وسط میں ایک چاپائی بچھی ہوئی ہے۔ چاپائی کے قریب ایک لکڑی کی چوکی جس کے بیچ میں سے ایک تختہ اور کٹا ہوا ہے۔ اور اس کے نیچے ایک برتن رکھا ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چوکی واسطے رفع حاجت ضروری کے رکھی ہوئی ہے۔ چار پائی پر ایک شخص سفید ریش، ضعیف العمر، سفید چادر اوڑھے ہوئے بڑا ہے۔ سر ہانے ایک خادم پکھا ہلا رہا ہے۔ اور چند آدمی دوسری چار پائی پر پاس بیٹھے ہیں۔ ایک شخص اٹھنی باہر سے آکر اندر داخل ہو کر اسلام علیکم۔

جماردار..... جو پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ولیم السلام غلام احمد تم آگئے یہ سن کر پیار نے منہ پر سے چادر اٹھائی آنے والے کی طرف دیکھ کر۔

پیار..... غلام احمد بیٹا آگئے خیر وعافیت، خط پہنچ گیا تھا۔

نو وارد..... نہیں خط تو نہیں پہنچا۔ میں نے آپ کو خواب میں پیار دیکھا تھا۔

پیار..... ہاں مجھ کو چچس نے ہلاک کر دیا۔ اب کل سے کچھ افاقہ ہے افسوس دنیا بہت ناپائیدار ہے۔ عمر بگذشت و نماں دست جز ایامی چند کہ در یاد کے صبح کلم و شامی چند سخت حسرت کا مقام ہے جس قدر میں نے اس پلید دنیا کے لیے سعی کی ہے۔ اگر میں وہ سعی دین کے لیے کرتا تو شاید آج قطب وقت یا غوث ہوتا۔ دنیا کی بے ہودہ خرچوں کے لیے میں نے عمر ناحق ضائع کی۔ اب ہمارا وقت قریب ہے۔ اب جو دم ہے دم و امین سے (اپنی نبض پر ہاتھ رکھ کر) ضعف بہت ہو گیا ہے۔

نو وارد..... (پیار یعنی اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر اور نبض دیکھ کر) ہاں ضعف تو ہونا چاہئے تھا۔ یہ مرض جوان آدمی کو ضعیف بنا دیتا ہے اور آپ کا تو متعظنا نہیں ہے۔ مگر اب افاقہ ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہوتے ہی پھر طاقت عود کر آئے گی۔

باپ یعنی پیار۔ ایک آہ کھینچ کر

شب وصال جو قسمت میں ہے تو ہودے کی

دعا کرو شب فرقت کہیں سحر ہودے

یہ تو اب امید نہیں کہ طاقت عود کرے۔ خیر جو اس کو منظور ہے وہ کرے مگر اس تکلیف سے تو نجات دے۔

بیٹا..... آپ گھبراتے کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شافی مطلق ہے۔ اس کے نزدیک کوئی بات انہونی نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔

باپ..... اچھا تم سفر سے آئے ہو گری کا موسم ہے۔ تھوڑی دیر جا کر آرام کر لو۔ بیٹا..... بہت بہتر کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک چوبارہ پر چڑھ کر آرام کیا۔ آٹھ لگ گئی۔ شام کو اٹھ کر پھر باپ کی بیمار داری میں مصروف ہو گیا اگلے دن باپ نے وفات کی۔ رسوم کے موافق تجھیرو تکفین کر کے متوفی کی وصیت کے مطابق مسجد کے گوشہ میں دفن کیا گیا۔

اب مرزا صاحب کی لاہور کے قیام اور اشاعت اشتہارات سے شہرت ہو گئی ہے رجوعات بھی ہوتی ہے۔ ایک ہندو ششی روز نامہ چھ لویس جو روزمرہ کے الہام قلم بند کرے۔ نوکر رکھا گیا کہ مرزا صاحب کے الہامات کا تذکرہ کرے۔

ہر وقت صبح شام الہام کا ذکر ہے۔ کوئی دعا کے واسطے آتا ہے کوئی دوا کو لالہ شرم بت رائے اور ملاوٹل صاحب بھی ہر وقت موجود رہتے ہیں۔

مولوی محمد حسین صاحب اور منشی عبدالحق اور بابوالہی بخش صاحب فراہمی چندہ براہین میں ساعی اور کوشاں ہیں۔

مرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم (ان کے والد) ان کے ارادوں سے خارج تھے۔ اب وہ روک ٹوک جاتی رہی ہے۔ اب کوئی اخبار یا کوئی رسالہ نہیں جس کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی لہم ربانی جلی قلم سے لکھا ہوا نظر نہ آتا ہو۔

براہین احمدیہ کا پہلا حصہ یعنی جلد اول جو اشتہار انعام دس ہزار بڑی پرکار قلم کا لکھا ہوا صفحہ میں چار سطر اور سطر میں چار لفظ چلو ۸۲ صفحہ کی ایک کتاب خریداراں کے پاس پہنچ گئی ہے۔

خریداران ہیں کہ شوق میں دیوانہ وار پھرتے ہیں۔ تقاضا ہو رہا ہے۔ کہ جلد یہ کتاب پوری ہو۔ اور ایک عالم اس کتاب کا مفتون و معتقد ہے۔

چاروں طرف سے منی آرڈر آرہے ہیں۔ غرض کہ دس ہزار روپیہ برائے احمدیہ کے پیشگی قیمت کا مرزا صاحب کو وصول ہو چکا ہے اور کتاب نثاروں۔

جب بہت تقاضا ہوا۔ تو چار جلدیں تیار ہوئیں۔ اور ان چاروں میں ان تین سو دلائل

میں سے جن کے درج کر دینے کا اظہار کیا تھا۔ ایک دلیل بھی پوری بیان نہیں کی صرف چند تمہید باتوں کو مختلف ہیرائیوں نظم اور نثر میں ٹکرا کر ساتھ لکھ کر خریداروں کو تسلی کر دی۔

جب خیال آیا۔ کہ اس کتاب کی بقیہ جلدوں کا خارج اور نفس الامر میں بجز اپنے خیال کے کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ اور تین سو دلائل کا تو اپنے خیال میں بھی۔ وجود نہیں لہذا ان بقیہ حصوں کتاب کا چھاپنا ناممکن ہے۔ اور اس روپیہ کا جو اس کے عوض میں لیا گیا ہے۔ ہضم ہونا مشکل تو اس کتاب کی تیسری اور چوتھی جلد میں الہام بازی شروع کر دی اور اپنے خریداروں اور معتقدوں کی توجہ عقلی دلائل کی طرف سے اپنے الہامات کی تماشے کے طرف منحطف فرمادی۔

اور نیز خریدار ان کا دل بہلانے اور ان کے دماغ سے تین سو دلائل اور باقی حصوں کتاب کا اچھی طرح بھلانے کی عرض سے چند رسالے سرمہ چشم آریہ اور شحنتہ حق وغیرہ جن میں متفرق مسکوں پر بحث کی گئی ہے۔ شائع کر دے۔ اور ان جلدوں پر اپنی اور اشتہارات میں ہندوؤں کو کوسنا اور ان کے بیہوشیوں کو گالیاں دینا اور اپنے الہامات میں دھمکانا اور الہامی قتل سے ڈرانا اور ان کے معبودوں کو برا کہنا شروع کیا۔ (اشاعت السنۃ نمبر اول جلد ۱۸)

پنڈت لکھرام پشاوروی اور منشی اندر من مراد آبادی کو مباحثہ کے واسطے مخاطب بنایا اکثر علماء اسلام مقلدین نے مرزا صاحب کے خلاف بساط مخالفت آراستہ کی مگر مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب بنا لوی نے ریویو پر اپنی احمدیہ میں ان کو امکانی ملیم اور ولی قرار دے کر ان کا اعتبار جمادی مسلمانوں کو اکڑنے نہ دیا۔

### حاشیہ چہات

۱۔ (براجین احمدیہ میں ۱۹۷۶ء، خزائن ج ۱ ص ۵۶۷) ”کیونکہ یہ انتظام اس عاجز نے پہلے سے کر رکھا تھا۔ کہ جو کچھ ڈاکخانہ میں خط وغیرہ آتا تھا اس کو خود بعض آریہ ڈاک خانہ سے لے آتے تھے اور ہر روز ہر ایک بات سے مطلع ہوتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ اور ایک پنڈت کا بیٹا شام لعل نامی جو ناگری اور فارسی دونوں میں لکھ سکتا تھا۔ بطور روز نامہ نویس کے نوکر رکھا ہوا تھا۔ اور محض امور غیبیہ جو ظاہر ہوتے تھے۔ اس کے ہاتھ سے وہ ناگری اور فارسی میں قتل از وقوع لکھائے جاتے تھے اور پھر شام لال مذکور کے اس پر دستخط کرائے جاتے تھے۔“

۲۔ کیونکہ اشاعت السنۃ نے قادیانی کے دعاوی۔ حمایت اسلام اور مقابلہ مخالفین اسلام و وعدہ تائید دین۔ بہ نشانہائے آسمانی و نصرت اصول اتفاقی اسلامی سے دھوکہ میں آکر ریویو پر اپنی

احمدیہ مندرجہ نمبر ۷ وغیرہ جلد ۷ میں اس کو امکانی ولی و ملہم بتایا۔ اور لوگوں میں اس کا اعتبار جمایا تھا۔  
اشاعت السنہ نمبر ۳ جلد ۱۳ صفحہ ۳۔

۳ (فتح الاسلام ص ۴۹، خزائن ج ۳ ص ۲۹، ۳۰) ”میں نے سنا ہے۔ کہ بعض ناواقف یہ الزام میری نسبت شائع کرتے ہیں۔ کہ کتاب براہین احمدیہ کی قیمت اور کسی قدر چندہ بھی قریب تین ہزار روپیہ کے جو لوگوں سے وصول ہوا مگر اب تک کتاب تمام و کمال طبع نہیں ہوئی۔ میں اس کے جواب میں ان پر واضح کرتا ہوں کہ روپیہ جو لوگوں سے وصول ہوا وہ صرف تین ہزار نہیں بلکہ علاوہ اس کے اور روپیہ بھی شاید قریب دس ہزار کے آیا ہوگا۔ کہ جو نہ کتاب کے لیے چندہ تھا۔ اور نہ کتاب کی قیمت میں دیا گیا۔ بلکہ محض دعا کے خواستگاروں نے محض نذر کے طور پر دیا یا بعض دوستوں نے محض محبت کی راہ سے خدمت کی۔ سو وہ سب اس کارخانہ کے لاہدی اور پیش آمدہ کاموں میں وقتاً فوقتاً خرچ ہوتا رہا۔ اور چونکہ حکمت الہی نے سلسلہ تالیف کتاب کو تاخیر میں ڈالا ہوا تھا۔ اس واسطے اس کے لئے دوسری اہم شاخوں سے جو باہر الہی قائم تھیں۔ کچھ بچت نکل نہ سکی اور تاخیر طبع کتاب میں حکمت یہی تھی کہ تاکہ اس فترت کی مدت میں بعض دقائق اور حقائق مولف پر کامل طور پر کھل جائیں۔“ (نقل عبارت خط حکیم نور الدین مندرجہ، فتح اسلام ص ۶۱، خزائن ج ۳ ص ۳۶)

”اگر خریداران براہین کے توقف طبع کتاب سے مضطرب ہوں۔ تو مجھے اجازت فرمائیے کہ اونی خدمت بجلاؤں کہ ان کی تمام قیمت ادا کر دہ اپنے پاس ہی سے واپس کر دوں۔ حضرت پیر و مرشدنا بکا شرم شاعر عرض کرتا ہے۔ اگر منظور ہو تو میری سعادت ہے میرا منشاء ہے۔ کہ براہین کے طبع کا تمام خرچ میرے پر ڈال دیا جائے۔“

(آئینہ کمالات ص ۶۰۱، خزائن ج ۵ ص ۵۵ ایضاً) ”اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام حقوق پر خدا تعالیٰ کا حق غالب ہے اور ہر ایک جسم اور روح اور مال اسی کی ملک ہے۔ پھر جب انسان نافرمان ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ملک اصل مالک کی طرف عود کرتی ہے۔ پھر اس مالک حقیقی کو اختیار ہوتا ہے۔ کہ چاہے۔ تو بلا واسطہ رسل نافرمانوں کے مالوں کو تلف کرے اور ان کی جانوں کو معرض عدم میں پہنچادے اور یا کسی رسول کے واسطے سے۔ یہ جلی قہری نازل فرماوے بات ایک ہی ہے۔“

۴ (شخص حق ص ۱۳، خزائن ج ۲ ص ۳۴۵) میں آپ آریہ کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے اپنی لڑکی کا رشتہ تو نہیں کرنا ہے۔ کہ میری جائیداد تحقیق کرتے پھرتے ہو۔ ایسا ہی (سرمہ چشم آریہ ص ۴۹، خزائن ج ۲ ص ۹۷) میں آریوں کی لڑکیوں کا ذکر کر دہ طور پر کیا ہے۔ (اشاعت السنہ نمبر ۳ ج ۱۳ ص ۱۳)

## باب ایاز دہم

### قادیان کانگر خانہ

نہ مثل کہتے تھے ہر چند بڑے اور چھوٹے کہ برستا نہیں وہ جو کہ بہت سا گر بے  
پر یہاں دیکھا تو وہ صاف ہی جھوٹی نکلی رات بھرنا لے کئے ہم نے تو دن بھر اونے  
جس طرح شام سے گر بے تھے سحر تک برسے

اب مرزا صاحب کے دربار میں لالہ شرم پت رائے اور لالہ ملا دال صاحب ہندو آریہ  
شہادت الہام کے واسطے موجود۔ اور منشی شام لعل۔ روزنامچہ نویس جو روزمرہ کے الہام تحریر کرتا  
ہے۔ اور اس پر اس کے دستخط ہوتے ہیں ملازم ہے۔ مریدوں کا بھی جم گٹھا ہو گیا ہے۔ اور  
خوشامدی مفت خورے قورمہ پلاؤ کھانے والے ہاں میں ہاں ملانے والے پرکا کو اتانے والے  
بھی جمع ہو گئے ہیں۔

لنگر جاری ہے کہ آیا، گیا، بے تکلف مرزا صاحب کے باورچی خانہ سے کھانا کھائے۔  
لوگوں کی آمد و رفت ہو گئی ہے کوئی کھانے کا صدائے عام سن کر آتا ہے کوئی حاجت مند دعا کے  
واسطے آتا ہے۔ مرزا صاحب کے حکیم ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں حکیم ابن حکیم ہیں کوئی دوا کو  
کوئی دعا کو آتا ہے۔ مہم اور مستجاب الدعوات اشتهاروں اور شہادتوں نے نزدیک و دور مشہور کر دیا  
ہے۔ کوئی آئندہ حالات کا استفسار کرتا ہے۔ غرض نذر نیاز اور چڑھاؤ بھی چڑھنے لگ گیا ہے۔ صبح  
شام و بار ہوتا ہے۔

۱..... مصاحب: پیر و مرشد عاجز نے بڑھے بڑھے بزرگوں اور صوفیوں اور درویشوں کی  
صحبت اٹھائی ہے۔ خدا کی قسم یہ بات یہ تاثیر یہ کیفیت یہ برکت کہیں بھی نہیں سبحان اللہ و بحمدہ یہاں  
درد و یوار سے لور ہی نور برستا ہے۔

۲..... جناب میں مدتوں امیر شریف میں خواجہ بزرگ کی بارگاہ میں رہا ہوں اچھے اچھے  
بزرگ اور درویش کامل صاحب کرامت رہتے ہیں۔ مگر یہ بات کسی میں بھی نہیں حضرت میں تو  
آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ مجھ کو مرید بنا لیجیے۔ سب سے اول بندہ ہے۔

مرزا صاحب..... ابھی ہمیں کس کو دست بیچ کرنے کا حکم نہیں ہوا جب تک اس بارہ میں کوئی الہام  
نہ ہو۔ صبر چاہیے۔

حاضرین..... ہم لوگوں کا شوق اب صبر کی رخصت نہیں دیتا۔

عاشق سے ہوتا ہے کہیں صبر و تحمل  
تو کام وہ کہتا ہے جو آتا نہیں مجھ کو

خوشامدی..... بندہ درگاہ تہجد کے بعد جو مصلیٰ پر پڑا ہوا تو غافل ہو کر فوراً ایک صحرائق ووق میں داخل  
لیکن فردوس برین اس کے رو بروے دشت پر خانہ نظر آئے شرم کے مارے منہ نہ دکھائے۔ چاروں  
طرف سے گلاب اور کیڑہ کی لہٹیں چلی آتی ہیں۔ دل کو فرحت و مانع کو طاقت پہنچاتی ہے۔

یہ ایک آسمان سے روشنی کے آثار نمودار ہوئے اور پر جو دکھتا ہوں۔ ایک قندیل بیچے کو  
آتا ہے۔ اس کے بعد وہ سراسر اچھوٹا تھا۔ پانچواں ہزار ہا قندیل جھلکیا ایمن میں بے تکلف سوئی  
میں تا گا ڈال لو۔ کبھی کی ایک ایک آنکھ گن لو۔

مگر مجھ پر سایہ کا کام آگئی۔ بدن کا بند بند بید کی طرح کانپ گیا۔ اپنے سر و پا کا ہوش نہ  
رہا ایک ایک پاؤں سو سو من کا ہو گیا۔ بھاگنے کو قدم اٹھاتا ہوں۔ ٹھوکر کھا کر گراتو بے ہوش۔ ہوش جو  
آتا ہے۔ ایک دربار لگا ہوا ہے۔ میرے ارد گرد آدمی ہیں۔ کوئی گلاب چمڑکتا ہے لحافہ نکھاتا ہے۔  
..... تم کون ہو بھائی کیونکر آئے۔

میں..... میں میں مجھ کو۔

..... ۲ اسے کیا پوچھتے ہو حضور میں لے پہلو کسی نے میری کمر پر ہاتھ رکھ کر خبردار ہوشیار ہو  
جاؤ۔ سیزنک خشکی محسوس ہوئی۔ اور خوف کا فور۔ مڑ کر دکھتا ہوں ایک بزرگ نور مجسم ہے۔  
میں..... حضور کا اسم مبارک اے آمدنت، باعث آبادی ما۔ ذکر تو یوموز مہرہ شادی ما۔  
بزرگ..... ہمارا نام علی ابن ابی طالب۔ یہ رسول کریم کا دربار ہے۔

میں..... مجھ کو قریب سے زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ اور حضرت علی کے ہاتھ چومنے کو بڑھا۔  
بزرگ..... تم کو ہم لے چلتے ہیں۔ تمہارے مرزا صاحب موجود ہیں۔ اور تم کو بلاتے ہیں۔ میرا  
ہاز و کچڑ کر مجلس میں لے گئے۔ ایک تخت مرصع پر حضرت رسالت مآب سرور کائنات رونق افروز  
ہیں۔ اور تخت کے برابر کرسی کے اوپر ہمارے مرزا صاحب متمکن اور ارد گرد صحابہ کرام اپنے درجہ پر  
بیٹھے ہیں اور اتنے میں صراحی شربا طہور آئی۔ تقسیم کار شاد ہے۔

حضرت مرزا صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ پہلے ان کو پلاؤ اور خوب پلاؤ  
میں..... گلاس ہاتھ میں لے کر بیک جرعہ پی گیا۔

کان میں آواز اللہ اکبر آئی آنکھ کھلی گئی۔ وضو کر کے نماز پڑھی۔



حاضرین سبحان اللہ صلی علی کیا مبارک خواب ہے۔

مرزا صاحب..... الحمد للہ والمہدیہ یہ اس واہب بے منت کا احسان ہے ورنہ میں کہاں اور یہ نعمت غیر مترقبہ کہاں۔

اے خدا قربان احسانت شوم

وہ چہ احسان است قربانت شوم

مصاحب..... حضرت حضور کا مدارج قرب الہی ہیں۔ کوئی درجہ پڑھا ہے۔ قطب الاقطاب ہو گئے۔ خوشامدی..... اجی قلب کیا بلکہ غوث الاعظم۔

مرزا صاحب..... مراقبہ سے سراٹھا کر اس وقت ہم کو الہام ہوا ہے۔ اور خبر دی گئی ہے کہ تو (مرزا صاحب) اس صدی کا مہر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ الرحمن علم القرآن لتنذر قوماً ما انذر می اباء ہم و لتستبیتین سبیل العجمین قل انی امرت و انا اول المسلمین یعنی خدا نے تجھے قرآن سکھلایا۔ اور صحیح معنی تیرے پر کھول دیئے یہ اس لیے کہ تو ان لوگوں کو بد انجام سے ڈراوے جو بیاعث پشت و در پشت کی غفلت اور نامتنبہ کئے جانے کی غلطیوں میں پڑ گئے۔ اور تا ان مجرموں کی راہ کھل جائے۔ جو ہدایت پہنچنے کے بعد بھی راہ راست کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ ان کو کہہ دے کہ میں مامور من اللہ اور اول المؤمنین ہوں۔

کئی آدازیں حاضرین جلسہ سے آمنا و صدقا اور یکے بعد دیگرے بیعت ہونے کو بڑھے۔ اب مرزا صاحب نے چودھویں صدی کے مجدد ہونے اور دعوت بیعت کا اشتہار شائع کر دیا۔ ہمیشہ دربار منعقد ہوتا ہے۔ اور لوگ بیعت کرتے ہیں اور خواہیں بیان ہوتی ہیں اور مرزا صاحب کے مناقب سنائے جاتے ہیں۔

۱..... سبحان اللہ دیکھو دربار میں کیا رونق ہے۔ نور مجسم بلکہ نور علی نور

۲..... مجھ کو ابتدائے عمر میں صوفیا کی خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اور بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء اللہ کا دربار دیکھا ہے۔ مگر توبہ توبہ یہ بات کہاں۔

۳..... چہ نسبت خاک رابا عالم پاک۔ وہ لوگ دنیا کے طالب رہا پروردگار کا نداری کا ڈھنگ جاتے ہیں۔ روزی کا دھندا کرنے کو عبادت کے پردہ میں مکر بناتے ہیں۔ خدا سے اور معرفت سے مجبور نہ قرآن کی سمجھے نہ سنت سے واقف ان کا بیان کیا ذکر ہے۔

۴..... شیر قالین دگر و شیر نیستان دگر است: یہاں ہر دم خدا سے ہم کلامی جو زبان سے نکلتا ہے گویا وہ خدا کا کلام ہے۔

سید امیر علی..... حضرت رات جو تہجد کے بعد آنکھ لگ جائے۔ تو عجب نظارہ دیکھتا ہوں۔ کہ حضرت امام (مرزا صاحب) تقویٰ اور طہارت کا وعظ فرما رہے ہیں۔ اور عجیب عجیب کلمات طیبات بڑے جوش سے بیان فرما کر اپنے مریدوں کو متنبہ کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ تم سب ہوش کرو۔ اور اتقام کی طرف رجوع لاؤ۔ اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ڈرو اور دل و جان سے سچے اعتقاد (کے ساتھ نماز ادا کرو اور عبادت کرو کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر یعنی نماز روتی ہے۔ برے اقوال اور برے افعال سے اور پھر قرآن بار بار منادی کر کے کہہ رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و آمنوا برسولہ۔ یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ ساتھ اس کے رسول کے اور ہم دعا کر رہے ہیں۔ خدایا خشک ڈالی ہمارے باغ سے کاٹ ڈال جب حضرت کے منہ سے یہ کلمات نکلے تو کل حاضرین مجلس بلند آواز سے گڑ گڑا کر ایسے روئے کہ حواس باختہ ہو گئے پھر فرمایا کہ ہوش کرو۔ ان الفضل بید اللہ یوتیہ من یشاء یعنی فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔

۲..... میں نے رات کو دیکھا کہ ایک ذریا ناپیدا کنار جو کناروں تک پڑے ہے ایک گھوڑے پر سوار کنارہ پر کھڑا ہوں۔ عبور کی فکر میں تھا کہ گھوڑا پانی میں داخل اور پ رپ کرتا ہے مکان چلنے لگا۔ آواز..... پل کے راستہ سے چل کر پار ہو جاؤ۔

میں..... جو راستہ ہم نے پانا تھا پالیا۔ اب کون سے غیر پل کی تلاش کر کے سہارا پکڑیں گے۔ ہمارے امام نے ہم کو یہی راستہ بتایا ہے دیکھتے جاؤ۔ اپنے راستہ سے پار ہو جاتے ہیں۔ ہم غیروں کے راستہ کیوں جائیں پار ہو کر حضرت امام ہمام (یعنی مرزا صاحب) کو جو ایک پاکیزہ جگہ بیٹھے تھے دیکھا۔ اور بہت اصحاب بیٹھے تھے۔ میں بیٹھ گیا وہاں ایک بڑا ڈھیر کئی سو من شکر تری کا لگا ہوا ہے۔ جس کو دیکھ کر متعجب ہو رہا ہوں۔

ایک شخص..... یہ کیسا ڈھیر ہے اور کس کا ہے۔

میں..... یہ ڈھیر ہمارے امام ہمام (مرزا صاحب) کی برکات و انوار کا ہے جو میرے پر دہے۔ شخص..... کچھ ہم کو بھی ملے گا۔

میں..... میرے پر دیکھا گیا ہے جس کو حکم ہوگا اس کو تقسیم کروں گا۔

حضرت امام..... اشارہ سے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔

میں..... وضو کر کے نماز میں مشغول ہوا اٹھتے ہوئے۔ یہ الہام ہوا واسئلوا اللہ من فضلہ یعنی مانگو اللہ سے اس کا فضل۔

حاضرین..... سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سب فیضانِ صحبت حضرت اقدس ہے۔

۱..... جو ہمارے حضور کے حاشیہ نشینوں کو حاصل ہوا ہے۔ وہ سلف سے آج تک کسی اولیاء اللہ کو نصیب نہیں ہوا۔

۲..... اجی حضرت وہ قصہ کہانیاں ہیں۔ اور یہ چشم دیدہ واقعات ان سان کو کیا کچھ حرف نسبت۔

۳..... بھائی اللہ کے دین کی باتیں ہیں واللہ ذو الفضل العظیم جس کو چاہے دے دیں۔ خدا کے دین کا موسیٰ سے کوئی پوچھو حال۔ کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے۔

۴..... اجی ہمارے حضرت (مرزا صاحب) کی جوتیاں سیدھی کرنے سے بایزید بسطامی بن گئے۔

۵..... اس میں کیا شک ہے۔ ہر کہ شک آرد کا فرگردو عیان را چہ جان اس عرصہ میں ایک شخص فوجی وردی زیب تن گئے کمر میں کراچ سنہری قبضہ، سینہ پر تمغہ لٹکائے ہوئے آئے۔ السلام علیکم مرزا صاحب..... وعلیکم السلام مزاج شریف۔

فوجی افسر..... حضرت کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ اکثر احباب اور اتقیاء سے سن کر مجھ کو کمال اشتیاق قدم بوسی کا پیدا ہوا آخر جذبہ شوق یہاں تک بڑھا کہ کشان کشان لے ہی آیا۔  
مرزا صاحب! آپ نے بڑی عنایت کی، آپ کا مشکور ہوں۔ یہ گھر آپ کا گھر ہے شریف رکھیے۔

رواق منظر چشم آشیانہ تست

کرم نماد فردو آکہ خانہ خانہ تست

کوئی میرے لائق خدمت آپ کی تعریف۔

افسر..... میں پہلے ایک رسالہ میں رسالدار بہادر تھا۔ اب پشتر ہوں اور شہر لاہور میں میری سکونت ہے۔ خدا کی عنایت سے سب کچھ کمایا۔ خدا کا دیا بہت روپیہ جمع ہے۔ مگر زمانہ کا کچھ اعتبار نہیں ہمیشہ کوئی رہانہ رہے گا۔ بجا بجز خدا کے کسی کو نہیں۔ آخر ایک دن جانا اس قدر جائیداد اور نقد کو کون سنبھالے گا۔ کون مالک ہوگا۔ یہ غم سینہ میں ہر دم کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے بے اولاد کا رنج سوہان روح ہے۔ خیر میں مرد جہاں گرد ہوں۔ ادھر ادھر پھر کر غم غلط کر دیتا ہوں۔ اور ہو بھی جاتا ہے۔ مگر عورتوں کو یہ غم سخت جانگاہ ہے۔ میری بیوی کو اس کا سخت صدمہ ہے۔

مرزا صاحب..... کیا آپ کو کوئی اولاد نہیں؟

رسالدار..... عرض کیا تا کہ اس بڑا صدمہ ہے۔ اصل پوچھیے تو اپنی غرض یہاں تک لائی ہے۔ آپ

کے زہد و تقویٰ اور بزرگی کی لوگوں سے تعریف سنی تھی۔ اور آپ کی تصانیف اور اشتہارات بھی دیکھے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر دن میں آپ خدا کو سومتبہ پکاریں۔ تو وہ آپ کو سومتبہ جواب دیتا ہے۔ اگر میرے حال زار پر رحم فرما کر دعا فرما دیں۔ تو گویا دوبارہ زندگی بخش دیں۔

مرزا صاحب..... مذاقیہ لہجہ میں اگر آپ کے فرزند پیدا ہو جائے۔ تو کیا دلوائے گا۔ رسالہ دار..... درم تاخریدہ غلام تو ام۔ تمام عمر غلامانہ اور خادمانہ خدمت بجالاؤں گا۔ بندہ ام تازندہ ام کا مصداق رہوں گا۔

مرزا صاحب..... سردار صاحب معاملہ صاف اچھا ہوتا ہے۔ ورنہ بعد کو بد مزگی ہو جاتی ہے۔ روپیہ کو مقراض الحجت کہتے ہیں۔

رسالہ دار..... جو فرمائیں بدل و جان حاضر ہوں۔ اور طیب خاطر بسر و چشم منظور کروں گا۔ مرزا صاحب..... نہیں یہ آپ کی رائے اور مرضی پر حصر ہے جتنا گڑا لو گے اتنا ہی بیٹھا ہوگا۔ ہم اپنا ایک سال خاص دعا کے واسطے آپ کی نذر کریں گے۔

رسالہ دار..... پانچ سو روپیہ نذرانہ اور شکرانہ اس کے علاوہ بعد کو۔ مرزا صاحب..... دل میں خوش ہو کر یہ رقم میری اور آپ کی دونوں کی حیثیت سے تھوڑی ہے۔ مگر خیر۔ رسالہ دار..... نے خدمت گار کو آواز دی اور پانصد روپیہ نقد کی تحمیل مرزا صاحب کے آگے رکھ دی۔

اجنبی..... سلام علیک

مرزا صاحب..... وعلیکم السلام حراج شریف کہاں سے آتا ہوا کوئی کام۔ اجنبی..... میں ریاست مالیر کوٹلہ کا ہوں۔ نواب ابراہیم اہل خانہ صاحب بہادر کے متعلقین کا بھیجا ہوا خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جناب کو معلوم ہوگا۔ کہ نواب صاحب مرض دماغ میں بیمار ہیں۔ آپ کی تصانیف اور اشتہار میں جو دعاوی درج ہیں دیکھے گئے۔ تو نواب صاحب کی صحت کے واسطے دعا کے خواستگار ہیں۔

مرزا صاحب..... آپ جانتے ہیں مجھ کو اس قدر فرصت کہاں۔ کہ میں کسی کے واسطے دعا میں اپنے اوقات عزیز کو ضائع کروں۔ میری دعا عام آدمیوں کی دعا نہیں۔ اجنبی..... پانچ سو روپیہ کی تحمیل آگے رکھ کر یہ آپ کی نذر ہیں۔

مرزا صاحب..... خوش ہو کر اچھا میں دعا کروں گا۔ اور ایک وقت اپنا اس دعا کے واسطے بھی مقرر کروں گا۔ آپ اطمینان کریں۔ ضرور صحت پا جائیں گے۔

اتنے میں ایک اور شخص آئے سلام و علیکم۔

مرزا صاحب..... وعلیکم اسلام آپ کا حراج اور اسم مبارک۔

نو وارد..... میرا نام مولوی جلال الدین پیر کوٹ ضلع گوجرانوالہ میں رہتا ہوں۔ نزول الماء کے عارضہ سے بنائی نے جواب دیدیا۔ دعا کے واسطے حاضر ہوا ہوں ما حاضر نذر ہے۔ میں غریب آدمی ہوں۔

مرزا صاحب..... میں اس آپ کی تمہاری رقم کو اور لوگوں سے افضل سمجھتا ہوں اپنے مقصد تک دعا کروں گا۔

”از انجملہ ہمارے ایک دوست مولوی جلال الدین صاحب ساکن پیر کوٹ علاقہ حافظ آباد ضلع گوجرانوالہ ہیں۔ جو مرض نزول الماء بنا پینا ہو کر کئی بار قادیان ما حاضر لے کر حاضر ہوئے اور اب تک اس مرض سے صحت یاب نہیں ہوئے۔ اور اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر آپریشن کرائے تو غالباً اچھے ہو جائے۔“ (اشاعت النمبر ج ۱۳ ص ۱۱)

### حاشیہ جات

۱۔ از انجملہ ایک ہمارے شہر لاہور کے معزز رئیس اور مہربان سردار بہادر رسالدار پشتر ہیں۔ جن سے ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے کے لیے دعا کے وعدہ دامید پر آپ نے پانچ سو روپیہ یکسخت اور کئی رقمیں متفرق اپنے ایک دلالی (جو الحمد للہ کھلاتے اور آئین بالبحر اور رفع یدین کرتے ہیں۔ اور اس کام کے پردہ میں۔ لوگوں پر اعتبار جما کر ان کا صد ہار روپیہ قادیانی خزانہ میں جمع کرا چکے ہیں) کی ذریعہ وصول کیں۔ (اشاعت النمبر ج ۱۳ ص ۱۱)

۲۔ ”از انجملہ بعض متعلقین محمد ابراہیم علی خانہ صاحب دائی ریاست مالیر کوٹلہ ہیں جس سے دعا صحت نواب صاحب کے وعدہ امید پر اپنے پانچ سو روپیہ لیے۔ مگر وہ اب تک صحت یاب نہیں ہوئے۔“ (اشاعت النمبر ج ۱۳ ص ۱۱)

### باب ۱۲ اور اوزدہم

#### علی گڑھ میں ورود

اے زر تو خدائی دیکھ

ستار عیوب و قاضی الحجاباتی

رات کا وقت ہے۔ لوگ کھانے سے فراغت پا کر تمام دن کے تھکے ماندے آرام گاہ

کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے ناول کے ہیر و ایک چوبارہ کی صحت پر ٹہل رہے ہیں۔

جانماز بھی ہوئی ہے کبھی اس پر بیٹھ کر مراقب ہو نفس سے محاسبہ ہوتا ہے۔  
 کبھی کیش بک کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ دس ہزار، چھ ہزار، ایک ہزار، دو ہزار، پانسو۔  
 تین سو کوئی بیس ہزار کی رقم ہے۔ بڑی رقم ہے۔

اب ہمارے امیر کیا امیر الامراء ہوتے ہیں۔ کسی مردود کو شک یا تامل ہوگا۔ قرضہ ادا ہو  
 جائے اور جائیداد و ملک الرہن ہو جائے۔ تو پھر ہم یا ہم ہیں رئیس ہیں۔ امیر ہیں۔ شریف ہیں جو  
 کچھ ہیں ہم ہیں۔

اور کوئی کارخانہ جاری کیا جائے تو معقول منافع ہو سکتا ہے۔ کہ زر زر کشند در جہان گنج  
 گنج اب ایک رقم بڑی رقم جو ہمارے پاس جمع ہو گئی ہے۔ زمانہ نازک جاتا ہے ابھی کوئی آئے، جان  
 سے مار کر روپیہ لے چلا پھر تا نظر آئے اور آئندہ کو بھی امید واثق ہے کہ روپیہ کی آمد رفت رہے  
 گی۔ کیونکہ اعتبار بن گیا ہوا بندھ گئی۔ رجوعات خاطر خواہ ہو گیا ہے۔ اور اب شہرت بھی جیسی چاہیے  
 تھی کچھ اشتہاروں نے کچھ رسالوں نے نزدیک دور مشہور کر دیا ہے۔

اور جو لوگ آتے جاتے ہیں۔ ان کی زبان سے جو اخبار اور اشتہار نہیں دیکھ سکتے سن کر  
 واقف ہوں گے غرض اب بازار خوب گرم ہو جائے گا پھر چین چین ہے۔

مگر ہاں براہین احمدیہ حسب وعدہ شائع نہ ہونے سے کہیں ہوا نہ اکھڑ جائے کیونکہ  
 بد معاملگی و کانداری کی دشمن ہے۔ کسی طرف لوگوں کا خیال منعطف کرنا چاہیے۔

اور چند ایسے رسالوں کے بذریعہ اشتہارات بشارت دے دینی چاہیے۔ جس میں  
 بہت سے الہاموں اور پیشگوئیوں کے درج کرنے کا وعدہ کیا جائے۔

نقد روپیہ کو سوچو کیوں ہے ہاتھی چھوٹے گھوڑا چھوٹے خدا جانے کیا ہو، کیا نہ ہو۔  
 اگر پولیس سے گارڈ کی درخواست کی جائے۔ ہوا اکھڑ جائے لوگ بد اعتقاد ہو  
 جائیں۔ گوتم مشکل و گرنہ گوتم مشکل کا معاملہ ہے۔

ہاں اشاعت اشتہار اور تصانیف تو بہت ہوئے۔ اور ہوتے ہیں۔ اب مصلحت ہے کہ  
 ایک سفر بھی کیا جائے۔ یہ بھی ایک شہرت کا ذریعہ ہے۔

تمامہات اسی اذہیڈ بن میں گئی آخر تمک کر چار پائی پر گرے تو آنکھ لگ گئی۔  
 سورج نکلا تو آنکھ کھل گئی منہ ہاتھ دھویا نماز پڑھ باہر برآمد ہوئے اور حوالی سوالی نے  
 چاروں طرف ہی گھیر لیا۔

مصاحب..... حضور آج صبح کی نماز میں بھی شامل نہیں ہوئے۔

مرزا صاحب..... ہاں رات دیر تک جاگنے کا اتفاق ہوا میں نے کہا تہجد سے فارغ ہو کر پڑیں گے۔ تہجد کے بعد جو پڑے تو صبح اخیر وقت آنکھ کھلی اتنا وقت نہیں تھا کہ مسجد میں آ کر جماعت میں شامل ہوتے۔

خوشامدی..... حضور کا تو سونا بھی عبادت ہے۔

۲..... اس میں کیا شک ہے۔

مرزا صاحب..... اس ذکر کو تو چھوڑ دو میں ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔

مصاحب..... ارشاد قبلہ عالم پیر و مرشد۔

۳..... بندہ نواز ارشاد۔

مرزا صاحب..... ہمارا ارادہ ہے کہ ایک سفر کیا جائے۔ ہم کو الہام کے ذریعہ سے خبر دی گئی ہے۔

کہ سفر لدھیانہ اور ہوشیار پور اور پٹیلہ وغیرہ کا مبارک ہوگا۔

ہو وطن میں خاک میری منزل و رتبہ کی قدر

لعل قیمت کو پہنچتا ہے بدخشاں چھوڑ کر

مصاحب..... ہمارا تو ایمان ہے کہ آپ کا کوئی قول اور فعل بغیر الہام کے نہیں ہوتا نہایت مصلحت

ہے اسی دن سے اس جگہ کا انتظام شروع ہوا اور سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کچھ دنوں میں انتظام

اور بندوبست سے فارغ ہو کر سفر کا بندوبست ہوا۔ اور شہر و امصار کی سیاحت کے بعد مرزا صاحب

کا ورد علی گڑھ میں ہوا۔

روساء شہر و خاص و عام کی آمد رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ جوق در جوق آتے ہیں

اور مرزا صاحب سے مستفید ہوتے ہیں۔

ایک صاحب..... متشرع، وضع عالمانہ، قطع جوان صالح، سلام علیک نہایت ذوق و شوق کے لہجہ میں۔

مرزا صاحب..... وعلیکم السلام مصافحہ کر کے مزاج شریف، جناب کا اسم مبارک۔

نوارد..... میرا نام محمد اسماعیل ہے۔ میں اسی جگہ رہتا ہوں۔ آپ کی تالیفات دیکھ کر مدت سے

ملاقات سامی کا مشتاق تھا۔ الحمد للہ کہ تمنائے دلی حاصل ہوئی۔ آپ کی رونق افزائی اس دیار میں

نعت غیر مترقبہ ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کے افادات سے مستفید ہوں۔ آپ کسی عام

جلسہ میں کچھ مطالب توحید کچھ اسرار رسالت بیان فرمادیں۔

مرزا صاحب..... بسر و چشم میرا کام ہی کیا ہے۔ میرا فرائض منہمی بھی ہے۔ اور اس عاجز نے اپنی جان و مال کو اس راہ میں وقف کیا ہوا ہے۔

مولوی صاحب..... اس گفتگو کے بعد مرزا صاحب سے رخصت ہو کر اپنے مسکن پر واپس آئے اور جوق رز جوق و گروہ درگروہ مردان مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے اور بیان کرتے تھے۔

۱..... مرزا صاحب ہر ایک ملت اور مذہب کے انسان سے اس کی تمنا اور مرضی کے موافق گفتگو کرتے ہیں۔

۲..... لعل بدعت سے اس کی منشاء اور مرضی کے موافق باتیں کر کے اس کو خوش کرتے ہیں۔ اہل سنت سے اس کی طبیعت اور خواہش کے موافق گفتگو کرتے ہیں۔ طرفہ مجنون مرکب ہیں۔ مولوی صاحب نے کسی کو بہ لطائف الخلیل اور کسی کو سکوت سے جواب دیا کہ کسی کو کہا صوفیوں کا یہی مشرب ہوتا ہے:

حافظ اگر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام

با مسلمان اللہ اللہ باہنودان رام رام

شہر کے گلی کوچہ میں کیا گھر گھر مشہور اور زبان زد خاص و عام ہو گئے کہ مرزا صاحب جلسہ عام میں وعظ فرمائیں گے۔ غول کے غول غٹ کے غٹ مردان مولوی صاحب کی مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ ایک مجمع کثیر اور جم غفیر مسجد میں اکٹھا ہے۔ مرزا صاحب کا عنایت نامہ بدین مضمون آیا۔ کہ ”مجھے آج صبح کی نماز میں خدا نے منع کیا ہے کہ میں کچھ بیان نہ کروں۔ مجھ کو اشارہ منع کا ہوا ہے۔“

مولوی صاحب اور تمام مشتاقان فیض اور استفادہ کو صدمہ ہوا۔

مرزا صاحب کی دعوت مولوی صاحب کے مکان پر ہوئی۔ سامان دعوت کیا گیا مرزا صاحب شریک جلسہ دعوت ہوئے۔

مرزا صاحب کے کچھ انگریزی الہام کا ذکر شروع ہوا۔

مولوی صاحب..... الہام کو حق ملہم اس وجہ سے حجت سمجھا جاتا ہے کہ ملہم واسطہ کا محتاج نہیں ہوتا اور جب ایسی زبان میں الہام ہو جس کو ملہم نہ جانتا ہو۔ تو لامحالہ ایسی زبان سے مراد الہی سمجھے نہیں ہے۔ محتاج کا واسطہ ہوگا۔ اس تقدیر پر ملہم اور غیر ملہم برابر ہو جائے گا۔ اور احتیاج واسطہ میں یہ



مشکل متحمل ہے کہ بعض اوقات اگر واسطہ غیر معتبر ہو۔ یا مخالف معاند ہو اور الہام کی مراد کو بالکل خلاف انشاء ربانی سمجھائے۔ تو اس صورت میں بجائے ہدایت کے الہام اسباب ضلالت میں سے ہو جاوے گا۔ میں اول تو پہلے ہی اطمینان نہیں۔ کہ الہام ربانی اور وسوسہ شیطانی میں آسانی سے فرق ممکن ہو اور جب یہ احتمال پیش آگیا۔ اور ملہم خود مراد الہی سمجھنے سے محروم ہو گیا تو بالکل الہامات بے کار ہو گئے۔

مرزا صاحب..... بعض عوام الناس کو خواب میں دوسری زبان کی دعائیں تلقین کی جاتی ہیں۔ جس کے معنی وہ نہیں جانتے۔

مولوی صاحب..... متحیر ہو کر ساکت ہو گئے۔ اور سلسلہ گفتگو ختم ہوا اور کہا یہ جواب بھی الہام سے کم نہیں۔ جمعہ کا دن آیا اور جمعہ کی نماز کے واسطے مسلمان مسجد میں جمع ہوئے مولوی صاحب نے مرزا صاحب سے توضیح امامت کی نہ کی۔

مرزا صاحب..... سخت بیچ تاب میں تھے۔ غالباً اسی غیظ و غضب میں نماز ادا فرمائی جو درحقیقت ادا نہ ہوئی۔ جس کو مرزا صاحب نے خود ہی لکھا ہے۔ ہماری نماز نہ ہوئی۔

نماز کے بعد مولوی صاحب کے مکان پر آئے۔ تو اس وقت اتفاق سے محمد عبد العلی خان صاحب خلف رئیس چھتاری بھی موجود تھے۔ مرزا صاحب سے ملاقات کرائی گئی۔

مرزا صاحب (نہایت اضطراب اور تغیر حالت میں) مولوی صاحب کو علیحدہ لے جا کر مضطربانہ لہجہ میں ان کو مجھ سے بیعت کرا دو۔

مولوی صاحب..... خود درخواست کرا مگر اس غلت کے ساتھ مصلحت نہیں انشاء اللہ وہ خود مرید ہو جائیں گے۔

مرزا صاحب مولوی صاحب کو حارج مطلب سمجھا کر رخصت ہو گئے۔ اگلے دن مولوی صاحب محمد عبد العلی خان صاحب کو ہمراہ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئے کہ اس وقت مرزا صاحب سے سرسری ملاقات ہوئی تھی۔ اب ملاقات خاص میں کچھ بات چیت تفصیلی ہوگی۔

مرزا صاحب..... رئیس موصوف کو علیحدہ لے جا کر (مولوی صاحب سے مخفی) تم کو خدا کا حکم ہوا ہے کہ مجھ سے بیعت ہو جائے۔

رئیس..... سبحان اللہ میرے ایسے نصیب کہاں جس کو بیعت کے واسطے خدا کا خاص حکم ہو۔ مگر مرزا صاحب..... درکار خیر حاجت پہنچا سناہ نیست تامل کیا ہے اور اگر مگر کا موقع نہیں۔

رئیس..... بے شک اس میں کیا کلام ہے مگر میں کچھ سوچ کر جواب دوں گا۔ اور اس بارہ میں گزارش کروں گا۔ یہ کہہ کر ہر دو صاحب باہر آئے۔

مرزا صاحب..... کے چہرہ نورانی اور مبارک پر کچھ آثارِ شفقت اور رئیس کے چہرہ پر کچھ آثارِ تقسیم بکنایت امیر نظر آتے تھے۔

رئیس..... (مولوی صاحب سے شفقت آمیز منہی کے ساتھ) مرزا صاحب بیعت ہو جانے کو فرماتے ہیں۔ مولوی صاحب..... کو نہایت ندامت اس وجہ سے ہوئی کہ اہل اللہ کے شفقت اسلام کی تفسیح ہے۔

اس کے بعد مولوی صاحب مرزا صاحب سے نہیں ملے اور وقتِ رخصت جو چندہ پچاس چالیس روپیہ کا مرزا صاحب کے لیے اکٹھا ہوا۔ وہ مسلمانوں سے مولوی تفضل حسین صاحب نے اکٹھا کیا۔ مولوی صاحب جب شریک نہ ہوئے مرزا صاحب کی اشتعال طبع اور آشفقتی خاطر کے لیے یہ مصرع موزوں ہے۔

سند ناز کو اک اور تازیانہ ہوا

ڈاکٹر جمال الدین..... مولوی صاحب سے مرزا صاحب آئے تھے کیا حالات دیکھے۔

مولوی صاحب..... بھائی صاحب دکانداری ہے اور وہ بھی خوبصورتی اور خودداری کے ساتھ نہیں۔ سید احمد عرب..... میں نے دو تین ہفتے قادیان میں رہ کر اس شخص کے مخفی حالات دریافت کیے ہیں۔ یہ شخص رمال اور رمالانہ پیشگوئیاں بذریعہ آلات نجوم کے نکالا کرتا ہے۔ اسی کا نام الہام رکھ چھوڑا ہے۔ (شفاء للناس صفحہ ۷۰، ۷۱)

حاشیہ جات

۱ "از انجملہ ایک رسالہ سراج المنیر ہے۔ جس کی نسبت ۲۰ فروری ۱۸۸۹ء کو چند ہفتوں میں ختم کر کے چھاپنے کا اقرار کر کے صد ہاروپیہ اور بھی مسلمانانِ پنیالہ وغیرہ سے وصول کر لیا لیکن رسالہ مئی ۹۷ء تک شائع نہیں ہوا۔" (اشاعت المنیر ج ۱۸)

باب ۱۳ سیزدہم

مرزا قادیانی اور لکھنؤ ام

مرزا صاحب نے ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کو ایک اشتہار شائع کیا۔ جس میں سراج المنیر کی اشاعت کی بشارت اور کچھ پیشگوئیوں کا ذکر وغیرہ وغیرہ درج تھا۔ جس کا جواب پنڈت لکھنؤ ام نے مکذیب براہین احمدیہ میں درج کیا ہے۔ وہ ہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

”م“ سے مراد اشتہار یعنی مرزا صاحب سے۔ اور ”ل“ سے مراد پنڈت لکھرام ہے۔  
 اشتہار مندرجہ ضمیمہ ریاض ہند یکم مارچ ۱۸۸۶ء  
 مرزا صاحب..... ”یہ رسالہ سراج المنیر اس احقر نے اس غرض سے تالیف کرنا چاہا ہے۔ کہ منکرین  
 حقیقت اسلام اور مسکنہ بین خیر الامام کی آنکھوں کے آگے چمکتا ہوا چراغ رکھا جائے۔“  
 (مجموعہ اشتہارات ج ۹۷)

لکھرام..... براہین احمقہ کے چھ سو صفحہ بھی اسی غرض سے سیاہ ہوئے تھے۔  
 اس کے سارے بناوٹی الہام اور تین سو ساٹھ دلائل براہین احمقہ کا لٹکر لے کر خدا کا آتا۔  
 اور قطب کی طرح اس کا تزلزل ہونا وغیرہ وغیرہ ثبوت رائے گاں گئے اور سب نکلے ہو گئے اب سراج  
 بے نور سے کیا اندھیرا چھائے گا۔ یہ تو صدیقوں کی کی صرصر حملہ سے ایک دم میں گل ہو جائے گا۔  
 م..... ”اور بڑی بڑی پیشگوئیوں پر جو ہنوز وقوع میں نہیں آئیں متضمن ہے۔“ (ایضاً)  
 ل..... آج تک جتنی پیشگوئیاں درج براہین احمدیہ ہوئی تھیں۔ ان میں کیا خاک اڑی جو  
 آئندہ اڑے گی۔ نہ کسی کا نام و نشان ایک ہندو اور ایک آریہ اور چند مسلمان مجہول عبارتیں الف  
 لیلیٰ اور بدر منیر کی حکایتیں جھوٹے قصہ، فضول افسانے تمام کتاب خود ثنائی سے بھری ہوئی خدا نے  
 مجھے عیسیٰ، بنایا میں نے موسیٰ کے ساتھ کھانا کھایا، محمد صاحب، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسین  
 میرے مکان پر آئے اور حضرت فاطمہ نے میرا سر اپنے زانو پر رکھا اور سب اولیاءوں سے میں برتر  
 ہوں فلاں جگہ سے میرے پاس دس روپیہ آئے، فلاں شخص کا میں نے تپ دق کھویا۔ یہ کیا اور وہ کیا  
 اصل میں دیکھو تو نہ کسی کا سر نہ پاؤں طبع زاد قصہ اور ابلہ فریب باتیں۔ اور قادیانی دھوکہ۔  
 م..... خدا نے اس ناکارہ کو اپنے بعض اسرار حقیقیہ پر مطلع کر کے بار عظیم سے سبکدوش فرمایا  
 ہے۔ (ایضاً)  
 ل..... بھلا قرین قیاس بھی ہے کہ ناکارہ آدمی کو خدا نے اپنے جتنی اسرار بتلا دیے اور وہ اسرار یہ  
 ہوں۔ کہ مرزا کے پاس فلاں جگہ سے دس روپیہ آئیں گے اور مرزا کے بیٹا ہوگا اور مرزا کا فلاں دوست  
 امتحان میں پاس ہوگا۔ اور فلاں ماخوذ بھلا حضرت قادیانی کی سبکدوشی کیونکر ہوئی جبکہ اعتراضات کا  
 بھاری بوجھ اس کی گردن پر ہے جس سے قیامت تک نجات وہم و قیاس سے انزوں تر ہے۔  
 م..... ”حقیقت میں اس کا فضل ہے۔ جس نے چار طرفہ کشاکش اور مخالفوں سے اس ناچیز کو  
 مخلصی بخشی ہے۔“ (ایضاً)

ل ..... اس کا نام فضل نہیں بلکہ قہر ہے۔ کہ آپ کی ضلالت اور بطالت کا باعث ہے اور مخالفین سے مخلصی نہیں۔ بلکہ گنہگار عذاب میں گرفتاری ہے جو آپ کے حق میں موجب نہایت گریہ و زاری ہے۔

م ..... ”یہ رسالہ قریب الاعتقاد ہے اور چند اہمیتوں کا کام ہے۔“ (ایضاً)

ل ..... ہم کو یہ الہام ہوتے ہیں۔ کہ چند چھوٹے قصوں کا اس میں الہام ہوا ہے۔ جس کا آغاز ہے نہ انجام ہے۔ بلکہ از اوّل تا آخر مجموعہ خیال ہے:

۳ ..... ”اس رسالہ میں تین قسم کی پیشگوئیاں ہوں گی۔ اول وہ پیشگوئیاں کہ جو خود اس احقر کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں ..... وہ پیشگوئیاں جو مذہب غیر کے پیشواؤں یا داعیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۹۸)

ل ..... یہ سب فریب ہے نہ کچھ رنج کا ذکر ہوگا، نہ راحت کا، نہ حیات کا، نہ وفات کا، اپنے معاونوں کی توصیف جا بجا درج ہوگی۔ انشاء اللہ ہنگام طبع یہ سب حقیقت کھا جائے گی۔ جیسی براہین احمقہ سے ظاہر ہے اور اس کے مطالعہ الہامات سے باہر۔

م ..... ”ہم نے صرف بطور نمونہ چند نامی آریہ صاحبوں اور چند قادیان کے ہندوؤں کو لیا ہے۔ جن کی نسبت مختلف قسم کی پیشگوئیاں ہیں۔“ (ایضاً)

ل ..... چند نامی آریہ صاحبان وہ ہوں گے جنہوں نے مرزا کا مکر و فریب جو بذریعہ اشتہارات شائع کیا ہے۔ اور قادیان کے ہندو وہ دس ساہوکار فرضی معاہدہ کرنے والے ہوں گے۔ جنہوں نے علیحدہ اشتہار چھپوایا تھا۔ کہ نہ ہم نے وعدہ ایک سال تک کا کیا۔ نہ ہم اس کے الہام کو راست مانتے ہیں۔ یہ سب مرزا کی جھلسازی ہے۔ خود ہی مسودہ بنایا ہے۔ خود ہی نام لکھ دیا۔ خود ہی چھپوایا۔ اگر اپنی ذات کو لیتے تو بہتر تھا۔ کیونکہ جگ بیتی سے آپ بیتی کا قصہ معتبر ہوگا۔

م ..... ”اور اس تقریب پر یہ بھی خیال ہے کہ خداوند کریم ہماری محسن گورنمنٹ کو جن کے احسانات سے ہم کو یہ تمام تر فراغت حاصل ہے۔ ظالموں کے ہاتھ سے اپنی حمایت میں رکھے۔ روس منحوس کو مجبوس کر کے ہماری گورنمنٹ کو فتح نصیب کرے تاہم وہ بشارتیں اگر مل جائیں تو درج کریں۔ انشاء اللہ۔“ (ایضاً)

ل ..... اس الہام میں مرزا صاحب شاید انگریزوں کی فتح اور روس کی شکست بتائے گا۔ تاکہ انگریز خوش ہو کر اسے ثانی عیسیٰ مانیں۔ مگر یہ خیال خام ہے۔ دانا یاں فرنگ ان فریبوں کو خوب جانتے ہیں اور شعبدوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اگر مرزا کو الہام کا دعوے ہے۔ تو جنگ روس اور

انگلش کا مفصل حال لکھیے کہ فلاں مقام اور رستہ میں لڑائی ہوگی اور فلاں فلاں مشہور اشخاص کام آئیں گے۔ اور فلاں گروہ مظفر اور منصور ہوگا وغیرہ مفصل حال لکھ کر دوسری براہین احمقیہ چھپوائیں تاکہ الہام کی حقیقت روشن ہو جائے ورنہ ایک نجومی کا قصہ شاہد حال ہوگا۔

بادشاہ..... (ایک نجومی سے) یہ نفیم جو تیسیر آیا ہے۔ اس جنگ میں جس کی فتح ہوگی۔ اس کا نام تہلاؤ۔ نجومی..... آپ کو فتح ہوگی اور نفیم کو شکست۔

بادشاہ..... اچھا لکھ دو۔

نجومی..... بہت بہتر یہ لہجے اور فوراً لکھ دیا۔ جب گھر واپس آیا تو گھر والی نے اس کو تنگ کیا۔ گھر والی..... یہ تو نے کیا کیا جو لکھ دیا۔ لکھ دینا مناسب نہ تھا۔ غیب کی بات ہے خبر نہیں کیا ہو۔ نجومی..... میں نے جو کچھ کیا ہے۔ سوچ کر کیا ہے۔ اگر شکست ہوئی تو ہم سے کون پوچھے گا۔ اور فتح ہوئی تو پانچوں کھی میں ہیں۔ قادیانی نے بھی یہی سمجھا ہوگا۔ کہ اگر انگریزوں کی فتح ہوئی تو ہم ملہم بن جائیں گے۔ ورنہ خدا نخواستہ عدر میں کون پوچھے گا اور اس کے خیال میں جنگ کا بھی ابھی اس کی زندگی میں ہونا ہی غیر ممکن ہے۔

م..... ”چونکہ پیشگوئیاں اختیاری بات نہیں۔ کہ ہمیشہ خوشخبری پر دلالت کریں۔“ (ایضاً)  
 ل..... شاید خوشخبری آپ کے مخالفوں کے لیے اختیاری نہیں۔ اور اپنی ذات اور معاونین کے لیے درم خریدہ معلوم ہوتی ہے۔ اور اپنی ذات خاص اور معاونین کی نسبت کوئی نحوست بدبختی حیات اور مہمات کا الہام نہیں دیکھا۔ خدا کا بھی یہ خوب قاعدہ سے کہ یک طرفی خبریں دیا کرتا ہے۔ اور قادیانی پیغمبر بھی دریا ہے۔

م..... ”اس لیے ہم بانکسار تمام مخالفین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ کہ اگر وہ کسی پیشگوئی کو اپنی نسبت ناگوار طبع پائیں۔ جیسی خبر موت فوت یا کسی اور مصیبت کی نسبت ہو تو اس بندہ ناچیز کو معذور تصور فرمادیں۔“ (ایضاً)

ل..... مجز و انکسار کا کیا موقع ہے عقلاً موت فوت کی خبر سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ احسان مانتے ہیں۔ مگر مکاروں سے ضرور نفرت کرتے ہیں۔ آپ کسی کی حیات وفات کا حال اگر دروج رسالہ کریں۔ تو چشم وا کر کے پہلے اپنی اور اپنی اولاد اور تمام کنبہ کو بھی اس خبریں شامل کر لیں تاکہ درست سمجھی جائے۔ اور اگر صرف مخالفوں کی ہی نسبت دریدہ چینی کی تو پھر ہمارے حملہ بھی آپ جانتے ہیں۔ قبر تک بھی پچھا چھوٹا مشکل ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر پیشگوئی مطابق نہ پڑی تو

پھر بھی شرماء گئے۔ ہاں پیشین گوئی تو اس کا نام ہے کہ ہم کہتے ہیں۔ کہ آپ کی پیشگوئی لغو ہوگی اور اس کی بلا آپ کے سر پڑے گی۔

م..... ”بالخصوص منشی اندرمن صاحب مراد آبادی اور پنڈت لکھرام پشاوری وغیرہ کی نسبت غالباً اس رسالہ میں بقید وقت اور تاریخ کے ہوگا۔“ (ایضاً)

ل.....

جو محبت نہ ماند جہا جوئے را

سر پر خاش درہم کشد روئے را

بس حضرت جناب منشی اندرمن صاحب وام اقبالہم واجرلہم سے تو مباحثہ کر چکے اب بٹھیاریوں کی طرح دست وگریباں ہو جانے پر آمادہ ہو جاؤ گے اور دشنام وہی اور بداندیشی پر مہ نوری فشاں سگ بانگ میدہد۔ ہر کسی برنشات خود ہی تند۔ اگر آپ کو مخالفین کے بارے میں خبر ہوتی ہے تو اہل اسلام میں علامہ عبدالرحمن صاحب قصوری اور لودھیانہ اور دیوبند کے علماء جنہوں نے آپ کے حق میں کفر کا فتویٰ لگا گیا۔ آپ کی پیشین گوئی حیات نجات سے محروم رہے۔ یہ آپ کی پبلک کو صاف دھوکہ دہی ہے۔ آپ میں یہ قدرت ہرگز نہیں کہ کسی کے بارے میں صریح خبر بقید تاریخ و وقت لکھ سکیں۔ محض طول اور فضول بیچ دار باتیں لکھتا آپ کا شیوہ ہے۔ جیسا کہ براہین احمدیہ میں مدکر رکھی ہیں۔ ہاتھ نکلن کو آرسی کیا۔ انشاء اللہ وقت شیوع رسالہ مذکورہ بالا ناظرین خود دیکھ لیں گے۔ یہی الہام ہے۔ بجائے پنڈت لکھرام لکھرام لکھ دیا اب خدا پنڈت لکھرام صاحب کی نسبت تمحیر ہوا۔ جب وہ چھ ماہ قادیان میں رہ کر آپ کے الہام دیکھنے کے مدعی رہے اور طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے رہے۔ اس وقت کچھ نہ بن آیا اور زک اٹھاتے رہے۔

م..... ”ان صاحبوں کی خدمت میں گزارش ہے۔ کہ ہم دل سے کسی کے بدخواہ نہیں۔ خدا جانتا ہے ہم سب کی بھلائی چاہتے ہیں۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۹۹)

ل..... آپ میں نیکی کرنے کا مادہ ہی نہیں۔ خدا خوب جانتا ہے کہ آپ جیسا کوئی بدخواہ نہیں سچ تو یہ ہے کہ آپ کی خیر خواہی اور بدخواہی کا بول صرف پانچ سات روپیہ ہے جس نے کچھ دیدیا اس کی خیر خواہی ورنہ بدخواہی میں کچھ کلام نہیں۔

م..... ”اور بدی کی جگہ نیکی کرنے کو مستعد ہیں۔“ (ایضاً)

ل..... آپ میں نیکی کرنے کا مادہ ہی نہیں۔ آپ کی نیکی الم نشرح ہے۔ جن مسلمانوں نے

کچھ نہ دیا۔ ان کو براہین احمقیہ میں لکھا وہ جیتے جی ہی مرجائیں۔ اور جس نواب صاحب نے آپ کی کتاب نہ خریدی ان کی کیسی اہانت کی، مرزا امام الدین صاحب اپنے چچا زاد بھائی کی تو بجائے مکھوری کے دشمن جانی بن گئے کہ انہوں نے آپ کو اس مکرو تزدیر سے منع کیا تھا۔

م ..... ”اور بنی نوع کی ہمدردی سے ہمارا سینہ منور و معمور ہے۔“ (ایضاً)

ل ..... سچ ہے دروغ گورا حافظہ نباشد۔ یہی ہمدردی ہے۔ کہ بنی نوع انسان تو ایک طرف خاص اپنے جدی بھائیوں کی نسبت اپنے اشتہار کے آخری صفحہ کی تیسری سطر میں لکھتے ہیں۔ کہ میرے جدی بھائیوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ اور وہ لا ولد رہ کر ختم ہو جائیں گے۔ اور خدا ان پر بلا نازل کرے گا۔ یہاں تک وہ نابود ہو جائیں گے اور ان کی گھریبواؤں سے بھر جائیں گے اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا۔ اور اپنی نسبت لکھا ہے۔ کہ میری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیلے گی۔ اور گھریبوتوں سے بھر جائیں گے۔ میری اولاد منقطع نہ ہوگی۔ اور آخری دنوں تک سرمبز رہے گی وغیرہ وغیرہ ناظرین غور کریں کہ بنی نوع کی ہمدردی ہے۔ یا خود ستائی بیدردی؟ ہمدردی تو اس کا نام تھا۔ جیسا کہ مرزا نے اپنی نسبت لکھا ہے۔ اس کے برعکس انہوں کی جڑ کاٹنا اور لا ولد رہنا اور مورد بلا ہونا اور ان کا گھریبواؤں سے بھرنا۔

شنیدم کہ مردان راہ خدا  
دل دشمنان ہم نہ کردند تنگ

قطعہ

ترا کے سیر شود این مقام  
کہ یاد و ستانت خلافت است جنگ

م ..... ”لیکن جو بات کسی مخالف کی نسبت یا خود ہماری نسبت کچھ رنج کی منکشف ہو۔ تو ہم اس میں بکلی مجبور ہیں۔“ (ایضاً)

ل ..... ہاں اگر اپنی ذات اور عیال و اطفال اور موافقین اور مخالفین کی کوئی خیر یکساں لکھے تو بیشک باعث مجبوری ہے۔ ورنہ قطعی مکرو فریب مفہوم ہوگا۔ اور عام و خاص کی رائے میں مکرو قادیانی معلوم ہوگا۔

م ..... ”ایسی بات کے دروغ نکلنے کے بعد جو کسی کے دل و کھنکے کا موجب ہوگا۔ تو ہم سخت لعن طعن کے لائق بلکہ سزا کے مستوجب ٹھہریں گے۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۹۹)

ل ..... لعن طعن سے آپ کو کیا ڈر ہے۔ بلکہ باعث مکرو فریب ہے۔ آپ کے معاندین کہا کرتے

ہیں۔ کہ لعن طعن سے ترقی مناسب ہوتی ہے..... اگر بصورت مختلف ہاتھ و زبان کٹوائے جانے کی شرط ہوتی تو بے شک دوسروں کے لیے عبرت ہوتی۔

م..... ”ہم قسمیہ کہتے ہیں۔ کہ ہمارا سیدہ نیک بنتی سے مہرا ہوا ہے۔“ (ایضاً)

ل..... آپ کی قسم کا کیا اعتبار ہے۔ جس کا فقط دو چار روپیہ پر مدار ہے نیک بنتی یہی ہے کہ جدی بھائیوں کی جڑ کاٹنے ہوا اپنی نسل پھیلاتے ہو۔ ایک روپیہ کی کتاب کے سوسو پچاس پچاس لیتے ہو۔ لوگوں کی طرف سے جھوٹے دستخط کر کے جھوٹے خط چھپواتے ہو۔ بیواؤں کی پہلے مرکیاں تک اترواتے ہو۔ کتاب چھپوانے کے لیے لوگوں سے روپیہ لیے اور عیش و عشرت میں اڑا دیے لوگوں کو زکوٰۃ نکالنے حج کرنے اور مسجد بنانے سے مانع آتے ہو۔ اور جو آپ سے ملنے آتا ہے اس سے پانچ چھ لیے بغیر بات نہیں کرتے اور یہی نیک بنتی ہے۔ کہ مخالفین کا مرنا چاہتے ہو۔ اور یہی نیک بنتی ہے کہ فشی اندر من صاحب مراد آبادی کو رجسٹری شدہ اشتہارات بھیج کر مباحثہ کرنے اور الہام دکھانے کے لیے تین سو کوس سے بلوایا۔ حسب وعدہ روپیہ دینا پڑا تو فوراً بھاگ گئے۔ اور اپنا بجز چھپوادیاجب فشی اندر من صاحب وطن تشریف لے گئے۔ تو پھر جھوٹے اشتہارات کا جاری کرنا شروع کر دیا اور کہتے ہو جو مسلمان میرے قدموں پر چلے گا۔ اس کی نجات ہوگی۔ اوروں کی نہیں۔ اور اپنے تین سب اولیا و عمل سے بزرگ تر بتلاتے ہو الحق کہ آپ کی نیک بنتی کہاں تک لکھی جائے۔ کہ ناحق ناظرین مطالعہ سے کلفت اٹھائیں آپ کے الہامات اور کتابات کچھ معما نہیں کہ وقت ہو۔

تماشان شمار امن خوب می شناسم

ایں حبیب و عصار امن خوب سے شناسم

م..... ”ہم کو خود اپنی نسبت اپنے جدی اقارب کی نسبت اپنے بعض دوستوں کی نسبت بعض اپنے فلاسفر قومی بھائیوں کی نسبت اور ایک دہی امیر نوار کی نسبت بعض متوحش خبریں مثل موت فوت کے منجاب اللہ مشکشف ہوئی ہیں۔ جو بعد تصفیہ لکھی جائیں گی۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۹۹، ۱۰۰)

ل..... مرزا آج تک تو آپ کو اپنی نسبت کوئی خبر متوحش نہ ملی خدا کو بھی جرأت نہیں کہ آپ کی نسبت بری خبر بھیجے خوف کے مارے تمام خبریں فرح بخش و نشاط افزا بھیجتا ہے۔ بعض جدی اقارب سے مرزا امام الدین صاحب وغیرہ آپ کے پچازاد بھائی ہیں۔ جو آپ کا مکر ظاہر کرتے



دوستوں سے مراد قادیان کے دس ساہوکار ہوں گے۔ جنہوں نے آپ کا بطلان کیا تھا۔ اور فلاسفر قومی بھائیوں کی عبارت ابو عبد الرحمن صاحب قصوری اور دیوبند اور لدھیانہ کے بعض علماء سے ہوگی۔ جنہوں نے کفر کا فتویٰ آپ کے حق میں دیا اور ویسی امیر نووارد سے کوئی ایسا ہی روشن ضمیر ہوگا۔ جس پر آپ کی حقیقت کھلی ہوگی اور جب منجانب اللہ آپ کی نسبت متوحش خبری منکشف ہو چکی ہیں۔ تو تصفیہ کس سے ہوگا۔ منصف کون بنے گا۔ محقق ہوں تو آپ جیسے ہوں۔ جو اللہ کی خبروں میں بھی مشکلک ہیں۔

نگہ دارو آن شوخ در کیدور  
کہ دادند ہمہ خلق را کیدبر

م..... ”اور ہر ایک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں۔ کہ اگر تقدیر معلق ہو دعاؤں سے ٹل سکتی ہے۔ اس لیے رجوع کرنے والی مصیبتوں کے وقت مقبولوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔“

ل..... آپ تو مقبولوں کے سرغنہ ہیں اور آپ کی دعا تو تقدیر معلق کو بہ اسلوبی تمام نال سکتی ہے۔ ہم چند نامی اشخاص کے نام لکھتے ہیں۔ مرزا ان کی مراد پوری کیجیے۔ نواب صاحب کوٹلہ کو تھوڑے دنوں سے خلل دامغانی ہے۔ نواب رام پور کو پتھری وغیرہ کا بڑا مرض ہے۔ صدیق حسن خان بھوپال والے معزول ہیں۔ اور ان کی نسبت جو جو مقدمات اور ضمن سرکاری دائرہ ہیں۔ ان سے نہایت طول ہیں انہیں کے سوشل ایک ناظم صاحب بجرم ظلم و تعدی دس سال کی قید میں مبتلا ہیں۔ جناب بیگم صاحبہ والہی بھوپال صدیق حسن خان معزول کو تین لاکھ روپیہ دے کر خارج کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا ارادہ فتح کیجیے۔ ایک ریاست کے ایک معزز اہلکار مشتاق ہیں۔ کہ ممبر کونسل ہو جائیں۔ دعا کا لڑکا دکھائیے۔ تاکہ خزانہ ریاست سے آپ کی خود مدد کریں۔ اور لوگوں کو دو دو چار چار روپیہ کی تکلیف نہ دیں۔ اور ایک ناظم ریاست پٹیالہ کی آنکھیں آپ کے غائب مطح ایک ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے معالجہ میں جاتی رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پر احسان کیجیے۔ آپ نے ان سے نمبر وار ایک سال کا وعدہ بھی کیا تھا۔ کہ ہم نمبر وار دعا کرتے ہیں۔ ایک سال کامل ہو گیا اب تو ان کا نمبر آ گیا ہوگا اور جانے دو شاہ برہما کی طرف توجہ کیجیے کہ آپ کو کوئی ملک مل جائے مرزا صاحب نے تحصیل رز کی ترکیب تو خوب سوچی ہے۔ کہ پہلے لوگوں کو ڈرا دیں۔ اور پھر دعا کے بھانہ ان کو لوٹیں۔ مگر میرا تجربہ تو یہ ہے کہ کوئی سادہ لوح بھی آپ کی کھوکھلی دعاؤں پر یقین کرے گا۔

م..... ”اگر کسی صاحب پر کوئی ایسی پیش گوئی شاق گزرے۔ تو مجاز ہیں۔ کہ یکم مارچ سے یا

اس تاریخ سے جو کہ کسی اخبار میں پہلی دفعہ مضمون چھپے۔ ٹھیک ٹھیک دو ہفتہ کے اندر اپنی دستخطی تحریر سے مجھ کو اطلاع دے دے۔ تاکہ وہ پیش گوئی جس کے ظہور سے وہ ڈرتے ہیں اندراج رسالہ سے علیحدہ رکھی جائے اور موجب دل آزاری سمجھ کر اس پر مطلع نہ کیا جائے۔ اور کسی کو اس کے وقت کے ظہور سے خبر نہ دی جائے۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۰)

ل ..... آپ کی علت غائی یہ ہے۔ کہ لوگ ڈر کر آپ کی طرف رجوع لاویں۔ اور بھیٹ چڑھاویں اور تحریر بھیج دیں۔ آپ سے کوئی نہیں ڈرتا، بے شک جی کھول کر درج کیجیے اور ادھر ہمارا شعلہ طور پر بھی تیار ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنا الہام سنائیں گے۔ اور غیب کی باتیں بتائیں گے۔ مگر ناظرین کو آپ کے الہامات کی قسم کہ کوئی صاحب سہو یا عدا کوئی تحریر اقرار کی آپ کے پاس نہ بھیجیں۔ تاکہ معاون افتراء پر دازی ہوں کہیں مومن خان کی شعر پر ناظرین صاحب عمل نہ کریں۔

خوانم از رو فراق تو بفر ابرم

خوش ختم خاطرے از وعدہ نپشیمانے را

مگر مرزا صاحب خود بھی خبردار رہنا کہ جیسے قادیان کے دس ساہوکاروں کی طرف سے جعلی خط مشتہر کیا تھا۔ کوئی قادیانی فریب بنا کر درج رسالہ نہ کر دینا ہم منتظر ہیں۔ فوراً آپ کا کچا چٹھا کھولا جائے گا۔ مرزا نے اشتہار کے مشتہر کرنے میں سوچا ہوگا۔ کہ دیکھیں کیا کیا اعتراض ہوتے ہیں۔ تاکہ اس سے پہلو بچائیں۔

زینب نیک فلک تنگ فتنہ سے یارو

من ابلہانہ گریم در آکہ حصار

فریب کی بنیاد نہیں ہوتی ایک پہلو بچائیں گے۔ دس پہلو نکل آئیں گے افسوس کہ جن چیزوں کے افشاء کا خدائی منشاء ہو۔ اور آپ انخفا کریں۔ اور یہاں تو امورات دل آزاری کو چھپانے کا۔ منشاء ظاہر کیا ہے اور اخیر صفحہ اشتہار پر دیکھو اپنے جدی بھائیوں کی نسبت کیا کیا سخت کلامیاں کی ہیں اور براہین احمقہ میں کیا کیا بکواس کہے ہیں۔

م ..... ”نجمہ ان پیشگوئیوں کے جو مفصل اس رسالہ میں درج ہوں گی پہلے ایک پیش گوئی جو اس احقر سے متعلق ہے آج ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء میں برعایت اختصار کلمات الہامیہ نمونہ کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۰)

ل ..... یہ محض خلاف ہی پیشگوئی نہیں ہوئی کیونکہ اس احقر کو صفائی قلب اور نیک نیتی کے سبب

کبھی کبھی اوتھالی کی بارگاہ میں دخل روحانی ہوتا ہے کسی وقت اور کسی مقرب یا خود اللہ تعالیٰ سے آپ کا ذکر نہیں سنا۔ آج مبارک دن پچا گن سدی ایکادشی ۳۲ مکرئی کو جو صفائی قلب میسر ہو کر پھر گزر ہوا۔ تو آپ کی تصدیق کلام کے لیے بارگاہ باری تعالیٰ میں جو عرض کرنا چاہا تو ابھی غلام احمد ہی میری زبان پر گزرا تھا۔

اللہ تعالیٰ نہایت جلال سے: وہ شخص تو روز ازل سے مکار و خدار اور مفتری پیدا کیا گیا ہے اور زمانہ آئندہ میں ایک دو شخص ایسے ہی اور بھی ہوں گے۔

میں..... یا خدا یا ایسے مکار کو سزا کیوں نہیں دیتا۔ جو بندگان ایزدی کو گمراہ کرتا ہے۔  
اللہ تعالیٰ..... ابھی اس کے پچھلے اعمال کا بدلہ باقی ہے۔ تین سال میں سزا دی جائے گی۔  
میں..... پچھلے جنم میں وہ کون تھا۔

اللہ تعالیٰ..... گھنی لومڑی تھی۔ جو مکر و فریب سے جنگل کے جانوروں کو کھایا کرتی تھی۔ وہی مکر و فریب اس کی ذات میں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو لوح محفوظ دکھائی جس میں سب مکاروں سے اول نام نامی آپ کا درج تھا۔

میں..... خداوند اس نے یہ اشتہار جاری کیا ہے کہ مجھ کو الہامات ہوتے ہیں۔  
اللہ تعالیٰ..... محض جھوٹا ہے ہم نے کوئی الہام یا پیشگوئی نہیں بتلائی جو باتیں وہ بکتا ہے یا لکھے گا۔  
اس کے برعکس ہوگا۔ تو جا اور بذریعہ اشتہار اس کا جھوٹ مشتہر کرتا کہ میرے بندے نجات پائیں:  
الما مور معذور۔

م..... ”پہلی پیش گوئی۔“  
(ایضاً)  
ل..... جبکہ یہ سب سے اول پیشگوئی ہے تو آپ کے اقوال کے موافق اور تمام پیشگوئیاں جو اس سے پہلے درج براہین احمقہ ہو چکی ہیں۔ جھوٹی ہوئیں۔ تھا کہ دروغ گور حافظہ نباشد جادو وہ چوسر پر چڑھ کر بولے۔

م..... ”خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔“ (ایضاً)  
ل..... رحمت کا نہیں رحمت کا کہا ہوگا آپ تو ہر ایک بات کو الٹا سمجھتے ہیں اور مز میں امتیاز نہیں رکھتے۔  
م..... ”تیری دعاؤں کو میں نے سنا اور اپنی رحمت سے قبول جگہ دی۔“ (ایضاً)  
ل..... خدا کہتا ہے جھوٹوں کا جھوٹا ہے میں نے کبھی اس کی دعا سنی نہ قبول کی۔  
م..... ”تیرے سفر کو جو ہوشیار پورا اور لودھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کیا۔“ (ایضاً)

ل..... خدا اس سفر کو نہایت منحوس بتلاتا ہے اپنے تیا کبچر کی سرانے میں شاید لہھیانہ جنیل خانے کے متصل فروکش ہونے کو مبارک سمجھا ہوگا۔ مرزا صاحب کو فرقہ طوائف بہت پاک معلوم ہوتا ہے۔ کہ تمام شہر لو دھیانہ چھوڑ کر کبچر کی سرانے پسند کی اور براہین احمدیہ کی مدد میں طوائفان کا مال جو شرع محمدی میں قطعی حرام ہے شامل کیا۔ انبالہ میں تو مرزا صاحب نے پلیٹ فارم پر پولیس کے سپاہیوں سے دھکے کھائے اور پٹیلہ میں امراء و وزراء سے خوب روپیہ لے آئے قصبہ سلور میں ایک برہمن سے مباحثہ کرنے میں ہار کر رات کو بھاگ آئے مگر اس سفر میں اعلیٰ درجہ کی مبارک بادی کبچر کے گھر میں رہنے کی ہوگی۔

م..... ”سو قدرت اور رحمت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے۔“ (ایضاً)  
 ل..... خدا کہتا ہے۔ میں نے قہر کا نشان دیا ہے۔ رحمت کا نشان فقط تیا کبچر کی سرانے ہے اور بس۔

م..... ”اے مظفر تجھ پر سلام۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۱)  
 ل..... الفاظ تو یہ تھے۔ اے منکر و مکار تجھ پر آلام۔  
 م..... ”خدا نے کہا تھا۔ وہ جو زندگی کے خواہان ہیں۔ موت کے پنجے سے نجات پائیں قبروں سے ولی پڑے باہر آئیں۔“ (ایضاً)

ل..... خدا کہتا ہے کہ میں جلد مصنوعی کوئی النار کروں گا۔ اور قبر سے نکال کر جہنم میں ڈالوں گا۔  
 م..... ”دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔“ (ایضاً)  
 ل..... آج تک گویا جس کا نام اسلام ہے وہ محض خیال خام تھا۔ اور جس کا نام قرآن ہے۔ وہ شرف کے مرتبہ سے برکران تھا۔ اب مرزا کی بدولت شرف و مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہوگا اور قرآن و اسلام کا نام نیک نام ہوگا یا بدنام۔

م..... ”اور حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آجائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔“ (ایضاً)  
 ل..... مرزا ہی کے منہ سے ثابت ہوا کہ اب تک دین اسلام میں باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ اور حق معاً اپنی تمام برکتوں کے مفقود تھا اب ساحر قادیانی کے وجود سے حق آئے گا۔ اور باطل جائے گا۔

م..... ”میں تیرے ساتھ ہوں۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۱)

ل ..... پہلے پیشوایان کے ساتھ کون تھا۔ البتہ خدا کا فرمان تھا کہ میں مرزا کے ساتھ نہیں اس کا مددگار شیطان ہے۔

م ..... ”جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لائے۔ وہ خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ہے۔“ (ایضاً)

ل ..... خدا کا ارشاد ہے کہ آریہ میرا دین ہے اور وید اقدس میری کتاب ہے پر ہمارا رسول جن کا اس پر ایمان ہے۔ وہ مومن اور میرے وجود کے قائل ہیں اور جو اس سے منکر ہیں وہ کافر اور شیطان کی طرف مائل ہیں۔

م ..... ”تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیہ اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ ایک زکی غلام لڑکا تجھے ملے گا۔ وہ لڑکا تیرے خم سے ہوگا۔“ (ایضاً)

ل ..... خدا نے یہ فقرہ سن کر مسکرا کر فرمایا کہ تو اس فریب کو سمجھا۔ (میں نے) عرض کیا میں دو سو کوس کے فاصلہ پر رہتا ہوں مجھے کیا معلوم ہے (فرمایا) مرزا بڑا غلام الشہوت ہے۔ اب پچاس سالہ ہے اور سلطان احمد اور فضل احمد اس کے دو فرزند حیات ہیں۔ جن میں سے ایک ستائیس اور دوسرا پچیس سالہ ہے۔ باوصف اس کے ڈیڑھ سال ہوا کہ بندہ شہوت ہو کر خوبصورت عورت سے اور شادی کی ہے۔ شبانہ روز کے دھکا پھیل سے وہ حاملہ ہوگئی۔ اس سے جو لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کا نام پاک لڑکا رکھا ہے۔ (میں) عرض کیا واقعی لڑکا ہوگا۔ (فرمایا) نہیں لڑکی ہوگی مگر اپنا الہام سچا کرنے کو مرزا اس وقت ضرور فریب کھیلے گا۔ اور اس وقت ہم تجھ کو اطلاع دیں گے۔

مرزا صاحب! اب میرا سوال ہے؟ کہ آپ کے ہاں یہ لڑکا اب کی دفعہ ہوگا یا دوسری دفعہ تاہم عبارت اصلی کہتی ہے۔ کہ اگر اب کے دفعہ لڑکا ہو گیا۔ تو الہام سے ہو اور نہ دوسری دفعہ کی تاویل بناؤ گے۔ کیوں صاحب اب خدا نے آپ کو پاک آواز کی لڑکا دینے کی بشارت دی ہے کہ پہلے لڑکے دونوں کو یہ منظر ناپاک غمی ہیں اپنی ذریت میں ہونے سے ان کی نسبت جناب کو کچھ شبہ بھی ہے۔

م ..... ”اس کا نام عموائل اور بشیر بھی ہے۔“ (ایضاً)

ل ..... ہم نے سنا خدا کہتا ہے۔ اس کا نام عزرائیل اور شریر بھی ہے۔

م ..... ”اس کو مقدس روح دی گئی ہے۔“ (ایضاً)

ل ..... کیا آپ کو شاید شیطانی روح عطا ہوئی ہے اور آپ کی نسبت یہی کہنا چاہیے کہ ناپاک اور پلید روح دی گئی ہے۔

- م ..... ”وہ فوراً اللہ ہے۔“ (ایضاً)
- ل ..... وہ دیبجور کھلم کھلا ہے۔
- م ..... ”مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔“ (ایضاً)
- ل ..... خدا کہتا ہے۔ وہ آسمانی گولہ نہایت منحوس ہے جو پاتا ل کو جاتا ہے۔
- م ..... ”اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔“ (ایضاً)
- ل ..... آج تک مرزائی فرقہ میں عموماً اور مرزا صاحب پر خصوصاً قہر کا ساتھ تھا۔ جو اس مقضوب ربانی کے سبب جہان میں آیا تھا۔
- م ..... ”وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔“ (ایضاً)
- ل ..... شاید وہ صاحب ذلت و نحوست و کبت ہوگا۔
- م ..... ”وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔“ (ایضاً)
- ل ..... خدا کہتا ہے کہ وہ مرزا کی طرح دنیا میں آ کر اعزاز شیطانی نفس اور روح منحوس کی نحوست سے بہتوں کو دائم المریض کر کے واصل فی النار کرے گا اور آخر کو خود بھی اسی میں پڑے گا۔ اس کا نام خردجال؟۔
- م ..... ”وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔“ (ایضاً)
- ل ..... خدا سے ناپاک بتلاتا ہے۔ جس کو شیطان نے اپنی شیطنت اور بے تمتی سے بھیجا ہے۔
- م ..... ”وہ بہت ذہین اور فہیم ہوگا۔“ (ایضاً)
- ل ..... وہ نہایت غمی اور کودن ہوگا۔
- م ..... ”اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔“ (ایضاً)
- ل ..... خدا کہتا ہے وہ نہایت غلیظ القلب ہوگا۔ اور علوم صوری اور معنوی سے قطعی محروم رہے گا۔
- م ..... ”وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا (اس کے معنے سمجھ میں نہیں آئے)“ (ایضاً)
- ل ..... خدا نے اس کے معنے مجھ کو بتلائے ہیں۔ کان لگا کر سن لیجیے کہ ایک تو طلیمہ اور دوسرے اسود عسی نے پیغمبر کا دعویٰ کیا تھا۔ اور اب غلام احمد قادیانی کر رہا ہے۔ یہ جنین سے دعوے رسالت کر کے تین کو چار کرے گا۔ قیاساً یہ صورت ہی ہو سکتی ہے ایک آپ اور دونوں آپ کی بیویاں چوتھاوہ۔

م..... ”فرزند ولیند گرامی ارجمند مظہر الاؤل والا خز مظہر الحق والعلاء۔“ (ایضاً)  
 ل..... خدا کہتا ہے۔ غلام جہاں بد بخت خسر الدنیا والا آخرۃ مصدر باطل والعاطل۔

م..... ”کمان اللہ نزل من السماء (گویا خدا ہی آسمان سے اتر آیا)“ (ایضاً)  
 ل..... خدا کا فرمان ہے کان الشیطان نزل عن الفلک۔ مرزا اس کا نزول تو ہوتا ہے۔ آپ کا  
 اور آپ کے دونوں فرزند سابقہ کا نزول کہاں سے ہوا تھا؟

م..... ”جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔“ (ایضاً)  
 ل..... کیا آپ کے اور آپ کے دونوں فرزندوں کا ظہور تا مبارک اور قہر الہی کے ظہور کا  
 باعث ہوا تھا۔

م..... ”نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کے عطر سے مسوع کیا ہے۔“ (ایضاً)  
 ل..... آیا آپ اور آپ کے دونوں نخت جگر ظلم محض ہیں جن کو خدا نے اپنے قہر غضب کے  
 قطران سے منغض اور کندہ اس کو بھی خدا اسی تھیلے کا بیہ بنا تا ہے۔

م..... ”ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔“ (ایضاً)  
 ل..... پہلے مٹلاش کا ملہ میں کس کی رو میں پڑی تھیں اور کس کے زیر سایہ تھے۔ اس کی نسبت تو  
 خدا کا یہ فرمان ہے کہ اس میں شیطان کی روح پڑے گی۔ اور خدا کا غضب اس پر پڑے گا۔

م..... ”وہ جلد جلد بڑھے گا۔“ (ایضاً)  
 ل..... خدا کہتا ہے۔ کہ محض جھوٹا ہے جلد جلد تو مرغی کا بچہ یا چار پائے کا نطفہ بڑھتا ہے۔ اگر وہ  
 آپ کا بچہ ہے۔ تو آہستہ آہستہ پرورش پائے گا۔ بھلا مرزا صاحب آپ کے قول موافق وہ ہفتہ میں  
 کتنے فٹ کا ہوگا اور بھلا مٹلاش ہفتہ میں کتنے فٹ کا ہو جائے گا۔

م..... ”اور اسیروں کی دستکاری کا موجب ہوگا۔“ (ایضاً)  
 ل..... کیا پہلا مٹلاش امیر فقیروں کی قید کا باعث ہوا ہے۔ اور اب خدا کہتا ہے وہ دائم الحسوس ہوگا۔  
 م..... ”اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۱، ۱۰۲)  
 ل..... پہلا مٹلاش کیوں گننام رہا اب خدا کہتا ہے۔ محض خلاف ہے۔ اس رذیل کا نام قادیان  
 میں ہی بہت سے نہ جانیں گے۔

م..... ”اور تو میں اس سے برکت پائیں گی۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۲)  
 ل..... ثابت ہوا کہ آج تک سب فرقے اسلام کی برکت سے محروم ہیں۔ اور مرزا صاحب کے

اردگرد سے برکت معدوم ہے۔ اب برکت سے برکت پائیں گے۔ اور اپنا نام بڑھائیں گے۔  
 م..... ”پھر بشارت دی تیرا گھر برکت سے بھر جائے گا۔ اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری  
 کروں گا۔“ (ایضاً)

ل..... معلوم ہوا کہ اب تک ساحر قادیانی کا گھر نحوستوں سے بھرا ہوا ہے اور خدا کی کوئی نعمت  
 اس پر پوری نہیں ہوئی جب پچاس برس تک محروم رہا۔ تو اب کیا مقصود رہا۔

م..... ”اور خواتین مبارکہ ہیں جن میں سے بعض کو تو بعد میں پائے گا۔ تیری نسل بہت  
 ہوگی۔“ (ایضاً)

ل..... پچاس برس کی عمر ہو چکی ہنوز خواتین کی آرزو باقی ہے۔

سیاہی از صرفت و از اذرفت جب پچاس سال تک نسل نہ پھیلے تو اب

ترا کہ دست بازو گھر چوہانی سفت اولاد پھیلنے کی کیا امید ہے۔ میری صد عیب ہمیں گفتا۔

م..... ”اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا۔“ (ایضاً)

ل..... شاید خدا کہتا ہے کہ میں مرزا کی ذریت کو منقطع کروں گا۔ اور نحوست دوں گا۔ مرزا  
 صاحب آپ ہر ایک بات کو اٹلے ہی سمجھتے ہیں۔

نہ ہو کیونکر تمہارا کار الٹا

تم الٹے بات الٹی یار الٹا

م..... ”مگر بعض ان میں سے کم عمر میں فوت بھی ہوں گے۔“ (ایضاً)

ل..... بعض بھی مکر قادیانی ہے اصل میں کلہم حکم ربانی ہے۔

م..... ”اور ہر ایک تیرے جدی بھائیوں کی جڑ کاٹی جائے گی۔ اور لادردہ کر ختم ہو جائیں  
 گے۔ یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے۔ اور ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے۔“ (ایضاً)

ل..... خدا نے یہ الہام سن کر خفا ہو کر فرمایا۔ کہ یہ پیشگوئی ہے۔ یا قصہ گوئی جو بات مدت سے  
 ظاہر ہے۔ چالاکی سے اپنا الہام بتا کر لوگوں کو تاحق دھوکہ میں ڈالنا ہے۔ اور اپنے جدی بھائیوں کا

دل دکھانا ہے اس کے بعد خدا نے ایک کاغذ پر اس اور اس کے جدی بھائیوں کا نسب معہ کیفیت  
 قصص لکھ کر میری طرف ڈال دیا اور اشارہ واسطے مشتہر کرنے کے کیا۔ لہذا وہ شجرہ نسب پیش اور باب

بصیرت کر کے لپٹی ہوں۔ کہ سب صاحبان غور فرمادیں۔ اور اس قادیانی نے جو محض جھوٹے قصہ بنا  
 کر درج اشتہارات کیے ہیں۔ جب خود خدا اس کے کذب پر گواہی دیتا ہے۔ تو اب شک کیا ہے۔





- ل ..... آپ کی ذریت منقطع ہو جائے گی غایت درجہ تین سال شہرت رہے گی۔
- م ..... ”خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے۔ عزت کے ساتھ قائم رکھے گا۔“ (ایضاً)
- ل ..... خدا کہتا ہے۔ چند روز تک قادیان میں نہایت ذلت و خواری کے ساتھ کچھ تذکرہ رہے گا۔ پھر معدوم و محض ہو جائے گا۔
- م ..... ”تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔“ (ایضاً)
- ل ..... آپ تو کس باغ کی مولیٰ ہیں۔
- م ..... ”میں تجھے اٹھاؤں گا۔“ (ایضاً)
- ل ..... آپ اٹھانے کے قابل ہیں۔ میری یہی دعا ہے کہ بہت جلد اٹھائے جائیں اور درکات میں ڈالے جائیں۔

ظالے را خفته دیدم روز  
گفتم این فتنه است خوابش برده بہ

- م ..... ”تیرا نام صفحہ زمین سے کبھی نہیں اٹھے گا۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۳)
- ل ..... جو آپ کا چہ چار ہے گا۔
- م ..... ”اور ایسا ہوگا۔ کہ سب وہ لوگ جو تیری ذات کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے ناکام رہنے کے درپے اور تیرے نابود کرنے کے خیال میں ہیں۔ وہ سب ناکام رہیں گے اور ناکامی کے ساتھ مریں گے۔“ (ایضاً)
- ل ..... بقول مرزا آج تک تو کوئی اس کا مخالف اور مکذب ناکامی اور نامرادی سے نہیں مرا ..... مخالف اسی طرح شاد کام رہ کر سرکوبی اور گوشمالی کرتے رہیں گے۔ اور بذریعہ اشتہارات بحکم خداوند تعالیٰ مکاروں کے مکر ظاہر کرتے رہیں گے۔
- م ..... ”لیکن خدا تجھے بھلی کامیاب کرے گا۔ اور تیری مرادیں تجھے دے گا۔“ (ایضاً)
- ل ..... آج تک تو آپ بھلی ناکام رہے اور ساری مرادوں سے محروم تام جب اس عمر تک ناکامی رہی ہے۔ تو آئندہ بھی نامرادی رہے گی کوئی امید نہ برائے گی۔
- م ..... ”میں تیرے خالص دوست اور دلی محبوں کا گروہ بڑھاؤں گا۔ ان کے نفوس و مال میں برکت دوں گا اور کثرت بخشوں گا۔“ (ایضاً)

ل ..... اب تک تو آپ کی خالص اور دلی محبوں کا گروہ گھنٹایا ہے۔ اور ان کی جائیں اور ان کے مال برباد ہوئے آئندہ بھی خدا کہتا ہے۔ خسر الدنيا والآخرة!

م ..... ”اور وہ مسلمانوں کے اس دوسرے گروہ پر تا بروز قیامت غالب رہے گی۔ جو حاسدوں اور معاندوں کا گروہ ہے۔“ (ایضاً)

ل ..... آپ کا گروہ بھی ایک لالہ شرم پت رائے پیشگوئی کے گواہ اور دوسرا عبد اللہ سنوری اور دو ایک ایسے ہی ٹکڑ خور ہیں جس سے دو چار روپیہ مل گئے۔ اس کی مدح کر دی۔ ورنہ قدح آور آپ نے فریب بنایا وہ گواہ بن گئے۔

م ..... ”خدا انہیں نہ بھولے گا اور فراموش نہیں کرے گا (اس کا جواب نہیں لکھا گیا) تو مجھے ایسا ہے۔ جیسے انبیاء بنی اسرائیل (جو اب نہیں لکھا) تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔“ (ایضاً)

ل ..... دور و تسلسل ہوا سوال یہ ہے کہ پہلے کون باپ بنا تھا۔ اور والدہ شریفہ کا کیا نام تھا۔ خوب عیسائی توفیق حضرت عیسیٰ اور مریم کو روحانی خدا کا زین و فرزند بتلاتے ہیں۔ یہ حضرت پیغمبر قادیان خوب پیدا ہوئے کہ نہ فقط خدا کے زین و فرزند ثابت کرتے ہیں۔ بلکہ خود خدا کا باپ بھی بننا چاہتے ہیں۔

م ..... ”اور وقت آتا ہے۔ بلکہ قریب ہے کہ خدا بادشاہوں اور امراؤں کے دلوں میں تیری محبت ڈالے گا۔ یہاں تک کہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈھیں گے۔“ (ایضاً)

ل ..... خدا کہتا ہے کہ وقت اقرب ہے کہ حکام تجھے خوب افتراء پر دازی کی سزا دیں گے اور لوگ تیرے نام سے نفرت کریں گے۔ اور لعنتیں پڑیں گی۔

م ..... ”اے منکر و اگر تم میرے بندہ کی نسبت شک میں ہو۔ اگر تمہیں اس فضل و احسان سے کچھ انکار ہے۔ جو ہم نے اپنے بندہ پر کیا۔ تو اس نشان رحمت کی مانند تم اپنی نسبت کوئی سچا نشان پیش کرو۔“ (ایضاً)

ل ..... قادیانی خدا کا ارشاد ہے۔ تجھ پر کچھ فضل و احسان نہیں کیا۔ نہ کوئی رحمت کا نشان بھیجا۔ یہ سب تیری کار سازی ہے۔ سراسر جلسازی ہے۔ اور خدا کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں نے جو فضل احسان کیا ہے۔ سب آریوں پر کیا ہے اور وقتاً فوقتاً انہیں کو الہامات اور غیب کی چیزوں سے اطلاع دی ہے اور سب فرقتے جموٹے مدعی ہیں۔ یہ بشارت خدا تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اگر آپ کو اس میں کچھ شک ہو تو اس کے مقابل کوئی دلیل پیش کیجئے۔ ورنہ خدا سے ڈرنا چاہیے وہ بڑا قادر مطلق ہے۔ جموٹوں کو بہت سزا دے گا۔ اور ان کو عذاب سے محذب کرے گا۔

عذر..... مرزا صاحب اس اشتہار میں جو کچھ احقر نے عرض کیا ہے۔ حرف بحرف خدا تعالیٰ کی حکمت لکھا گیا۔ اور اس کی حکم سے کسی کو گریز نہیں۔ کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے پس آپ اور آپ کے معاونین اس معروضہ کو پڑھ کر رنجیدہ دل اور کبیدہ خاطر نہ ہوں الما مور معذور: بقول

گرچہ تیراز کمان ہمیکلرد

از کمان وار بیند اہل خرد

الراقم قاطع براین احمقہ از جناب بھانگن شری اکاڈمی ۱۹۳۲ء

مطابق ۱۸ مارچ ۱۸۸۶ء

کلیات آریہ مسافر صفحہ ۳۹۳ تا ۳۹۹

### حاشیہ جات

۱۔ انبالہ شہر میں ایک جزوقتی تھی وہ بڑی مالدار تھی۔ جب وہ اور اس کی بیٹی مسماۃ اللہ دی ایک دختر خورد سال چھوڑ کر مرگئیں تو اس کا بیٹا مستی اللہ دیا اہل حدیث کی صحبت میں بیٹھ کر تائب ہو گیا اس کی لڑکی خورد سال یعنی اپنی بھانجی کا نکاح مولوی محمد صدیق صاحب سے کر دیا زیور اور جائیداد کو جو حرام کے ذریعہ سے پیدا کی گئی تھی۔ اس نے نہیں رکھا۔ لالہ راج کنوار داروغہ جوگلی سے تمام قرض لے کر اس نے بساطی کی دکان کی خدا نے اس کو برکت دی۔ شاید یہ اس کی طرف اشارہ ہے اس کا تذکرہ مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بنا لوی نے اشاعت السنۃ اور مولوی محمد جعفر صاحب تھامیری نے ”رسالہ آسانی“ میں لکھا ہے۔

۲۔ ہم کو ایک دوست کی زبانی معلوم ہوا کہ مرزا نظام الدین کے گھر اس پیشگوئی کے بعد اولاد خدا نے عطا فرمائی ہے ہم نے مرزا نظام الدین کو ایک جوانی کا رڈ بھیج کر دریافت کیا۔ جو اب مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء کا لکھا ہوا آیا۔ جس کی نقل ہم ذیل میں درج کرتے ہیں ”جناب من! خداوند کریم نے مجھ کو دو فرزند عطا کیے ایک کی پیدائش ۲۵/ ۱۹۰۲ء بروز پیر اور نام اس کا مرزا دل محمد دوسرے کی پیدائش اگست ۱۸۹۷ء بروز پیر اور نام اس کا علی محمد ہے۔ اور خیریت ہے، اور راقم مرزا نظام الدین مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء۔“

### باب ۱۴ چہار دہم

### محمدی بیگم سے نکاح کی پیش گوئی

چو جامہ چرمین شمر صحبت نادان زیرا کہ گران باشد تن گرم نداد

از صحبت نادان برت نیز بگویم خوشی کہ تو مگر شد و آرام ندارد  
 زین ہر دو تمدان تو شہمی را کہ در اقلیم بانجگر خوزیز دل نرم ندارد  
 زین ہر سہ تمنیہ بشنو باتو بگویم ہمدے کہ جوانی کندو شرم ندارد  
 ہائے تو کب تک ستائے گی اے نامراد محبت، اے خانہ خراب عشق، تیرا ہر اہو۔ تو کیا  
 شے ہے۔ محبت آہ کیا پیارا نام ہے۔ نہیں نام ہی پیارا نہیں اس کی ابتداء ہی نہایت ہی خوشگوار  
 ہے۔ اندی و خراباتی اور عالم شباب ادلی۔ مگر ہائے ناکامی ہمیں تو شباب کبھی آیا ہی نہیں۔

سنبالا ہوش تو مرنے لگے حسینوں پر

ہمیں تو موت ہی آئی شباب کے بدلے

”چالیس سال کی عمر میں ہی حالت مردی کا لہم تھی۔ ضعف دماغ اور ذیابیطس مہلک

(تریاق القلوب ص ۳۵، خزائن ج ۱۵ ص ۲۰۳)

مرض مستزاد“

اور اب تو پھری و صد عیب کے مصداق سن شریف پہنچا و شش تازم باین ریش و ش اگر  
 کسی پر پیدا زفاش ہوا تو کیا حالت ہوگی۔

ایک نظر دیکھا کے گھائل کیا قتل ہی کر ڈالا پھر منہ نہ دکھایا۔

ہیں ہیں میں کیا کہتا ہوں۔ دہ شریف اور پاک دامن، با عصمت، صاحب عفت، بڑکی

کم سن ان نامحرموں میں کیونکر آسکتی۔

شاید ہازاری تو ہے ہی نہیں۔ اور ابھی اس کو خبر ہی کیا ہے۔ سن تیز اور بلوغ کو بھی نہیں پہنچی۔

ہائے ظالم تیری کس ادا نے مجھ گرگ پاران دیدہ مرد و گرم زمانہ چشیدہ کو بیک نظر از خود

رفتہ دین و دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ پیری میں آہ کتنی ہے مر مر کے زندگی۔ بچھ بچھ کر پھر بھڑکتی ہے۔ شمع

سحر کی لو۔ اے کاش تو میری ہوتی یا اپنی صورت دیکھا کر یہ روز سیاہ مجھ کو نہ دیکھاتی مجھ کو کیا خبر تھی۔

لگتے ہی ہو گیا جگر کے پار۔ تیرا مکان نے زود کام کیا۔

اس سفر کی ضرورت ہی کیا تھی۔ کیا اسی واسطے تقدیر کستان کشان وہاں لے گئی تھی۔

افسوس کھو بیٹھے کونے پار میں ہم جا کے دوستو۔ ناموس ننگ و غیرت و صبر و قرار دل۔ دل ہے کہ سینہ

میں تنور کی طرح جلتا ہے۔ آنکھ ہے کہ دریا کی طرح جاری۔ کسی کردٹ کسی پہلو آرام نہیں۔ ایک

سب آگ ایک سب پانی۔ دیدہ و دل عذاب میں دونوں۔

پاؤں کی آہٹ سے چونک کر کہا کون ہیں شاہ جی؟

شاہ جی..... حضور بندہ ہے آج حضور کی طبیعت کیسی ہے نصیب اعداء حضور کے حال سے از حد اضطراب اور پریشانی ہو رہا ہے۔

حضور..... کچھ اختلاج قلب سا معلوم ہوتا ہے۔ دل میں درد ہے اور قلب بہت اچھلتا ہے۔ دیکھو نہ کرتہ کے باہر سے قلب کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔

شاہ جی..... حضور کو یہ مرض دورہ کے طور پر ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب کو اطلاع کروں (بدوں اس کے کہ کچھ جواب ملے) فوراً واپس ہوئے اور حکیم صاحب کو اطلاع کی کہ حضرت اقدس کی طبیعت سخت ناساز ہے۔ اور بہت ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

حکیم صاحب..... نہایت پریشانی کے لہجہ میں گھبرا کر خیر باشد کیا حال ہے۔ کچھ بیان تو کرو۔ شاہ جی..... وہی اختلاج القلب دل میں درد مٹلاتے تھے۔

حکیم صاحب..... اضطراب اور پریشان حالی میں حاضر ہو کر حضور کے مزاج اقدس اللہ تعالیٰ اپنا فضل شامل حال رکھے ہمارا تو مدار زندگی حضور کے قدموں کے ساتھ ہے۔

بتوں کے ظلم اور جور جفا سے ہا ہا

سیجا کو بھی دیکھا جان بلب ہے

حضرت اقدس..... خلاف معمول قلب میں بے چینی سی معلوم ہوتی ہے۔ دل بیٹھا جاتا ہے۔ سانس بند ہوتا ہے۔ کچھ منہ کو آتا ہے دل کو سینہ میں کوئی ملتا ہے۔ دل ہے کہ بہت اچھلتا ہے۔ نہ بیٹھے آرام ہے۔ نہ لینے تسکین نیند آجائے تو شاید کچھ سکون ہو جائے۔ مگر یہ مجال بلکہ ناممکن۔

حکیم صاحب..... نے فوراً مفرح یا قوتی جو ساتھ لائے تھے۔ غرق کیوڑہ اور بیڑہ مشک کے ساتھ دیا۔ کچھ دل کو تسکین ہوئی۔

حضرت اقدس..... چادر کو منہ پر کھینچ کر اچھا اب دیکھو آرام معلوم ہوتا ہے۔ آپ بھی آرام کیجیے۔ شاید آنکھ لگ جائے۔

حکیم صاحب..... (مؤدبانہ) بہت بہتر اگر نیند آجائے تو فہوالرادر نہ دوا بھیجتا ہوں۔ اس میں سے تھوڑی دوا نوش فرمائیے۔ آنکھ لگ جائے گی۔

حضرت صاحب..... تھوڑی دیر چار پانی پر چکے پڑے رہ کر آف آج تو نیند ہی حرام ہو گئی ہے۔ وضو کر کے مصلے پر بیٹھے۔

وصل اس بت کا نہ ہو اگر سالک

آج کی رات عبادت ہی سہی

دور کعت نماز پڑھی بیٹھا بھی نہیں جاتا

اے مصحفی بتوں میں ہوتی ہے یہ کرامت

دل پھر گیا نہ تیرا آخر خدا سے دیکھا

نہ نیند آتی ہے نہ بیٹھا جاتا ہے سرانے سے کتاب اٹھا کر دو چار ورق الٹ پلٹ کر کھدی۔

خدا یا یہ معاملہ کیا ہے۔ تو ہی عزت و آبرو کا نگہبان ہے۔ اگر بے تابی سے ایسے ہی

پاؤں پھیلائے۔ تو سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ غیر لوگ تو گئے جھولہ میں اور آئندہ کی

رجوعات بھاڑ میں جو مرید پھنس گئے ہیں۔ اور اب موجود ہیں۔ ان کا بھی بھروسہ نہیں کہ رہیں

کروٹ لے کر۔

اے خضر اتنے دن تیرے کیونکر بسر ہوئے

ہم سے تورات کٹ نہ سکی انتظار کی

چار پائی پر بیٹھ کر سر کو پکڑ کر آہے سر چکر کھانے لگا۔ یا ارحم الراحمین کیا کروں۔ دائم مرض

کے سبب بدن میں ہلنے کی طاقت نہیں۔ ذیابطس ضعف و مانع اور دوران سر میرے ہمزاد کی طرح

جان کے ساتھ جائیں گے۔ اب بڑھاپے میں عشق اور کیا معنی اور عشق بھی ایک نادان لڑکی کا۔

نادان ہے کم سن ہے بہت، عمر ہے تھوڑی

ان کو تو وفا کیسی جفا بھی نہیں آتی

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ہمت ہارنی عشق میں انجام کار سوچتا عقل

کے خلاف ہے۔

دلانا امید مت وصل ہو اس کے عاشق کو

مزے ہیں سو طرح کے عالم امید داری ہیں

آخر ہماری برادری میں بھی قریب رشتہ داری ہے۔ میں بھی کچھ چوڑھا نہیں، چھان نہیں

خدا کی عنایت سے عزت میں، دولت میں، شہرت میں، امارت میں کچھ زیادہ ہی ہوں دوسرے

قربت قریب سے پھر سلسلہ جنبانی کیوں نہ کی جائے۔

لڑکی کے باپ کو خط لکھا جائے۔ لڑکی کی ماں بھی ہماری چچیری بہن ہے کسی کو کان و

کان بھی خبر نہ ہوگی۔

مزا ہے ہووے گر چکے ہی چکے مدعا حاصل

کسی نے کر لیا معلوم راز دل تو کیا حاصل

یہ نامراد برادری کے جھگڑے تنازعہ ایسے ہیں قرہمی عزیزوں کو دودر کر دیتے ہیں۔ غیر کیا دشمن بنا دیتے ہیں۔

فضل احمد (چھوٹے بیٹے) کی بیوی کی معرفت سلسلہ جہنابی کی جائے تو مصلحت ہے۔ پہلے عزت بلی بی کے باپ مرزا علی شیر سے اس معاملہ میں مشورہ کیا جائے یہ رات جو روز حشر سے طولانی اور حسرت عشاق سے لائینی ہیں۔ بڑی مشکل سے کاٹی پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی۔ شاہ جی..... (نو وارد) یہ دوا کی شیشی حکیم صاحب نے دی ہے۔ اس کو نوش جان فرما لیجیے۔ نیند آجائے گی۔

حضرت اقدس..... شیشی کلورائیڈاٹ سے ایک گلاس میں ڈال غٹ غٹ نوش فرمایا اور فوراً آنکھ بند ہو گئی اور خراٹے لینے لگے۔

صبح کو جب آفتاب برآمد ہوا کمرہ کا دروازہ کھلا ایک خاتون صاحب عصمت و عفت و حیا، چالیس پچاس برس کا سن و سال سفید سادہ لباس زیب تن کیے ہوئے رو برو آئی۔ خاتون چار پائی کے پاس کھڑی ہو کر اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کیوں خیریت تو ہے نماز صبح کا وقت اخیر ہوا اور آپ ابھی اٹھے نہیں۔ رات نصیب اعداء کیا طبیعت ناساز رہی۔ میاں..... ہاں رات اختلاج القلب کی شکایت رہی۔

بیوی اللہ رحم کرے یہ نامراد بیماری نہیں جاتی ہے۔ ہمیشہ دورہ ہو جاتا ہے۔ علاج کرنا تھا۔ تم خود حکیم اور حکما مکان پر رہتے ہیں۔ خدا نہ کرے۔ شیطان کے کان بھرے۔ میاں..... علاج سے تو میں بھی غافل نہیں۔ ہاں خوب آیا میں نماز پڑھ لوں۔ تم سے ایک معاملہ میں مشورہ کرتا ہے۔

بیوی..... الہی خیر مجھ سے کیا مشورہ ہے۔ کبھی آگے نہ پیچھے۔ میاں..... (نماز پڑھ کر) احمد بیک ہوشیار پوری کی بڑی بیٹی محمدی کی ابھی کہیں نسبت وغیرہ تو نہیں ہوئی۔ بیوی..... نہیں مسکرا کر کیا اس سے نکاح کا ارادہ ہے؟

میاں..... ہاں ہم کو الہام ہوا ہے کہ اس کا نکاح ہمارے ساتھ مقدر ہو چکا ہے۔ بیوی..... (ذرا آشفتہ ہو کر ناک بھون چڑھا کر) پھر کر لو۔

میاں..... مگر تمہاری امداد کی ضرورت ہے۔ سستی کرنا۔

بیوی..... جب خدا نے مقدر کر دی تو اس کا روکنے والا کون اور کسی کی امداد کی ضرورت کیسی؟



میاں..... (غصہ کے لہجہ میں) تم تو بگڑ کر یہ باتیں کرنے لگیں۔ کہو (پھر نرم آواز سے) ہم کو تو تم سے بڑی امید تھی۔ کہ اپنے بھائی مرزا علی شیر کی معرفت یہ معاملہ بہ آسانی درست کرادو گی۔

بیوی..... (تیوری چڑھا کر) اے چلو ہٹو بھی تمہیں تو بڑا عشق ہوا ہے میرے بھی سفید چوڑھ میں تھکواؤ گے کیا۔ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنی سفید داڑھی کی طرف دیکھو۔ ساٹھ کے لگ بھگ عمر آئی۔ اور ابھی بیاہ کی ہوس؟ کہاں دس بارہ برس کی نادان لڑکی پوتیوں کے ہان کی اور کہاں تم کو شرم نہیں آتی؟ ایک تو ہے کیا جو روں کا باڑہ بھرد۔ ایک شادی کو تو ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن بھی نہیں۔ کیا ہر سال نیا نکاح ہوگا۔

زن تو کن اے خولجہ در ہر بہار

کہ تقویم پارینہ نیا بد بکار

میاں..... خدا کا حکم اسی طرح ہے۔ خدا کے مامور اس کے حکم کے خلاف کسی لائم کی ملامت اور طاعن کے طعن سے ڈر کر کوئی کام نہیں کرتے۔

بیوی..... میرے سے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کس منہ سے کر سکتی ہوں آخر وہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ ایک بی بی جوان جس کے نکاح کو دو برس بھی نہیں ہوئے گھر میں موجود اور خدانہ کرے کچھ بانجھ نہیں۔ بیار نہیں۔ بد شکل نہیں بے تمیز نہیں دہلی کی رہنے والی کم ذات نہیں سیدانی ہے۔ دوسری بیوی کا تو کیا ذکر ہے۔ وہ تو تقویم پارینہ بڑھیا ہو کر پوتے پوتیوں والی ہوئی اب تیسری شادی کی تجویز ہے وہ بھی بیوی کی معرفت (کہ اپنے بھائی سے کہو وہ سنی کرے) جس کے دو جوان بیٹے لائق موجود ہیں۔

میاں..... جو اس معاملہ میں جان توڑ کوشش نہیں کرے گا۔ وہ خدا کا دشمن ہے۔ اور گویا وہ خدا کے ارادہ کو روکتا ہے۔ ہذا فراق بینی و بینک۔

بیوی..... جب خدا کا ارادہ ہے تو بندہ کون روک سکتا ہے۔ بیوی چلی گئی۔

ہمارے حضرت اقدس تدبیر میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو مرزا احمد بیگ کو خط لکھا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ: ”خدا تعالیٰ نے اپنے الہام پاک سے میرے پر ظاہر کیا ہے۔ کہ اگر آپ اپنی دختر کلان کا رشتہ میرے ساتھ منظور کریں۔ تو تمام غمخوشی آپ کی اس رشتہ سے دور کر دے گا۔ اور آپ کو آفات سے محفوظ رکھ کر برکت دے گا۔ اور اگر یہ رشتہ وقوع میں نہ آیا۔ تو آپ کے لیے دوسری جگہ رشتہ کرنا ہرگز مبارک نہ ہوگا۔ اور اس کا انجام درد اور مصیبت اور موت ہوگی۔ یہ دونوں طرف موت کے ایسے ہیں۔ جن کو آزمانے کے بعد صدق اور کذب معلوم ہو سکتا ہے۔ اب جس

طرح چاہو آزمالو۔ میری برادری کے لوگ مجھ سے ناواقف ہیں۔ اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔  
ہمارے کاموں کو ان پر بھی ظاہر کرے۔“

(خلاصہ خط مرزا قادیانی مندبج کلہ فضل رحمانی ص ۱۱۹، ۱۲۰، مشمولہ احتساب ج ۲۰ ص ۳۲۵، ۳۲۶)

### حاشیہ جات

۱۔ عزت بی بی فضل احمد کی بیوی ہے مرزا علی شیر مرزا صاحب کی بیوی کا حقیقی بھائی فضل  
احمد کے مامون اور عزت بی بی کے باپ ہیں۔

## باب ۱۵ پنج دہم

### اشتہار صداقت آثار

اس میں جو نشان (الف) ہے۔ اصل مضمون اشتہار مرزا صاحب قادیانی سے مطلب  
ہے۔ اور (ج) کا جواب سے مراد ہے جو پنڈت لکھرام کی طرف سے ہے۔ یہ عبارت کل بلفظ  
کتاب کلیات آریہ مسافر صفحہ ۳۹۹ سے نقل کر کے ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ جس جگہ انبیاء علیہم  
السلام یا آنحضرت ﷺ کی جناب میں کلمات خلاف تہذیب لکھے ہیں۔ وہ چھوڑ کر نشان  
..... بنا دیا ہے۔

الف ..... ”میرے اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء پر جس میں ایک پیشگوئی دربارہ تولد فرزند درج  
ہے حافظ سلمان کشمیری اور صابر علی سکنہ۔ قادیان نے نواب بیگ اور شمس الدین اور غلام علی  
ساکنان ایضاً کے رو رو یہ دروغ برپا کیا کہ ہماری دانست میں ڈیڑھ ماہ سے فرضی ملہم کے گھر لڑکا  
پیدا ہو گیا ہے حالانکہ یہ قول ان کا سراسر دروغ ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جدید ایڈیشن اشتہار نمبر ۳۳ ج ۱ ص ۹۸)

ج ..... دروغ گوئی ہم بروئے تو اسی کا نام ہے اور ہاتھ پر برسوں جمانا آپ ہی کا کام ہے۔ صابر  
علی اور حافظ سلطانی کا حوالہ محض دہل ہے۔ یہ بات انہوں نے بلکہ بعد چھپے اشتہار کے جو انہوں نے  
غلام احمد سے اس الہام سے کوئی جواب نہ بن آیا اور شرم کے مارے سر جھکا کیا۔ شمس الدین وغیرہ میں  
کس کی گواہی کا یہ حال ہے۔ کہ شمس الدین تو صفایاں بیان کرتا ہے۔ کہ غلام احمد نے محض جھوٹ لکھا  
ہے۔ حاشا تم حاشا میں ہرگز اس بات کا گواہ نہیں۔ نہ صابر علی وغیرہ نے کچھ کہا ہے۔ اور نواب بیگ  
آدی نادان اور مرزا کا خدمت گار ہے۔ پس اس کی گواہی کا کیا اعتبار ہے۔ علی ہذا غلام علی مرزا کا  
قریبی رشتہ دار ہے۔ شب و روز اس کی بہتری اور بھلائی کا خواستگار اب ناظرین کے ہاتھ انصاف

ہے۔ اور مرزا کا جموٹ صاف ہے۔ اگر کسی کو اس میں شک ہو قادیان جا کر محقق بے شک ہو۔  
 الف ..... ”جس سے وہ نہ مجھ پر بلکہ تمام مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔“ (ایضاً)  
 ج ..... کیا آپ دین اسلام کے بانی مہمانی ہیں۔ اور موجد مسلمان ہیں۔ جو آپ پر حملہ کرنے  
 سے مسلمانوں پر حملہ آور محمول ہوتے ہیں۔ حالانکہ کوئی مسلمان آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ بلکہ  
 کھلم کھلا بدعتی بتلاتے ہیں اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔

الف ..... ”اس لیے ہم ان کے قول دردغ کا رد واجب سمجھ کر عام اشتہار دیتے ہیں۔“ (ایضاً)  
 ج ..... ان کا یہ قول ہی نہیں یہ سب آپ کی بناوٹ ہے جس کو گویا اپنے قول کا آپ ہی رد کر کے  
 مشتہر کرتے ہیں۔

خیالات نادان خلوت نشین  
 بہم برکنہ عاقبت کفر و دین

الف ..... ”کہ آج ۲۲ مارچ ۱۸۸۶ء تک ہمارے گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا۔“ (ایضاً)  
 ج ..... آج کل کی کیا خصوصیت ہے۔ بلکہ ابد تک آپ کے کوئی لڑکا پیدا نہ ہوگا۔ جیسے عرصہ ہوا  
 بذریعہ اشتہار مدلل شائع ہو چکا ہے۔

الف ..... ”بجز ان لڑکوں کے جن کی عمر بائیس بیس سال ہے پیدا نہیں ہوا۔“ (ایضاً)  
 ج ..... مرزا کی کوئی بات خالی از کمر و فریب نہیں لڑکوں کی عمر بیس بائیس سے زیادہ مبہم عبارت  
 میں لکھی ہے۔ حالانکہ ایک کی عمر ستائیس سال کی اور دوسرے کی پچیس سال کی تھی۔ جب اس فریب کی  
 یہ ہے۔ کہ لوگ لڑکوں کی عمر سے اس کا عالم پھری سمجھ کر مطعون نہ کریں۔ کہ مرزا مطیع شہوت ہے۔

الف ..... ”لیکن ہم جانتے ہیں۔ کہ ایسا لڑکا حسب وعدہ الہی نو برس کے عرصہ تک ضرور پیدا  
 ہوگا۔“ (ایضاً)

ج ..... یہ خوب یاد آئی کہ مخالفین کے مرنے کا تو آپ کو بقید تاریخ و وقت الہام ہوا۔ اور اپنے  
 گھر میں لڑکا پیدا ہونے میں سال کا اعظام نہ ہو۔

چوں نہ جانی کہ در سرائے تو چوست  
 تو بزاوج فلک چہ دانی چوست

یہ صریح آپ کی جلسازی ہے۔ اگر خدا سے الہام ہوتا تو کیا وہ تاریخ اور وقت بتانے  
 پر قادر نہ تھا۔ اور اتنا تغیر تبدل نہ کرتا حالانکہ پہلے اشتہار میں صاف صاف لکھا ہوا تھا۔ کہ آپ کو

مقدس روح دی اور روح آسمان سے روانہ کر چکے ہیں۔ پہلے کہا ہوگا۔ ابھی کہا نہ ہوگا۔ نو برس کی میعاد کے پھر عنقریب ملا کر اسی حمل سے وعدہ کیا، خاک یہ اڑی۔ کہ بجائے عموائل کے مردہ لڑکی پیدا ہوئی پہلے یہ بھی اطمینان ہو گیا کہ آپ اور آپ کی بیوی زندہ رہیں گے ہمارا الہام تو تین برس کے اندر اندر آپ سب کا خاتمہ ہلاتا ہے۔ اور جب آپ ثانی عیسیٰ اور خلقت کی ہدایت کے لیے پیدا ہوئے۔ تو آپ کو سچا کرنے کے لیے اسی حمل سے خدا فرزند کیوں نہیں دے سکتا تھا۔ اگر یہی بات ہے تو پہلے اشتہار کے رد میں لکھ چکے ہیں۔ کہ یہ مہمل عبارت اس لیے گامظنی ہے۔ کہ اگر آپ کے لڑکانہ ہوا۔ تو آئندہ کے لیے تاویل بنائیں گے۔ سو وہی ہوا جب مردہ لڑکی کا پیدا ہونا خفیہ معلوم ہو گیا۔ تو فوراً نو برس کا بہانہ بنالیا۔ اور اس کا کیا سبب تھا۔ کہ اسی لڑکی کو اب ایسا کرے گا۔ کیا پہلے دونوں فرزندوں میں اس جوان عورت کو اپنے نکاح میں لائے ہو۔ اس کے اطمینان کے لیے وعدہ فرزند مذکور کا مضمون گامظنی ہے۔ لیکن وہ ایسی باتوں سے ہرگز خوش نہ ہوگی۔

الف ..... ”خواہ جلد ہو یا دیر میں بہر حال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔“ (ایضاً)

ج ..... اس کا نام الہام نہیں بلکہ خیال خام ہے بھلا اگر اس مدت میں بھی پیدا نہ ہوا پھر بھی شرماؤ گے یا کوئی اور بہانہ بناؤ گے۔ یا خدا پر جموئے الہام کا الزام لگاؤ گے۔ بہر حال جس نے مرزا کے دل میں یہ فقرہ ڈالا ہے۔ وہ صحت لفظی سے بے بہرہ ہے۔ لفظ عرصہ مدت کے معنی سے مقرر ہے۔

الف ..... ”اور یہ الہام کہ ڈیڑھ ماہ سے پیدا ہو گیا ہے سراسر دروغ ہے۔“

ج ..... سچ تو یہ ہے کہ نہ اس الہام کی اصل ہے نہ کسی فہم سے نقل ہے یہ سب آپ کی بناوٹ ہے۔ اچھا ڈیڑھ ماہ سے ہونا جموٹ تھا۔ اب ۱۵ اپریل کو مردہ لڑکی کا پیدا ہونا بھی جموٹ ہے۔ مرزا صاحب آپ کا جموٹ کسی طرح چھپ نہیں سکتا ہے۔ اگر ایک تاویل بناؤ گے۔ تو سو جگہ الزام کھاؤ گے۔

دروغ اے برادر گمو زنبہار

دروغ آدمی را کند شرمسار

الف ..... ”ہم اس دروغ کے ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔“ (ایضاً)

ج ..... لوگوں کا دروغ آپ سے ابد تک ثابت نہ ہوگا۔ البتہ آپ کا دروغ بات بات میں طشت از بام ہور ہا ہے۔ ابھی دیکھیے بجائے عموائل کے دختر مردہ کا قدم نحوں آ گیا۔

الف ..... ”اپنا شہرہ رفع کرنے کے لیے ہمارے سسرال میں چلا جائے اگر کرایہ نہ ہو ہم اس کو دے دیں گے۔“ (ایضاً)

ج..... سبحان اللہ آپ کا روپیہ دینا اور ایفاء وعدہ کرنا نقش الجبر ہے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو چوبیس سو روپیہ دیا ہوگا۔ باوجودیکہ لوگ پانچ پانچ سات سات سو کوں سے آئے۔ اگر آپ میں کرایہ دینے کی وسعت ہوتی تو دس دس پانچ پانچ روپیہ کی خاطر بیٹالہ وغیرہ میں کیوں در بدر پھرتے۔

الف..... ”اگر آپ ہی جا کر دریافت نہ کرے اور دروغ گوئی سے باز نہ آئے تو لعنت اللہ علی الکاذبین کا نصیب پاوے۔“ (ایضاً)

ج..... اب تو بغیر جائے اور دریافت حال کے اصل حال اظہر من الشمس ہو گیا ہے۔ آپ کہہ اپنے مجوزہ لفظ سے ملقب ہوئے یا نہیں۔

الف..... ”خدا ایسے شخصوں کو ہدایت دیوے۔ جو جوش حسد میں آ کر اسلام کی کچھ پرواہ نہیں رکھتے اور دروغ گوئی کے مال کو نہیں سوچتے۔“ (مجموعہ اشتہارات جدید ایڈیشن اشتہار نمبر ۳۳ ج ۱ ص ۹۹)

ج..... حضرت یہ خدا کا قصور نہیں۔ اس کو ملزم نہ بنائیے اس نے بجز آپ کی ذات تزدیر آیات کے ایسے شخصوں کو خوب ہدایت دے رکھی ہے۔ یہ ساری آپ کے فہمید کی کوتاہی ہے۔ جو بوالہوسی اور طمع نفسانی کے پردہ سے نظر نہیں آتا۔ ورنہ اس دروغ گوئی کا مال سب کھل جاتا۔

نہ بیند مدعی خبر خوشین را

کہ دارد پردہ پندار در پیش

الف..... ”اس پیشگوئی پر ہوشیار پور میں ایک آریہ صاحب نے یہ اعتراض پیش کیا۔ کہ لڑکا لڑکی کی شناخت دایاں کو بھی ہوتی ہے۔ سو یہ سراسر ان کی حق پوشی ہے۔ کیونکہ اول تو کوئی دائی ایسا دعوے نہیں کر سکتی دائی تو دائی کوئی طیب بھی ایسا دعوے نہیں کر سکتا۔ صرف ایک انکل ہوتی ہے۔ جو بارہا خطا جاتی ہے۔“ (ایضاً)

ج..... دایہ کا حوالہ محض جملہ ہے۔ ورنہ اس کا نام و نشان مفصل ہونا مرزا کا یہ مستمر قاعدہ ہے۔ کہ اپنے دل سے کوئی وسوسہ پیدا کر کے نام بھی درج کرتا ہے۔ جیسے براہین احمقہ میں جا بجا درج ہے۔ بھلا دائیوں کی انکل کا خطا جانا کچھ بڑی بات نہیں۔ چونکہ وہ معلم عورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ کا تو الہام تھا۔ اور خدا نے بتلایا تھا۔ وہ کیوں خطا ہوا؟ اور خطا بھی ایسا بجائے لڑکا کے لڑکی بھی زندہ نہ ہوئی اب بتلائیے حق پوش اور حیلہ کیش آپ ہوئے یا آریہ صاحب۔

الف..... ”علاوہ اس کے یہ پیشگوئی آج کی تاریخ سے دو برس پہلے کئی آریوں اور بعض مسلمانوں اور مولویوں اور حافظوں کو بھی بتلائی گئی تھی۔ چنانچہ آریوں سے ایک شخص ملا وال نام اور نیر شرم پت رائے ساکنان قادیان ہیں۔“ (ایضاً)

ج..... ڈیڑھ سال تو آپ کی شادی کو ہوا چھ ماہ بیشتر سے مردہ ہو گیا تھا۔ اگر یہی بات ہے۔ تو پہلے ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کے اشتہار میں کیوں نہ لکھتے اور اس وقت بذریعہ اشتہار علیحدہ شائع کرنا تھا۔

آریوں مسلمانوں مولویوں اس قدر فضول بنا دئی عبارت سے کیا ثبوت ہو۔ اگر دو چار معزز اشخاص کا نام جن کو اپنا الہام بتایا تھا لکھتے زیبا تھا تا کہ تصدیق کلام ہوتی۔ اور ملا داول ادر شرم پت رائے کا جو آپ نے نام لکھا وہ شخص انکاری ہیں کہ یہ بات ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں محض طبع زاد مرزا ہے بلکہ لالہ شرم پت رائے کی باپ سے اسی سبب سے بگڑی ہے کہ آپ اس سے جھوٹی گواہی دلاتے تھے اور وہ راست کہتے تھے۔ اس کینہ سے یہاں فقط شرم پت لکھا پہلے اشتہار میں لالہ شرم پت رائے ممبر آریہ سماج قادیان لکھا جاتا ہے بین نقادوں رہ از کجاست تا بہ کجا۔

الف..... ”ماسوا اس کے اگر پیشگوئی کا مفہوم بنظر ایک جائے دیکھا جائے تو ایسا بشری طاقت سے بالاتر ہے جس کے نشان الہی ہونے میں کچھ بھی شک نہیں۔“ (ایضاً)

ج..... بیشک اس پیشگوئی کا مضمون انسانی طاقت سے بالاتر ہے۔ مگر شیطانی قدرت کے آگے کچھ بات نہیں لڑ کون کا کھیل ہے۔

الف..... ”جس کسی کو شک ہو اسی قسم کی پیشگوئی پیش کرے۔“ (ایضاً)

ج..... جس کسی کو شک ہوگا۔ پیش کرے گا۔ ہمارے نزدیک تو شیطانی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔

الف..... ”یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں۔ بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم نے ہمارے نبی کریم رؤف کی صداقت اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا ہے۔“ (ایضاً)

ج..... اگر آسمانی نشانوں کا یہی گپ شپ نمونہ ہے تو کیفیت عالم بالا معلوم شد۔

الف..... ”درحقیقت یہ نشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے صد ہا درجہ افضل ہے۔“ (ایضاً)

ج..... دست خود دہان خود جود ل چاہا گپ لگائی ورنہ عقلمند خوب جانتے ہیں۔ کہ آپ کی یہ لہن ترانی اور کذب بیانی برتری یا مردہ زندہ کرنا بہتر ہے۔ اسی واسطے حضرت کے گھر بجائے زندہ مردہ لڑکی پیدا ہوئی۔

الف..... ”کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے میں خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ایک روح واپس منگائی جائے۔ اور ایسا مردہ زندہ کرنا حضرت مسیح اور بعض دیگر انبیاء کی نسبت بائبل میں لکھا ہے جس کے ثبوت میں معترضین کو بہت سے کلام ہیں۔“ (ایضاً)

ج..... اگر مردہ کا زندہ کرنا اور روح کا واپس منگوانا بہت آسان کام ہے تو اپنے آباؤ اجداد کی

روح کو منگوا کر دکھائیے اور جو اپنی فضیلت میں حضرت مسیح اور دیگر انبیاء کی تکذیب کی ہے۔ دراصل یہ ان کی تکذیب نہیں بلکہ تم نے محمد صاحب کی تکذیب اور قرآن کو باطل بتلاتے ہو۔ کیونکہ اس میں حضرت مسیح اور دیگر انبیاء کی تصدیق لکھی ہے اور آپ کے نزدیک لکیر مانی کی ہے۔ بس ثابت ہوا کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ اور بائبل اور قرآن سب جمونے ہیں اور جو کچھ اس میں لکھا ہے سب الف لیلٰی کے قصے ہیں۔

الف ..... ”اور مردہ صرف چند منٹ کے لیے زندہ رہتا تھا۔ اور پھر دوبارہ اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر رخصت ہوتا تھا۔“ (ایضاً)

ج ..... آپ کے الہام کی برکت سے تو دختر مردہ چند منٹ بھی زندہ نہ رہی بلکہ مردہ ہی پیدا ہوئی اب بتلایے حضرت مسیح اور دوسرے انبیاء کا مجزہ افضل ٹھہرایا آپ کی جعل سازی کا ثمرہ بہتر ہوا۔

الف ..... ”اگر مسیح کی دعا سے کوئی روح دنیا میں آئی۔ تو اس کا آنا نہ آنا برابر ہے۔“ (ایضاً)

ج ..... بھلا مسیح کی مدعوئی سے کچھ فائدہ ہوا یا نہ ہوا؟ کلام اس میں ہے۔ کہ آپ کی روح مطلوبہ سے کیا فائدہ ہوا؟ البتہ اس کا آنا آپ کے لیے بہت مفید ٹھہرا جس سے ہمیشہ کے لیے آپ کا کذب یہاں کھل لکھا۔

الف ..... ”مگر اس جگہ بفضلمہ و برکت حضرت خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجیے گا وعدہ فرمایا ہے۔ جس کی ظاہری اور باطنی برکتیں تمام دنیا میں کھلیں گی۔“

(ایضاً)

ج ..... ایسے خدا کے وعدہ کا کیا اعتبار ہے جس کا دم بدم و گر گونہ کام ہے پہلے اشتہار میں بہت اقرب وعدہ کیا پھر نو برس کی مدت بتلائی پھر اسی حمل سے لڑکا دینے کا اقرار کیا آخرش فقط مردہ لڑکی عطا کی۔ چونکہ کعبہ پر خیز و کجا ماند مسلمان۔ یہی بابرکت روح تھی۔ کہ جس کے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اور یہی اس کی ظاہری دنیا میں برکتیں تھیں۔ کہ آپ کو کاذب کر دیا۔ اور اپنی والدہ کو مرض مہلک میں مبتلا کیا۔

الف ..... ”جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں۔ وہ آنحضرت کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوئے۔“ (مجموعہ اشتہارات جدید ایڈیشن اشتہار نمبر ۳۳ ج ۱ ص ۱۰۰)

ج ..... ظاہر مسلمانوں میں آپ سے زیادہ کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ جو اپنے شعبدے اور خود غرضی مطالب کو حضرت کا مجزہ کہتے ہو اور اگلے پچھلے سب سے افضل اور اعلیٰ بنتے ہو۔

الف..... ”میں کیا چیز ہوں۔ جو کوئی مجھ پر حملہ کرتا ہے۔ وہ اصل میں حضرت پر کرتا ہے۔“

(ایضاً)

ج..... ابھی آپ کیا چیز بھی نہ ہوتے۔ آپ پر حملہ کرنا حضرت پر حملہ کرنا ہے۔ اور آپ کو جھوٹا بتلانا خدا پر الزام لگانا ہے۔ اور خدا نے آپ کو سب انبیاء اور اولیاء سے برگزیدہ کیا ہے۔ اور اپنے وحدت سے بھی نزدیک زیادہ بتلایا ہے بلکہ خود خدا آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ اور آپ کا گھر برکتوں سے بھرے گا۔ اور آپ کے فرزند مردہ کا نام سمندر کے کناروں تک کرے گا۔ اور آپ کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی ہے۔ اور آپ کی خاطر لوگوں کے گھر بیواؤں سے بھر دے گا۔ اور لا ولد رکھ کر خاندان ختم کرے گا۔ اور آپ کی اعانت کے لیے براہین احمقہ کا لشکر آسمانوں سے آیا ہے اور سب سے اعلیٰ اور برتر بنایا ہے۔ پھر بھی اگر تاجپزی رہے تو فقط اتنا قصور رہا کہ خدا مجبور مطلق ہو جائے۔ اور آپ مختار کل بنادیں۔ آفرین باد برین عیب مردانہ تو

الف..... ”مگر اس کو یاد رکھنا کہ کوئی آفتاب پر خاک نہیں ڈال سکتا۔“

(ایضاً)

ج.....

## باب ۱۶ شانزدہم

### پسر موعود کی پیش گوئی

اشہار دوم ۸ اپریل ۱۸۸۶ء

الف..... ”اس خاکسار کے اشہار ۲۲ مارچ ۱۸۸۶ء پر بعض صاحبوں نے جیسے منشی اندر من مراد آبادی نے یہ نکتہ چینی کی ہے۔ کہ نو برس حد پسر موعود کے لیے بڑی گنجائش کی جگہ ہے۔ ایسی لمبی چوڑی میعاد تک تو کوئی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے۔“ (مجموعہ اشہارات جدید ایڈیشن اشہار نمبر ۳۵ ص ۱۰۱)

ج..... منشی صاحب کی اس نکتہ چینی پر کس طرح اطلاع ہوئی۔ آیا بذریعہ تحریر یا تقریر بر تقدیر اول و تحریر موجود ہوگی ملاحظہ کرائیے بر تقدیر دوم مخبر مستبر کا نام بتائیے۔ ہم بارہا مستبہ کر چکے ہیں۔ کہ ایسے صریح جھوٹ بولنے سے آپ ملہم نہ ہوں گے۔ بلکہ مذبذبون میں محسوب کیے جائیں گے۔ آپ پر لازم ہے کہ یا تو اپنے دعوے کو ثابت کریں۔ ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین کا مصداق بنیں۔ اور منشی صاحب کے سوا اور بعض صاحبوں کا نام کیوں مخفی کیا ہے۔ کیا کیا جاوے آپ کا یہی شیوہ ہے کہ خیالی پلاؤ پکاتے ہو اور حجرہ میں بیٹھے باتیں بناتے ہو یہ اعتراض منشی صاحب نے تو نہیں کیا اگر



کسی اور صاحب نے کیا ہو۔ یا آپ نے اپنے دل سے گمراہوں تو صحن درست ہے۔ کیونکہ اگر وہ لڑکا آسمانوں سے خدا کا مرسل آتا ہے۔ تو اس کی قدرت کاملہ کے آگے نو ماہ کے اندر یا اسی حمل سے پیدا کرنا محال نہ تھا۔ یہ ساری آپ کی چالاکي ہے۔ جس سے ادنیٰ و اعلیٰ شاکی ہے سوچا ہوگا اس مدت بعیدہ میں خفیہ خفیہ کوئی فریب بنا کر لڑکا پیدا کریں گے۔ اول تو آپ کی نظر عمل موجود پر تھی۔ سو اس کا نتیجہ تو ظاہر ہو گیا۔ آئندہ جو مکر بناؤ گے۔ اس کے ثمرہ سے فحالت اٹھاؤ گے۔ ہمارا الہام یہ کہتا ہے۔ کہ لڑکا کیا تین سال کے اندر اندر آپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آپ کی ذریت سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔

الف..... ”اس کا جواب یہ ہے کہ جن صفات خاصہ کے ساتھ لڑکے کی بشارت دی گئی ہے۔ کسی نے میعاد سے اس کی عظمت و شان میں فرق نہیں آسکتا بلکہ صحن انصاف کی بات ہے۔ کہ ایسی اعلیٰ درجہ کی خبر جو ایسے نامی آدمی کے تولد پر مشتمل ہے۔ انسانی طاقتوں سے بالاتر ہے۔“ (ایضاً)

ج..... مرزا خود ہی سوال و جواب گمراہی لطف بیان کرتا ہے۔ مگر جہالت کہاں جائے۔ عطف دھوبی جائے عادت کبھی نہ جائے، سوال دیگر، جواب دیگر اعتراض تو ایسے بنا کر جمایا کہ نو برس کی میعاد میں مکر و فریب کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جواب تو کہاں بخلاف اس کے عظمت و شان کا رونا رونے لگے۔ پہلے اعتراض میں یہ کہاں ہے۔ کہ نو برس کی میعاد میں اس کی عظمت و شان زائل ہو جائے گی۔ یا وہ ایسا ذلیل و خوار ہوگا۔ کیا خدا نو برس کا کام ایک لمحہ میں نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو سرخرو نہیں بنا سکتا مرزا صاحب آپ انسان تو نہیں جو یہ کام آپ سے نہ ہو سکتا ہو آپ تو دنیا میں خدا پیدا ہوئے ہیں اس لیے آپ سے کچھ بڑی بات نہیں۔

الف..... ”ما سو اس کے بعد اشتہار مندرجہ بالا کی دوبارہ اس امر کے انکشاف کے لیے جناب باری میں توجہ کی گئی تو ۱۸/۱۸ اپریل ۱۸۸۶ء کو خدا کی طرف سے یہ کہا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا۔“ (ایضاً)

ج..... لہجے مدت حمل سے تو تجاوز کر گیا۔ لڑکا تو درکنار ۱۵ اپریل کو مردہ لڑکی پیدا ہوئی۔ اب بتلائیے وہ الہام کدھر گیا خدا جموٹا ہوا یا آپ، اب بھی شرمائے گے یا شعبدہ دکھلاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ آج تک اسی واسطے کوئی خبر اخبار یا اشتہار میں نہیں چھپوائی تھی۔ مگر بیٹھے بیٹھے مکر بناتے تھے۔ فقط ایک ہی خبر چھپوائی سو دیکھو کیسی رسوائی اٹھائی اب یا تو لڑکی سے لڑکا بنائیے۔ یا نہیں لہن ترانیوں سے باز آ کر تازیت منہ نہ دیکھلائے۔

اگر در خار کس ست حرفی بس ست

الف ..... ”چونکہ یہ ضعیف بندہ ہے۔ اسی قدر ظاہر کرتا ہے۔ جو منجانب اللہ ظاہر کیا گیا۔“

(مجموعہ اشتہارات جدید ایڈیشن اشتہار نمبر ۳۵ ج ۱ ص ۱۰۲)

ج ..... آپ اپنے خیال شریف میں ضعیف بندہ نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے کل آفرین ہیں کوئی چیز خواہ آپ ظاہر کریں یا آپ کا خدا مگر ہمارا مطلب کہیں نہیں جاتا ہے۔ آپ جموٹے ہوں یا آپ کے مرید۔

الف ..... ”چونکہ اشتہار چھپنے میں کسی قدر دیر ہوگئی اس واسطے چند قلمی نقلیں بذریعہ رجسٹر بخدمت مسٹر عبد اللہ صاحب سابق اکسٹرا اسٹنٹ و پادری عماد الدین صاحب وغیرہ بلا توقف بھیجے گئے ہیں۔“

(مجموعہ اشتہارات جدید ایڈیشن اشتہار نمبر ۳۵ ج ۱ ص ۱۰۱ احاشیہ)

ج ..... اب بھی اسی طرح غفلت کرتے اور قلمی نقلیں بھیج کر اطلاع دیتے تھے۔ کہ میرا الہام جموٹا ہوا یا فلاں شخص نے زہر دے کر مار دیا یا فلاں نے کی کار سازی سے لڑکے سے لڑکی ہوگئی وغیرہ وغیرہ۔ جو کر ہو سکتا تھا اس کی بدستور سابق اطلاع واجب ہے۔

## مرزا کی مجلسازی

مرزا غلام احمد نے جو سوامی دیانند سوتی کے بارہ میں براہین احمقیہ میں اپنی پیشگوئی لکھی ہے۔ وہ صریح الہامان تھی۔ اگر مرزا پیشگوئی پر قادر ہوتا۔ تو سوامی کی وفات سے پہلے اشتہار دیتا اور درج کراتا کہ بتاریخ فلاں و ماہ فلاں سنہ فلاں سوامی جی روانہ جنت ہوں گے۔ اس کا تو کچھ ذکر نہیں جب ہوامی جی انتقال کر گئے۔ تو مرزا صاحب اپنی براہین احمقیہ کھول بیٹھے اور جہلاء کو شانے لگے اسی طرح اب یکم مارچ ۱۸۸۶ء سے ایک اشتہار مشتمل با تیاری رسالہ بے نور جو چند براہیوں پر شامل ہے دے کر خاموش ہو گئے ہیں اور باوجود وعدہ قلیل کے اس مدت کثیر تک شائع نہیں ہوا۔ ہم فرضی ملہم صاحب کو متنبہ کرتے ہیں۔ کہ اگر پیشگوئی کا دعویٰ ہے تو رسالہ مذکور عرصہ پندرہ روز میں شائع کریں۔ اور کسی شہر کے حیات ممات کا نقشہ بھی بتا کر مشہور کریں۔ تاکہ اس کی قلمی کھلے۔ اور اگر اسی طرح خاموش رہے اور کسی وقوعہ کے بعد پھر آپ نے گپ ماری تو محض لن ترانی سمجھی جائے گی۔ بلکہ سب سے اول اپنی وفات کی پیشگوئی کا پتہ معہ سال و تاریخ بتادیں تو بہت انبہ ہے۔ کیونکہ ایک تو ان کے مکرو فریبوں سے مسلمان نجات پائیں گے اور دوسرے ان کے گرویدوں کو موقع فخر ملے گا۔ چہ خوش بود کہ برآید بیک کر شہد در کار۔

راقم ایک پنجابی الہاموں کا شائق، (کلیات آریہ مسافر صفحہ ۳۹۹ تا ۸۰۱)

## باب ۷ اہم قدم

محمدی بیگم کے حصول کے لئے خطوط

ہوئی کیا وہ تاثیر اے عشق تیری

تھی آگے تو کچھ بیشتر آزمائی

ایک بڑے پھانک دار دروازہ سے گزر کر ایک وسیع میدان صحن کا طے کر کے وسط مکانات کے آگے دائرہ نما ایک برآمدہ انگریزی کوشی کی وضع کا بنا ہوا ہے اس کے دروازوں کے اوپر سبز سبز کچھ پھولوں کی بلیں چڑھی ہوئی ہیں اور کچھ گملے پھولوں کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ برآمدہ کے وسط میں ایک چار پائی پرسفید بستر کے اوپر کوئی شخص فرہ اندام میانہ قد لال لال داڑھی سرخ و سفید چہرہ کا رنگ نکلیہ پر سر اور سر کے نیچے دونوں ہاتھ چت لیٹا ہوا ایک ٹانگ کھڑی ہے دوسری ٹانگ پر رکھے ہوئے۔ لپ کی روشنی مدھم کی ہوئی برآمدہ سے باہر صحن میں بہت سے آدمی پڑے ہیں۔ برآمدہ والے مکان کے دونوں بظلوں میں مکانات ہیں۔ جن کی روش اور حیثیت سے صاف ظاہر ہے۔ کہ یہ کوئی سرائے ہے۔ اور وہ شخص جو برآمدہ میں پڑا ہے۔ کوئی مسافر نہ طور پر اس مکان میں عارضی یا کرایہ پر رہتا ہے۔ مگر اپنی طبیعت کے مذاق کے موافق خوب آراستہ اور سجایا ہوا ہے۔

چلیں دیکھتے ہیں یہ تو کچھ آپ ہی آپ باتیں کرتا ہے۔ کوئی پاس تو ہے نہیں مگر کسی فکر

میں محو خیال ہے۔

ہائے ناکامی و احسرت نہ رات کو چھین نہ دن کو آرام ہے۔ دل کو خبر نہیں کیا چیز ہے۔ جو

اندر ہے اندر ملے ڈاھتی ہے سینہ میں بیٹھا بیٹھا درد محسوس رہتا ہے۔ رات کو کسی پہلو اور کسی کروٹ آرام نہیں دن کو سوائے اس ادھیڑ بن کے اور کچھ کام نہیں۔

افشائے راز کو خوف سے اس بارہ میں جان توڑ کے کوشش بھی نہیں کی جاتی تا محرموں کا

محرم کرنا غیرت نہیں چاہتی۔

اندرونی کارروائیوں میں بالکل ناکامی رہی۔ خدا جانے یہ بڑھاپے کا عشق کیا رنگ

لائے گا کون پھرتا ہے؟

خادم..... حضور میں ہوں کیا ارشاد ہے۔

حضرت..... کیا بات تھی جو تم لوگ تذکرہ کر رہے تھے۔ ہوشیار پور سے آدی آنے کا اور احمد بیگ کی لڑکی کی شادی کا۔

ہمارے ناظرین اب تو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ صاحب ہمارے ناول کے ہیرو مرزا صاحب ہیں۔

خادم..... حضور ہوشیار پور سے آدی آئے تھے وہ ذکر کرتے تھے۔ کہ مرزا احمد بیگ کی بڑی لڑکی کی شادی عنقریب ہونے والی ہے۔

حضرت..... کہاں اور کس سے۔

خادم..... کوئی پٹی گاؤں ہے ضلع لاہور میں وہاں سے برات آئے گی۔ اور کوئی مرزا سلطان محمد نامی شخص ہے اس کو ساتھ نکاح ہوگا۔

حضرت یہ سنتے ہی سن ہو گئے

کاٹو تو لہو نہ تھا بدن میں

بے ساختہ مرزا فریح السودا کا یہ شعر زبان سے نکلا

کہتے تھے ہم نہ دیکھ سکیں تجھ کو عجب ناس

پر جو خدا دکھائے تو لاچار دیکھنا

ہائے افسوس دعا میں بھی کچھ اثر نہیں رہا

جو تدابیر کیس اٹنی پڑیں

پہلے تو دعا کو تیر بہدف پاتے تھے۔ بجلی کی طرح کو بندتی تھی۔ بڑا بھروسہ تو اسی پر تھا کیا

عشق میں سب کے ساتھ چھوڑ دیے ہیں۔

نہیں نہیں عاشق کی آہ تو خالی نہیں جاتی جذبہ کامل ہونا چاہیے۔ پہلے ان کے وارثوں کو

سجھاؤ دم کا ڈر آؤ اگر نہ مانیں تو خدا کی طرف رجوع لاؤ دیکھو تو کیا ہوتا ہے۔

جذبہ شوق جو ہوئے گا تو انشاء اللہ

کچھ تھا گے میں چلی آئے گی سرکار بندگی

سلطان محمد بیگ کو یہ لکھا کہ تم اس تعلق کو قطع کر دو۔ تمہارا نکاح دوسری جگہ کر دیا جائے

گا۔ تمہاری جوانی پر مجھے رحم آتا ہے۔ تم اس ارادہ سے باز آؤ اور اس کے وارثوں کو بھی خطوں کے

ذریعہ سے ڈرایا دم کا پالو۔

اور لڑکی کے درجہ کو مخلوط لکھے جن کی نقل ذیل میں درج ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم مشفق مکرّمی اخویم مرزا احمد بیگ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم و

رحمتہ اللہ وبرکاتہ قادیان میں میں نے جب واقعہ ہائلہ محمود فرزند آتمکرّم کی خبر سنی تھی تو بہت درد و غم ہوا لیکن بعد اس کے کہ یہ عاجز بیمار تھا۔ اور محظ نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس واسطے عزا پر سی سے مجبور رہا۔

صدمہ فرزندناں حقیقت میں ایک ایسا صدمہ ہے۔ کہ شاید اس کے برابر دنیا میں اور کوئی صدمہ نہ ہوگا خصوصاً بچوں کی ماؤں کے لیے تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ کو صبر بخشے اور اس

کا بدل صاحب معرّحطاکرے اور عزیز بی بی مرزا احمد بیگ کو عمر دراز بخشے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی بات اس کے آگے ان ہوتی نہیں۔ آپ کے دل میں گواہی اس عاجز کی نسبت کچھ

غبار نہ ہو۔ لیکن خداوند عظیم جانتا ہے۔ کہ اس عاجز کا دل بالکل صاف ہے۔ اور خدائے قادر مطلق سے آپ کے لیے خیر و برکت چاہتا ہوں میں نہیں جانتا کہ میں کس طریق اور کن لفظوں میں بیان

کروں۔ تاکہ میرے دل کی محبت اور خلوص اور ہمدردی جو آپ کی نسبت مجھ کو ہے۔ آپ پر ظاہر ہو جائے مسلمانوں کی ہر ایک نزاع کا آخری فیصلہ قسم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدا تعالیٰ کی قسم

کھا جاتا ہے۔ تو دوسرا مسلمان اس کی نسبت فی الفور دل صاف کر لیتا ہے۔ سو مجھے خدائے تعالیٰ قادر مطلق کی قسم ہے۔ کہ میں اس بات میں بالکل سچا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا

تھا۔ کہ آپ کی دختر طلائ کا رشتہ اسی عاجز سے ہوگا۔ اگر دوسری جگہ ہوگا۔ تو خدا تعالیٰ کی سمیہ وارہ ہوں گی اور آخر اسی جگہ ہوگا۔ کیونکہ آپ میرے عزیز اور پیارے تھے۔ اس لیے میں نے سین خیر

خواہی سے آپ کو جتلا یا کہ دوسری جگہ اس رشتہ کا کرنا ہرگز مبارک نہ ہوگا میں نہایت ظالم طبع ہوتا جو آپ پر ظاہر نہ کرتا اور میں آپ سے عاجزی اور ادب سے آپ کی خدمت میں متمسک ہوں۔ کہ اس

رشتہ سے آپ اعراف نہ فرمائیں کہ یہ آپ کی لڑکی کے لیے نہایت درجہ موجب برکت ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ ان برکتوں کا دروازہ کھول دے گا جو آپ کے خیال میں نہیں کوئی نعم اور فکر کی بات نہیں ہوگی۔

جیسا کہ اس کا حکم ہے جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی نچی ہے۔ تو پھر کیوں اس میں خرابی ہوگی۔ اور آپ کو شاید معلوم ہوگا یا نہیں۔ کہ یہ پیشگوئی اس عاجز کی ہزار ہا لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے۔ اور

میرے خیال میں شاید دس لاکھ سے زیادہ آدمی ہے۔ جو اس پیشگوئی پر اطلاع رکھتا ہے۔ اور ایک جہان کی اس کی طرف آنکھ لگی ہوئی ہے۔ اور ہزاروں پادری شرات سے نہیں بلکہ جماعت سے منظر

رہیں کہ یہ پیشگوئی جموئی نکلے اور ہمارا پلہ ہماری ہو۔ لیکن یقیناً خدا تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا۔ اور اپنے دین کی مدد کرے گا۔ میں نے لاہور میں جا کر معلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز

کے بعد اس پیشگوئی کے ظہور کے لیے صدق دل سے دعا کرتے ہیں۔ سو یہ ان کی ہمدردی اور محبت ایمانی کا تقاضا ہے۔ اور یہ عاجز جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہے۔ ویسے ہی خدا تعالیٰ کے ان الہامات پر جو تو اتر سے اس عاجز پر ہوئے۔ ایمان لایا ہے۔ اور آپ سے ملتس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیشگوئی کے پورے ہونے کے لیے معاون بنیں تاکہ خدا تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ خدا تعالیٰ سے کوئی بندہ لڑائی نہیں کر سکتا۔ جو امر آسمان پر ٹھہر چکا ہے۔ زمین پر وہ ہرگز بدل نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکتیں عطا کرے اور اب آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آسمان پر سے مجھے الہام کیا ہے۔ آپ کے سب غم دور ہوں۔ اور دین اور دنیا دونوں آپ کو خدا تعالیٰ عطا فرمائے اگر میرے اس خط میں کوئی تا ملاتم لفظ ہو تو معاف فرما دیں۔

والسلام!

خاکسار احقر عباد اللہ غلام احمد عفی عنہ

۱۷ جولائی ۱۸۹۰ء

(کلمہ فضل رحمانی ص ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸)

بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدہ و نصلی مرزا علی شیر بیگ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ  
السلام علیکم رحمۃ اللہ

اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ کہ مجھ کو آپ سے کسی طرح سے فرق نہ تھا۔ اور میں آپ کو ایک غریب طبع اور نیک خیال آدمی اور اسلام پر قائم سمجھتا ہوں۔ لیکن اب جو آپ کو ایک خبر سنا تا ہوں آپ کو اس سے بہت رنج گزرے گا۔ مگر میں محض اللہ ان لوگوں سے تعلق چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جو مجھے ناچیز بتاتے ہیں۔ اور دین کی پرواہ نہیں رکھتے آپ کو معلوم ہے۔ کہ مرزا احمد بیگ کی لڑکی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت ہو رہی ہے۔ اب میں نے سنا ہے کہ عید کی دوسری یا تیسری تاریخ کو اس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے۔ اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کام کے شریک میرے سخت دشمن ہیں۔ بلکہ میرے کیا دین اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ عیسائیوں کو ہنسانا چاہتے ہیں۔ ہندوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ رسول کے دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے اور اپنی طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ کہ اس کو خوار کیا جائے ذلیل کیا جائے رو سیاہ کیا جائے یہ اپنی طرف سے ایک تلوار چلانے لگے ہیں۔ اب مجھ کو بچا لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور مجھے بچائے گا۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ سمجھ سکتا۔ کیا میں

چو ہڑا چمار تھا۔ جو مجھ کو لڑکی دینا عاریا ننگ تھی دیکھو وہ تو اب تک ہاں سے ہاں ملاتے رہے۔ اور اپنے بھائی کے لیے مجھے چھوڑ دیا اب اس لڑکی کے نکاح کے لیے سب ایک ہو گئے۔ یوں تو مجھے کسی کی لڑکی سے کیا غرض کہیں جائے مگر یہ تو آزما گیا کہ جن کو میں خویش سمجھتا تھا۔ اور جن کی لڑکی کے لیے یہی چاہتا تھا کہ اس کی اولاد ہو اور میری وارث ہو وہی میرے خون کے پیاسے وہی میری عزت کے پیاسے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ خوار ہو اور اس کا رویہ ہو خدا بے نیاز ہے جس کو چاہے رویہ کرے مگر اب تو وہ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں نے خط لکھے کہ پرانا رشتہ مت توڑو خدا تعالیٰ سے خوف کرو۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ بلکہ میں نے سنا کہ آپ کی بیوی نے جوش میں آ کر کہا۔ کہ ہمارا کیا رشتہ ہے صرف عزت بی بی نام کے لیے فضل احمد کے گھر میں ہے۔ بے شک وہ طلاق دے دے۔ ہم راضی ہیں۔

اور ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کیا بلا ہے۔ ہم اپنے بھائی کی خلاف مرضی نہیں کریں گے یہ شخص کہیں مرتا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجسٹری کرا کر آپ کی بیوی صاحبہ کے نام خط بھیجا مگر کوئی جواب نہیں آیا اور بار بار کہا اس سے ہمارا کیا رشتہ باقی رہ گیا ہے جو چاہے کرے ہم اس کے لیے اپنے خویشوں سے اپنے بھائیوں سے جدا نہیں ہو سکتے۔ مرتا مرتا رہ گیا کبھی مر ہی ہوتا۔ یہ باتیں آپ کی بیوی صاحبہ کی مجھے پہنچی ہیں۔ بے شک میں ناچیز ہوں ذلیل ہوں خوار ہوں مگر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں میری عزت ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب جب میں ایسا ہی ذلیل ہوں۔ تو میرے بیٹے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے لہذا میں نے ان کی خدمت میں خط لکھ دیا ہے۔ کہ آپ اپنے ارادہ سے باز نہ آویں۔ اور اپنے بھائی کو اس نکاح سے روک نہ دیں پھر جیسا کہ آپ کا منشا ہے۔ میرا بیٹا فضل احمد بھی آپ کی لڑکی کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا بلکہ ایک طرف جب (محمدی) کا کسی شخص سے نکاح ہوگا۔ دوسری طرف فضل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے دے گا اگر نہیں دے گا تو میں اس کو عاق اور لاوارث کروں گا اور اگر میرے لیے احمد بیگ سے مقابلہ کروں گی۔ اور یہ ارادہ اس کا بند کر دوں گی تو میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ اور فضل احمد کو جو میرے قبضہ میں ہے۔ ہر طرح سے درست کر کے آپ کی بیٹی کی آبادی کے لیے کوشش کروں گا۔ میرا مال اس کا مال ہوگا۔ لہذا آپ کو بھی کہتا ہوں۔ کہ آپ اس وقت کو سنجال لیں اور احمد بیگ کو پورے زور سے خط لکھیں کہ باز آ جائیں۔ اور اپنے گھر کے لوگوں کو تاکید کریں کہ وہ بھائی کو لڑائی کر کے روک دیوے ورنہ مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے۔ کہ اب ہمیشہ کے لیے یہ تمام رشتہ ناطہ توڑ دوں گا۔ اگر فضل احمد میرا فرزند اور وارث بننا چاہتا ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ کی لڑکی کو گھر میں رکھے گا جب آپ کی بیوی کی خوشی ثابت ہو۔

ورنہ جہاں میں رخصت ہوا۔ ایسا ہی سب ناطے رشتے بھی ٹوٹ گئے۔ یہ باتیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کہاں تک درست ہیں واللہ اعلم راقم خاکسار غلام احمد زلدھیانہ اقبال گنج ۳۲ مئی ۱۸۹۱ء (کلہ فضل رحمانی ص ۱۲۳، ۱۲۴، احتساب ج ۳۶ ص ۶۷۸، ۶۷۹) نقل خط مرزا صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم نحمدہ و نصلی

والدہ عزت بی بی کو معلوم ہو کہ مجھ کو خبر پہنچی ہے۔ کہ چند روز تک (محمدی) مرزا احمد بیگ کی لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے۔ اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے رشتہ ناطے توڑ دوں گا۔ اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لیے صحت کی راہ سے لکھتا ہوں۔ کہ اپنے بھائی مرزا احمد بیگ کو سمجھا کر یہ ارادہ موقوف کراؤ۔ اور جس طرح تم سمجھا سکتی ہو اس کو سمجھاؤ۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نور دین اور فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے۔ کہ اگر تم اس ارادہ سے باز نہ آؤ تو فضل احمد عزت بی بی کے لیے طلاق نامہ لکھ کر بھیج دے اور اگر فضل احمد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کو عاق کیا جائے اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھا جائے۔ اور ایک ہیہ وراثت کا اس کو نہ ملے سوا امید رکھتا ہوں کہ شرعی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آجائے گا۔ جس کا مضمون یہ ہوگا کہ مرزا احمد بیگ محمدی کا غیر کے ساتھ نکاح کرنے سے باز نہ آئے تو پھر اسی روز سے جو محمدی بیگم کا کبھی دوسرے سے نکاح ہوگا۔ اس طرف عزت بی بی پر فضل احمد کی طلاق پڑ جائے گی۔ یہ شرعی طلاق ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ آپ کو بجز قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں۔ اور اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں فی الغور اس کو عاق کر دوں گا۔ اور پھر وہ میری وراثت سے ایک ذرہ نہیں پاسکتا اور اگر آپ اس وقت اپنے بھائی کو سمجھا لو تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے عزت بی بی کی بہتری کے لیے ہر طرح کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اور میری کوشش سے سب نیک بات ہو جاتی مگر تقدیر غالب ہے۔

یاد رہے کہ میں نے کوئی کجی بات نہیں لکھی۔ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا ہی کر دوں گا۔ اور خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ جس دن نکاح ہوگا اس دن عزت بی بی کا نکاح باقی نہیں رہے گا۔ راقم مرزا غلام احمد زلدھیانہ اقبال گنج ۳۲ مئی ۱۸۹۱ء (کلہ فضل رحمانی ص ۱۲۳، ۱۲۴، احتساب ج ۳۶ ص ۶۷۹، ۶۸۰)

از طرف عزت بی بی بطرف والدہ

اس وقت میری برہادی اور چاہی کی طرف خیال کرو۔ مرزا صاحب کسی طرح مجھ سے فرق نہیں کرتے اگر تم اپنے بھائی کو میری باتوں کو سمجھاؤ تو سمجھا سکتی ہو۔ اگر نہیں تو پھر طلاق ہوگی۔



اور ہزار طرح کی رسوائی ہوگی۔ اگر منظور نہیں تو خیر جلد ہی مجھے اس جگہ سے لے جاؤ پھر میرا اس جگہ ٹھہرنا مناسب نہیں۔

جیسا کہ عزت بی بی نے تاکید سے لکھا ہے۔ اگر نکاح نہیں ملتا۔ پھر بلا توقف عزت بی بی کے لیے کوئی قادیان سے آدمی بھیج دو۔ (کلمہ فضل رحمانی ص ۱۲۳، اکتساب ج ۲۰ ص ۶۸۰)

یادداشت کتاب مذکور کے حاشیہ صفحہ ۱۲۳ میں لکھا ہے۔ ”اس جگہ پر مرزا صاحب کے دستخطی خطوں کو جو مجھے ایک دوست شیخ نظام الدین صاحب ہاشم راہوں کی معرفت مرزا علی شیر صاحب سدھی مرزا صاحب سے ملے ہیں درج کیے گئے۔“

مرزا احمد بیگ کی زوجہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی چچایا مازاد ہاشمیرہ ہے۔ مرزا علی شیر صاحب کی لڑکی عزت بی بی فضل پر مرزا صاحب کی زوجہ ہے اب مرزا احمد حسین صاحب راہوں کے خط سے معلوم ہوا کہ باوجود بہت دھمکانے کے فضل احمد نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی اس لیے فضل احمد کو بھی علیحدہ کر دیا۔

### حاشیہ جات

۱۔ اشاعت المسند نمبر ۶ جلد ۹۳ اور ہر فریق ثانی تاریخ اور اس کے وارثوں کو دھمکانا اور ڈرانا شروع کیا مگر وہ لوگ بھی جواں مرد نکلے اور اس کی دھمکیوں کو گینڈر بھکیاں قرار دے کر اپنے خیال پر قائم و مستحکم رہے ان کے نام کے خطوط کو اس مقام میں نقل کرنے کی گنجائش نہیں دیکھی اور بجائے اس کے قادیانی کے اعتراف و اقرار تخریف ڈرانے و خط نویسی کو نقل کرنا کافی سمجھے ہیں۔ آپ اشتہار چار ہزار کے نوٹ صفحہ ۲ میں فرماتے ہیں ”احمد بیگ کے درگاہ کا قصور تھا کہ انہوں نے تخریف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی خط پر خط پیچھے ان سے کچھ ڈرا بیجا مہیج سمجھایا گیا کسی نے اس طرف ڈرا انتقام نہ کی اور احمد بیگ سے ترک تعلق نہ چاہا آخر۔“

۲۔ ناظرین اس عبارت اور اشتہار ۲۰ فروری ۸۶ء کی پیشگوئی بشارت فرزند ارجمند کان اللہ نزل من السماء جو کسی صفحہ گزشتہ پر درج ہے اور فقرہ (خواتین مہار کہ سے جن میں سے بعض کو تو بعد میں پائے گا۔ تیری نسل بہت ہوگی اور عبارت سرسید تفسیر القرآن جلد ۳ صفحہ ۳۲ (تمام یہودی یقین رکھتے ہیں کہ ان میں ایک مسیح پیدا ہونے والا ہے جو یہودیوں کی بادشاہت کو پھر قائم کرے گا اس لیے یہودی اور یہودی عورتیں بیٹا ہونے کی نہایت آرزو رکھتی تھیں اور دعائیں مانگتی تھیں اور عبادتیں کرتی تھیں۔ کہ وہ شخص ہمارا بیٹا ہو) ملا کر پڑھیں اور غور کریں کہ مجموعی حوالہ جات کی کجائی حالت میں پڑھنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اور اس کی اصل کیا ہے۔

## باب ۱۸ ہژدھم

سر سید احمد خان اور مرزا قادیانی

ریل کا سفر

اسٹیشن ریلوے کے پلیٹ فارم پر مسافروں کا ہجوم ہے اور کثرت اثر دہام سے ٹکٹ لینے کو جگہ نہیں ملتی۔ کوئی بیخ پر بیٹھا ہوا خدمت گار کا انتظار کر رہا ہے۔ کہ اب تک ٹکٹ لے کر نہیں آیا۔ ریل نے سیٹی دی وہ آگے ایک جنٹل مین پلیٹ فارم پر ٹہل رہے ہیں۔ ایک صاحب نہایت پرستہ قد لاغر اندام دبلے پتے سادہ مزاج ثقہ وضع متبرک صورت چونو خڈالے قریب آئے۔ السلام علیکم! جنٹل مین..... آہاجی صاحب وعلیکم السلام کہاں کا ارادہ ہے۔

حاجی صاحب..... دہلی جاؤں گا دسمبر کی تعطیل ہے یہاں بنا لے پڑے رہنے سے کیا حاصل آپ کا ارادہ کہاں کا ہے۔

جنٹل مین..... میں لاہور جاؤں گا سر سید بالقابہ لیکچر دیں گے۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ بھی اسی جلسہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ لاہور راستہ میں تو پڑے ہی گا ایک مقام کر کے دہلی چلے جانا۔ یہ لطف بھی اتفاق سے حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیے لوگ دور دور سے سفر کر کے خاص اسی ارادہ سے آئے ہوں گے۔

حاجی صاحب..... حضرت میں اولڈ فیشن کا انسان ہوں ہر دیکھی چیز نہیں جس کی رونق دیکھی کل جدید لٹریچر پر عمل کیا اور اس طرف کو پھر گئے میں پرانی لیکچر کا فقیر ہوں۔

جنٹل مین..... مذہب میں تحقیقات ضرور چاہیے۔ بے تحقیقات اندھوں کی طرح چلنا ہم تو پسند نہیں کرتے۔

حاجی صاحب..... میں اس امر میں آپ کے خلاف ہوں موافقت نہیں کرتا آخر حقد میں کیا کوئی محقق نہیں گزرا اب سر سید نے تیرہ سو سال بعد تحقیقات سے کیا ثابت کیا۔ کہ فرشتوں کا وجود نہیں حضرت عیسیٰ مر گئے۔ جنت دوزخ موجود نہیں معجزہ کوئی چیز نہیں یا کچھ اور۔

جنٹل مین..... یہ آپ کی ضد ہے انصاف نہیں۔ جب یونانی فلسفہ کی بنیاد پڑی اور اس کا دور دورہ ہوا۔ اسلام سے اس کا مقابلہ ہوا اس وقت جو اس زمانہ کے علماء اسلام تھے۔ انہوں نے خدا ان پر رحمت کرے علم کلام ایجاد کیا۔ اور اپنا دل و دماغ خرچ کر کے نہایت جانفشانی سے کتابیں لکھیں۔ بعض مسائل کو اس کے ذریعہ سے یونانی فلسفہ سے تطبیق دی اور جو فلسفہ کے اصول رکیک تھے۔ ان کو علم کلام

کے ذریعہ سے مسٹر دو متروک کر دیا اب زمانہ کے گزرنے پر نیا فلسفہ جاری ہوا جس کی بناء (برخلاف قیاسات و توہمات) مشاہدہ اور تجربہ پر ہوئی جس کا رخ تیرہویں صدی کے اخیر میں ہندوستان اور پنجاب کی طرف ہوا۔ اور کل سرکاری اور قومی سکولوں اور کالجوں میں اس کی شاخوں میں اس کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اور جس کی بدولت اس نظام عالم پر جس کو نامور حکیم بظیموس نے قائم کیا تھا۔ طلباء ہنسی اڑا رہے ہیں۔ الغرض جب تجربہ اور مشاہدہ کے نظام عالم زمانہ حال کی سائنس اور فلسفہ نے یونانیوں کے اس وہمی اور قیاس فلسفہ کو باطل کر دیا۔ تو وہ پرانا علم کلام ہے بے تصرف رہ گیا۔

ہمارے زمانہ کے علماء اسلام کا حقیقی فرض تھا۔ کہ حال کی سائنس و فلاسفی وغیرہ کے مقابلہ میں کوئی نیا علم تیار کرتے۔ اور جو اوہام و شکوک زمانہ حال کے لوگوں کے دلوں میں جاگزیں تھے۔ ان کے دور کرنے کی کوشش کرتے مگر کسی بزرگ نے اس طرف توجہ نہیں کی۔

ایسے نازک اور پر آشوب زمانے میں سرسید بالقابہ کے جو قدرۃ ہمدردی بنی نوع انسان اور فطرۃ دردمند دل اپنے ساتھ لایا تھا۔ اپنی قوم کی جو ایسی ردی حالت دیکھی کہ خدا کسی کو بھی نہ دکھائے اور اسلام کو قابل رحم حالت میں پا کر سینکڑوں دیگر امور کی اصلاح کے ساتھ ہی یہ بھی عاقبت اندیشی کی کہ مروجہ سائنس اور فلاسفی کو جس کا مذہب اسلام سے مقابلہ پڑتا نظر آیا مد نظر رکھ کر ہندوستان کے بزرگ اور مقدس مولویوں کی خدمت میں اپیل کی کہ اس طوفان بے تمیزی کے مقابلہ میں کمر باندھیں۔ اور پرانے تیرتنگ کی بجائے کسی نئی توپ اور سنائیدر بندوق سے کام لیں مگر کسی نے نہ سنی۔ اور سب کے سب کو اہل غرض اور دیوانہ بتلایا اس لیے اس مرد میدان نے سب سے مایوس ہو کر خود کمر ہمت باندھی اور بلند حوصلے اور مضبوط دل سے اس کام میں مصروف ہوا کہ خداوند تعالیٰ کی قوی اور فعلی (قرآن و نیچر) دونوں کتابوں کو جو دراصل ایک ہیں باہم مطابق اور موافق کر دکھایا۔ اور جن لوگوں نے مخالفت کی۔ سب کے سب ہارے تھکے اور ماندے ہو کر جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ علماء وقت اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ..... اعلیٰ اور بے مثل تحقیقات میں اس (سرسید) نے بعض مقاموں میں ٹھوکریں بھی کھائی ہیں۔ اور کیا عجب ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ کیونکہ غلطیوں سے پاک اور صاف رہنے کا منصب تو خداوند تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا ہے جو فطرۃ معصوم ہیں۔

سرسید نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی یا رسول ہوں۔ اور نہ اپنے تئھی امام وقت ظاہر کیا بلکہ وہ انبیاء علیہم السلام سے برابری کرنے والوں کو مشرک فی صفیہ النبوة جانتا ہے اور قرآن ہر یہ کو ہر وقت بلکہ ہر آن تمام دنیا کے لیے ہی امام مانتا ہے۔ اس کا یہ عقولہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔

”میری یہ خواہش نہیں ہے کہ کوئی شخص گو وہ میرا کیسا ہی دوست ہو میرے خیالات کی پیروی کرے۔ میں رسولوں کے سوا کسی شخص کا ایسا منصب نہیں سمجھتا کہ (ان باتوں میں جو خدا اور بندوں میں دلی و روحانی امور سے متعلق ہیں اور جس کو مذہب کہتے ہیں) وہ یہ خواہش کرے۔ کہ لوگ اس کی پیروی کریں یہ منصب تو رسولوں کا تھا۔ اور آخر کو جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ ﷺ پر جن کا ازلی مذہب خدا ابداً ہدایت کا قائم رکھے اور ضرور قائم رکھے گا۔“ (کیونکہ جب وہ ازلی ہے ابدی بھی ہے)..... دیکھو مگر نامہ جناب میں لیکھرا سلام)

الغرض اس بھی خواہ اسلام اور دلی ہمدرد قوم کی پیش بہا اسلامی اور لاعانی خدمات کے حیرت انگیز اور تعجب خیز کارنامے خطاب احمدیہ۔ تہذیب الاخلاق، تفسیر القرآن وغیرہ کے لباس میں ہیں سب اس کے ساتھی موجود ہیں۔ جس کا جی چاہے دیکھ لے اور اپنی رائے قائم کر کے خدا صفا و دعوا کا کدر پر عمل کرے۔ آپ حکیم صاحب بھی پھر رہے ہیں۔ غالباً یہ بھی وہیں جاتے ہیں۔ چلو ملاقات کریں۔

حاتی صاحب..... میری ملاقات تو ہے نہیں۔ خواہ خواہ محل اوقات ہونا پسند نہیں کرتا۔ جنٹل مین..... اچھا تو میں جاتا ہوں اور چند قدم حکیم صاحب کی طرف چل کر السلام علیکم۔ حکیم صاحب..... وعلیکم السلام شاہ صاحب مزاج شریف کس طرف کا عزم بالجزم ہے۔ شاہ صاحب..... (جنٹل مین) جلسہ حمایت اسلام میں جاؤں گا آپ کہاں تشریف لے جائیں گے حکیم صاحب..... میں بھی وہیں جاتا ہوں خوب ہوا ساتھ ہو گیا مولوی صاحب نہیں آئے۔ شاہ صاحب..... علی گڑھ کالج کے واسطے جو چندہ جمع کیا گیا تھا۔ اکثر احباب پر باقی ہے۔ اس کے وصول کی وجہ سے وہ آج نہیں آسکے غالباً کل یا شام کی ریل میں وہ بھی تشریف لے آئیں۔ حکیم صاحب..... خوب اللہ تعالیٰ جزاء خیر دے مولوی صاحب کا بھی دم نصیحت ہے۔ ان کو بھی آپ کی طرح اس معاملہ میں نہایت دلچسپی ہے اور ایسا ہی چاہے قومی ہمدردی کے بھی معنی ہیں۔

لئے میں ریل نے سٹی ڈی اور سب اپنا اپنا سبب اٹھا کر سوار ہو گئے۔ اور ریل روانہ ہوئی۔

### باب ۱۹ انہدام

مہدیوں اور مسیحوں کا ڈر بہ کھل گیا

لیجے ملک جاوا میں ایک اور مہدی صاحب عالم بالا سے تشریف کا گھٹا کا ندھے پر لا دکر کٹ سے آپٹے ہیں۔ اور دنیا کو اپنی مہدویت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور شہدے (مجزے)

دکھانے میں بھی مدعی ہے۔ آج کل مہدیوں اور مسیحوں کی ہم پھوٹ گئی ہے۔ لندن کی مسیح، فرانسیسی مسیح، شمالی مہدی جاپانی مہدی اور قادیانی مرزائی تو پھر مسیح موعود بھی ہیں۔ اور مہدی مسعود بھی ہے اور امام الزمان بھی اور خاتم الخلفاء ہیں۔ الغرض سب گمنوں میں پورے اور تمام کپوٹ و جزا کے سیرپ اور مجنون بھی۔ اور ہاتی سب کے سب ادھورے یعنی کوئی مسیح ہے۔ تو مہدی نہیں اور مہدی ہے تو مسیح نہیں۔ پھر دنیا سب کو چھوڑ کر مرزائی پر کیوں ایمان نہیں لاتی لوگ بالکل اندھے ہیں۔ اور ایشیا اور افریقہ سے بڑھ کر یورپ اندھا ہے۔ کیا معنی کہ مرزا صاحب اپنے بروز اور خروج کی تبلیغ کتابوں اور رسالوں اور تصویروں کے ذریعہ سے کامل طور پر کر چکے ہیں۔ اور اپنے تمام مجموعی صفات کا آئینہ دکھا چکے ہیں۔ غضب ہے کہ یورپ پھر بھی لندن کی مسیح اور فرانسیسی مسیح پر لٹو ہے جنہوں نے کوئی شعبہ کوئی کوشہ کوئی پتک دمک بلیکپ کچھ نہیں دکھایا اور قادیانی مسیح خدا جھوٹ نہ بولائے۔ تو کوئی ڈیڑھ سو مجرہ لوگوں کی موت کی ہال باندرمی پیشین گویاں دکھا چکا ہے پیشگوئیوں کی ٹھیک میعاد کے درمیان کے بچوں بچ کے اندر کوئی نہ مر اتو کیا ہوا، آخر مر اتو سہی۔ مرزائی پیشگوئی نہ کرتے تو نہ آہتم مرتا نہ لکھرام مرتا۔ لوگوں کی عقل کا چراغ تو ہو گیا ہے گل۔ پیشگوئی سے یہ ہرگز لازم نہیں۔ کہ ٹھیک وقت پر ہواں شرط ہے۔ کہ برس دو برس پانچ برس دس برس میں ہو۔ ضرور ہو۔ ہزاروں میں لاکھوں میں ہو۔ بچ کھٹ ہو باون تولہ پاؤرتی سو دیکھ لو مرزا صاحب کی آسانی مکونہ بی بی جو ایک ظالم نے غضب کر لیا تھا مرزا صاحب نے اس کی موت کی پیشگوئی کی تھی۔ تو وہ دس بیس برس میں ضرور ہی اور ان کا قریب ایک نہ ایک دن ضرور مرے گا۔ بھلا مامور من اللہ کی پیشگوئی اور خالی جائے۔ اچھی کمی اب بتائیے مذکورہ بالا مہدیوں اور مسیحوں میں سے کسی نے بھی ایسے روشن اور چمکتے ہوئے معجزات آج تک دکھائے پیشگوئی اگرچہ نجومیوں، رتالوں، سادھو بچوں کا کام ہے مگر جب مامور من اللہ کوئی پیشگوئی کرے گا۔ خواہ وہ جموٹی ہو یا جی ضرور معجزہ کہلائے گا۔ وہ آسمان میں پوری ہو جاتی ہے۔ مگر اندھوں کو نظر نہیں آتی۔ اور پیشگوئی نہ بھی پوری ہو۔ تو اس سے کسی نبی کی نبوت میں فرق نہیں آتا۔ پیشگوئی دوسری چیز۔ اور نبی ہونا دوسری چیز۔

نوٹ: مرزائی کا حال الشریق بیٹیک باکھیش کا مصداق اسی ذریعہ سے اسلام کے اصول توحید کو باطل کیا اور اپنے جدید مذہب کے اصول تصویر پرستی، مہتاب پرستی وغیرہ جائز و رائج کیے ہیں۔ مرزائی کے الزامی دلائل عجیب و غریب ہیں کہ فلاں شخص نے چونکہ تصویر کی شہادت دی ہے۔ لہذا وہ ہماری طرح تصویر پرست ہے اور تصویر پرستی کا جائز کرنے والا بھی اس

صورت میں ہو مجرم کا گواہ مجرم ٹھہر سکتا ہے۔ اس لیے عدالتوں کے دروازوں کو قفل لگ گیا۔ کیونکہ کسی گواہ کی کیا شامت ہے کہ وہ کسی کے ارتکاب جرم کی شہادت دے کر مجرم بنے۔ مرزا جی نے جوازِ تصور پرستی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے اس حکم کا بھی اسناد کیا لاکھوں اشعا و دمن یکتہما فانہم قلبہ دیکھ سچے اسلام کے کیا اصول ہیں۔ کیا ایک اصل کے توڑنے سے بہت اصول ٹوٹ جاتی ہیں۔

ماشاء اللہ مرزا جی کے دلائل بہت معقول ہیں۔ مگر عملی طور پر سب مہدیوں اور سب مسیحوں کے کمرے کھولنے کو آگ پر تپانا چاہیے۔

تایہ روی شود ہر کہ دروغشن باشد

یعنی تمام مہدی میدان میں اتریں۔ اور اپنے اپنے کرتب دکھائیں جو کرتبوں میں کامل نکلے وہی مہدی اور مسیح تسلیم ہو۔ اور اگر سب ناقص اور جھوٹے ٹکلیں تو ایک ایک کو پھانسی پر لٹکایا جائے یا لوہے کے پنجروں میں قید کر کے کسی جزیرہ میں بھیجا جائے۔ کہ پھر وہاں سے نہ آسکیں اور دنیا ان کے کید سے محفوظ رہے۔

ہر ایک جھوٹا اور مکار مہدی اور مسیح دیکھ رہا ہے کہ اس کے چند رقیب ساتھی موجود ہیں۔ اور سب کے سب ایک ہی دعویٰ کے مدعی ہیں۔ حالانکہ مہدی اور مسیحی محمد نہیں ہو سکتے پھر مسیح ایک ہی ہوگا۔ مگر بے ایمانی اور شرارت اور دہن دھو بکری دیکھے کہ ان بد معاشوں اور دنیا کے لوٹنے والوں کو ذرہ شرم نہیں کہ ہم کیا جلسا سازی اور دعا بازی کر رہے ہیں۔ اور نہ ان حتماء کو شرم آتی ہے۔ جو ان کے دامِ تزویر میں پھنس کر ان کے پٹھے بن گئے ہیں۔ اور احمقوں کا جتنا گروہ مرزا جی کی منہی میں ہے۔ اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ لندن اور فرانسہ اور افریقی اور جاوی مسیحوں اور مہدیوں کے پتلون اور بنیان میں ہے پس وحشی اور مہذب دونوں ایک سے سانچے میں ڈھل گئے ہیں۔ اور کسی میں کوئی مابہ الامتیاز نہیں رہا کیوں نہیں وہ خوب جانتے ہیں۔ کہ ساری کارروائی خود ان کی کانشنس کے خلاف ہے اور ان کو کامل یقین ہے کہ محض خود غرضی اور جلب منفعت کے لیے ہم یہ ٹھیٹھ تیار کر کے اسٹیج پر تماشادکھا رہے ہیں تاکہ طفلانہ طبیعت کے حتماء سے نکلے سیدھے کریں۔ بہر حال چند روز میں عقدہ کھلا جاتا ہے۔ سب کے سب سر پکڑ کر آنسو نہ بہائیں ہمارا ذمہ۔

حاصل نہ ہوا بجز ندامت

کس حتم کو خاک میں ملایا

اڈیشہ ہند میرٹھ ۸ مارچ ۱۹۰۳ء

## باب ۲۰۔ بستم

## ماں کرے نندلال

صبح کا سہانا وقت بہار کے دن ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ درختوں میں جو شگوفہ آیا ہوا ہے۔ اس کی بھنی بھنی خوشبو سے دل کو فرحت، دماغ کو طاقت پہنچتی ہے۔ دس بارہ آدی بہ لحن داؤدی اونچے سروں میں الاپ الاپ کر گارہے ہیں۔ سہاگن چچا مان کرے نندلال۔ ایک ڈھولک پر تھاپ دے کر مال دیر ہا ہے۔ ایک بھری بجاتا ہے۔ اور لہر لہرا کر ایک لے میں سب کے سب گارہے ہیں۔ سہاگن چچا (زچہ) لاڈو گود کھلائے نندلاں۔ تالی بجا کر سہاگن چچا مان کرے نندلال۔ ایک طرف سے ایک ماں انبہ کے پتے رسے میں باندھے ہوئے مکان کے دروازہ باندھ رہی ہے۔

- ۱..... قریب کی مسجد سے ایک صاحب باہر آئے ارے یارو نماز تو پڑھنے دو۔
- ۲..... قربان جائیں یہ دن کیا روز روز آتا ہے۔ نماز کی تو ہمیشہ دن نکلنے باری لگی رہتی ہے۔
- ۳..... خدانے یہ دن دیکھا یا ہے۔ ہم اس دن کی دعا مانگتے تھے۔
- ۴..... سخی کی کمائی میں سب کا حصہ ہے۔
- ۵..... شوم کم بخت کے دروازے کون جاتا ہے۔
- نمازی..... ارے بھائیو نماز میں حرج ہوتا ہے۔ دن تو نکلنے دیا ہوتا۔ آواز (مسجد کے اندر سے) میاں بحث کیوں کرتے ہو۔ کچھ دے دلا کر رخصت کرو۔
- نمازی نے صحن مسجد سے زنان خانہ کی طرف رخ کر کے کسی خادمہ کو آواز دی خادمہ اندر واپس جا اور چھروں اور ماں کو کچھ دے دلا رخصت کیا۔
- نمازی..... صحن مسجد سے واپس اندر جا کر حضرت جی مبارک ہم کو تو خبر ہی نہیں ان لوگوں کو کہاں سے خبر ہو جاتی ہے۔
- مصاحب..... حضرات اقدس نے تو ذکر ہی نہیں فرمایا۔

حضرت اقدس..... بے شک رات ڈیڑھ بجے بعد یہ مولود مسعود پیدا ہوا اس وجہ سے بے خوابی ہی رہی صبح کی نماز میں یہ توقف آنے کا اتفاق ہوا۔ جماعت تیار تھی اس ذکر اذکار کی فرصت نہ تھی فاطمہ اللہ اللہ نے ہماری پیشگوئی کو پورا کیا۔

مصاحب..... الحمد للہ مبارک مبارک پھر ایک مرتبہ ہی مبارک مبارک کی آواز سے مسجد گونج گئی۔  
حاضرین..... الحمد للہ حضور اللہ تعالیٰ کا بڑا افضل ہوا۔ لڑکی کے پیدا ہونے سے مخالفوں نے زبان  
طعن کو دراز کر رکھا تھا۔ اب ان کے منہ میں خاک پڑے گی۔ خدا تعالیٰ اس مولود کو عمر طبعی پر  
پہنچائے۔ اور حسب بشارت خود سب وعدہ پورا کرے۔  
پھر کل آواز آئین سے مسجد گونج اٹھی۔

مولوی صاحب..... اب یہ مولود تو وہی بشیر موعود ہے جس کی نسبت حضور کو الہام ہوا تھا عزرائیل۔  
حضرت اقدس..... بے شک اب حقیقہ کا سامان کیا جائے ایک مضمون لکھو اور فوراً مطبع میں شائع  
ہونے کے واسطے بھیج دو۔ اور احباب عقیدت کیش کے پاس خط دعوت اور مخالفین کے پاس اشتہار  
قلمی بذریعہ جسرٹی بھیج دو۔

مولوی صاحب..... نہایت مناسب بلکہ ضروری اور ان سب ان نامحتمل کے منہ میں دیا جائے  
پہلے لڑکے کی پیشگوئی میں جو لڑکی ہوئی تو زمین کو سر پر اٹھا رکھا ہے۔ ذرا سرتو نہ بچا ہو جائے۔  
حضرت..... ہم نے شائع کر دیا تھا۔ کہ یہ ضرور تھوڑا ہی ہے کہ وہ مولوی موعود اسی حمل میں پیدا ہوتا  
اس میں نہیں اس کے قریب کے حمل میں سہی۔

مصاحب..... اب تو خدا تعالیٰ نے سب مخالفین کو خاک دروہاں سرگوں کر دیا۔  
شاہ جی..... حضور اب حقیقہ کی تقریب پر وہ خوشی کی جائے کہ زمانہ میں یادگار ہو جائے اور اس کی نظیر  
زمانہ میں ہاتھ نہ آئے۔

اتنے میں نوبت فقار خانہ لے کر آگئے نوبت خانہ رکھا گیا نفی کی آواز کے ساتھ ہی  
فقارہ پر چوٹ پڑی۔ اور لوگ ڈوم کچھ مر اسی نیر نیر ڈبھ ہاتھ میں لئے آوارہ ہوئے اور ایک جلسہ  
قائم ہو گیا۔

مرید..... یہ راگ اور نفیری کا بجانا اور فقار خانہ رکھا جانا جائز ہے۔

حضرت اقدس..... جب آسمانوں پر اس مولود کے تولد کے شادیاں نہ بچتے ہیں اور نوبت خانہ تو زمین  
پر کیوں نہ ہو۔

خوشامدی..... حق ہے حق ہے سبحان اللہ دیکھ کیا عمدہ جواب ہے اعجاز ہی اعجاز۔

۲..... اس میں کیا شک ہے ہر کہ شک آرد کا فرگرد اللہ کے مامور اور مرسل کا کوئی کام خلاف  
امر الہی کے نہیں۔ حضور کو کشف سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ کہ آسمان پر نوبت خانہ رکھا گیا ہے۔



دیگر خوشامدیوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔

مولوی صاحب..... نے مضمون اشتہار لکھ کر پیش کیا بعد ملاحظہ پسند خاطر اقدس ہو کر بدست خاص مزین ہوا، اور مطبع میں بھی روانہ کیا گیا اور چند مخالفین کے پاس قلمی اشتہار تحریر کرا کر بذریعہ رجسٹری بھیجے گئے۔

”جاء الحق وزهو الباطل ان الباطل كان زهوقا“

خوشخبری

”ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں۔ کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار ۱۸ اپریل ۱۸۸۶ء میں پیشگوئی کی تھی اور خدائے تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا۔ کہ اگر وہ حمل موجود میں پیدا نہ ہو۔ تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے۔ ضرور پیدا ہوگا۔ آج ۱۶ ذیقعدہ ۱۳۰۲ ہجری مطابق ۷ اگست ۱۸۸۷ء میں ۱۲ بجے رات کے بعد ڈیڑھ بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔ الحمد للہ علی ذالک!

اب دیکھنا چاہیے کہ یہ کس قدر بزرگ پیشگوئی ہے جو ظہور میں آئی۔ آریہ لوگ بات بات میں یہ سوال کرتے ہیں۔ کہ ہم وہ پیشگوئی منظور کریں گے۔ کہ جس کا وقت بتایا جائے سواب یہ پیشگوئی انہیں منظور کرنی پڑی کیونکہ اس پیشگوئی کا مطلب یہ ہے کہ حمل دوم بالکل خالی نہیں جائے گا۔ ضرور لڑکا پیدا ہوگا اور وہ اس حمل سے کچھ دور نہیں بلکہ قریب ہے یہ مطلب اگرچہ اصل الہام میں مجمل تھا لیکن میں نے اس اشتہار میں لڑکا پیدا ہونے سے ایک برس چھ مہینے پہلے روح القدس سے قوت پا کر مفصل طور پر مضمون مذکورہ بالا لکھ دیا یعنی یہ کہ اگر لڑکا اس حمل میں نہ ہو تو دوسرے حمل میں ضرور ہوگا۔ آریوں نے حجت کی تھی کہ یہ فقرہ الہامی جو کہ ایک مدت سے حل سے تجاوز نہیں کرے گا۔ حمل موجودہ سے خاص تھا جس سے لڑکی ہوئی۔ میں نے ہر ایک تحریر اور تقریر میں انہیں جواب دیا۔ کہ یہ حجت تمہاری فضول ہے۔ کیونکہ کسی الہام کے معنی وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ کہ ہم آپ بیان کرے۔ اور ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی۔ کیونکہ ملہم اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ سے خاص طاقت پا کر اس کے معنی کرتا ہے۔ پس جس حالت میں لڑکی پیدا ہونے سے کئی دن پہلے عام طور پر کئی مواشتہار چھپوا کر میں نے شائع کروائے۔ اور بڑے بڑے آریوں کی جماعت میں بھیج دے۔ تو الہامی عبارت کے وہ معنی قبول نہ کرنا جو خود ایک خفی الہام نے میرے پر ظاہر کیے اور پیش از ظہور مخالفین

تک پہنچادیئے گئے۔ کیا ہٹ دھرمی ہے یا نہیں۔ کیا بلہم کا اپنے الہام کا معانی بیان کرنا یا مصنف کا اپنی تصنیف کے کسی عقدہ کو ظاہر کرنا تمام دوسرے لوگوں کے بیانات سے عندالعقل زیادہ معتبر نہیں ہے۔ بلکہ خود سوچ لیتا چاہیے۔ کہ بلہم جو کچھ پیش از وقوع کوئی امر غیب بیان کرتا ہے۔ اور صاف طور پر ایک بات کی نسبت دعویٰ کر لیتا ہے۔ تو وہ اسے اس الہام اور اس تشریح کا آپ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اس کی باتوں میں دخل بے جا دینا ایسا ہے۔ جیسے کوئی کسی مصنف کو کہے کہ تیری تصنیف کے یہ معنی نہیں بلکہ یہ ہیں جو میں نے سوچے ہیں۔

اب ہم اصل اشتہار ۸ اپریل ۱۸۸۶ء ناظرین کے ملاحظہ کے لیے ذیل میں لکھتے ہیں۔ تاکہ اطلاع ہو کہ ہم نے پیش از وقوع اپنی پیشگوئی کی نسبت کیا دعویٰ کیا تھا اور پھر وہ کیسا اپنے وقت پر پورا ہوا۔

الشمہ: خاکسار غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپور  
(مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۳۱، ۱۳۲)

## باب ۲۱ بست و کیم

### گوگا نومی کا میلہ اور زندہ پیر کی زیارت

بھادوں کا مہینہ ہے آسمان پر ابر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرف سے اس طرف کو جا رہے ہیں۔ کہیں دھوپ کی تیزی بدن کو جلانے دیتی ہے بھادوں کی دھوپ جس سے ہرن کالا ہو۔ کبھی چھوٹا سا کٹڑہ ابر کا سر پر آگیا۔ سایہ ہو گیا۔ ہوا کا جھونکا ہستی میں جو مددگار رہا جان آگئی۔ کبھی جس ہوا تو گرمی نے وہ زور دیکھا یا کہ سانس بند ہو گیا۔ پسینہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پہنچا ہے۔ کپڑوں سے بو آ رہی ہے۔ بنالہ سے جو قادیان کو سڑک جاتی ہے۔ اس پر آدمیوں کا تاننا لگا ہوا ہے۔ دس دس بیس بیس چالیس چالیس پچاس پچاس کا جگہ ابر کے ٹکڑوں کے طرح علیحدہ علیحدہ نوروی میں معروف ہے کسی کے ہاتھ میں مور کے پروں کا مور چمیل ہے کوئی ڈور بجا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہی ابر آیا اور برستا ہوا چلا گیا۔ لوگوں نے چاروں طرف کو دیکھا جائے پناہ نہیں پائی دھوپ نکل آئی۔ مسافروں نے اپنا راستہ لیا اور شام کے قریب قادیان میں داخل ہوئے۔ وہاں میلہ کا جھوم ہے ایک وسیع میدان میں مجمع ہے۔ ازدہام سے آدمیوں کو آدمی چیر کر لٹکتے ہیں۔ تو منزل مقصود پہنچتے ہیں۔ میدان میں ایک منڈی ہے۔..... ایک بڑے لمبے ہانس

پر پتلا اور سفید کپڑا سبز رنگ کا پھر برا اثر رہا ہے بانس کے سر پر مور کے پر کا مور چھل بندھا منڈی کے پاس جھنڈا (چھڑے) کے نیچے چار پائی چھٹی ہے۔ اس پر سفید بستر لگا ہوا ہے چار پائی کے اوپر تکیہ کے سہارے ایک بزرگ درویش صورت لمبی داڑھی سرخ سفید رنگ نورانی چہرہ سبز کا ہی عمامہ سر پر کھرائی کرتے در پر سبز سرخ سیاہ نیلے پیلے منکوں کی پنجرگی شیخ گلے میں پتلا رومال ہاتھ میں لال لال آنکھیں رعب دار چہرہ منہ سے حقہ لگائے صوفی صانی کی شکل بنائے چار پائی سے پاؤں لٹکائے۔ دنیا سے ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے۔ پیروں کے پاس پلنگ کے نیچے ایک سفید چادر چھٹی ہے۔ لوگ آتے ہیں۔ پیر کے پاؤں کو چوم قدم کو ہاتھ لگا کا تھا ٹیک کوئی مرغا کوئی بھیڑ بکری کا بچہ چڑھا روپیہ دو روپیہ پیر کے سر پر چادر پر ڈال دیتا ہے اور اس طرح اگلے پاؤں نو قدم ہٹ کر مجلس میں جا بیٹھتا ہے۔ خادم مرغا مرغی بھیڑ بکری کے بچہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ چاروں طرف بیس بیس چچیس چچیس کا غول دوڑے جاتے ہیں۔ بھجن گاتے ہیں۔ گوگا پیر کے مناقب سناتے ہیں۔ چادر پر روپیوں کے کوڑیوں کی طرح ڈھیر لگا ہوا ہے۔

پیر جی حقہ کا دم کھینچ دھوان اوڑا۔ وہ بچو کیا کہتا ہے۔ خوش کر دیا۔

مرید داتا پیر کے پاؤں کی برکت ہے۔ تیری جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ایک بچہ دلوا دے اگلے برس اس کو گود میں لے کر آؤں۔

۲..... بیادہ کرادے گھر ویران ہے۔ تنہائی میں دل گھبراتا ہے۔ اگلے سال اکیلا نہ ہوں چوہڑی ساتھ ہو۔

۳..... ابے چپ یہ موقع گفتگو کا نہیں دیکھ کوئی بولتا ہے۔

۴..... بابا پیر کے مہر کی نظر چاہیے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس پر سب کچھ روشن ہے یہی تو کرامات ہے۔

پیر جی..... مسکرا کر ارے بھائی میں بڑھا آدمی لڑکا کیا میری جھولی میں ہے جو نکال کر دیدوں۔ اور عورتوں کی کیا میرے پاس کھڑک بھر دی ہوئی ہے۔ جو پکڑ کر دیدوں بابا فقیروں کے پاس تو دعا ہوتی ہے۔ اچھا کہیں گے۔ گرد بھلی کرے گا۔

مرید..... کھڑے ہو کر اور ہاتھ باندھ کر بس مہاراج یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے دعا کرو گردو کی کریم کی نظر ہو جائے آپ کا نام ہمارا کام ہو جائے بر کریمیاں کارا دشوار نیست۔

۱..... پیر کے چروں لگ جا داتا گروساری مرادیں پوری کرے گا۔ پیر کے مہر کی نظر چاہیے

بیڑا پار ہے۔

پیر جی بابا گھبرانے سے کچھ نہیں ہوتا خدا کی مہربانی اور فضل پر نظر رکھنی چاہیے۔

وہ اسے فضل کرتے نہیں لگتی بار

نہ مایوس ہو اس سے امیدوار

راگ رنگ موقوف روشنی کے سامان بڑے دھوم سے کیا گیا تھا۔ اور سیر دیکھنے میں

لوگ مصروف ہوئے پیر جی اٹھ کھڑے ہوئے۔ خادم نذر و نیاز کا روپیہ سب اکٹھا کر ساتھ

ہوئے۔ کھانا ہر کا ایک اس کے قیام گاہ پر بھیجا گیا۔ صبح کو پیر جی کا دربار خاص منعقد ہوا ہر ایک

مرید اور خواہش مند بمصداق تنہا پیش قاضی روی راضی آئے کے ایک کوٹھے میں جہاں پیر

صاحب رونق افروز تھے۔ تنہا جاتا اپنا حال سنا تا۔ روئے حاجت چاہتا۔ جواب شافی پاتا چلا آتا

اندرز ناخانہ سے ایک خادمہ آئی۔

خادمہ..... حضور مٹھلے میاں کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا مبارک۔

ناظرین سمجھ تو گئے ہوں گے یہ دربار کس بزرگ دار کا ہے اور پیر جی کون صاحب ہیں۔

اور مٹھلے میاں کون ہیں۔ مگر ہم بھی عام لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے لکھتے ہیں یہ پیر صاحب سلطان

العارفین امام السالکین مرزا امام الدین صاحب ہیں۔ اور مرزا نظام الدین صاحب ان کے

چھوٹے بھائی ہیں۔ جو ہمارے ناول کے ہیر و حضرت مسیح زمان مہدی دوران مرزا صاحب کے چچا

زاد بھائی ہیں۔

پیر جی..... نہایت خوشی کے لہجہ میں الحمد للہ اللہ تعالیٰ عمر طبعی کو پہنچائے صاحب تخت و دوست

کرے۔ کب ہوا۔

خادمہ..... ابھی ابھی بس حضور کی خدمت میں دوڑی ہی آئی ہوں۔

پیر جی..... ہاں خوب یاد آیا ہے۔ کہ ان لوگوں کو کہہ دیا کہ آج اور کل کوئی شخص نہ جائے جلسہ ہوگا۔

خادمہ..... نے سب لوگوں کو پکار کر منادی کر دی کہ پیر جی کے بھتیجا (یعنی بھائی کے گھر لڑکا) پیدا ہوا

ہے۔ اس کا جلسہ اور دعوت کا سامان ہوگا۔ کوئی بے اجازت نہ جائے۔

فوراً جلسہ کا سامان شروع ہوا شامیانہ لگایا گیا۔ لاہور امرتسر سے گائینن بلانی گئیں۔ اور

بڑی دھوم دھام سے جلسہ رقص و سرود اور دعوت کیا گیا۔ رنڈیوں کے گانے اور سارنگیوں کے زونوں


کی آواز سے اور طلبہ کی تھاپ سے زمین سے آسمان تک نغمہ شادی کا شور تھا۔ غزل مبارک باد تازہ تازہ لوہنگائی گئی۔

نغمہ شادی مولود مبارک ہوئے سب کو یہ گوہر مقصود مبارک ہوئے  
 وقت پھری کے خدانے دیا فرزند رشید معجز عیسیٰ موعود مبارک ہوئے  
 اس نے اس بارہ میں فرمائی جو پیشگوئی اثر الہام کا محمود مبارک ہوئے  
 رہے پر نور دام اس سے شبستان امید تابش اخیر مسعود مبارک ہوئے  
 ہوا سرسبز گلستان تمنائے دل گل سے پر دامن مقصود مبارک ہوئے  
 مشتری زہرہ فلک پر نہ ہوں کیوں نغمہ سرا مہ و خورشید تین موجود مبارک ہوئے  
 آئے وہ دن بھی کہ ہو اس کا برادر ثانی گائیں ہم آگے یہ مولود مبارک ہوئے  
 جشن جمشید نظر سے گرے وہ جشن ہو آج زود ترزود یہ بہود مبارک ہوئے

### حاشیہ جات

۱۔ مرزا صاحب نے اشتهار ۲۰ فروری ۱۸۸۲ء میں یہ پیشگوئی صفحہ اخیر کے تیسری سطر میں لکھی ہے اور ہر ایک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی۔ اور وہ لاو ولد رہ کر ختم ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے اور ان کے گھر بواؤں سے بھر جائیں گے چونکہ مرزا نظام الدین ان کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں وہ بھی اس پیشگوئی میں آگئے۔

### شجرہ نسب مرزا قادیانی



## باب ۲۲ بست و دوم

## پسر موعود کی موت

دیروز چنان وصال دل افروزی  
 امروز - چنین فراق عالم سوزی  
 افسوس کہ بردفتر عمرت ایام  
 ایں راروزی نولیدو آن راروزی

رات کا وقت ہے۔ آندھی چل رہی ہے۔ ہوا کا وہ زور ہے کہ پاؤں اکھاڑے دیتی ہے۔ ہوش اڑے جاتے ہیں۔ گردوغبار آنکھیں نہیں کھولنے دیتا۔ اندھیرا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ مارا نظر نہیں آتا۔ تاریکی نے سیاہی بخت عشاق کی طرح دنیا کو سیاہ کر رکھا ہے کوئی بھولا ٹھٹھرا ادھر راستہ میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ راستہ نظر نہیں آتا۔ تن آدر درختوں سے ٹکر کھاتا ہے۔

ایک گھر کے کمرہ کے دوسرے درجہ میں چراغ روشن ہے مگر وہاں بھی ہوا ٹھہرنے نہیں دیتی۔ ٹم ٹم کرتا ہے کیواڑ ہیں کہ دروازہ سے لگ کر کھڑکتے ہیں۔ جیسا کوئی دکھیا ماں اپنے اکلوتے بچے کے ماتم میں سینہ کوٹی ہے۔ یا نامراد بوڑھا باپ ضعیفی کی عمر میں اس بچے کی مرگ پر جس کی موت نے تمام آرزوں کا خون کر دیا ہوس پینٹا ہے۔ مکان کے اندر ایک چارپائی کے اوپر ایک بیمار پڑا ہے۔ اس کے سر ہانے خاتون نو عمر گنگن اور ایک مرد مسن اداس صورت بنائے بیٹھے ہیں۔ چند خادمہ ادھر ادھر گھبرائی ہوئی پھر رہی ہیں۔

یہ کون بیمار ہے۔ یہ تو کوئی برس ڈینڈہ برس کا بچہ ہے۔ آنکھیں بند کیے پڑا ہے۔ ہونٹوں پر بیڑیاں جم گئیں ہیں۔ زبانون پر کانٹے کھڑے ہیں۔ بچہ (بیمار) کبھی آنکھ کھول کر حسرت بھری نظروں سے ماں کے منہ کو دیکھ لیتا ہے۔ پھر بند کر لیتا ہے۔

ان آنکھوں کو دو پٹہ سے پونچھ کر سر کو جھکا کر میاں میاں بشیر۔ جواب سے مایوس ہو کر اور حسرت کے لہجہ میں یا اللہ رحم کر۔

باپ مایوسی کی حالت میں بچے کے ہونٹوں کو ہاتھ لگا کر کیسے خشک ہو گئے ہیں۔ کچھ پڑھ کر چھو۔ بیوی..... (بچے کی ماں) کیا امید ہے آنسو پونچھ کر اس سے تو خدا نہ دیتا تو اچھا تھا۔ یا اللہ ہم سے تو یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ جو کچھ کرنا ہے کہ اس بچے کی مشکل آسان کر۔

میاں..... (بچہ کا باپ) تم گھبرائی کیوں ہو۔ اور نا امید کیوں ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نزدیک کوئی بات ان ہونی نہیں اس میں سب قدرت ہے۔

بیوی..... اب اس کی کیا امید ہے کوئی دم کا مہمان ہے۔ لیوں پر جان ہے۔ ایسے بیمار کبھی اچھے ہوئے ہیں؟ ہماری تقدیر میں جتنا اور گھڑے بھرتا ہے۔ ایسی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے تو کوئی اولاد کی خواہش بھی نہیں کی تھی۔ اگر اللہ میاں نے مہربانی کر کے دی تھی۔ تو اس کو زندہ رکھتا۔

میاں..... تم ناحق گھبراتی ہو۔ خدا پر نظر رکھو نا امید مت ہو۔ سبھی الموتی اس کی صفت ہے وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ بیمار تندرست کرنا کیا بڑی بات ہے۔ حکمت کے رو سے بھی ہمارا تجربہ ہے۔ اس سے سخت سخت بیمار تندرست ہو جاتے ہیں ان کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے ذریعہ الہام بشارت دی ہے۔ یہ لڑکا بڑا صاحب بخت و اقبال ہوگا۔ اور اس کا نام سندروں کے کناروں تک مشہور ہوگا اور قیامت تک اس کا نام صفحہ دنیا سے نہ مٹے گا۔

بیوی..... اللہ کرے تمہاری زبان مبارک ہووے مگر مجھ کو تو کوئی امید کی صورت نظر نہیں آتی۔  
میاں..... تم کو ہمارے الہام پر بھی ایمان نہیں۔

بیوی..... میں ان وہی باتوں کی قائل نہیں بھلا پہلے اصل میں الہام ہوا تھا لڑکا ہوگا اور وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ تو لڑکی ہوئی وہ بھی زندہ نہیں مردہ اب اس لڑکے کی نسبت جو اشتہار دیا کہ یہ وہی موعود ہے۔ تو اس کی جان کے لالے پڑے ہیں۔ اللہ کرے یہ بچہ جائے اب سے پیچھے مت کہنا۔ کہ یہ لڑکا موعود ہے۔ میرا بچہ جیتا رہے میں تمہارے وعدہ وعید سے درگزری۔

میاں..... تم تو ناحق گھبراتی ہواتنے میں خادمہ نے عرض کی حکیم جی آئے ہیں۔ پردہ ہوا۔  
حکیم جی اندر آئے اور شیشی سے دوا نکال کر بچہ (بیمار) کو پلائی۔ اور کہا مجھ کو کیا حکم ہے۔  
بزرگ..... دیکھ کا باپ اب کیا حالت ہے۔ میرے خیال میں تو اب ردی حالت ہے۔

حکیم..... حضرت خود حکیم اور مؤید من اللہ ہیں۔ آپ کے رو بردو کچھ کہنا بے ادبی میں داخل ہے۔ میرے خیال میں حضور باہر تشریف لے چلیں خدا نا کرے حضور کی طبع مبارک ناساز ہو جائے۔  
یہ گفتگو ہو رہی تھی بچہ نے ایک ہنگلی لی۔ اور جان بحق تسلیم ہوا۔

ماں..... (بے خودی کے عالم میں) ہائے میرا بچہ، حکیم جی بچانا۔ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا۔  
خادمہ..... ہائے میرا اڈلا اب میں کس کو کھلاؤں گی۔

۲..... روتی چلاتی ہوئی ہائے یہ کیا ہوا دوڑو کوئی باہر جا کر حضور اقدس کو تو خبر کر دو وہی کچھ خدا

سے دعا کریں یہ بچہ جی جائے خدا کے مقبول بندے تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہائے میری گود کا پالا کئی دن جاگا۔ ایسی شیشی نیند سویا۔ بچہ کے منہ سے کپڑا اٹھا کر ہائے میرا چاند۔

حکیم صاحب حضرت اقدس کو باہر مردان خانہ میں لے گئے۔ گھر میں کہرام مچ گیا۔ مکان جو عشرت کدہ خاص تھا۔ ماتم سرانے عام ہو گیا عورتوں سے گھر بھر گیا۔ درود یوار سے حزن و غم برستا ہے۔ رونے پینے واویلا کی صدا بلند ہے۔ فلک پیر نے اس قدر ماتم کیا کتنا سر تا پانیکلوں ہو گیا۔ مردانہ میں زنان خانہ سے زیادہ شور مین اور ماتم ہوا تھا۔ کسی کا ہوش نہ بچا تھا۔

میر صاحب..... افسوس کل کیا تھا۔ اور آج کیا ہو گیا۔ خدا کے کارخانہ میں کسی کو دخل نہیں۔ شاہ جی..... انسان کیا اس کا ماتم تو فلک پر فرشتوں میں ہوتا ہے۔

مولوی صاحب..... جس مولود کی پیدائش کے خوشی کے شاد دینے فلک پر پہنچتے تھے۔ اس کا ماتم آسمان پر کیوں نہ ہو۔

خوشامدی..... آج تو سب کو سیاہ لباس پہننا چاہیے۔ آسمانوں پر ملائکہ نے تو ضرور ماتمی لباس پہنا ہوگا۔ ۳..... اس میں کیا شک ہے۔ جب حضرت اقدس کے والد ماجد مرحوم و مغفور کا انتقال ہوا تھا۔ تو خدا نے پرسا دیا یعنی عزاداری کی تھی۔ اور اولاد کا صدمہ تو بڑا صدمہ ہے۔ خدا دشمن کے بھی نصیب نہ ہو اور اولاد وہ اولاد کا ان اللہ نزل من السماء جس کی شان میں نازل ہو۔

حکیم صاحب..... حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کرنا بے ادبی ہے۔ ہمارا منصب نہیں۔ بے اجازت زبان کھولیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا لہذا الذین آمنوا لقد موأین یدی اللہ ورسولہ مگر بے ادب عرض ہے۔ کہ ماتم وہ نہیں جس سے ہاتھ اٹھایا جائے۔ اور یہ غم وہ نہیں جس کا داغ تازیت کیا بعد مرگ بھی سینہ سے جائے مگر بجز صبر و ہیکہ بائی چارہ ہی کیا ہے۔

عرفی اگر بہ گریہ شدے وصال  
صد سال میتوان بہ تمنا گریستن

مولوی صاحب..... اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا امتحان کرتا ہے۔ یہ اس کی قدیم سنت ہے۔

۲..... ان اللہ مع الصابرين آخر سب کو ایک دن یہ راہ در پیش ہے۔

مرزا صاحب..... ”بعض نادان دل کے اندھے یہ اعتراض پیش کریں گے کہ کلمہ فروری ۱۸۸۶ء کی پیشگوئی میں ایک پسر موعود کا وعدہ جیسا کہ ظاہر کیا گیا تھا پورا نہیں ہوا۔ کیونکہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی اور اس کے بعد جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام بشیر احمد رکھا گیا۔ جو سولہ مہینے کا ہو کر فوت ہو گیا۔“

(تزیین القلوب ص ۱۷، خزائن ج ۱۵ ص ۲۸۹)



مرید..... بے شک یہ بڑا سخت مخالفین کا اعتراض ہوگا۔ اشتہار یکم فروری ۱۸۸۶ء میں جلدی کر کے غلطی کھائی تھی۔ ۷ اگست ۱۸۸۷ء کو یہی ذرا سوچ اور تامل کر کے چھپواتے مصرع

چرا کارے کند عاقل کہ باز آید پشیمانی

۲..... میاں تم بھی بڑے گستاخ اور بے ادب ہو۔ تو بہ کر دکافر ہو جاؤ گے مردود ہو جاؤ گے چھوٹا منہ بڑی بات ہے اپنے اندازہ سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ کوئی مامور من اللہ خدا کے الہام کو چھپا سکتا ہے۔ جو کچھ خدا کی جانب سے حکم ہوا ظاہر کر دیا۔

۳..... بے شک یہ گفتگو سوء ادبی میں داخل ہے ہم کو کیا آپ کو یہ منصب نہیں۔ کہ ایسے الفاظ زبان پر لائیں۔ ع

آیاز قدر خود شناس

کہ مصداق کسی کو چوں و چرا کی کیا گنجائش اور طاقت ہے۔

مرزا صاحب..... ”۷ اگست ۱۸۸۶ء کے اشتہار میں کہا ہے کہ اسی کو باہرکت موعود ٹھہرایا گیا ہے۔“

شخص غیر..... اس اشتہار میں صرف یہی لکھا گیا کہ یہ ۱۸ اپریل ۱۸۸۶ء کے الہام والا لڑکا ہے۔ مگر زبانی زبانی کس و ناکس کو بھی کہا گیا۔ کہ یہ وہی لڑکا موعود و مسعود ہے۔ جس کا اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء میں وعدہ ہوا تھا۔ اور آپ نے خود ایک مضمون ایک پونہ کے رہنے والے اردو خوان سپاہی کے نام بھی شہنہ ہند میرٹھ مطبوعہ ۱۶ ستمبر ۱۸۸۷ء چھپوایا ہے (اشاعۃ السنہ) اور ۱۸ اپریل ۱۸۸۷ء کا اشتہار بھی ضمیمہ اشتہار ۲ فروری ۱۸۸۶ء۔

مرزا صاحب ”اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اس قسم کا خباث ہے۔ جو یہودیوں کے خمیر میں ہے اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے یہ نکلا تھا کہ مسیح موعود کے زمانہ میں ایسے بھی لوگ مسلمانوں سے ہوں گے جو یہودیوں کی صفت اختیار کر لیں گے۔ اور ان کا کام افتراء اور جلسازی ہوگا۔ بھلا آؤ اگر سچے ہو تو پہلے اسی کا فیصلہ کر لو کہ ہم نے کب اور کس وقت اور کس اشتہار میں شائع کیا تھا۔ کہ اس یہودی سے پہلے لڑکا ہی ہوگا اور وہ لڑکا وہی موعود ہوگا۔ جس کا یکم فروری کے اشتہار میں وعدہ دیا گیا تھا۔ اس اشتہار مذکور میں تو یہ لفظ بھی نہیں ہیں۔ وہ باہرکت موعود ضرور پہلا ہی لڑکا ہوگا۔ بلکہ اس کی صفت میں اشتہار مذکور میں یہ لکھا ہے کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ چوتھا لڑکا ہوگا یا چوتھا بچہ ہوگا۔ مگر پہلے بشر کے دقت کوئی تین موجود نہ تھے۔ جن کو وہ چار کرتا ہاں اپنے اجتہاد سے یہ خیال ضرور کیا تھا۔

شاید یہی لڑکا مبارک موعود ہو۔“ (تزیین القلوب ص ۱۷، خزائن ج ۱۵ ص ۲۸۹)

مریدان..... (راخ الاعتقاد) سبحان اللہ کیا فرمایا ہے اعجاز ہی اعجاز۔

۱..... یہ انسان کا کام نہیں منجانب اللہ ہے۔ ہمارے حضرت کا یہ بھی اعجاز ہے۔ کہ فوراً جواب دندان شکن سوچھ جاتا ہے دوسرا برسوں سوچے تو بھی نہ سوجھے۔

۲..... لاجول دلاقوۃ یہ اعجاز احمدی ہے اس میں شک کا کیا دخل ہے گو خود خدا متکلم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز ہمارے حضرت (مرزا صاحب) کے واسطے ہی ودیعت کیا ہے۔

۳..... یوں ہر ایک دعویٰ نہ کر بیٹھے یہ نشان آسانی ہے۔ اور تائید ربانی

وہ ایسا نہیں چپ رہے بات سن کر

کوئی اور ہووے گا مرزا نہ ہوگا

مرزا صاحب..... بد بخت ایسے سخت متعصب ہیں۔ ہر ایک بات کا جواب مدلل اور مطول دیا جاتا ہے۔ اس پر پھر کوئی اعتراض نکال دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم سے مقابلہ کرنا گویا خود خدا سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور خدا سے مقابلہ کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور جھٹ قلم اٹھا ایک رسالہ چوبیس صفحہ کا لکھا حکم دیا کہ اس کو سبز کاغذ پر شائع کرادو۔

معرض..... (یعنی شخص غیر) حضرت اس رسالہ کے صفحہ ۷ اور ۱۲ وغیرہ میں آپ نے اس لڑکے کو الہامی اور موعود بنانے میں تاویل میں کی ہیں۔

مرزا صاحب..... ”اگر اس نادان معرض کے اعتراض کی بنیاد ہمارا ہی خیال ہے جو الہام کے سرچشمہ سے نہیں بلکہ صرف ہمارے ہی غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ تو سخت جائے افسوس ہے۔ کیونکہ وہ اس خیال کی شناخت سے اسلام کی اونچی چوٹی سے ایسا نیچے کو گریں گے کہ صرف کفر اور ارتداد کا ایک نہ حصہ ہے بلکہ نیچے کو لڑھکتے لڑھکتے دہریت کے نہایت عمیق گڑھے میں اپنے بد بخت وجود کو ڈالیں گے۔ وجہ یہ کہ اجتہادی غلطیاں کیا پیشگوئیاں سمجھنے اور ان کے مصداق ٹھہرانے میں اور کیا دوسری تدبیروں اور کاموں میں ہر ایک نبی اور رسول سے ہوئی تھیں اور ایک بھی نبی ان سے باہر نہیں۔ گوان پر قائم نہیں رکھا گیا اب جبکہ اجتہادی غلطی ہر ایک نبی اور رسول سے ہوئی ہے۔ تو ہم بطریق تنزل کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ تو وہ سنت انبیاء ہے۔ ہاں اگر ہمارا کوئی ایسا الہام پیش کر سکتے ہو جس کا یہ مضمون ہو۔ کہ خدا تعالیٰ لکھتا ہے کہ ضرور پہلے ہی حمل سے وہ بابرکت اور آسانی موعود پیدا ہو جائے گا۔ اور یا یہ کہ دوسرے حمل میں پیدا ہوگا اور بچپن میں نہیں مرے گا تو ہم کو دکھائیں ۷ اگست کا اشتہار دیانت دار کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس میں

بیرکت آسانی موعود کی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیشگوئی نہیں ہے۔“

(تزیین القلوب ص ۷۲ حاشیہ، خزائن ج ۱۵ ص ۲۹۰)

## حاشیہ جات

۱۔ (اشاعت السنہ نمبر ۸ ج ۱۵ ص ۱۷۱) اس کی گزشتہ الہامات اور بشارت میں بھی ایک الہام تولد فرزند عنموائل و بشیر کو بطور تمثیل ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جس میں وہ بارہا جھوٹا ہو چکا ہے اور پھر سچے کا سچا بنا ہوا ہے۔ ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کو آپ نے ایک اشتہار دیا جس میں یہ درج کیا: ”میرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا خوبصورت شوکت و دولت ہوگا۔ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ فرزند ولہند گرامی ارجمند مظاہر اول والاخر مظہر الحق والعلاکان اللہ نزول من السماء وہ جلد جلد بڑھے گا۔ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمیں کے کناروں تک شہرت پائے گا۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۹۶، خزائن ج ۵ ص ۱۷۱) ایسے ہی اور صفات اس لڑکے کے بیان کئے۔ یعنی خدا کا جو اول آخر سے مظہر ہوگا۔ حق اور بلندی کا محل ظہور گویا خود خدا تعالیٰ سے نازل ہوگا۔ ناظرین قادیانی کا بیٹا خدا ہوا۔ قادیانی خدا کا باپ ٹھہرا آج ابن اللہ تو بہت لوگوں کو کہا گیا ہے۔ مگر خدا کا باپ قادیانی سے پہلے کوئی نہیں سنا تھا۔ اس کی ایسی دعاوی سن کر جو لوگ اس کو مسلمان مان رہے ہیں وہ اگر دیوانے نہیں نا فہم نہیں تو پھر کون ہیں وہی بتائیں؟ جو ملاحظہ کے لائق ہیں۔ اس اشتہار کی نقل اب قادیانی نے اپنے وساوس کے۔ اخیر میں چھاپ دی ہے۔ جو آسانی سے ملاحظہ ناظرین سے گزر سکتی ہے۔ اس اشتہار میں چونکہ آپ کا بلہم (جو یقیناً معلم المملکت ہے) تاریخ ماہ و سال تولد فرزند بھول گیا تھا۔ لہذا آپ کو اس کا فکر ہوا تو آپ نے ۲۲ مارچ ۱۸۸۶ء کو ایک اشتہار اس کی میعاد کی بابت جاری کیا ہے۔ اور اس میں یہ لکھا ہے کہ: ”ایسا لڑکا حسب وعدہ الہی تو برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔“ اس پر اسلام کے مخالفوں ہندوؤں وغیرہ نے قادیانی کو اسلام کا وکیل وحامی سمجھ کر اس میعاد پر خوب ہنسی اڑائی اور یہ بات چھاپ کر شہر کی کہ تو برس کی میعاد لمبی ہے اس میں کوئی نہ کوئی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے۔ جس پر قادیانی نے اپنے بلہم (معلم المملکت) کے حضور میں اس کے لیے (یعنی تعیین میعاد کے لیے) عرض کی تو ادھر سے یہ الہام ہوا جس کو قادیانی نے اشتہار ۸ اپریل ۱۸۸۶ء میں درج کر کے شہر کیا۔ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو ایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ پھر اس کو الہام کی تفسیر میں ایک خفی الہام ہوا جس کو وہ اشتہار ۷ اگست ۱۸۸۷ء میں خفی الہام اور الہامی تفسیر اور قبض روح اللہ کا نتیجہ قرار دے چکا ہے۔ چنانچہ عنقریب وہ الہام نزول ہوگا۔ وہ الہام یہ ہے الہام منقولہ

کے متصل ہے اس اشتہار ۸/۸ پر پیل ۱۸۸۶ء میں بیان کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ غالباً ایک لڑکا ابھی ہووے بالضرور اس کے قریب حمل میں لیکن یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جواب پیدا ہوگا۔ یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں نو برس کے عرصہ میں پیدا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی الہام ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آنے والا ہے یا ہم دوسرے کی۔ راہ نکلیں۔ چونکہ یہ عاجز ایک بندہ ضعیف۔ بندہ غلام جلاشانہ کا ہے۔ اس لیے اس قدر ظاہر کرتا ہے جو منجانب اللہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ بعینہ آپ کے الفاظ ہیں۔ اس کے آخری الفاظ کے مقابلہ میں خاکسار کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہرگز نہیں آپ خدا کے بندہ نہیں بلکہ معلم المسلموت کے بندہ ہیں اور اسی نے آخری فقرہ زیر خط انجیل متی باب ۱۱ آیت ۳ سے چورا کر آپ کو الہام کیا ہے جس سے اس کا اور آپ کا مقصود یہ ہے کہ جو لڑکا موجودہ حمل سے پیدا ہوگا۔ اگر وہ کھینچ تان کر الہام ۲۹ فروری ۱۸۸۶ء کا مصداق اور اس کا نتیجہ بن سکا۔ تو اس الہام کے پہلے حصہ کہ آنے والا یہی ہے۔ کے اشارہ سے اس کو الہامی بنایا جائے گا۔ اور اگر وہ کسی طرح اس کا مصداق نہ بن سکا۔ تو اس الہام کے دوسرے حصہ یا ہم دوسرے کی راہ نکلیں۔ کے دستاویز بھی اس حصہ میں صاف اشارہ تھا کہ یہ کوئی اور ہے۔..... ان دونوں آپ کی بی بی کو حمل تھا۔ جس کے وضع ہونے کی مدت قریب تھی اسی حمل کی نظر سے آپ یہ الہام بازی کر رہے تھے اور اس حمل سے آپ کو لڑکا پیدا ہونے کا کامل یقین تھا شک تھا۔ تو صرف اس میں تھا کہ اس حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا وہی موعود لڑکا ہے یا موعود کوئی اور ہے اور یہ لڑکا اور ہے اس حمل سے لڑکا ہونے کا یقین اور اس کے موعود ہونے میں شک ہے۔ آپ کی الہامی تفسیر کے اس فقرہ سے کہ جواب پیدا ہوگا۔ یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں ہوگا۔ اور دوسرے الہام کے جملہ سے آنے والا بھی ہے تاہم اور صاف ظاہر ہو رہا ہے ہر کس ونا کس مذکر الفاظ ہوگا اور لڑکا۔ اور آنے والا۔ اور مونث الفاظ ہوگی اور لڑکی اور آنے والی میں تمیز کر سکتا ہو۔ یہ الفاظ یقین دلاتے ہیں کہ قادیانی اس حمل سے لڑکا پیدا ہونے کا یقین رکھتا تھا مگر خدا نے جو اخیر میں جموٹے کا منہ کالا کیا کرتا ہے۔ (گو تھوڑے دنوں اس کی مہلت بھی دیتا ہے) اس دعوے اور یقین میں قادیانی کو جھوٹا کیا۔ اس حمل سے لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہوئی اور وہ بھی مرگئی جس سے تمام ہندوستان میں قادیانی کی رسوائی اور اس کے سبب اور ذریعہ سے تمام مسلمانوں کو آریہ وغیرہ مخالفوں کے سامنے عداوت اٹھانی پڑی۔ مگر قادیانی ایسا شیر بہادر ہے اور عقل اور حیا سے اکیلا جنگ آور اور تیار ہے۔ کہ اس نے اس رسوائی اور ندامت کی کچھ بھی پرواہ نہ کی بلکہ الٹی آریوں کی خبر لی ان کے جواب میں ایک دو ورقہ اشتہار چھاپ کر مشتہر کر دیا اور اس میں یہ عذر تداہیر گناہ کیا کہ میں نے کب اور کہاں لکھا تھا۔ کہ اس حمل سے لڑکا ہوگا۔ میرے

اشتہار ۸ اپریل ۱۸۸۶ء میں اس حمل کا لفظ کہاں لکھا تھا کہ اس حمل سے لڑکا ہوگا میرے اشتہار ۸ اپریل میں اس حمل کا لفظ کہاں ہے اور اس کے ساتھ آریوں کو لعنتیں اور گالیاں سنا کر اپنے اسحق اتباع کی نظروں میں اپنا سچا ہونا ثابت کرویا۔ اس نے یا اس کے اتباع سے کسی نے یہ خیال نہ کیا کہ اس اشتہار میں اس حمل کا لفظ نہیں تو کیا ہوا اس میں یہ لفظ ”جو لڑکا پیدا ہوگا آنے والا یہی ہے۔“ تو صریح اور صاف موجود ہے۔ اور ہیں بھی یہ الفاظ الہامی نہ ہم اور رائے پر مبنی پھر ہمارا وہ الہام ۸ اپریل ۱۸۸۶ء جس کے الفاظ مذکور سے لڑکا پیدا ہونے کا یقین ہوتا تھا۔ جھوٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ اس الہام کو ہم شیطان کا احتلام جان لیں۔ اور آئندہ اس دعوے سے دست بردار ہو جائیں اور جو ذلت ہے اس سے پہلے واقعہ ہو چکی ہے۔ اسی پر اکتفا کریں۔ آئندہ مخالفین سے اسلام اور مسلمانوں کی اور ہنسی نہ کرائیں مگر وہ حضرت حیا اور سچ سے کچھ تعلق رکھتے۔ تو اپنا جھوٹا ہونا مانتے۔ وہ برابر اسی خیال میں رہے۔ یہاں تک کہ ۷ اگست ۸۷ء کو ایک منحوس و نامبارک لڑکا (بظاہر بشر نام) قادیانی کے گھر میں پیدا ہوا پھر تو کیا تھا۔ قادیانی آسمان کو چڑھ گیا۔ اور اس نے بڑا شور وغل مچایا۔ پنجاب اور ہندوستان کے دوستوں کو اس لڑکے کے عقیقہ پر بلا کر یہ بتایا کہ وہ الہامی موعود لڑکا ہے عقیقہ کیا جس میں دف اور ڈھول بجائے گئے پھر کسی نے اعتراض کیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ فرشتے آسمان پر باجے بجا رہے ہیں پھر ہم کیوں ان کی پیروی نہ کریں اور اس لڑکے کی پیدائش کے متعلق یہ اشتہار جاری کیا جو مطیع چشمہ فیض ٹالہ و کٹوریہ پریس لاہور وغیرہ ہیں۔ طبع ہوا۔

۲ اشاعت السنۃ نمبر ۸ جلد ۱۵ صفحہ ۶۷۱ تا ۷۹۱ امر اسلدا ایک محقق متکلم از پونہ مندرجہ شخندہ ہند میرٹھ مطبوعہ ۱۶ ستمبر ۱۸۸۶ء ہمارے ایک عنایت فرمانے تین اشتہار ۲۰ فروری و ۲۲ مارچ ۸۶ اور ۱۸ اپریل ۱۸۸۶ء از جانب مرزا غلام احمد صاحب ہمارے پاس بھیجے ہیں۔ ان میں ایک پیشگوئی اور نیز ان کے وقوع کا ثبوت مدلل اور معقول طور پر درج ہے۔ ..... مضمون اشتہارات مندرجہ بالا یاد کر کے ۷ اگست ۱۸۸۷ء کو مرزا صاحب کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا اس وقت یہ اشتہار صداقت آثار ہمارے ساتھ ہی رکھا ہے جس کے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیشگوئی کس قدر عالی شان اور واضح اور کھلی کھلی ہے اشتہار پر موصوف کے دو فقرہ ہیں۔ پہلا فقرہ ہے غالباً ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے۔ بالضرور اس کے قریب حمل میں دوسرا فقرہ الہامیہ نازل من السماء و نزل من السماء جو نزول یا قریب نزول پر دلالت کرتا ہے پہلے یہ ظاہر کرتا ہے کہ لڑکا اس حمل میں جو اس کے قریب سے پیدا ہوگا۔ یہ دونوں فقرہ بہ آواز بلند شہادت دے رہے ہیں۔ کہ

لڑکا جس کی نسبت اشتہار مذکور میں پیشگوئی کی گئی ہے۔ بالضرور دوسرے محل تک جو قریب ہے پیدا ہو رہے گا۔ اب اس پیشگوئی میں جس قدر صفائی پائی جاتی ہے۔ اس کے بیان کی حاجت نہیں یہ بات عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ کسی امر فوق الاختیار کے ظہور کے لیے پیش از وقوع کوئی خاص اور حد معین قرار دینا اور تمام قطع و یقین کو اس حد متعین اور وقت مقررہ پر حصر کر دینا اور پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اس وقت در حد معین میں ظہور پذیر ہو جانا۔ کاروبار انسانی طاقتوں سے بالاتر ہے خاص کر تولد پسر کے بارے میں کوئی انسان دعوے کر کے اس قدر دم بھی نہیں مار سکتا۔ کہ میری عمر کے کسی حصہ میں کوئی لڑکا میرا ضرور پیدا ہوگا کیونکہ نہ تو عمر کا اعتبار اور نہ لڑکا پیدا کرنے پر کوئی اپنا اختیار اور پھر اس لڑکے کے جیتے رہنے کے یقینی آثار چہ جائیکہ بغیر کسی ظاہری قرعہ اور علامت کے لڑکا پیدا ہونے کے لیے بہت ہی قریب حد بتائی جائے اور پھوٹ ڈرنا مخلوق کے مقابلہ پر میدان میں کھڑے ہو کر دعویٰ کیا جائے کہ تولد پسر اس حد معین ہے تجاوز نہیں کرے گا اور لڑکا صاحب عمر ہوگا۔ یہ لفظ ناظرین توجہ سے پڑھیں اس لفظ کی نسبت یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ انسانی دعوے نہیں الہامی ہے۔ پھر قادیانی کے اس قول کو کہ اس لڑکے کو عمر پانے والا نہیں کہا گیا۔ جس کو وہ اشتہار مطبوعہ یکم دسمبر ۱۸۸۸ء کے صفحہ ۷۲ میں کہہ چکا ہے۔ ملاحظہ فرما کر انصاف دیں۔ یہ شخص کذاب دروغ گو نہیں ہے۔

بداہت ظاہر ہے کہ ایسا دعویٰ کوئی انسان نہیں کر سکتا اور نہ کسی ابن آدم کو ایسی جرأت ہے۔ کہ اس قسم کا دعوے زبان پر لاوے بالخصوص جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تو بدعویٰ مامور و ملہم من اللہ ہونے کی اس پیشگوئی کو ایک جہان کے سامنے اپنی عزت یا ذلت کا معیار بنایا اور لاکھوں مخالفوں کے بے معنی یقینی اور قطعی طور پر دعوے کیا کہ دوسرے محل تک جو بہت ہی قریب ہے۔ بالضرور لڑکا پیدا ہوگا۔ پھر خدائی تعالیٰ نے اس دعوے کو سچا کر کے دکھلایا اور منکروں کو نادم و رسوا کیا تو اور بھی زیادہ بزرگی اس پیشگوئی کے اور سچائی اس شخص کی ہم پر کھلتی ہے۔ کیونکہ خدائے عادل و انصاف پسند کی طرف سے ایک دروغ کے ایسے کھلی کھلی تائید ہونا غیر ممکن اور خلاف کاملہ قدرت حضرت باری ہے اور ایک اور نشانی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ مرزا صاحب نے اپنے اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء میں مولود موعود کے لیے ایک یہ علامت لکھی تھی۔ کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ سو یہ علامت بھی پوری ہوئی کیونکہ اس فرزند مبارک سے پہلے مرزا صاحب کی اولاد صرف تین ہیں۔ دو پسر اور ایک دختر بچوان کے اور کوئی ایسی اولاد بھی نہیں کہ کسی وقت پیدا ہو کر فوت ہوگئی ہو۔ سو یہ لڑکا ہم تہہ چہارم ہونے کی وجہ سے تین کو چار کرنے والا ہے۔ الراقم ایک محقق از پونہ!

اس مضمون کی عبارت کو ناظرین غور سے پڑھیں گے تو اس کے الفاظ اور طرز تحریر سے پہچان جائیں گے کہ یہ قادیانی کا اپنا لکھا ہوا مضمون ہے جس کو اس کے برخلاف واقعہ دوسرے کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ مضمون اول سے آخر تک بتا رہا ہے کہ راقم مضمون نے اس لڑکے کو وہی لڑکا سمجھا ہے جس کا اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء میں ذکر ہے اس مضمون کے پہلے اور پچھلے فقرات کے مصداق قادیانی کے دستخطی خطوط اس میں خاکسار (مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی) جو اصل نشی احسن امر وہی کے پاس ہیں۔ اور نقل ان کے دستخطی اور مولوی محمد بشیر صاحب کے مصدقہ میرے پاس (یعنی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی) موجود ہے ان میں سے قادیانی نے ظاہر کیا ہے کہ تین کو چار کرنے والا یہی لڑکا ہے اور وہی مصداق عربی فقرات الہام ہے۔ وہ لڑکا جب تک زندہ رہا نتیجہ الہام ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء سمجھا گیا مگر خدا نے اس ظالم و مفتضحی و کذاب کو دوبارہ ذلیل کرنا چاہا تو ۳ نومبر ۱۸۸۸ء کو اس منحوس و نامبارک و باعث ضلالت لڑکے کو دنیا سے اٹھالیا۔ جس پر دنیا میں بڑا شور و غل مچ گیا اور اس پر بھی شیر بہادر قادیانی جھوٹا ہونے میں نہ آیا۔ یکم دسمبر کو اس نے ایک چوبیس صفحہ کا بھرا ورق کارسالہ (جس کی سبزی قادیانی کی اندرونی سیاسی کی ایک نشانی ہے۔) اس مضمون کا چھاپ دیا کہ میں نے کب کہا تھا کہ یہ لڑکا وہی ہے جس کا ۲۰ فروری کے اشتہار میں ذکر تھا۔ اور یہ عمر پانے والا ہے اور کہا میں نے اشتہار ۷ اگست ۸۷ میں صرف یہ لکھا تھا یہ کہ وہ لڑکا ہے۔ جس کا ذکر ۱۸ اپریل کے اشتہار میں ذکر ہے اور عقل و حیا کو پیش نظر رکھ کر اتنا نہ سوچا کہ جس لڑکے کا ذکر ۱۸ اپریل کے اشتہار میں تھا۔ وہ کون سا لڑکا تھا۔ ۱۸ اپریل کو کس لڑکے کی میعاد کی بابت اپنے علم سے اپنے دوبارہ انکشاف کا خیال تھا۔ اور کس کی بابت جواب ملا آخر اس کا جواب یہی ہوگا۔ کہ وہی ۲۰ فروری کے اشتہار والا لڑکا تھا۔ اسی کی مدت تولد سے سوال تھا اور اسی کے جواب میں اس لڑکے کا مژدہ سنایا گیا۔ اور یہ تو ہونٹیں سکتا کہ برطبق سوال از آسمان جواب از زمین سوال تو ۲۰ فروری کے الہامی لڑکے کی مدت ہے اور جواب میں کسی اور کی مدت بتائی گئی ہو۔ اور نہ یہ سوچا کہ اس جواب کو گول مول بنانے کے لیے جو میں نے دوسرا الہام گھڑ لیا تھا۔ کہ آنے والا یہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ نکلیں اس کا دوسرا حصہ اس جواب کو گول بنانا ہے مگر اس کا پہلا حصہ صاف اشارہ کرتا ہے کہ یہ لڑکا وہی موعود لڑکا ہے۔ لہذا یہ الہام بھی ہمارے حق میں مفید اور اس امر کا متعین کرنے والا نہیں ہے کہ یہ لڑکا وہ نہیں اور ہے۔

قطع نظر..... اس سے ہم خود محقق محکم پونہ بنگرا اخبار شحنہ ہند میں اور پرائیویٹ محظوں میں اور مجلسوں میں بیان کر چکے ہیں کہ تین کو چار کرنے والا یہی ہے اور یہی لڑکا موعود معلوم ہوتا ہے اب ہم کچھ

عقل اور حیا سے کام لیں اور نہیں تو اتنا ہی کہہ دیں کہ ہم نے جو اس لڑکے کو موعود سمجھا تھا۔ یہ فہم اور اجتہاد تھا۔ اس میں ہم سے خفاء ہوئی ہے مگر یہ امر قادیانی اور اس کے اتباع سے کیونکر ہو سکتا ہے اپنے جھوٹ اور گناہ کا اقبال کرنا اور حق کو قبول کرنا تو موت سے زیادہ ان پر سخت و ناگوار ہے لہذا انہوں نے الٹا اسی سے معترضین کو اثرام کیا اور چوبیس صفحہ رسالہ مذکور کو اپنے بیان کی تائید میں اپنے نامہ اعمال کی طرح سیاہ کیا ہم نے کب اور کہاں کہا تھا کہ یہ لڑکا ۲۰ فروری کا اشتہاری لڑکا ہے اور یہ نام پانے والا ہے۔ الغرض اس لڑکے کے مرجانے سے خدا تعالیٰ نے اس کو جھوٹا کیا کہ تمام دنیا نے مفتری کہا مگر وہ جھوٹا ہونے میں نہیں آئے۔

(چنانچہ مخوس متوفی لڑکے کی نسبت اس نے سبز اور اق رسالہ مطبوعہ کیم رومبر کے صفحہ ۷ و صفحہ ۲۱ میں لکھ دیا ہے کہ: ”ہاں خدا تعالیٰ نے بعض الہامات میں ہم پر یہ ظاہر کیا تھا کہ یہ لڑکا جو فوت ہو گیا۔ ذاتی استعدادوں میں اعلیٰ درجہ کا اور ونوی جذبات بلکہ اس کی فطرت سے مسلوب اور دین کی چمک اس میں بھری ہوئی ہے۔ اور روشن فطرت اور عالی گوہر اور صدیقی روح اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور اس کا نام باران رحمت اور مبشر و بشیر اور ید اللہ بجمال و جمال وغیرہ اسماء بھی ہیں سو جو کچھ خدا تعالیٰ نے اپنے الہامات کے ذریعہ سے اس کی صفات ظاہر کیں۔ یہ سب اس کی صفاتی استعداد کے متعلق ہیں جن کے لیے ظہور فی الخارج کوئی ضروری امر نہیں۔“

(سبز اشتہار ص ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹



مذکور) الہام کے ذریعہ سے کھل گیا ہے۔ ناظرین غور کرو اور انصاف کو کام میں لاؤ کہ ۱۸۸۶ء کی تفصیل کی بات قادیانی الہام کو تب الہام ہوا۔ جب ۱۸۸۸ء میں وہ لڑکا فوت ہو گیا اور اس الہام کا کذب ظاہر ہو کر قادیانی کی ذلت و خواری اور رسوائی کا موجب ظاہر ہوا۔ جس سے یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ وہ الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں جو راستبازوں کا ملہم ہے وہ اپنے راستباز بندوں کو پہلے ایک مجمل اور غیر بین بات کہہ کر اور اس الہام کے سبب ان کی تذلیل اور تکذیب کر کر اس کی تفصیل نہیں کیا کرتا۔ بلکہ وہ الہام شیطان کا احتلام ہے۔ اور اسی کا یہ کام ہے۔ کہ پہلے اپنے اتباع کو دھوکہ میں پھنساتا ہے پھر ان کو ذلیل کر کے ان سے کنارہ کر جاتا ہے۔ اور دشمنوں سے ان کی بے آبروی کرتا ہے۔ جیسا اس فعل کی قرآن کی اس آیت میں حکایت ہے کہ مثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العلمین وہی خبیث اور ناپاک ملہم قادیانی کو ذلیل کر رہا ہے۔ ۱۸۸۶ء میں ایک بات کہہ کر اور اس کے ظاہری مضمون کا یقین دلا کر اور مدعی بنا کر اس کو ذلیل کیا پھر ۱۸۸۸ء میں اس کے دوسرے معنی بتا کر دوبارہ دشمنوں سے اس کو ذلیل کر لیا مگر چونکہ قادیانی کی عقل ماری گئی ہے۔ حیا اور شرم اس سے بالکل مسلوب ہو گئی ہے۔ لہذا وہ اس بات کو نہیں سمجھتا اور چونکہ یہ شیطان اس کو سکھلاتا ہے۔ وہ فوراً اس کا اشتہار کر دیتا ہے اس سبب رسالہ اور دیگر اشتہارات متعلقہ پیشگوئی مذکور میں اور عجائبات ہیں مگر اس کے بیان و اظہار کے لیے نہ وقت ہے نہ اس رسالہ میں گنجائش باز زندہ و صحت باقی۔

باب ۲۳ بست و سوم

ایک مرزائی کی کہانی

یار	کو	ہم	نے	جا	بجا	دیکھا
کہیں	ظاہر	کہیں	چمپا	دیکھا		
کہیں	عابد	بتا	کہیں	زاہد		
کہیں	رندوں	کا	پیشوا	دیکھا		

ایک چھوٹا سا باغ ہے۔ چار پانچ فٹ اونچے احاطہ کی دیوار چاروں طرف کھچی ہوئی ہے۔ کچھ آم و جامن و انار وغیرہ کے درخت اپنے اپنے موقع پر قرینہ اور خوبصورتی کے ساتھ اس میں کھڑے ہیں اور کچھ اراضی مزدور ہے۔ جس میں آلو اور گوبی وغیرہ کے ساتھ بڑی لہلہا رہی ہے۔ مغربی دیوار احاطہ سے ملی ہوئی ایک وسیع اور خوشنما مسجد بنی ہوئی ہے۔ مسجد کے صحن چبوترہ کے

نیچے خوش رنگ اور نازک اور طرح طرح کے موہی پھولوں کے گملے رکھے ہیں۔ سامنے کی روش کے دونوں طرف لیموں اور نارنگی اور سنگترہ کے بیڑوں کی پھانک تک لین ہے۔ احاطہ کے ایک گوشہ میں پھانک کے برابر ایک مختصر سامکان ہمارت پختہ وخام اپنی حیثیت کے موافق خوبصورت بنا ہوا ہے جس کا ایک دروازہ احاطہ کے اندر باغ میں ہے اور دوسرا مشرقی سڑک کی طرف ہے جو بزبان حال کر رہا ہے کہ یہ مکان اور باغ مسجد کے متعلق ہے اور اس میں کوئی مسجد کا متولی یا امام رہتا ہے۔ پردہ اور احاطہ مکان بتا رہا ہے کہ یہ زناخانہ ہے اور اس میں پردہ نشین عورتیں رہتی ہیں۔

لیکن دروازہ مشرقی روپہ کی حالت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ کسی شوقین زندہ دل کی نشست کا مکان ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ کہ جس کے آگے دروازہ سے لے کر سڑک کی تالی تک ایک پر تکلف چبوترہ بنا ہوا ہے۔ دروازہ پر ایک خوبصورت چک ٹنگ رہی ہے۔ کمرہ میں دری کا فرش بچھا ہوا ہے۔ الماری میں کتابیں سجی ہوئی ہیں۔ ایک دروازہ اس کا زناخانہ کی طرف ہے۔ ایک جوان وجیہ و کلیل سرخ و سفید رنگ بڑی بڑی آنکھیں۔ اونچی پتلی ستوان ناک گول چہرہ مٹھی داڑھی ماتھے پر سجدہ کا گھٹا پڑا ہوا ۳۵ یا ۴۰ سال کا سن و سال سیاہ داڑھی میں کوئی کوئی لال چمکتا ہوا مہندی کارنگا بال کشیدہ قامت ترکی ٹوپی چھندے دار زیب سر کشادہ سفید لٹھا کی پتلون کبروں کا کوٹ در پر جنٹل مینوں کی شکل بنائے تکیہ سے کمر لگائے آنکھ پر کئی دونوں ہاتھ سر پر انگلیوں میں انگلیاں دیے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھے۔ بحر لکر میں غرق بیٹھے ہیں۔

زنان خانہ کی طرف کا دروازہ کھلا اور جہانوں کی چھنکار سے آنکھیں کھول سیدھے ہے۔ ہو بیٹھے ایک لڑکی جوان خوبصورت زہرہ جبین مہ لقا گورا رنگ بیضاوی چہرہ ہرن کی سی آنکھیں۔ کالے کالے مگر لمبے کمر تک لٹکے ہوئے بال طوٹی کی سی نوک دار اور موڑواں ناک جس میں ایک سونے کی ہنسی پڑی ہوئی۔ بدن میں دریس کا کڑیہ زرد رنگ کا نہایت قیمتی لاجپہ (تمہ بند) باندھے سر پر سفید مگر میلا دوپٹہ اوڑھے۔ گورایا ہوا بدن اٹھتی جوانی غضب کا جو بن شباب کا عالم لڑنے کے دن بقول میر حسن.....

برس پندرہ یا سولہ کا سن

جوانی کی راتیں مرادوں کے دن

سرود کمر کو لپکا چم چم کرتے کانت کانت میں شوخی بند بند میں شرارت کوٹ کوٹ کر  
بھری تھی میلے کچیلے کپڑے مگر بدن میں سجے ہوئے شرارت کے لہجہ میں مولوی جی سلام۔  
مولوی..... دروازہ کی طرف دیکھ کر آج تو بلا کا جو بن ہے غضب کا ٹھاٹھ ہے خدا کی قسم کیا ماری ڈالا۔

اگر ی کا ہے گمان یا کہ ملا گیری کا  
رنگ لایا ہے دوپٹہ تیرا میلا ہو کر

لڑکی..... ہٹک کر اور ذرا منہ بنا کر ادنیٰ تم تو یوں ہی چھیڑا کرتے ہو۔ شرم نہیں آتی۔  
مولوی..... نہیں میں سچ کہتا ہوں۔ جھوٹ نہیں کہتا آج تجھ پر غضب کا جو بن ہے۔ ہر ایک ادا دل  
کی خواہاں اور جان کی دشمن ہے۔

لڑکی..... جوتی پیر سے نکال کر اپنا منہ تو دیکھ مینڈک کو بھی تو زکام ہوا۔  
مولوی جی..... کیا ہم تجھ سے کم ہیں۔ کس بات میں آئینہ میں مقابلہ کریں۔ ہاتھ کو پکڑ کر۔  
لڑکی ہاتھ چھڑا کر چلو ہوادادی نہ آجائے۔ لگے آگ ایسی گرمی کو ہوئیں سب چوڑیاں

شہنڈی پکڑ کر ہاتھ کو کس زور سے پونچھ مردزا ہے میں دادی سے جا کر کہتی ہوں۔

مولوی..... کھسیانے ہو کر تجھ کو کہا کہ تو دادی نہ کہا کردہ تو تیری سوکن ہے۔

لڑکی..... چلو دل تو خوش کر لو کچھ ہو یا نہ ہو اداریہ کہ خود بخود درونے لگی۔

مولوی جی..... ہائیں یہ کیا ہنسی ہنسی میں رونا کیا معنی۔

نے جنگ ہی کا طور نہ کچھ صلح کا ڈھنگ

سامان سوز کا ہمیں حاصل نہ ساز کا

لڑکی..... تم نے تو مجھ کو کھو دیا دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب میں کیا کروں گی کہیں منہ دکھانے  
کے قابل نہیں رہی۔

مولوی..... (حیران ہو کر گھبراہٹ کے لہجے میں) کیوں کیا کیا بتا تو سہی۔

لڑکی..... شرمناک نیچے گردن کر کے رونے لگی۔ ہچکی طاری ہوئی۔

مولوی..... ہاتھ کھینچ کر اور گود میں لے کر بتا تو سہی روتی کیوں ہے منہ کو چوم کر کوئی بات تو کہہ،

آنسو پونچ کر آخر کیا بات کیا ہے بول نا۔ چھاتی سے لگا کر گوئی ہو گئی کچھ منہ سے بول معلوم تو ہو

معاملہ کیا ہے کسی نے کچھ کہا تو بتا اس کی زبان کاٹ ڈالوں۔ لڑکی ہچکیاں لیتے ہوئے۔ تین تین کیا

کہا کوئی لفظ منہ سے نہ نکل سکا۔ بڑکی بندھ گئی اور آواز گریہ بند ہوئی۔

مولوی جی..... منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش دیوار ہم گوش دارد۔ زور سے دبا کراری کم بخت کیا آج

رسوا ہی کرے گی۔ دیکھ خبردار ہوش میں آ اور جھٹ طاق میں سے گلاس اور بوتل اٹھا کر گلاس میں

ڈال لے جلد پی جا۔

لڑکی..... نے عرق اور شربت پیا گریہ کو ضبط کر کے مولوی صاحب کے رو بروے دوزانو بیٹھ کر

جزواں سے کتاب نکالی کچھ ورق گردانی کر کے کتاب کو رکھ دیا کچھ دیر سنا رہا۔

مولوی..... ہاں اب بیان کر کیا بات ہے۔ اور رونے کا کیا سبب تھا۔

لڑکی..... ذرا سی آواز سے میرے۔

مولوی جی..... منہ پر انگلی رکھ کر آہستہ بلکہ خاموش دیوار ہم گوش دارو۔

لڑکی..... میرے ماں باپ کو خبر ہوگئی ہے ماں نے کل مجھے گالیاں دیں۔ اب لوگ کیا کہیں گے۔

اور ایک تو عیب اور عیب بھی گھر میں ہے۔ ڈھائی گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے۔

مولوی..... پھر کیا ہوا شرفا تو ہمارا نکاح ناجائز نہیں اگر ایسا ہی ہو گیا تو تیرے خاوند سے طلاق دلا کر

ہم نکاح کر لیں گے یہ کیا بات ہے۔

لڑکی..... میرے ماں باپ کہتے تھے کہ ہم تجھ کو تیری سسرال میں بھیج دیں گے۔

مولوی..... پھر کیا ہوا وہاں سے تجھ کو ہم لے آویں گے۔ اور ایسا چھپا کر رکھیں کہ فرشتہ کو بھی خبر نہ

ہو۔ یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔ ایسے اکھاڑوں میں تو ہم خوب کودنا جانتے ہیں۔

تاسر ندہم پایہ کشم ارسر کوئیت

نامروی و مردی قدی فاصلہ دارو

پک آگے پت ربی پک پاچھی پت جائے۔

لڑکی..... یہ تو ادبائشوں اور بد معاشوں کی سی تقریر ہے نہ بڑی رسوائی کی بات ہے لوگ کیا کہیں گے۔

مولوی.....

گرچہ بدنامی است نزد عاقلان

ماہنے حواہم ننگ و نام را

اب تو جو کچھ ہونا تھا۔ وہ ہو چکا اب کوئی ہٹا جاتا ہے قدم عشق بیشتر بہتر۔

لڑکی..... میں تو شرم کے بارے ڈوبی جاتی ہوں کم بخت تو نے قربت کا نہ رشتہ کا، نہ غیرت کا، نہ

عزت کا، کچھ بھی پاس نہ کیا تو دھویا گیا کچھ ایسا کہ بس پاک ہو گیا۔ شرم و حیا سب کو جو اب دے

بیٹھا ہے۔ مشکل تو میری جان کو ہے۔ نہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ برادری میں بیٹھنے

کے لائق نہ خاوند کے گھر بسنے جوگی، میں تو دین اور دنیا دونوں سے گئی آئی ہوئی۔

مولوی..... بے وقوف بے تنگی ہانکے جاتی ہے۔ اری ظالم اب تو جو کچھ ہونا تھا۔ ہو چکا۔ اب

پچھتائے کیا ہوت ہے۔ جب چڑیاں چک گئیں کھیت تو نے بھی اس وقت نہ سمجھایا اب کہتی ہے۔

لڑکی..... میں کیا سمجھاتی اور کیا کر سکتی تھی۔ تیری گردن پر اس وقت جن سوار تھا۔ امدھا ہوا ہوا تھا۔

میں تیرے ہاتھ سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتی تھی۔ تجھ سے زور میں، طاقت میں، زیادہ کیا؟ برابر بھی نہیں تھی۔ اگر چلائی پکارتی۔ تیرا کیا بڑا تانا پنی عزت کھوتی دھوبی بیٹا چاند سا ڈوبا سو چنیل۔  
مولوی..... ہاتھیں بٹانے سے کیا فائدہ اب میں تجھ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جان مال عزت سب برباد کر دوں گا مگر تجھ کو نہ دوں گا۔

لڑکی..... اگر میرے خاوند نے اغوا کی نالاش کی تو کیا ہوگا۔

مولوی..... کچھ بھی ہو بس یہی نا قید ہو جائیں گے۔ پھر بعد رہائی سے قید اور رسوائی تو عاشقوں کی معراج ہے۔ کر چکی عشق ہم جو قید و ذلت سے ڈر گئے۔

لڑکی..... جھلاکے غصہ کے لہجہ میں پھر وہی کہے جاتے ہو۔ نامراد نے مجھے دین و دنیا سے کھو دیا اور پھر میری رسوائی اور خرابی کے درپے ہے میں کسی اپنے بیگانہ خویش واقارب کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ زمین ہی نہیں ملتی جو میں سما جاتی ماں باپ کی عزت میں خاک پڑی خاوند کی آبرو کھوئی۔ اپنی قدر و منزلت گنتی کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اور اب بھی کوئی جانتا ہے کوئی نہیں بات دب جائے تو دب ہی جائے۔ مگر اس نے وہ شہد پس بکھیر رکھا ہے۔ کہ خدا کی پناہ نہ خدا کا خوف نہ دنیا کی شرم نہ لگا ہو گیا ہے اترا گئی لوئی تو کیا کرے گا کوئی۔

مولوی..... تو گھبراتی کیوں ہے ہمت کر خدا پر تکیہ رکھو۔ اگر تجھ کو یہاں شرم آتی ہے۔ اور کسی کا خوف ہے۔ تو بس چلو حضرت صاحب (مرزا قادیانی) کی خدمت میں چلے چلتے ہیں۔ وہیں رہا کریں۔ کتا دیکھے نہ بھونکے۔ نہ کوئی دیکھے گا نہ کچھ کہے گا۔ قادیان میں بس ایک مکان میں رہا کریں گے۔ وہاں کسی کو کیا خبر ہوگی۔ سب میاں بیوی ہی جائیں گے۔ چین سے گزرے گی تیرے خاوند کو بھی خبر نہ ہوگی کہ کہاں گئی دروازہ کھڑکا۔

آواز..... مولوی صاحب۔

مولوی صاحب..... کون، مرزا مظہر وہیں آتا ہوں۔

مولوی صاحب..... شرقی دروازہ سے نکل کر باہر گئے۔ لڑکی زنان خانہ کے دروازہ میں سے نکل گئی۔  
مولوی صاحب..... مرزا مناظر کا ہاتھ پکڑ پھاٹک میں کوہو باغ میں گلگشت کرنے لگے۔

مرزا مناظر..... کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ میں تو بہت دیر سے کھڑا سن رہا تھا۔ کیا قرار پایا مولوی صاحب شکار تو اچھا ہے مگر شان کے خلاف اور بسا بعید ہے۔ اگر لوگوں پر یہ راز افشا ہوا تو بڑی رسوائی اور بدنامی ہوگی اول تو یہ کام ہی برا ہے۔ پھر ایسی قربت قریبہ آپ امام مسجد ہیں۔

مولوی..... کیا کروں یا ردل سے لاچار ہوں۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اس کا انجام بخیر نہیں۔

مرزا مناظر..... آپ کے دل کی عجب کیفیت ہے۔ بلبل کی طرح کسی گل پر قراری نہیں ایک پر نہ دو پر نہ چار پر بس ہے۔ دل نہ ہوا بھٹیاری خانہ ہو گیا۔  
مولوی صاحب.....

ہم کو تو دل لگی میں ملیں وہ جلا وہیں  
سو دل خدا جو دیوے تو سو جا لگائے  
باتیں کرتے کرتے ایک کپھار کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔

مرزا مناظر..... اب یہاں کیسے کھڑے ہیں کیا اب بختاوری کا انتظار ہے۔  
مولوی صاحب..... کیا کہوں اس کج بخت بختاوری کے خیال میں تو تمام تمام رات نیند نہیں آتی کبھی باغ میں ہی ملنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ نہ اس کے مکان پر جانے کی کوئی صورت نکلتی ہے اور نہ اپنے گھر پر بلانے کا موقع ایسی میلی جگہ دل کا پھنسنا بقول عبث بدنامیوں کا ٹوکرا سر پر اٹھانا ہے۔ لگانا دل کا بس جھک مارنا اور گو کا کھانا ہے۔

مرزا مناظر..... کیا خوب کہا ہے مولوی صاحب واہ کیا کہتے ہیں۔ ٹوکرا گوہ جھک مارنا۔  
مولوی صاحب..... یار کیا کہیں مہترانی کے خیال میں ہر دم دل میلا رہتا ہے۔ وہ حرام زادی ہم سے صاف نہیں ہوتی مگر رہی رہتی ہے۔

مرزا مناظر..... خوب خوب مولوی صاحب آپ تو ضلع جگت بھی خوب بولتے ہیں۔  
مولوی صاحب..... یہاں بولتے ہیں مرغی کے بچہ کتیا کے پلہ ذرا چونچ سنبھال کر بولو۔  
مرزا مناظر..... حضرت آج تو آپ بالکل پڑے گئے اتنے میں ایک چوہڑی نو جوان کم سن خوبصورت نازنین نازک تن چھریا بدن ٹوکرا بغل میں دبائے سامنے آئی۔  
مولوی صاحب..... بہ آواز بلند سنا کر۔

یہ بیٹھا انتظار یار میں بکیہ لگا کر میں  
کہ جوش بن گیا ہوں اپنے دروازہ کے بازو کا  
چوہڑی..... بھونکے جا بیٹھا کھا گیا ہے ابھی تو گرمی نہیں آئی پہلے ہی سے ہڑکا گیا۔ منہ مارتا ہے  
یہاں یوسف اس کے پھاڈال دو کوئی مار دے گا۔

مولوی صاحب..... مہترانی غبار دل میں نہ رکھ کم کمانا تیرا قیامت ہے۔  
مرزا مناظر..... دیکھ بختاوری کیا کہا ہے۔ اتنی بے رحمی اچھی نہیں۔ بیوقوف چاہنے والا کہاں  
ماتا ہے۔

چوہڑی..... تم سب ایک جھاڑو کی تیلیاں ہو ایسے عاشقوں کے تو ڈر بے بھرلو۔ ہر دیگی چچھ کھی  
 دیکھے نہ بال ایسے ہر جائے کا کیا ٹھکانا۔  
 مولوی صاحب..... مجروح سمجھ کر نہیں لیتا مرے دل کو۔ اب لاؤں کہاں سے دل صد پارہ بدل کر۔  
 چوہڑی..... چپ بھی ہو گا یا نہیں دستوں کی طرح چھڑتا ہی چلا جاتا ہے۔  
 مولوی صاحب.....

میں تو باتوں پر تیری مرتا ہوں  
 گالیاں دیکے مرا نام تو لو  
 آج تو کچھ بہت ہی بگڑی ہوئی ہو کیوں اس خفگی کا کیا سبب ہے۔  
 چوہڑی..... میں تو جھاڑو بھی نہیں مارتی اور کچھ بڑبڑاتی ہوئی آگے نکل گئی۔  
 مرزا مناظر..... مولوی صاحب آپ نے اس حرامزادی کو بہت ہی گستاخ کر لیا ہے اتنا بھی بیباک ہونا۔  
 مولوی صاحب.....

عشق ازین بسیار کرد است و کند  
 سجد از نار کرد است و کند  
 مرزا مناظر..... عشق نہ ہوا ز کام ہوا ذرا ہوا گلگی اور چھیں..... اور آج جمعہ ہے نہا کر کپڑے پہنتے ہیں  
 پھر نماز کو جانا ہے۔

مولوی صاحب..... خوب یاد دلایا ہم بھی نسل کر کے تیار ہو جائیں اس عرصہ میں جمعہ کی اذان  
 ہوئی۔ دوسری اذان سن کر مولوی صاحب ممبر پر تشریف لے گئے۔

چند شعر عربی حمد و نعت میں پڑھ کر وعظ شروع فرمایا التندز قومًا انذرا اباہم فہم غافلون  
 اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اے محمدؐ ہم نے تم کو اس قوم کے اٹھانے کے  
 واسطے بھیجا ہے جس کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے۔ پس وہ غافل ہیں۔ آنحضرتؐ کی بعثت کا وہ  
 زمانہ تھا کہ باہم قوموں میں اختلاف مذہبی ایسا تھا۔ کہ ایک دوسرے کو کافر کہتا تھا۔

نصاری کہتے تھے یہود کے پاس کچھ نہیں۔ اور یہود کہتے تھے نصاریٰ کے پاس کچھ  
 نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش کھایا تو ہمارے رسول مقبولؐ کو مبعوث فرمایا۔ کیونکہ  
 اس وقت زمانہ کی حالت کی وجہ سے کسی مصلح اور نبی کی اشد ضرورت تھی۔ یہ زمانہ اسی زمانہ کے  
 بمشکل ہے اب قوم میں خدا تعالیٰ کی نسبت و اعتقاد و تقویٰ اور خشیت پیدا کرنے کے نہیں رہا۔

مقتدر اور قدیر اور منعم اور عظیم بذات الصدور ہرگز مانا نہیں جاتا ورنہ اس قدر جسارت

اور جرأت گناہ پر کیوں ہو اور دنیا میں جب کبھی گناہ اور شیطان کا تسلط ہوا ہے۔ اور فسق و فجور نے دلوں اور سینوں کو سیاہ اور تباہ کیا ہے اس کا اصلی سبب یہی ہوا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نسبت حقیقی اعتقاد دلوں سے جاتا رہا جس طرح وہ قرآن جو رسول کریم کی بھست کا مدعی اور متقاضی ہوا۔ اسی طرح یہ زمانہ ہے۔ اپنی کھلی بے حیائی اور بے باکانہ بدکاری کی وجہ سے آج چلا چلا کر محمد صالح کو بلاتا ہے۔

جس طرح اس وقت رسول کریم نے خدا دکھا کر مفاصد کی جزا کاٹی آج بھی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ایسے وجود اور اسباب بچھ جائیں اور ایسی تدبیر برائے کار لائی جائیں۔ جو خدا کو یاد رکھا دیں۔ اور اس کی زعمہ اور مقتدرہستی کا یقین دلادیں۔

سواب جیسے ایک مصلح کی ضرورت شدید ہے۔ ویسے ہی وہ مصلح اس پایہ اور قوت کا ہونا چاہیے۔ یعنی ایک طرف وہ دلائل قویہ اور نئی سطوح اور محارف یقیناً سے قلوب کو مطمئن اور سیراب کر دے اور اس کے روح قدس سے بھولے ہوئے بیان اور زبان سے دل خود بخود بول اٹھیں کہ خدا ہے اور سچائی کی روح ان میں نفع ہو جائے اور ناگہان ایک پاک تجدیلی ان میں پیدا ہو جائے اور دوسری طرف قادرانہ پیشگوئیوں پر جو علم غیب اپنے اندر رکھتے ہوں۔ قدرت رکھتا ہو اور یوں غیب الغیب مقتدرہستی کی خلافت کا واقعی طور پر سزاوار ہو اس وقت وہ رسول کریم کا پورا مظہر ہوگا۔ اور ایسے ہی لوگ خفیہ زمانہ کو اپنے کامل نمونہ سے درست کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول کریم کو بھی ان ہی طاقتوں کے سبب سے پورا امتیاز ہے۔ جہاں آپ نے قرآن کریم جیسے مدلل اور معقول علمی کتاب سے قلوب کو مسخر اور باطل کا معنوی استیصال کیا اس کے ساتھ بلا فصل قادرانہ پیشگوئی کی تصدیق میں مخالفوں کو صوری اور مادی ذلت بھی دکھائی کیا ہی سچ کہا گیا ہے۔

تو ہمیش کس رسیدہ نی بہ زور

در شکستہ کبر ہر متکبرے

یکطرف حیران از شاہان وقت

یکطرف مبہوت ہر وانشورے

غرض اس وقت پھر وہی وقت آ گیا ہے کہ اس رنگ و صفت کا محمد صالح ہو۔

۲..... قوم میں سخت تفرقہ اور تفریق سے اس وقت بہتر فرقہ نہیں بلکہ جتنے انسان ہیں ہر ایک بجا خود ایک فرقہ ہے خود رائے اور ذاتی اجتہاد کا یہ عالم ہے۔ کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کے نزدیک راسخی سے دور اور خطا کے قریب ہے۔ دو مولوی ایک ہی شہر اور گاؤں میں اس طرح



کارروائی کر رہے ہیں۔ گویا وہ الگ الگ مذہبوں کے حامی اور تبع ہیں۔  
خدا تعالیٰ کی کتاب اور سنت کی طرف پیٹھ دے گئے ہیں۔

خواہش اور رسم اور عادت کی طرف ہلکی منہ کیا گیا ہے رات دن ایک دوسرے کی تکفیر اور تفسیق کے یوں درپے ہے۔ جیسے وہ گلاب جس میں بیماری واقع ہو جائے بالکل دنیا اور جاہ کو اپنا قبلہ ہمت بنا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی کلام اور سنت خیر الانام کی یوں بازی کرتے ہیں جیسے بچے کھلونوں سے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے فرقے وہابی اور مقلد اور شیعہ اور سنی کی قوم کی جان کو کھا گئے ہیں۔ گویا ہمتیر چمٹ کے بچے سے نکل گیا ہے۔ اور قریب ہے کہ بڑی بھاری چمٹ سب کو نیچے دبا کر دارالہیوار کو روانہ کر دے۔

اب وقت وہابی دے رہا ہے۔ کہ کوئی مرد میدان ایسا ہو۔ جو ان تفرقوں کو مٹائے مقلدوں کے پیشوا اپنے کہہ رہے ہیں۔ اور وہابیوں کے اپنے اور وہ چند کس جنہوں نے اس اضداد کو جمع کرنا چاہا ان کی مثال ٹھیک ٹھیک دی ہوتی۔

تو از چنگال گرگم در ریودی

چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی

انہوں نے بجائے جمع کے اور پریشان اور بجائے مسلمان پکا بے ایمان کر دیا۔

سب سے بڑا بھاری مفسدہ جو اب ایک ہونے نہیں دیتا اور ایک ہونے کے بغیر فلاح و صلاح نہیں وہ بھی تفرقہ مذہب و مشارب ہے بس یہ بڑی ضرورت مصلح کی ہے۔ کہ اپنی قوت قدسیہ سے اس خانہ برانداز تفرقوں کا ستیا ناس کرے۔

۳..... اور جو قوم کے پشیمیاں ہو سکتے تھے۔ اور ہونے چاہیے تھے۔ وہ لہو و لہب میں مشغول اور اپنے ہی ہوا و ہوس اور کامرانوں میں سراپا مستغرق ہیں اور بڑے بڑے رئیس اور پورے فسق و فجور اور اشتغال بالسنائی کے سبب سے جو اتنا مرگ ہوئے۔ اور جو باقی ہیں اکثر ان میں پارکاب بیٹھے ہیں۔ خدا کے دین کی اصلاح کی فکر کسی کو نہیں۔

غرض فقراء کا یہ حال متوسطین کا وہ حال اور امراء اس رنگ کے۔ اب ہر پاک نفس مصلح کی ضرورت نہیں تو کب ہوگی۔

۴..... بڑا اور سب سے عظیم الشان مفسدہ صوفیوں اور سجادہ نشینوں کا مفسدہ ہے۔ قوم کی طرف سے لاکھوں روپے ان کے تصرف کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اور وہ بھی اکثر ان میں امراء کی فسق فجور اور تن پروری اور خواب و خور میں منہمک ہیں۔ ان کو مطلق خبر نہیں کہ اللہ اور رسول کا

فرمودہ کیا ہے۔ سنت کیا ہے۔ بدعت کیا ہے اپنے ہی تراشیدہ خیالات اور ادھر ادھر کی باتوں پر مائل ہو رہے ہیں۔ ایسے خطرناک مشرب اور مذہب نکالے اور ان پر سرنگوں ہو رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمانی ان پر دور سے دیکھ کر ہنستی اور روتی ہے۔ گویا اسلام کے لباس میں ہزاروں ہزار نئے مذہب نکلے ہوئے ہیں۔ اور اس سے دشمنان دین کو دین حق پر اعتراض اور طعن کا پورا موقع ملتا ہے ان لوگوں کو حسرت تک نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی ہے۔ اور اسلام کے بیرونی دشمن اسلام پر کیا کیا خوفناک حملہ کر رہے ہیں اور تلے ہوئے ہیں۔ کہ اس کا شہتیر ہی نکال ڈالا جائے۔ غرض قوم ان کی غفلت کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ اور بربان حال خدا سے چاہتی ہے۔ کہ کوئی مصلح آئے وغیرہ وغیرہ بیان کر کے فرمایا۔ اس وقت کا مصلح و امام و مجدد اور مہدی جس کا تیرہ سو برس سے انتظار تھا اور مسیح موعود جس کی حدیثوں اور قرآن میں پیشگوئی تھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا وہ کون ہے۔ حضرت امام اقدس ہمام مرزا صاحب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہے۔ جس کے اوصاف حمیدہ کو میری زبان بیان نہیں کر سکتی خطبہ ختم ہوا نماز جمعہ ادا ہوئی۔

رات ہو گئی ہے۔ اندھیرا ہو رہا ہے ایک شخص دراز قد سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے ہوئے چکلہ میں جا رہا ہے۔ ایک دروازہ پر ٹھہرا اور آواز دی جیواں۔ جیواں کیواڑ کھلے۔

جیواں کون؟ مولوی! اب تک کہاں تھا۔

مولوی..... آج مجھ کو کام ہو گیا تھا۔

جیواں..... تو بڑا بے حیا اور بے شرم ہے۔ تجھ کو شرم نہیں آتی۔ کہیں بختاوری چوہڑی سے گالیاں کھاتا ہے۔ کہیں موچنوں سے، تو آدی ہے۔ یا بالوگنڈھ کے اشہد کا ساٹھ ایک سے بس، نہ دو سے بس، نہ چار سے، گھر میں عورت موجود ہے ایک بازاری رنڈی سے ملاقات پھر موچنوں اور رسی

مولوی..... یوں ہی تجھ سے کوئی جھوٹ لڑائی کرانے کی خاطر کہہ دیتا ہے اور تو اس کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ خدا کی قسم بالکل جھوٹ ہے میں نے تو جب سے مرزا صاحب سے بیعت کی ہے بالکل ثوبہ کر لی ہے۔

جیواں..... یہاں کیا تہجد پڑھنے آیا ہے۔ یا قرآن پڑھانے، چل دفع ہو۔ میرے گھر نہ آیا کر منہ جھلس دوں گی۔ جو پھر میرے گھر میں پیر رکھا یہ بات مجھ کو گوارا نہیں۔

مولوی..... آگے نہ دم میں یہ توقف یہ لوگ لڑائی کے واسطے کہہ دیتے ہیں۔ خیر مولوی صاحب نے وہ رات وہاں کاٹی۔

کسی کی شب وصل سوتے کئی ہے  
 کسی کی شب جبر روتی کئی ہے  
 ہماری یہ شب کیسی شب ہے الہی  
 نہ سوتے کئی ہے نہ روتی کئی ہے

### باب ۲۴ بست و چہارم

#### مرزا کے دعاوی

نے پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے  
 ہم طبر زجنون اور ہی ایجاد کریں گے

۱۸۹۰ء میں مرزا قادیانی نے اشتہار دیا۔ میں فقط ملہم ہی نہیں بلکہ مثل مسیح اور عیسیٰ موعود ہوں خدا کی طرف سے مبعوث ہو کر تجدید دین کے لیے آیا ہوں اور اپنے ساتھ آسمانی نشان اور جو معجزات لایا ہوں خدا کا مرسل نبی، محدث، مجدد عیسیٰ مہدی، آدم احمد مبشر بزبان عیسیٰ ہوں۔ اور جو کچھ دین اسلام میں تجدید کروں (یعنی نئی بات نکالوں) وہ سب کے لیے واجب و قبول ہے۔ جو لوگ اس کو نہ مانیں وہ یہودی ہوں گے اور وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ الی غیر ذلک!

(فتح و توضیح المرآم)

ان دعاوی کے شائع ہوتے ہی مرزا قادیانی کے معاونین میں سے پہلے شخص مولانا ابو

سعید محمد حسن صاحب بٹالوی ہیں۔ جو مخالف ہوئے۔

اول دوستانہ طور سے چند نصائح سے کام لیا پھر علم مخالفت بلند کیا اور خط و کتابت شروع ہوئی۔ اشاعت السنۃ میں بجز مرزا قادیانی کی تردید اور ابطال کے اب اور مضمون کی گنجائش نہیں اور نہ درج ہوتا ہے۔

آخر تمام علماء اسلام مرزا قادیانی سے خلاف ہو گئے اور مولانا ابو سعید کے استفتاء پر کفر کا

فتوے لگایا گیا اور کل علماء دین کی مواہیر شہت ہوئیں۔

مرزا قادیانی..... میرا یہ دعویٰ کہ میں مسیح ہوں ایک ایسا دعویٰ ہے جس کے ظہور کی طرف مسلمانوں کے تمام فرقوں کی آنکھیں لگی ہوئی تھیں اور احادیث نبویہ کی متواتر پیشگوئیوں کو پڑھ کر ہر ایک شخص غصہ تھا کہ وہ بشارتیں ظہور پذیر ہوں۔

بہت سے اہل کشف نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر خبر دی تھی۔ کہ وہ مسیح موعود وجود میں  
 صدی کے سر پر ظہور کرے گا۔ (کتاب البریہ مطبوعہ خزائن ج ۱۳ ص ۲۰۵ حاشیہ)

اہل حق کے نزدیک اس امر میں اتمام حجت اور کامل تفتیش کا ذریعہ چار طریق ہیں۔

۱..... ازل نصوص صریحہ کتاب اللہ یا احادیث صحیحہ مرفوعہ متصلہ آنے والے شخص کی ٹھیک ٹھیک  
 علامات بتلاتے ہوں اور بیان کرتے ہوں کہ وہ کس وقت ظاہر ہوگا۔ اور اس کے ظاہر ہونے کے  
 نشان کیا ہیں اور نیز حضرت عیسیٰ کی وفات یا عدم وفات کے جھگڑا کا فیصلہ کرتے ہوں۔

۲..... وہ دلائل عقیدہ اور مشاہدات حسنہ جو علوم قطعہ پختہ ہوں۔ جس سے گریز کی کوئی راہ نہیں۔

۳..... وہ تائیدات سادہ جو نشانات اور کرامات کے رنگ میں مدعی صادق کے لیے اس کی دعا  
 اور کرامت سے ظہور میں آتے ہوں یا اس کی سچائی پر نشان آسانی کی زندہ گواہی کی مہر ہوں۔

۴..... ان اہل راہ اور اخیرا کی شہادتیں جنہوں نے خدائی الہام پا کر ایسے وقت میں گواہی دی ہو  
 جبکہ مدعی کا نشان نہ تھا کیونکہ وہ گواہی ہے ایک غیب کی خبر ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا نشان ہے۔  
 اور یہ خدا کا فضل و احسان ہے کہ یہ چاروں طریق اس جگہ جمع ہو گئے ہیں۔

۱..... سب سے پہلے یہ امر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات قرآن سے ثابت ہے۔ آیت

”فلبما تو فیتقنی“ نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہ مانی جائے تو

نصاری کے عقائد کا بگڑنا جو ان کی وفات کے بعد منحصر ہے ماننا ہی پڑے گا۔ ابھی نہیں بگڑے۔

بخاری میں اور بھی تعویذ دی گئی ہے اور شارح غنی نے اس قول کا استاد بیان کیا ہے۔ اس کی یاد

رہے کہ ہمارے دعوے کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے۔ جس کی صحت پر قرآن

صدیقہ قول ابن عباس اسہ اسلام۔ عقل گواہی دیتی ہے ایلیا نبی کا قصہ دوبارہ آنے کا بھی گواہی

دے رہا ہے۔ جس کی تاویل خود حضرت مسیح کے منہ سے یہ ثابت ہوئی کہ ایلیا سے مراد یوحنا یعنی یحییٰ

ہے اور اس بنا پر یہ یہود کے اجماعی عقیدہ کو خاک میں ملا دیا۔ کہ درحقیقت ایلیا جو دنیا سے گزر

گیا تھا پھر دنیا میں آئے گا۔ اس جگہ یاد رہے کہ میں نے براہین احمدیہ میں غلطی سے توفی کے معنی

ایک جگہ پورا دینے کے کیے ہیں۔ (براہین احمدیہ ص ۵۱۹، خزائن ج ۱ ص ۶۲۰ حاشیہ)

وہ میری غلطی ہے۔ الہامی غلطی نہیں۔ میں نے براہین احمدیہ میں یہ بھی اعتقاد ظاہر کیا

تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئیں گے۔ (براہین احمدیہ ص ۳۹۸، خزائن ج ۱ ص ۵۹۲)

مگر یہ بھی میری غلطی ہے جو اس الہام کی مخالفت تھی۔ جو براہین احمدیہ لکھا گیا ہے۔

کیونکہ اس الہام میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور مجھے اس قرآنی پیشگوئی کا مصداق ٹھہرایا۔

جو حضرت عیسیٰ کے لیے خاص پیشگوئی ہو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ اور آنے والے مسیح موعود کے تمام صفات مجھ سے قائم کیے۔“ (ایضاً) اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ نقوس صریحہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور حق کھل گیا ہے اور اس کے مقابل پر یہ دوسرا حصہ احادیث کا جس میں نزول مسیح کی خبر دی گئی ہے۔ یہ سب استعارات لطیفہ میں جو ازل و جی و راء الحجاب جس کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے اور جی و راء الحجاب کے خدا تعالیٰ کے کلام میں ہزاروں آیتیں ہیں۔ اس سے انکار کرنا سقف کا کام نہیں ہے۔

علاوہ ان باتوں کے مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کو یہ آیت ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اور ایسا ہی یہ حدیث لانی بعدی یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ باوجودیکہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ پھر کسی وقت وحی نبوت شروع ہو جائے۔

اور جیسا کہ میں نے بیان کیا مسیح موعود کی پیشگوئی صرف حدیثوں میں ہی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن شریف نے نہایت لطیف استعارات میں آنے والے مسیح کی خوشخبری دی ہے۔ کہ جس طرز اور طریق سے اسرائیلی نبوتوں کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے۔ وہی طرز اسلام میں ہوگی۔ یہ وعدہ مسیح موعود کے آنے کی خوشخبری اپنے اندر رکھتا ہے۔ کیونکہ سلسلہ خلافت انبیاء بنی اسرائیل میں غور کی جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ وہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر چودہ سو برس بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ اور اس نظام خلافت پر نظر ڈال کر معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہودیوں کا مسیح موعود جس کے آنے کی یہودیوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ چودہ سو برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آیا اور غریبوں اور مسکینوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔

اور اس مماثلت کے پورا کرنے کے لیے جو قرآن شریف میں دونوں سلسلہ خلاف اسرائیلی اور خلافت محمدی میں قائم کی گئی ہے ضروری ہے۔ کہ ہر ایک منصف اس بات کو مان لے اور سلسلہ خلافت محمدیہ کے اخیر میں بھی ایک مسیح موعود کا وعدہ ہو جیسا کہ خلافت موسویہ کے اخیر میں ایک مسیح موعود کا وعدہ تھا اور نیز مکمل مشابہت دونوں سلسلوں کے لیے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جیسا کہ خلافت موسویہ کے چودہ سو برس کی مدت پر مسیح موعود بنی اسرائیل کے لیے ظاہر ہوا تھا۔ ایسا ہی اور اسی مدت کے مشابہ زمانہ میں خلافت محمدیہ کا مسیح موعود ظاہر ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس تمام تحقیقات سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں۔ کہ قرآن شریف میں مسیح موعود کا ذکر نہیں ہے۔ وہ نہایت غلطی پر ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ مسیح موعود کا ذکر نہایت اتم اور

اہم طور پر قرآن شریف میں پایا جاتا ہے دیکھو اول قرآن شریف نے آیت کما ارسلنا الی فرعون رسولا میں صاف طور سے ظاہر کر دیا۔ کہ آنحضرت مثل موسیٰ ہوئے سو یہ دونوں واقعات اپنی سوانح کے لحاظ سے باہم ایسے مشابہت رکھتے ہیں گویا دو توام بھائیوں کی طرح ہیں۔

اور عیسائیوں کا یہ قول کہ مثل موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں بالکل مردود اور قابل شرم ہے۔ یاد رہے کہ جس مسیح یعنی روحانی برکات والے کے مسلمانوں کے آخر زمانہ میں بشارت دی گئی ہے۔ اس کی نسبت یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دجال معبود کو قتل کرے گا۔ اور یہ قتل تلوار وغیرہ سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے زمانہ میں وہ نابود ہو جائیں گے۔

حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے۔ پھر جس گروہ سے شیطان اپنا کام لے گا اس گروہ کا نام بھی استعارہ کے طور پر دجال رکھا گیا۔  
(ایام الصلح ص ۲۸، ۲۹، جزائن ج ۱۳ ص ۶۸، ۶۹)

### حاشیہ جات

۱۔ یہ اشارہ مرزا صاحب نے اشعار نعمت اللہ ولی کی طرف کیا ہے جس کا تذکرہ نشان آسمانی میں ہے۔ اور اس کا رد مولوی محمد جعفر صاحب تھامیری نے لکھا ہے۔

۲۔ اس آیت ”انی متوفیک“ اور دوسری آیت ”فلما توفیتنی“ میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسیح میں تیرا متوفی ہوں۔ جب تو نے مجھ کو توفی دی لیکن دراصل یہ استدلال محض طمع بے علموں کو اور طر ضلالت میں ڈالنے کے لیے کافی ہے خیر بہر حال ہم اس کی تردید کریں گے وہ یوں ہے کہ توفی کے معنی لغتہ کسی شے پر پورے طور پر قبضہ کرنا ہے اس کا مادہ (یعنی جس سے یہ لفظ لیا گیا ہے اور اس کو ماخذ بھی کہتے ہیں) وفا ہے قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ ماخذ کے معنی ماخوذ کے تمام گردانوں میں معتبر ہوتا ہے۔ گوانگی صورتیں اور صیغہ مختلف ہوں۔ ماخذ کا معنی ماخوذ میں اس طرز پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے کہ جز کل میں داخل ہوتی ہے۔ لفظ علم کی مثال لکھ کر..... اور اس کو ثابت کر کے) جب یہ ثابت ہوا تو پھر ضرور ماننا پڑے گا۔ کہ توفی کے معنی میں وفا داخل ہے۔ کیونکہ وہ وفا سے ماخوذ ہے نیز اقرار کرنا پڑے گا کہ باب تفعیل کا مقتضی جو اخذ (یعنی لے لینا) ہے اس میں معتبر ہے پس جو الفاظ توفی سے ماخوذ ہیں بشرطیکہ وہ زمانہ پر دلالت کرتا ہیں چاروں چیزوں پر شامل ہوں گے۔ جب کہ توفیت (پورا لے لینا میں سے) جو زمانہ پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ ان میں جزئیں ہوں گی دیکھو متوفی اس لیے کہ اس میں زمانہ مقرر نہیں ہے۔ مختصراً کہ جو صیغہ کسی مصدر سے لیا گیا ہو اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ماخذ و مصدر پر شامل ہو۔ گواں ترکیب کو حقیقی کہیں یا

اعتباری ہاں یہ تو ماننا ہی پڑتا ہے کہ اگر اس ترکیب کو تحلیل کہیں گے حق بھی یہی ہے۔ تو شمول کا معنی بھی ہوگا کہ اس اعتباری کا اس اعتباری کل سے اعتبار کر لینا جائز ہے۔ پس اگر تونی کے معنی وفا کو چھوڑ کر لیے جائیں گے تو یہ حقیقی نہیں ہوگا اس واسطے کہ موضوع لہ کے بعض اجزا کو الگ کر دینے سے کل ہی سے تخلیہ لازم آتا ہے۔ نہیں تو باوجود اتنا جز کے کل کا تحقق چاہیے (یہ اس صورت میں ہے کہ ترکیب حقیقی ہو) یا لازم آوے گا۔ کہ جو حکما کل ہے وہ حکمی خیر کے بغیر محقق ہو حالانکہ یہ باطل ہے۔ اس لیے ثابت ہوا۔ وہ مجازی معنی ہوگا آخر یہ تو ظاہر ہوا۔ کہ لفظ کا استعمال یا حقیقتاً مجازاً ہوتا ہے۔ لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ ماخذ بھی صرف متغیر ہوگا نہیں بلکہ کوئی خبر ہو جب کہ اس کا انشاء مان لیں وہ مجازی ہی ہوگا خواہ اس جز کا دخول وضع شخصی یا وضع نوعی کے ذریعہ سے ہو پہلے کی مثال اینٹ کا دیوار میں داخل ہونا دوسری کی مثال مشتق کی جزء کا اس میں داخل ہونا کیونکہ یہ دخول بوضع نوعی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ہر لفظ جو مفعول کے وزن پر ہو وہ اس پر دلالت کرے گا۔ کہ جس پر فعل واقع ہوا ہو لینا حقیقی معنی جب کہ مرکب تا وقتیکہ آپس میں تمام اجزاء تحقیق نہ ہوں حقیقی نہیں کہلائے گا۔ اس لئے کہ مرتفع ہو جاتے۔ مجازی معنی کے لیے ایک جز کا بھی انشاء کافی ہے کیونکہ کل کا انشاء جیسے کہ تمام اجزا کے منفی اور معدوم ہو جانے سے ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی اس کا انشاء کسی ایک جز کے نابود ہو جانے سے ہوتا ہے۔ اب دیکھو کہ یہ تحقیقی ثانی واضح طور پر اس پر دلالت کرتی ہے کہ متونی کے حقیقی معنی پورے طور پر لینے والا ہے لا غیر، یہی متونی کا حقیقی معنی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ جس کے حقیقی ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ پایا گیا ہے وہ یہ ہیں ایک و دوم لے لینا۔ سوم فاعل کی طرف نسبت۔ پس (یا عیسیٰ ابی متوفیک) جس کا مضمون یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تیرا متونی اور اسی طرف تیرا اٹھالے جائے والا ہوں۔ اے مسیح میں تجھ کو پورے طور پر لینے والا ہوں ایسا ہی آیت فلما توفیتنی الخ سے بھی پورا اور تمام کا لے لینا مراد ہے لیکن مسیح علیہ السلام جو پورا اور تماماً مقبوض ہونا صادق ہوگا۔ جب ہی ہے۔ کہ اٹھائے گئے ہوں اگر ان کی روح اٹھائی گئی اس لیے کہ۔ خالی روح کا اٹھایا جانا تو تمام پر قبضہ نہیں۔ بلکہ اکیلے حصہ پر قبضہ ہوا پھر بائیں ہمہ اگر کہو گے کہ تونی کا اطلاق رفع روحی پر حقیقی ہے۔ تو یہ ناجائز ہے۔ اگر یوں کہہ دیں۔ کہ تونی معنی لے لینا ہے۔ مگر اسی طرح پر کہ وفا سے مجرد ہے خواہ یوں کہ وفا عدم اس میں ایک اعتبار ایک خبر ہے۔ وفا کے اعتبار کا عدم اور چیز ہے۔ بنا بران نوعی کا اطلاق رفع روحی پر صحیح ہوگا مگر پہلی صورت میں کلی کا اطلاق جزء پر ہوا اور دوسری صورت میں عموم مجاز ہوگا۔ رہی یہ بات کہ کسی چیز کے عدم اعتبار اور اس چیز کے اعتبار کے عدم میں کیا فرق ہے سو فرق یہ ہے۔ کہ پہلا خاص ہے دوسرا عام ہے جز جو کچھ ہے سو ہے مگر ان

میں شبہ نہیں کہ دونوں تقدیر پر یہ معنی مجازی ہے نہ حقیقی لیکن مجازی لینا تو تب ہی جائز ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا فرقہ موجود ہو۔ کہ اس کے ہوتے حقیقی لینا جائز نہ ہو ہاں اس جگہ کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے پھر کہو کہ یہ مجازی لے لینا کیوں کر درست ہوگا لہذا حقیقی سے مراد لینا لازم ہوا۔ نہ مجازی یہ ظاہر ہے کہ حقیقی و مجازی کا مدار وضع ہے۔ خواہ وہ نوعی ہوگا یا شخصی بہر حال لفظ کو جب ان دونوں میں کسی وضعی معنی میں استعمال کریں گے۔ تو وہ حقیقی استعمال ہوگا ورنہ وہ مجازاً ہوگا۔ پس مہتممات جو ایسے مادہ ہیئت نہ کہتے تھے۔ کہ اس میں پہلا موضع شخصی موضوع ہے دوسرا موضع نوعی مرکب ہیں۔ بسبب اس ترکیب کے مبداء پر باعتبار مادہ موضع شخص اور معنی ترکیبی پر موضوع نوعی دال ہیں۔ نیز جب اس طرز پر ہوں گے تو استعمال حقیقی اسی صورت میں ہوگا کہ وہ دونوں موضع محقق ہوں نہ صرف ایک ہی محقق ہو تو پھر بھی حقیقی ہوگا البتہ مجاز تین صورتوں میں پایا جاتا ہے ایک جبکہ موضع شخصی نہ ہے دیکھو ناطق اس کے مبداء کا موضع لہ دراصل موضع شخصی اور اراق کلیات و جزیات ہے جب ایسی دال مراد لی گئی تو یہ استعمال مجازی ہوگا ایسا ہی جب وضع نوعی کی اٹھادیں۔ دیکھو فاکلہ جب کہ اس سے مقولہ مقصود ہوگا اس میں قول جو اس کا مصدر ہے۔ اپنے اصل معنی پر دال ہے مگر باعتبار اس کے کہ اس میں وضع نوعی منفی ہوا ہے مجازی ہوگا اگر دونوں کو اٹھادیں نیز مجازی ہوگا۔ دیکھو ناطق سے جس حالت میں مدلول مراد رکھ لیں گے۔ کیونکہ ناطق مدلول کے لیے نہ تو موضع نوعی اور نہ تو موضع شخصی موضوع ہے۔ اس لیے متفسر کو لفظ متوفیک توفیقی ان کو کسی معنی پر معمول کریں گے کون سے معنی ان سے مراد لیں گے۔ اور اگر پورے طور پر لے لینا مراد ہے تو روح و جسد دونوں کے اٹھائے جانے کے بغیر نہیں ہو سکتا لیکن یہ استعمال حقیقی ہوگا۔ کیونکہ حقیقت کا مدار وضع شخصی اور نوعی پر ہے سو وہ پایا گیا ہے۔ اگر اس میں اخذ کو مراد رکھیں گے اور تمامیت کی قید سمجھیں گے خواہ کہ اخذ کے لیے تمامیت کا عدم قیدی یا مہمل طور پر لیں گے۔ یعنی اس کے ساتھ تمامیت کی قید لگی ہو یا نہ تو ان صورتوں میں یہ استعمال مجازی ہوگا۔ اس لیے ان تقدیروں پر لفظ موضوع لہ وضع شخصی ہی بتانا متحقق ہوگا۔ لیکن یہ بات مسلمات سے ہے کہ حقیقی معنی کو قرینہ صادقہ کے بغیر چھوڑ کر مجازی کو اختیار کرنا جائز ہے۔ اور قرینہ یہاں موجود نہیں ہے۔ پس لامحالہ و حقیقی معنی سے لینا پڑے گا۔ ہاں یہ جو تم کہتے ہو۔ متونی سے مارنا ہے سربح الفہم ہے۔ سربح الفہم ہونا بھی قرینہ ہے۔ نیز مسلم نہیں ہے اس لیے کہ یا تو کہو گے کہ تونی سے بلا قرینہ مارنا متبادر ہے۔ سو یہ پہلا جھگڑا ہے قرآن شریف میں تو کہیں بھی تونی اور متونی کا مارنے مارنے میں بلا قرینہ مستعمل ہوا ہے۔ یا کہو گے کہ تونی اور متونی سے مارنا بھی بمعہ قرینہ متبادر ہے۔ البتہ یہ مانا لیکن حقیقی کی منافی تو یہ ہے کہ وہ بلا قرینہ ہی متجاوز



ہے۔ نہ بمعہ قرینہ ورنہ سب مجازات حقیقی سے ہی بن جائیں گے۔ لہذا لفظ کی تقسیم حقیقت و مجاز کی طرف واضح نہ ہوگی کیونکہ بنا براس مذہب کے تو مجاز ممکن ہی نہیں ہے۔ بے شک یہ ہمارا دعوے کے قرآن شریف میں کہیں بھی تو فی کال لفظ بلا قرینہ موت میں مستعمل نہیں کیا گیا ہے۔ ثبوت طلب ہے لیکن ثبوت تو موجود ہے دیکھو آیت (یعنی الموت) یعنی وہ مرتے ہیں یہاں موت کا قرینہ موجود ہے وہ یہ ہے۔ کہ تو فی کوموت کی طرف اسناد کی گئی ہے۔ نیز اور بھی بہت سی آیتیں (ان آیات کا حوالہ دے کر اور لینے کے تقرر کے بعد) لکھا ہے پس ثابت ہوا کہ آیت مذکورہ میں جو تو فی ہے۔ وہ مارنے میں حقیقی طور پر مستعمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماژدینے میں پورے طور پر لے لینا نہیں پایا جاتا ہے۔ بلکہ مار دینے میں صرف بدن سے روح الگ کر کے اٹھائی جاتی ہے۔ اور یہ گویا ایک حصہ کا لے لینا ہے نہ پوری شے کا لے لینا۔ لیکن لفظ کا بصورت عدم قرینہ حقیقی معنی پر محمول کرنا جب کہ واجب ہوا تو آیت یا عیسیٰ انی متوفیک ہمارے واسطے دلیل ہوئی۔ نہ قادیانوں کے لیے، اس کا ہمارے لیے دلیل ہونے کو رافعك السی کا اس پر معطوف ہونا قوت بخشا ہے۔ اس واسطے کہ اس رفع سے رفع جسمانی مراد ہے۔ ورنہ خاص کر مسیح علیہ السلام سے کیا اس رفع روحی کو خصوصیت تھی جو اس آیت میں ان کی روح کا مرفوع ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ سوال! چونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا ایمان والوں اہل علم کے درجات کو (مرفوع) بلند کرتا ہے۔ تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ خود ایمان دار اور اہل علم مرفوع نہیں ہوتے ہیں۔ بلکہ ان کے درجات مرفوع اور بلند کیے جاتے ہیں۔ پس روح مسیح سے بھی خود مسیح رفع مراد نہیں ہے بلکہ رفع روحی، الجواب! دلیل کو مفید مطلب نہیں ہے کیونکہ اس آیت سابقہ میں خود مسیح علیہ السلام رفع مذکور ہے اور اس آیت میں رفع درجات کا ذکر کیا گیا ہے ظاہر ہے۔ کہ رفع درجات اور خود شے کے مرفوع ہونے میں غیریت ہے۔ اس لیے رفع درجات سے رفع غیر جسمانی ثابت نہیں ہوگا۔

دیکھو کہا جاتا ہے کہ میں نے زید کو اٹھالیا ہے یا میں نے زید کا کپڑا یا اور کچھ شے زید کے ساتھ تعلق ہوا اٹھالینا ہے۔ اب اس صورت میں زید کے کپڑے کے اٹھائے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہاں پر بھی خود زید کا رفع مراد نہ ہو بلکہ کپڑے کا مثلاً اس لیے کہ خود شے کا رفع اور ہے اور اس کے متعلق کا اور ہے۔ بناء علیہ ثابت ہوا کہ آیت یا عیسیٰ انی متوفیک الخ میں مناد اور ضمائر کا مرجع خود مسیح علیہ السلام سے پھر مرفوع کا مفہوم صادق ہے۔ اور یہ بیحد وہی ہے۔ جو ہم دعوے کرتے ہیں۔ دوسری دلیل اگر مسیح علیہ السلام کی طرف روح مرفوع ہوئی ہوتی۔ تو آپ کافروں کے اختیار میں رہتا اور کافروں کا مقصود بھی تھا۔ حالانکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسیح تمھ کو

کافروں کے اختیار سے الگ اور پاک کر دیں گے۔ پس اگر خالی روح مرفوع ہوتی تو باری تعالیٰ کا یہ ارشاد کیسا درست ہوگا۔ لہذا رفع روحی قلمظہر اور مسیح علیہ السلام کا جسدہ مرفوع ہونا ثابت ہوا کیونکہ جب جسدہ رفع مراد لیں گے۔ تو مسیح علیہ السلام بلاشبہ بالکل کافروں کے اختیار سے نکل گئے اور پاک ہو گئے اس لیے آیت مذکورہ سے رفع روحی مراد رکھ لینا بے علمی اور عجیب تر ہے۔

اور قادیانی اس آیت سے وقولہم انا قتلنا المسیح بن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم سے استدلال کرتے ہیں اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ تم نے مسیح یعنی مریم کے فرزند کو قتل کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے نہ تو ان کو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا ہاں شبہ میں ڈالے گئے ہیں۔ جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ البتہ ان کل کے بارہ میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس پر یقین نہیں ہے صرف خلاف واقع کی تابعداری کرتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ خداوند تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے مگر کہ اس پر ایمان لائے گا۔ اس کے مرنے سے پہلے وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔

طریقہ استدلال قادیانی، پہلی آیت میں رفع روحی مراد اور کہتا ہے اس کا بیان ہے۔ کہ اہل کتاب کا مسیح علیہ السلام کے مقتول و مصلوب ہونے میں شاق ہونا ہے ضمیر لہ کا مرجع ہے۔ موتہ کی ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع ہے اس کے بعد دو تو جہیں کرتا ہے پہلے کہ قبل موتہ میں ایمان کا لفظ مقدر ہے اس تقدیر آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہر ایک کتابی مسیح کی طبعی موت پر جو ماضی میں واقع ہو چکی ہے ایمان لانے سے پہلے آپ کے مشکوک القتل ہونے پر ایمان رکھتا ہے۔

دوسری توجہ ہر ایک کتابی یقیناً جانتا ہے کہ ہم مسیح کے مقتول ہونے کے بارہ میں شک میں ہیں۔ اس شک پر ان کا ایمان مسیح علیہ السلام کے مرنے سے پہلے تھا۔ گویا مسیح ابھی زندہ ہی تھے۔ کہ ان کو آپ کے مقتول ہونے میں شک تھا۔ اور آپ کے مرنے سے پہلے بھی اپنے اس شک پر یقین رکھتے تھے۔ اب دیکھئے کہ استدلال پر کتنے اعتراض وارد ہوتے ہیں۔

اول ..... رفع سے روحانی مراد لینا غلط ہے۔ اس لیے کہ اس آیت میں مسیح علیہ السلام وصف مرفوعیت میں بطور قلب اور عکس کے محصور کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اس حصر اور قصر کے لیے اوصاف کی منافات شرط ہے مثلاً ایک شخص اعتقاد رکھتا ہے کہ زید قائم ہے دوسرے نے اس سے مخاطب ہو کر کہہ دیا کہ زید قائم نہیں بلکہ بیٹھا ہے۔ پس دیکھیے یہاں حکلم نے ایسا ایمان کیا کہ وہ مخاطب کے عقیدہ کا قلب الٹ ہی ظاہر ہے۔ کہ کھڑا ہونا بیٹھنا یہ دو صفتیں آپس میں منافات غیریت رکھتی

ہیں۔ بے شک یہ منافات عام طور پر لیے جاتے ہیں خواہ قصر و صحر کی بہتری کے لیے یا نفس صحر کے واسطے شرط ہو نیز واقع میں منافات ہونا اعتقاد ہیں۔ ذہنی یہ بات کہ وہ آیت کہ جس کا مضمون یہ ہے کہ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ خداوند تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا ہے بطور قصر قلب کے فرمائے گئے ہیں سو اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب دعوے کرتے تھے کہ مسیح قتل کیے گئے ہیں۔ تو خداوند تعالیٰ نے ان سے ان کے گمان کو برعکس فرمایا کہ مسیح تو صرف مرفوع ہوئے ہیں قتل نہیں ہوئے ہیں۔ بظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام کو وحف مرفوعیت میں قصر صحر کیا گیا ہے۔ مگر قلب اور عکس کے طور پر پس ضرور ہوا کہ قتل اور رفع میں منافات ہو لیکن یہ منافات تو جب سے متصور ہے کہ مسیح علیہ السلام بحسد ہ مرفوع ہوئے۔ کیوں رفع بحسد ہ بدابہتہ منافی قتل مگر جب رفع سے رفع روحانی مراد لیں گے۔ جیسا کہ قادیانی کا بیان ہے۔ تو وہ قتل سے منافی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص خدا کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے۔ تو اس کی روح مرفوع ہوتی ہے پس جب کہ قتل کی حالت میں رفع روحانی پایا گیا ہے۔ تو منافات کہاں رہی جس حالت میں یہ دونوں واقع ہیں بلکہ عقیدہ میں بھی مجتمع ہوئے تو منافات سرے سے ہی اڑ گئی بنا بر ان آیت میں جو قصر طور پر فرمایا گیا ہے خود قصر ہی غلط ہوگا۔ یا بہتر نہیں ٹھہرے گا۔ نعوذ باللہ منہ لہذا قادیانی پر دو باتوں میں سے ایک کا احتراز کرنا لازم ہے تو کہیے گا آیت اہل کتاب کی تردید کرتی ہے۔ لیکن اس صورت میں قصر القلب قتل رفع میں منافات کا احتراز کرنا ہوگا۔ پس مسیح علیہ السلام بحسد ہ مرفوع ہونا بھی ماننا پڑے گا۔ یا یہ کہہ دے گا کہ قصر القلب میں وصفیں کے درمیان منافات کا ہونا ضروری نہیں مگر اس صورت میں کلام عربی کے قواعد کا عدم اور اس کے بخلاف ہونا لازم آئے گا مختصراً قادیانی کو اس سے گریز نہیں ہو سکتا۔ یا تو مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بحسد ہ مرفوع ہونے پر ایمان لانا پڑے گا یا قواعد عربیت سے منحرف ہوگا پس اس سے جسے چاہے اختیار کر لے۔

دوسرا اعتراض بھی ضمیر کا مشکوکینہ القتل کے راجع کرنے سے اس ضمیر کا خود مسیح علیہ السلام کی جانب پھیرنے سے اولیٰ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ظاہر ہے۔ پھر مشکوکینہ کو مرجع بنانا باوجود اس کے سلف خلف کے برخلاف ترجیح بلا مرجع بلکہ ضعیف کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ ترجیح پہلی ترجیح سے بدتر ہے۔ لہذا آیت اس تقدیر پر یوں ہوں گے۔ کہ ہر ایک کتابی ایمان رکھتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا قتل ہونا حکم ہے۔ ان کا متحمل ہونا یقینی نہیں ہے۔ چنانچہ قادیانی اس بات کو خود واضح کر رہا ہے حالانکہ یہ معنی درست نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کا جملہ یقین کے لباس میں بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کو مٹا بھی کر دیا ہے۔ پس صراحہ اس پر دال ہے کہ وہ مسیح کے متحمل ہو جانے پر

اذعان کر بیٹھے ہیں۔ آخر اسی واسطے تو خداوند تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ اجماع کو مسیح کے قتل ہو جانے پر اذعان نہ ہوتا تو خداوند تعالیٰ اتنا ہی فرمادیتے کہ انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا۔ اور یقیناً کے قید نہ بڑھاتے پس یہ کہنا کہ ان کو یقیناً و اذعان نہیں ہے۔ یہ صاف طور پر اس بات کا اقرار ہے کہ قرآن شریف میں یقیناً کی قید لغو ہے۔ نعوذ باللہ منہ! اچھا صاحب اگر یہ دعوے کریں گے کہ اس آیت میں جو یقیناً مذکور ہے وہ نفی قتل کی قید سے گویا یہ نفی قتل مقید پر وارد ہوئی ہے۔ پس نفی جیسے کہ قید کے اٹھ جانے سے نفی ہو جاتی ہے۔ یہاں ایسا ہی ہے۔ کیونکہ یقیناً قتل منفی ہے اس واسطے آیت کا معنی یوں ہوگا۔ کہ ان کا یقیناً قتل نہیں پایا گیا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ باوجود ان ترانوں کے یقیناً کی قید کا فائدہ مند ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ پھر بھی قادیانی کو اس کے لغو ہونے کا قصور ماننا پڑے گا۔ اولاً! کہ ان کی تردید کے لیے نفس قتل ہی کی نفی کافی ہے دوم! یہ بات اکثر قاعدہ سے مخالف ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ نفی جب مقید پر وارد ہوتی ہے تو وہ نفی صرف قید کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے علاوہ بران یہ کسی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کہ انہوں نے یہ جملہ انا قتلنا المسیح الخ جو اذعان سے کہہ دیا ہے جیسا کہ دوسرے ایک آیت میں بلا اذعان کہہ دینے پر دلیل موجود ہے۔ اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں یا محمد کہ آپ بلاشبہ خداوند تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پس دعوے کرنا کہ اہل کتاب نے باوجود یکہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے عقیدہ کے خلاف کر دیا ہے کہ مسیح کو قتل کیا ہے۔ کیسے بلا دلیل قبولیت کے قابل ہے؟ البتہ اگر اس پر کوئی دلیل ہوتی۔ تو یقیناً کی قید کا لغو ہونا لازم نہ آتا مگر دلیل تو نادر ہے۔ اس لیے قادیانی لغو ہونے کے الزام سے نہیں بچتے ہاں اس پر تو دلیل موجود ہے کہ وہ لوگ مسیح کے مقتول ہو جانے پر اذعان کر بیٹھے ہیں۔ دیکھو قرآن کی عبارت سے بھی شاہد عدل ہے دوم نصاریٰ اور فرقوں کو اسی بات کی طرف بلا تے ہیں۔ کہ آد مسیح کے مقتول ہونے پر ایمان لاؤ اور یہ اس ہی گمان سے کہتے ہیں کہ مسیح امت کے گناہوں کے بدلہ قتل کیا گیا ہے۔ حال یہ ہے کہ یہ بات ان کی انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے گو تحریف کے طور پر بھی ہو لیکن وہ اس پر اس لیے اذعان کر بیٹھے ہیں کہ وہ انجیل کو بلا تحریف مانتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ مسیح علیہ السلام کے قتل ہو جانے پر اذعان نہیں رکھتے ہیں کیا صریح بہتان ہے باوجود اس روشن دلیل کے سب کی طرف شک کو منسوب کرنا کیونکر متصور ہے شاید ایسے لوگوں کو اس آیت سے جس کا مضمون یہ ہے کہ وہ لوگ مختلف ہوئے البتہ قتل کے بارہ میں شک میں ہیں۔ نہیں ان کو اس پر اذعان مگر ظن کی تابعداری کرتے ہیں۔ وہم پیدا ہو گیا ہوگا۔ سو واضح رہے کہ شک جو آیت میں مذکور ہے وہ

منطقیوں کے طور پر نہیں ہے۔ منطقی تو شک اس کو کہتے ہیں۔ جس کے دونوں جانب برابر ہوں۔ بلکہ شک سے آیت میں ضد علم مراد ہے جیسے حکم جازم مطابق واقع کہتے ہیں۔ مختصراً کہ شک سے ضد یعنی مطلوب ہے۔ پس اس لحاظ سے مسیح علیہ السلام کے مقتول ہو جانے کے بارے میں ان کے شک کنندہ اور متیقن ہوتے ہیں۔ منافات نہیں ہے برین تقدیر آیت کا معنی یوں ہوگا۔ کہ وہ لوگ جو مختلف ہوئے البتہ قتل کے بارہ میں شک میں ہیں یعنی البتہ وہ ایسے خیال میں گرفتار ہیں کہ جو خلاف واقع ہے۔ گو وہ لوگ یہ حکم برزم خود قطعاً و جزئاً لگاتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ اور اصل مطابق واقع نہیں علم و یقین نہیں ہے۔

بلکہ شک ہے کیونکہ یقین کے لیے یہ ضروری ہے کہ مطابق واقع ہو پس بلاشبہ وہ ظن کے تابعدار ہیں۔ یعنی اس خیال اور حکم کے تابعدار ہیں جو واقع کے مطابق نہیں۔ اس لیے شک اور ظن کا کمال اور مرجع ایک ہی ہوا اگر شک و ظن کو منطقیوں کی اصطلاح کے موافق لیں گے۔ تو ان دونوں کا مصداق ایک نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے نزدیک ظن وہ خیال ہے۔ کہ طرف موافق قوی ہو اور شک میں ان کے نزدیک مطلقاً رحمان نہ چاہیے چنانچہ ظاہر ہے رہی یہ بات کہ قرآن شریف میں کہیں بھی شک کا معنی برخلاف منطق کے لیا گیا ہے سو واضح ہو کہ قرآن شریف میں یہ بات موجود ہے دیکھو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ وانکنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کہ اگر تم قرآن کے بارہ میں ریب یعنی انکار میں پڑ گئے ہو اٹھ اب دیکھو کہ اس آیت میں جو ریب بمعنی شک ہے ان کے انکار ان کے حکم پر بالجموم پر کہ یہ خدا کی کلام نہیں ہے بلکہ کسی بشر کی ہے شعر کہانت ہے۔ غرض کہ اعتراض مذکور کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر پہلے ضمیر کو شک کی طرف پھیریں گے تو باقید کا لغو ہونا لازم آئے گا یوں کہنا پڑے گا۔ کہ یہ آیت جس کا معنی یہ ہے کہ وہ اعتقاد کر بیٹھے ہیں۔ کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے۔ اسی ظاہری معنی پر محمول نہیں حالانکہ ظاہر پر محمول ہونے کا بھی موجب موجود ہے پس جو لوگ پہلے کا الزام کریں گے تو یہ کفر ہے۔ اگر دوسرے کو اختیار نہ کریں گے تو یہ نادانی ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کہ توجیہ کلف محض ہے کیونکہ جس کی طرف تم ضمیر کو راجع کرتے ہو۔ یہ رجوع ہرگز تہاد نہیں ہے نیز اس قسم کے ارجاع سے انتشار ضماں لازم آتا ہے۔

قرآن شریف میں انتشار ضماں کا قائل ہونا یہ تو بے عیب پر فصاحت قرآن کو بطل لگانا ہے۔ چوتھی بحث کہ جب اس طرح پر ضمیر کا مرجع مانا جائے تو آیت کا معنی یہ ہوگا۔ کہ اہل کتاب مسیح علیہ السلام کی مقبولیت کے مٹھوک ہونے پر تصدیق رکھتے ہیں۔ اور شک مٹھوکیتہ چونکہ ایک سی بات ہے تو تصدیق کا شک ہے تعلق بجز لازم آتا ہے۔ یہ شک جو ایک قسم کا تصور ہی ہے۔ عام اس

سے کہ تصدیق علم یعنی جو مطلق ادراک و تصور کا قسم ہی مقصود ہو یا حالت کو بعد ادراک کے پیدا ہوتی ہے جیسے دانش کہتے ہیں۔ مطلوب ہو لیکن تصدیق کا بہر حال تصور معنی شک سے متعلق ہونا تصدیق جنس تصور سے اگر لیں بہت محسوس ہے۔ اس صورت سے کہ تصدیق کو بمعنی دانش لیں تو شک معلوم بن جائے گا اور تصدیق کو بہ نسبت شک کے علم قرار دینا پڑے گا۔ حالانکہ دلیل سے ثابت ہے کہ علم تصور و صورت علمیہ کے معنی سے معلوم کے ساتھ متحد ہوتا ہے۔ لہذا لازم آیا کہ تصدیق اور شک ایک ہی بات ہو۔ حالانکہ یہ صریح غلط ہے۔ کیوں غلط نہ ہو کہ تصدیق و شک آپس میں غیرت رکھتے ہیں۔

پانچویں بحث کہ شک اصطلاحی جب ہی محقق ہوگا۔ کہ نسبت کے طرفین میں زبرد یعنی یہ ایسا ہے یا ایسا لیکن دونوں میں سے کسی جانب کو ترجیح نہ ہو بلکہ طرفین کی تجویز برابر ہو بس قادیانی کی یہ تفسیر کہ اہل کتاب مکھوکیت قتل پر مسیح علیہ السلام کے طبعی مرنے سے پہلے ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرف کو راجع ہوگی کہ اہل کتاب کا اس قسم کا شک بغیر اس کے کہ ان کو مسیح علیہ السلام کی موت طبعی پر یقین ہونا موجود تھا۔ کیونکہ تقدم کے لوازم سے ہے۔ کہ مابعد و مقدم پیدا ہونے کے زمانہ میں موجود نہ ہو۔ نیز جبکہ ایک شخص کی طبعی موت پر یقین ہو تو اس کے مقتول ہو جانے میں شک کا ہونا محالات سے ہے ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام کے مقتول ہو جانے میں دو جانب ہیں ایک کو قتل نہیں ہوئے دوم کو قتل ہو گئے ہیں۔ اور نہ اس پر کہ وہ قتل نہیں ہوئے یقین ہو اور نیز اس پر جو عدم القتل میں مندرج ہے یقین نہ ہو لیکن یہ بات واضح ہے کہ طبعی موت عدم القتل میں مندرج ہے۔ ہاں یہ اندراج ایسا ہے کہ خاص و عام میں مندرج ہوتا ہے اس لیے عدم القتل جیسے کہ زندگی کو شامل ہے ویسے ہی طبعی موت کو شامل ہے۔ لہذا لازم ہے کہ جس صورت میں مسیح علیہ السلام کے قتل ہو جانے میں شک ہو۔ تو آپ کی طبعی موت پر یقین نہ ہو۔ اور یہ بالکل بدیہی ہے۔ کیونکہ شک کے لیے جائین کی تجویز کا برابر ہونا ضروری ہے اور مقتدر ایک جانب پر یعنی عدم القتل پر یقین کرنا محال ہے۔ چنانچہ کم دراست پر بھی مخفی نہیں ہے بنا برآں اگر آیت سے وہی مراد ہے۔ جو قادیانی سمجھتے ہیں تو کہیے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے کیا فائدہ ہو اس خبر پر کون سے فوائد مرتب ہوئے علاوہ بران اگر اس آیت کو قادیانی کی ہی مراد پر محمول کریں تو اس سے لازم آئے گا کہ اس آیت نے شک کی ماہیت کے بعض اجزا بیان کیے ہیں۔ لیکن یہ اس بات کا دعویٰ ہے کہ قرآن نے وہ معانی بیان کیے ہیں جو قوم کے معظوظ ہیں۔ پس اس صورت میں لازم آئے گا۔ کہ قرآن بھی کافیہ شافیہ تہذیب کی مانند ایک کتاب ہے۔ حالانکہ اس امر کا کوئی عقلمند قائل نہیں ہے۔

دوسری توجیہ سواس پر بھی پانچویں بحث کے سوا سب اباحت و خدشہ وارد ہوتے ہیں۔

البتہ اس دوسری توجیہ پر خاصۃً یہ بحث وارد ہے وہ یوں ہے کہ تمام اوصاف سبب کسی شے کی ہر فرد سے کر دینا پھر خاص صفت ان کے واسطے ثابت کرنا جیسا کہ اسی سے لازم آتا ہے کہ وہ افراد موصوفہ اسی صفت میں منحصر ہو جائیں۔ اسی طرح پر ان افراد سے خاص صفت کا سلب کر دینا خواہ وہ صفت مطلق نہ ہو۔ مقدر ہی ہو بعد ازاں کوئی ایسی صفت جو مصلوب سے منافی ہو ان افراد کو ثابت کرنا اس کو چاہنا ہے۔ کہ وہ موصوفہ اس مصلوب کے منافی میں منحصر ہو پہلے کا نام حصر حقیقی دوسرے کا نام حصر اضافی ہے۔ لیکن یہ دونوں موصوفہ کی صفت میں منحصر ہونے کے لیے دو قسم ہیں۔ ان پر صفت کا موصوفہ میں بطور انحصار حقیقی کے ہو۔ اس واسطے کہ وہ صفت صرف اسی موصوفہ میں متحقق ہے۔ صفت کا موصوفہ میں بطور انحصار اضافی کے منحصر ہونا سو اس لیے ہے کہ وہ صفت تو اس موصوفہ میں پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے کل اعیار سے منقک نہیں ہوتے بلکہ بعض میں پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں پس چونکہ بعض ہی کی طرف نسبت کر کے منحصر ہے تو یہ حصر اضافی اور نسبتی ہوا ہو پر ظاہر ہے کہ جس میں کوئی چیز منحصر ہو۔ وہ اس پر خواب میں کلیتہً منحصر ہے۔ کلی طور پر صادق آتا ہے۔ اب دیکھیے کہ آیت (جس کا مضمون یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی ایک بھی اہل کتاب میں سے مگر وہ ایمان لائے گا) میں اہل کتاب صفت ایمان میں منحصر کر دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ انحصار صفت کفر کی طرف نسبت کر کے ہے نہ اور اوصاف کے لحاظ سے پس والایۃ صفت الکفر کا تمام اہل کتاب سے مصلوب ہونا اسی کے لیے صفت الایمان کا ثابت ہوتا ہے۔ تو غیر اس سے صاف طور پر واضح ہو گیا ہے۔ یہ انحصار اضافی ہے کیونکہ اہل کتاب جو صفت ایمان میں منحصر کر دیے ہیں۔ تو صرف ایک صفت محض کی طرف نسبت کر کے اوصاف کے لحاظ سے لہذا مفاد الایۃ یوں ہوا کہ سب اہل کتاب ایمان میں بہ کفر میں منحصر ہوں گے اور صفات ان میں پائی جائیں یا نہ پس سب اہل کتاب سے وصف کفر مقدر ہے۔ مصلوب کر دیا گیا اس کا منافی یعنی ایمان سب کو ثابت کر دیا گیا۔ جب یہ سمجھ گئے کہ تمام اہل کتاب صفت ایمان میں منحصر ہوں گی تو لازم آئے گا کہ صفت ایمان تمام کتابیوں پر صادق آنا چاہیے۔ جیسا کہ کہہ دیں کہ ہر ایک کتابی اس پر ایمان لائے گا۔ اس لیے یہ قضیہ موجبہ محصورہ کلیہً بنا جب کہ ہم آیت مذکورہ سے وہ مزاد رکھ لیں جو قادیانی بیان کرتے ہیں تو اس تقدیر کا یہ معنی ہوگا۔ کہ سب اہل کتاب حضرت مسیح علیہ السلام کے نقل کی منکوکیت پر اس کے مرنے سے پہلے ایمان لائیں گے حالانکہ یہ معنی مردود ہے۔ گو ہم اس سے قطع نظر کریں۔ کہ اس طرز پر صیغہ مضارع کا ماضی پر محمول کرنا لازم آتا ہے۔ اس سے بھی اغماض کریں۔ کہ نون تاکید ثقیلہ معنی استقبال کو چاہتا ہے۔ مگر اور طرز پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے۔ وہ بالتحریح بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ حکم

خاص ایسا ہے بعض اہل کتاب کے لیے ہے جو مسیح علیہ السلام کے زمانہ اور آپ کی مرفوعیت سے پہلے موجود تھے۔ لیکن یہ تو قاعدہ مذکورہ مسلمہ سے مخالف ہے کیونکہ قاعدہ سے لازم آیا تھا۔ کہ یہ حکم کل کتابوں کے واسطے ہے۔ نہ بعض کے واسطے، یا یہ کہو گے کہ یہ عالم اہل کتاب کے لیے ہے یعنی جو آپ کے زمانہ میں آپ کی مرفوعیت سے پہلے موجود تھے اور وہ جو اس کے بعد قیامت تک موجود ہوتے جائیں گے مگر اس سے تو پھر اور ہی مجال لازم آئے گا۔ اس لیے کہ اب یہ تجویز کرنا پڑے گا۔ کہ ایک چیز جو موجود نہیں اور موجود ہونے کی حالت میں موجود ہو۔ اسی جب آپ مسیح علیہ السلام کے مر جانے کے قائل ہیں۔

اور ہر آیت کے معنی یہ ہونے کہ مسیح علیہ السلام کے مر جانے سے پہلے ہی تمام کتابی ایمان لاکچے ہیں۔ تو صاف لازم آیا کہ جو اس زمانہ میں موجود نہیں ہے موجود ہو آخر جب سب کے لیے موت اسح سے پہلی ہی صفت الایمان ثابت کیا گیا تو اس صفت کا موصوف ہے۔ تب ہی موجود ہونا چاہیے اور نہ لازم آئے گا۔ کہ صفت بغیر موصوف کے تحصیل ہو۔ یہ تجویز گویا اجماع اللقیض کو جائز کر دیتا ہے۔ نیز اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہاں مصدر کو بلا موجب ماضی پر محمول کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ بناوٹ ہے۔ صاحبان فہم کے ناپسند ہی رہے۔ یہ بات کہ متدل دو معنوں کو اپنے منہ سے اچھا کہنا ہے۔ اور دونوں کو اپنے منہ سے کشف سے مؤید کرنا ہے سو واضح رہے۔ کہ بالضرور دو معنوں میں سے ایک تو بالکل باطل سبب یہ ہے کہ دوسری توجیہ اور معنی میں زیادہ نصوص کا ہی احتمال ہے۔ کیونکہ اگر عموم لیا جائے تو اجتماع التخصیصین لازم آتا ہے۔ چنانچہ گزرا پہلی توجیہ میں خالی عموم ہی ہے۔ اور ظاہری عموم و خصوص یہ دونوں آپس میں متعارض ہیں۔ پس اگر پہلی توجیہ کو تسلیم کریں گے تو بالضرور دوسری نداد رہے اگر دوسرے کو مان لیں گے تو دوسرا بذریعہ شیطانی ہوگا۔ اس لیے کہ اگر دونوں الہام اللہ سے ہوتے۔ تو ان میں مخالف نہ ہونا چاہیے تھا۔ لہذا حق یہی ہے کہ یہ دونوں ہی رحمانی نہیں ہیں۔ ورنہ کیوں ان دونوں پر شریعہ اور عقلیہ اعتراضات سلسلہ قطعہ وارد ہوتے لاجمالہ ایسے مدعیوں کے خصائل سے یہ بات ہے کہ اگر ان کے مقابلہ پر قرآن پیش کرتے ہیں۔ تو انجیل طلب کرتے ہیں جب انجیل سامنے رکھتے ہیں۔ تو قرآن طلب کرتے ہیں۔ جب دونوں پیش کی جائیں تو عقل کے طالب ہوتے ہیں۔ پھر دلیل عقل اگر پیش کی جائے تو کشف لے بیٹھتے ہیں۔ تو پھر جب اس کشف پر دلیل طلب کی جاتی ہے۔ تو سرگوں تخمیر رہ جاتے ہیں۔

ہاں ہم اب یہ بیان کریں گے۔ کہ جس طرح پر کہ ہم اور سلف و خلف آیت (انا کلمنا المسیح



الخ) ہی سمجھتے ہیں۔ اس طرز پر اعتراضات مذکورہ میں سے ایک اعتراض بھی وارنہیں ہوتا۔ وہ یوں ہے کہ اہل کتاب نے کہا کہ ہم مسیح علیہ السلام کے مقتول ہو جانے پر یقین رکھتے ہیں۔ سو اللہ عزوجل نے ان کی تردید فرمائی کہ انہوں نے مسیح کو نہ قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا۔ پس کیونکر مسیح کے قتل ہو جانے پر ان کو یقین کر بیٹھنا متصور ہے۔ اس لیے کہ علم یقینی کے علم کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ واقع کے مطابق ہو۔ کیا ہو سکتا ہے کہ واقع کے مخالف ہو اور پھر بھی یقینی ہو ہرگز نہیں لہذا اس کا یہ دعویٰ کہ ہم قتل کے بارہ میں متقین ہیں باوجودیکہ دراصل ان کو یقین حاصل نہیں ہے۔ بلاشبہ جہل مرکب ہے۔ کیونکہ جہل مرکب کا معنی یہی ہے۔ کہ خلاف واقع ایک حکم لگایا جائے۔ پس وہ اس کے بارہ میں شک میں مبتلا ہیں یعنی ایسے حکم میں وہ خلاف واقع ہے۔ نہیں ان کو یقین حاصل بلکہ ظن اور جہل مرکب کے تابعدار ہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو قتل نہیں کیا یعنی قتل کا نہ پایا جانا یقینی ہے ایسا اس واسطے ہے کہ یقیناً نئی امام کی قید ہی نہ منفی (قلوہ) کے اہل قعر بلکہ خداوند عز و اسما نے مسیح کو اپنی طرف اٹھالیا ہے۔ لیکن وہ اٹھالینا کہ (بجسدہ) منافی قتل ہو۔ نہ وہ کہ اس کا منافی نہیں۔ یعنی رفع روحی کیونکر رفع روحانی واقع اور اعتقاد مخاطب ہیں قتل کے ساتھ مجتمع ہوتا ہے۔ (وکان اللہ عزیزاً حکیماً) خداوند تعالیٰ کو مسیح کے بجسدہ مرفوع کرنے سے کوئی چیز عاجز نہیں (حکیماً) خدا حکمت والا ہے۔ رفع کے کام میں نہیں کوئی ایک ہی (من اهل الكتاب الالیق منن) اہل کتاب میں سے مگر کہ مسیح پر ایمان لائیں گے ان کے مرجانے سے پہلے ہی خواہ وہ ایمان ان کے لیے نافع ہی ہو جیسا کہ حالت حیات میں یا نافع نہ ہو جیسا کہ مرگ کی حالت میں اور یہ ایمان کو جو مرگ کی حالت میں نہیں وہ اس سے عام ہے کہ مسیح کے اترنے سے پہلے ہو یا ان کے اترنے کے بعد ہو پس اس معنی میں غور کرو۔ کہ اس میں بہر حال ایمان کی حفاظت ہی دیکھو ایک صیغہ مضارع اپنے ہی معنی پر رہا نون ثقیلہ جو مدخول کے استقبال پر بالا جماع دلالت کرتا ہے اپنے ہی طور پر رہا اس معنی پر اعتراضات سابقہ میں سے کوئی اعتراض بھی وارنہیں ہوتا کما ہوا بظاہر بالاسم الفاروق لہذا جو معنی ہم نے بیان کیا ہے۔ اسی کو صحیح کہنا زیبا ہے۔ اور اس کے خلاف الہامات و کشف کو کھلبازوں پر وہ مارنا چاہیے یہی معنی تمام اشکالات کے دور کرنے کے لیے کافی اس پر بالضرور منصف حراج ایمان لانے گا۔ گو کوئی بے انصاف اور بے علم جھگڑا لو اس سے انحراف کرے۔

☆ شاید کوئی کہہ دے گا کہ اسم فاعل میں زمانہ ضروری ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری اس موقع پر ہے کہ جب عامل ہو یہ مطلقاً یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آیت انی متوفیک میں جو متوفی ہے اس میں زمانہ معتبر ہے کیونکہ یہاں پر عامل ہو اس لیے متوفی کاف خطاب کے مضاف

ہے اور کامل محلا مجرور ہے نہ متونی کا مفعول ہے۔

وضع کا معنی یہ ہے کہ ایک لفظ ماننے کو کسی مفہوم کے واسطے معین کر دیا رہا ہے کہ شخصی کیا ہوا اور نوعی کیا سو واضح ہو کہ شخصی ہیں وضع اور موضوع الہ دونوں خاص ہوتے ہیں۔ جیسا کہ زید کا لفظ ذات زید کے لیے موضوع ہے۔ اب اس میں وضع اور موضوع کہ میں خاص ہیں پس یہ وضع شخصی ہوگا اور اینٹ کی دیوار میں داخل ہونا بھی اسی شخص کے ذریعہ ہو گیا کیونکہ وہ دیوار میں جڑ کی طرح داخل ہے اور وہ دیوار موضوع کہ بوضع شخصی ہے وضع نوعی وہ ہے جو مصنف نے خود فرمایا۔

☆ عموم مجاز اس کو کہتے ہیں کہ لفظ سے ایک معنی مراد لیا جائے کہ وہ حقیقی و مجازی کو شامل ہو جیسا کہ حضرت مصنف تقدس آب نے فرمایا ہے کہ وفا مقارن ہو یا نہ اب جہاں پر مقارن ہوگا وہ حقیقی اور جہاں پر مقارن نہیں ہوگا وہ مجازی کہلائے گا۔ تو عموم کا معنی ہے۔

☆ دیکھو تونی مشتق ہے اس کا اصل ماخذ وفا ہے۔ اور تو اپنی معنی پر بوضع شخصی وال ہے جیسا کہ کہیں کہ یہ لفظ جو مفعول کے وزن پر ہو۔ وہ تین چیزوں کے مجموعہ پر وال ہوگا۔ ایک ماخذ دوم بات کا اقتضاء سوم نسبت الفاعل ظاہر ہے۔ کہ تونی کا بھی مجموعہ ہے۔ مفعول کے وزن پر ہے۔

سہ قادیانی کا استدلال یہ بھی ہے کہ اگر مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ ہوں اور وہی پھر اتریں گے تو یا تو نزول کے وقت وصف رسالت سے تنزل ہوں گے۔ حالانکہ یہ ان کی تحقیر و ہتک ہے یا تو اس وصف کے ساتھ موصوف ہوتے ہی اتریں گے۔ جیسے کہ رفع سے پیشتر رسول تھے۔ لیکن قرآن میں ہمارے سید مولا حضرت رسول اکرم کی شان میں فرمایا گیا ہے کہ نہیں ہیں آنحضرت ہمارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ لیکن وہ خدا کے رسول ہیں پیغمبروں کے خاتم ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی از سر نو مبعوث نہیں ہوگا چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا پس جبکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں تو مسیح علیہ السلام نبوت کی حالت میں کیسے نازل ہو سکتے ہیں۔ پس یہ عقیدہ کہ مسیح نبی ہی ہوتے اور اتریں گے صاف طور سے اس آیت سے مخالف ہے۔

الجواب پہلے ہم اجمالاً تحقیق کریں گے کہ ہمارے آنحضرت ﷺ کے بعد جتنے پیغمبر تھے۔ وہ تمام عالم برزخ میں رسول کریم ﷺ کے مبعوث ہونے کے بعد وصف نبوت سے موصوف تھے یا عالم آخرت میں موصوف ہوں گے یا نہ اگر کہہ دیں گے کہ معزول ہیں۔ یا ہوں گے تو صاف پیغمبروں کا جنک ہے اور نہ یہ ان کی عالیشان سے مناسب ہے بھلا یہ کیونکر ہو۔ کتب عقائد میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے۔ کہ انبیاء علیہم السلام بعد الا انقال ہرگز اپنے مناسب سے معزول

نہیں ہوتے بلکہ بعض نے صراحت لکھا ہے کہ جو شخص اس عزل کا قائل ہوگا وہ کافر ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا۔ کہ وہ دونوں عالم میں وصف رسالت و نبوت کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں۔

مگر یہ بات قادیانی کی طرز پر آیت سے مخالف ہے کیونکہ ان کے نزدیک آیت سے ثابت ہے کہ رسول کریم ﷺ کے مبعوث ہونے کے بعد کسی نبی کو نبوت و رسالت کی صفت ثابت نہیں ہونی چاہیے پس وہ پیغمبر عالم برزخ میں رسالت و نبوت سے کیسے موصوف ہو سکتے ہیں۔ اور کیوں نہیں عالم آخرت میں ان سے عہدہ رسالت و نبوت کا چھینا گیا ہوگا۔ آخر وہ وقت ہے تو رسول کریم ﷺ کے مبعوث ہونے کے بعد ہی ہے۔ پس جو کچھ قادیانی جواب دے گا۔ وہی ہماری طرف سے جواب ہے عانیاً ہم تفصیل لکھ پیش کریں گے۔ وہ یوں ہے کہ مسیح علیہ السلام جس وقت کہ وہ آسمان پر مستقر ہیں اور جس زمانہ میں اتریں گے اسی طرح پر باقی انبیاء عالم برزخ میں اور آخرت میں بالضرور رسالت و نبوت کے ساتھ موصوف ہیں اور ہوں گے۔ رہی یہ بات کہ عقیدہ آیت (جس کا مضمون مختصر یہ ہے کہ آنحضرت خاتم الانبیاء ہیں) اس سے مخالف ہے سو ایسا نہیں ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ عیناً آخر الانبیاء ہیں۔ بایں معنی کہ وہ بعد ازاں کو باقی انبیاء علیہم السلام نبوت دیے گئے ہیں۔ نبوت عنایت کیے گئے اور آپ بقاء نبوت میں ان سے متاخر نہیں ہیں۔ یعنی آپ کے خاتم النبیین ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اور پیغمبروں سے پیغمبری چھینی گئی آنحضرت ﷺ کے خاتم النبیین ایسے متاخر ہوئے۔ ان پیغمبروں کی رسالت و نبوت باقی رہی ہیں۔ کچھ مناقات نہیں ہے۔ کیونکہ دو چیزوں کے بقاء میں محبت ایک کی بعدیت دوسری کی حدوداً اولیت مغاڑ نہیں ہے۔ دیکھو عمارت اور معمار بیٹا باپ اس لیے کہ عمارت معمار کے موجود ہونے کے بعد موجود ہوتی ہے بیٹا باپ کے موجود ہونے کے بعد موجود ہوتا ہے۔ لہذا عمارت معمار بیٹا باپ بقاء میں کہ محبت رکھتے ہیں۔

۲ دیکھو آیت وعد اللہ الذین آمنو منکم و عملوا الصلحت یستخلفنہم

فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم

۵ اس کا ثبوت خود ان (مرزا صاحب) کے سوا کسی کو معلوم نہیں اس واسطے ان کی تحریر کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ (ازالہ اوہام ص ۱۸۵، خزائن ج ۳ ص ۱۸۹، ۱۹۰) ”مجھے کشتی طور پر توجیہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح جو تیرہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا پہلے سے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر کے رکھی تھی۔ اور وہ یہ نام ہے غلام احمد قادیانی ۱۱۳۰۰ اس نام کے عدد پورے تیرہ سو ہیں“ (اور عبارت ص ۶۹۲، خزائن ج ۳ ص ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱

وہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چودہ سو برس بعد تھا۔ کہ مسیح ابن مریم یہودیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ (ص ۶۷۵، خزائن ج ۳ ص ۳۶۳) پر یہی اقرار ہے۔ بلکہ قرآن شریف کا حوالہ بھی دیا ہے۔ کہ قرآن شریف نے مسیح کے نکلنے کے چودہ سو برس تک مدت ٹھہرائی ہے۔ (عربی قرآن میں تو نہیں کہیں اس قرآن میں تو نہیں جس میں قادیان کا نام ہے؟)

مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں دنیا کی پیدائش سے الف ششم یعنی چھٹے ہزار میں آیا ہوں چنانچہ لکھتے ہیں۔ ”اس وقت مثل مسیح کی سخت ضرورت تھی اور ہزاروں ملائکہ جو زندہ کرنے کے لیے اتر اترتے ہیں حاجت تھی اور حضرت آدم کی پیدائش کے حساب سے الف ششم کا آخری حصہ آگیا سو ضرور تھا کہ اس چھٹے (الف میں) آدم پیدا ہوتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اس عاجز مثل مسیح اور نیز آدم الف ششم کر کے بھیجا“ مخلصا از الہ ۱۵۵ ایضاً ۱۶۹۲ اس کی تفسیر اس کا خلاف ہے۔ سنیہ پہلے اپنی رسالت اور نبوت اور تشریف آوری کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”طامون جو ملک میں پھیلا ہے کسی اور سبب سے نہیں بلکہ ایک سبب سے ہے وہ یہ کہ لوگوں نے خدا کے اس موعود کے ماننے سے انکار کیا ہے۔ جو تمام نبیوں کی پیشگوئیوں کے موافق دنیا کے ساتویں ہزار میں ظاہر ہوا ہے۔“

(دفع البلاغ ۱۲، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۲)

اگر کسی کو شبہ ہو کہ چھٹے ہزار اخیر اور ساتویں کے شروع میں مرزا جی تشریف لائے ہوں گے اس لیے دونوں ہزاروں کو شمار میں لے لیا تو ایسے صاحبوں کے سمجھانے کو بھی مرزا صاحب کی عبارات موجود ہیں۔ (از الہ ص ۳۱۲، خزائن ج ۳ ص ۲۵۹) پر لکھتے ہیں کہ ”دنیا کی عمر آنحضرت ﷺ کی بعثت کے وقت ۴۷۳۰ تھی۔“ اور پھر (ص ۱۸۵، خزائن ج ۳ ص ۱۸۹) کی عبارت جو اوپر درج ہوئی۔ کہ میں پورے تیرہ سو برس بعد آنحضرت کے آیا۔ اب دونوں عبارتوں کے ملائے سے

$۶۰۵۳ = ۱۳۰۰ + ۴۷۳۰$  مرزا صاحب کی بعثت کے ۶۰۵۳ ہوتے ہیں۔

ضمیمہ اخبار شحمہ معہ مطبوعہ ۲۳ جون و یکم جولائی ہفتوات مرزا۔

### باب ۲۵ بست و پنجم

شیخ الکل مولانا سید نذیر حسین سے اڑنگا

لغش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا

کانڈی ہے عہدین ہر یکہ تصویر کا

خوب ایک عرصہ سے یہ شعر حل طلب تھا۔ لوگوں نے بڑے بڑے زور لگائے طبع

آزمائی کی، طبیعت کے جوہر دکھائے مگر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ دراصل نواب اسد اللہ خان غالب کی پیشگوئی تھی۔

پس اسی سال این معنی محقق شد نہ خاقانی

کہ یور انیسٹ باد نجان و باد نجان یورانی

اگر مرزا غالب مرحوم آج زندہ ہوتے تو کیا وہ دعویٰ نبوت کے مستحق نہ ہوتے۔ جنہوں نے تیس سال پہلے یہ پیشگوئی کی اور آئینہ کی طرح صفائی سے ظاہر ہوئی۔ جس میں مخالف اور موافق کسی کو کلام نہیں آج دہلی کے کوچہ و بازار کیا ہر درود یوار پر اشتہار چسپاں ہیں۔ اور ہر ایک کی پیشانی بقلم حلی بنام نامی اسم گرامی مرزا غلام احمد قادیانی سے مزین ہے کوئی مرزا غلام صاحب قادیانی کی طرف سے اور کوئی بہ جواب اشتہار مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں۔ گو بازار کے دیوار و در کاغذی پیر بہن سے ملبوس ہے مرزا غالب کے اس شعر کے معنی آج حل ہوئے۔

ایک مختصر سا کمرہ ہے نہایت آراستہ ہے مگر سادگی کے ساتھ اس میں ایک بزرگ فرشتہ خصلت ملائک سیرت متبرک صورت نورانی چہرہ سوسو سوسو برس کا سن شریف ضعیف و ناتواں مگر اظہار حق شدہ ہدایت کے واسطے بایں چو بند گویا کمر بستہ ہیں۔ قال اللہ وقال الرسول کے سوا گفتگو نہیں قرآن وحدیث کے شیداد دنیا مانیہا کی کوئی آرزو نہیں علماء و فضلا کا مجمع روساء و امراء کا جر کہ گرد زیب مجلس ہے مگر سب مودب سر جھکائے قالب بے جان کی طرح تصویر کی صورت بنائے خاموش بیٹھے ہیں۔ محفل میں سکوت کا عالم ہے بزرگ کے ہاتھ میں کاغذ ہے جس پر دستخط خاص کچھ ارقام فرماتے ہیں ضعیف پیری کے باعث قلم قابو میں نہیں ہاتھ کہا نہیں مانتے مگر بایں ہمہ لکھنے میں مصروف ہیں کچھ دیر بعد سر مبارک اٹھایا اور فرمایا لیجئے یہ رقعہ لکھ دیا ہے۔

حاضرین جلسہ..... نے سرگرم بیان نظر سے اٹھا ہمتن گوش ہو کر: ارشاد  
مولانا صاحب..... یعنی بزرگ بہ آواز بلند یہ لکھ دیا ہے۔ بمطالعہ گرامی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی۔  
راوی..... خوب بیان بھی مرزا صاحب قادیانی موجود ہیں۔

مولانا صاحب..... بعد سلام و مسنون مدعا یہ ہے کہ آپ کے رسائل سے آپ کی ادعا ہائے ما مشروع شائع و ضائع ہو چکے تھے۔ کہ پرسوں ایک اشتہار جس کے اوائل میں تجدید ایمان و انابت ظاہر کی ہے۔ اور آخر میں اپنے خیالات فاسدہ اور توہمات باطلہ مندرج ہیں۔ نظر سے گزرا چونکہ آپ کو خود ان عقائد و خیالات اپنے کی نسبت رفع شکوک کا ادعا ہے۔ اور آپ نے اس عاجز سے بھی رفع شبہ کی استدعا کی ہے لہذا میں بذریعہ رقعہ ہذا آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ آپ نے کلف

میرے غریب خانہ پر آ کر حسب شرائط مقررہ خود موافق موجودگی ایک انگریز کے میرے اختیار میں نہیں اور نہ احقاق حق میں اس کی ضرورت ہے۔ اپنا شک و شبہ رفع کر لیں۔ کسی نوع کا خیال دل میں نہ لائیں اگر یہاں آنے میں آپ کو کچھ عذر ہو۔ تو آج سے چوبیس (۲۴) گھنٹہ کے اندر اطلاع فرمائیں۔ تاکہ یہ عاجز اپنے تعلیم دادہ اشخاص میں سے ایسے شخص کو آپ کے پاس بھیج دے کہ اس سے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے سب طرح کے شکوک رفع ہو جائیں گے۔ محمد نذیر حسین یکم ربیع الاول ۱۳۰۹ء ہجری المقدس

ہمارے ناظرین اب تو خوب سمجھ گئے ہوں گے حضرت فرشتہ صورت کون بزرگوار ہیں۔  
جناب فیض مآب محدث دہلوی سیدنا مولانا استاد عرب و عجم شمس العلماء حضرت شیخ الکل ہیں۔  
مولانا صاحب..... حاضرین جلسہ کی طرف خطاب کر کے اب کون صاحب اس کو لے جائیں گے۔  
حاضرین..... جس کو ارشاد ہو۔

غرض جناب نواب سعید الدین احمد خان صاحب خلف الصدق جناب نواب ضیاء الدین احمد خان صاحب رئیس لوہارو۔ اور جناب حکیم عبدالحمید خان صاحب خلف الصدق حکیم محمود خان صاحب۔ اور مولوی محمد عبدالحمید صاحب واعظ اور جناب حاجی محمد احمد صاحب خلف حاجی عبد العزیز صاحب سوداگر اس کار کے واسطے بمشورہ حاضرین جلسہ منتخب ہوئے اور جس مکان پر مرزا قادیانی فروکش تھے۔ یہ اصحاب اربعہ پہنچے۔ اور بعد اطلاع باریاب ہوئے۔

اسلام علیکم!

مرزا قادیانی..... وعلیکم السلام آجیے حضرات حراج شریف۔  
مولوی عبدالحمید صاحب..... مولانا صاحب (یعنی شمس العلماء حضرت شیخ الکل صاحب) نے یہ رقعہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔

مرزا قادیانی..... تحیر اور پریشان خاطر سے کچھ سکوت کے بعد نامہ لیا پڑھا اور پھر الٹ پلٹ کر دیکھا اور پڑھا پھر ایک آہ سرد کھینچ کر نہیں صاحب یہ امر مجھ کو منظور نہیں۔ کہ امن قائم رکھنے کے لیے کوئی افسر انگریز جلسہ میں نہ ہو۔

نواب صاحب..... مرزا قادیانی بحث اصلاح حال اور صیانت عن اہمال کے لیے ہوتی ہے۔ خدا خواستہ کسی سے کسی کی عداوت نہیں تاہم اس امر کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اور آپ کو تحریر دستخطی اور مہری اپنی دیئے دیتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نوع کا گزند نہ پہنچے گا۔  
مرزا قادیانی..... نہیں صاحب یہ ہرگز نہیں۔

راوی..... کیونکر راضی ہوتے ان کو یہ امر معلوم تھا۔ کہ آج کل دہلی میں جناب مسٹر چوگس صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ہیں اور یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے لدھیانہ میں ان کے مناظرہ کو بند کر دیا تھا۔ وہ یہاں دہلی جیسے بڑے شہر میں کب اجازت دیں گے اور صاحب بہادر مرزا قادیانی کے حال سے واقف ہیں۔ مرزا قادیانی کے اس اصرار کا یہی اصرار ہے کہ نہ وہ اجازت دیں گے اور نہ مباحثہ ہوگا جان بچی لاکھوں پائے۔

مرزا قادیانی..... لوگ مجھے ناحق بدنام کرتے ہیں صرف ایک مسئلہ حیات مسیح میں مجھے انکار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی وفات ہوگئی ایسے اختلاف کی بہت سی نظیریں اصحاب رسول اللہ میں موجود ہیں مگر کوئی کسی سے نہ جھگڑتا تھا مجھ سے کیوں لوگوں کو بے جا اور بے وجہ خلاف و اختلاف ہے۔

اور ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور مجھ کو دعویٰ ہے تو کونسا استعجاب ہے۔

مولوی صاحب..... مرزا صاحب اگر آپ کو دعویٰ ولایت ہو تو میں سب سے پہلے کہتا ہوں اشہد انک ولسی مسلمانوں میں جہاں ہزاروں ولی ہوئے ہیں۔ ایک آپ بھی سہمی ہم کو آپ کی ولایت میں انکار و اصرار کی کوئی ضرورت نہیں لیکن آپ تو دعویٰ نبوت اور وہ بھی بقید مسیح موعود کرتے ہیں۔ مرزا صاحب..... میں نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا نہ مسیح موعود ہونے کا ضروری اور لازمی دعویٰ ہے یہ تو وفات مسیح پر منحصر ہے۔

مولوی صاحب..... تو مسیح مرام میں آپ نے صرف دعویٰ کیا ہے اور اسی پرچہ میں مسیح ہونے کا قطعی اور یقینی ادعاء ہے۔

مرزا صاحب..... کہاں۔

مولوی صاحب..... ۲۰ اکتوبر ۱۸۹۱ء کے پرچہ میں یہ موجود ہے اور اشتہار دکھایا۔

مرزا صاحب..... مجھے محمد عیسیٰ کا دعویٰ ہے نہ نبوت کا۔

مولوی صاحب..... آپ نے صاف صاف لکھا ہے کہ میں نبی ہوں۔

مرزا صاحب..... مولوی صاحب کون قسم کا نبی آپ نہیں سمجھے۔

مولوی صاحب..... یہ امر آخر ہے محمد حسین ایک شاعر تھا جب اس سے کہا جاتا کہ تیرے اس شعر کے معنی کیا ہیں۔ تو جواب دیا کرتا کہ میں نے اس میں ابھی معنی ڈالے ہی نہیں آپ کا ایسا وہ کیا مضمون ہے۔ جس کے معنی ہی کوئی نہیں سمجھ سکتا کیا آپ کی عبارت بھی المعنی فی ظن الشاعر ہے۔

مرزا صاحب..... یہ تو فی ظن کتاب ہے۔ فی ظن شاعر نہیں آپ کو گفتگو کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کیوں گفتگو کرتے ہیں آپ میری کتابیں دیکھیں۔

مولوی صاحب..... دو وجہ سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے ایک یہ کہ آپ نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے توضیح مرام میں لکھا ہے کہ جو کوئی میری نبوت کو نہ مانے گا وہ مستوجب عذاب ہوگا۔

مرزا صاحب..... اس عذاب کے اور معنے ہیں۔

مولوی صاحب..... تو میرا وہی قول صادق ہو گیا المعنی فی لفظن الشاعر۔

مرزا صاحب..... پھر تو یہ راست ہے کہ تصنیف را مصنف نیکو کند بیاں۔

مولوی صاحب..... الحمد للہ ایہ تو میرے قول کی آپ تائید کرتے ہیں۔ اس لیے باوجود تصنیف کے مصنف سے گفتگو کی ضرورت ہے آپ بیان فرمائیے۔ کہ آپ کے مسخ موعود ہونے کا کیا ثبوت ہے۔  
مرزا صاحب..... آپ وفات مسخ میں گفتگو کیجیے۔

مولوی صاحب..... میں تو ہر امر میں گفتگو کے لیے موجود ہوں۔ مگر یہ مسئلہ آپ کے دعوے کی ایک دلیل ہے۔ دعویٰ نبوت مفید مسخ موعود ہونے کا ہے۔ پھر بحث نبوت دعویٰ میں اول ہونی چاہیے نہ کہ دلیل میں۔ فرض کرو اگر مسخ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو اس سے یہ کیونکر ثابت ہو سکتا ہے۔ کہ پھر وہ مسخ موعود آپ ہیں۔ بعد وفات مسخ بھی آپ کو اپنے دعوے کے ثبوت کی ضرورت ہے۔

نواب صاحب..... مرزا صاحب بل تو اپنا بل دوسرے کے ضعف سے آپ کے دعویٰ کو کیا فائدہ آپ اپنے دعویٰ کی قوت بیان کیجیے۔ حضرت مسخ مر گئے یا زندہ ہیں آپ کو کیا آپ اپنی سچائی کا ثبوت دیں ہرنہی نے اپنی نبوت اپنی ہی دلیل کی قوت سے ثابت کی ہے معجزہ دکھائے برہان لائے ہدایت کی، کسی دوسرے کے مرنے جینے پر کسی نبی نے اپنی نبوت کا حصہ نہیں رکھا۔ میاں جھگڑا کیوں بڑھاتے ہو ایک کرشمہ دکھا دو پھر گفتگو کی چنداں ضرورت نہیں رہے گی۔

حاجی صاحب..... مرزا صاحب آپ ایمان سے کہتے ہیں کہ مسخ علیہ السلام فوت ہو گئے۔

مرزا صاحب..... بے شک میں ایمان سے کہتا ہوں۔

حاجی صاحب..... میں نے بہ تقلید آپ کے اس مسئلہ کو مان لیا۔ کہ مسخ فوت ہو گئے اب آپ اپنے مسخ ہونے کا ثبوت فرمائیے۔

مرزا صاحب..... لکھ دیجیے۔

حاجی صاحب..... بہتر۔

مرزا صاحب..... نے قلم دوات اٹھائی پھر تامل کر کے کیا لکھو گے؟

حاجی صاحب..... یہی کہ میں نے بہ تقلید مرزا صاحب وفات مسخ کو تسلیم کیا۔ گناہ و ثواب مرزا



صاحب کی گردن پر۔

مرزا صاحب..... یہ لکھو کہ میں صدق دل سے ایمان لایا اور قرآن حدیث سے سمجھ کر تسلیم کیا کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے۔

حاجی صاحب..... لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ایسے شیطانی دھوکے میں کون آئے گا۔ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں۔ میں مولوی نہیں، مناظر نہیں۔ قرآن حدیث سے ابھی سمجھا نہیں۔ آپ کی تقلید سے لکھتا ہوں۔

مرزا صاحب..... میں نے کتاب میں لکھا ہے اس میں سمجھ کر ایمان لے آؤ۔

حاجی صاحب..... کتاب کے سمجھنے والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم پر فتوے کفر والی دگائے ہیں۔ کہتے ہو تو اس کو تسلیم کر لوں۔

مرزا صاحب..... تو جانے دو۔

مولوی صاحب..... ہاں حضرت آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت آپ کے دعوے نبوت کا بقید مسج موعود ہے۔ تو بیان کیجیے۔

مرزا صاحب..... آپ بحث وفات مسیح میں گریز کرتے ہیں۔

مولوی صاحب..... الحمد للہ کہ اس وقت میرے منہ سے کوئی کلمہ خلاف تہذیب نہیں نکلا آپ لوگوں کی بد تہذیبی کی شکایت کرتے ہیں۔ اور خود ایسے کلمہ منہ سے نکالتے ہیں۔

مرزا صاحب..... معاف کیجیے۔ بے ساختہ میرے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ دل دکھانے کی نیت سے نہیں کی۔

مولوی صاحب..... میں مواخذہ نہیں کرتا بلکہ اجازت دیتا ہوں کہ آپ جو چاہیں مجھ کو کہہ لیں مگر اصل مطلوب میں گفتگو کریں۔

مرزا صاحب..... میں آپ سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا آپ میرے دوست ہیں۔

مولوی صاحب..... میں آپ کا دشمن نہیں لیکن آپ کے دعوے نبوت اور مسیح موعود ہونے کا ثبوت چاہتا ہوں دوستانہ طور پر سمجھا دیجیے۔

مرزا صاحب..... آپ مجھے معاف کیجیے۔

یہ کہہ کر تحریر جواب رقعہ میں مشغول ہو گئے اور بعد تحریر حاضرین جلسہ کو سنایا۔

حکیم صاحب..... جب حضرت میان صاحب (شیخ النکل) آپ کی سب شرطیں منظور کرتے ہیں۔ سوائے ایک انگریز کے پھر آپ کو ایسا لکھنا ہے جا ہے۔

مرزا صاحب..... نہیں افسر انگریزی کا ہونا جلسہ بحث میں واسطے امن کے ضرور ہے۔  
 حکیم صاحب..... امن میں کچھ خلل نہیں میاں! صدائے ہی مناظرہ ہوئے خدا کے فضل سے کسی جلسہ  
 میں صورت دیگر ظاہر نہیں ہوئی۔ آج تو آپ ایک افسر انگریز کے طلب گار ہیں۔ کل کہیں گے۔ کہ  
 لکھنؤ گورنر بہادر کو بلواؤ۔ یہ کیونکر ممکن ہے۔ اور احقاق حق کے لیے اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔  
 مرزا صاحب..... بیشک ضرورت ہے۔

حاجی صاحب..... اچھا آپ نے اشتہار دیا اور مناظرہ کے مستعدی ہوئے تو آپ ایک درخواست  
 بھی دے دیں۔

مرزا صاحب..... نہیں میں تو نہیں دینے کا۔ وہی دیں۔ کہ وہ رئیس دہلی ہیں۔  
 حکیم صاحب..... بہتر ہے ایک درخواست ہم جناب میاں صاحب سے لکھوائیں گے ایک آپ  
 لکھ دیں۔ دونوں دے دی جائیں گی۔

مرزا صاحب..... میں درخواست نہیں لکھنے کا اور نہ بے موجودگی افسر انگریز گفتگو کروں گا میری  
 بہت سی پولیٹیکل مصلحتیں اس میں پنہاں ہیں جن کو میں مفصل آپ پر ظاہر نہیں کر سکتا۔  
 حاضرین جلسہ..... (۶۰ یا ۷۰ کس) تو مناظرہ سے صاف انکار ہے۔  
 مرزا صاحب..... تم یہی سمجھ لو۔

اس کے بعد اپنا رقعہ صاحبان موصوفین کو دیا۔ اٹھ کھڑے ہوئے۔  
 رقعہ مرزا صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم • نحمدہ و نصلیٰ! حضرت مکرئی اخویم مولوی  
 صاحب مولوی نذیر حسین صاحب سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

آپ کا عنایت نامہ پہنچا مجھے بسر و چشم منظور بلکہ عین مدعا اور مراد ہے کہ مسئلہ وفات  
 حیات مسیح ابن مریم علیہ السلام میں آپ سے بحث ہو۔ اور اس بحث میں امر تنقیح طلب یہ ہوگا۔ کہ  
 آیا حضرت ابن مریم علیہ السلام فی الحقیقت جسد العصری آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ اور زندہ  
 موجود ہیں اور ان کا زندہ ہونا قرآن کریم کی آیات صریحہ الدلالت سے اور تائید اس کی احادیث  
 صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ یا یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ درحقیقت وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اگر وہ بجسد  
 العصری آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ تو پھر کوئی دوسری بحث کرنا عیب ہے۔ اور اس صورت میں  
 میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا خود باطل ہو جائے گا۔ وجہ یہ کہ اس کی بنا وفات مسیح ابن مریم پر ہے  
 لیکن اگر قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے یہ اتفاق ثابت نہ ہو سکا۔ کہ وہ زندہ بجسدہ عصری

برخلاف دوسرے انبیاء کے آسمان پر موجود ہیں۔ تو پھر بوجہ اس قرینہ قویہ کے یہ سمجھا جائے گا۔ کہ آنے والا ابن مریم موعود اس امت سے پیدا ہوگا اس صورت میں اگر آپ یہ اقرار بذریعہ کسی اخبار کے شائع کر دیں گے۔ کہ اب ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اسی امت میں سے مسیح موعود آنے والا ہے۔ تو پھر اس عاجز سے مسیح موعود کی نسبت ثبوت طلب کر سکتے ہیں لیکن اس بحث میں امن قائم رکھنے کے لیے آپ کی طرف سے یہ بندوبست ہونا چاہیے۔ کہ کوئی افسرانگریز خاص اسی خدمت حفظ امن کے لیے مامور ہو کر جلسہ بحث میں تشریف رکھتا ہو اور بحث تحریری ہو۔ اور ہر ایک فریق اپنے ہاتھ سے سوال جواب لکھے اور اپنے دستخط کے بعد فریق ثانی کو اصل تحریر دستخطی اپنی دے دیوے۔ فریقین کے مکان پر بحث نہ ہو۔ بلکہ ناڈن ہال یا کسی دوسرے ثالث کے مکان پر ہو۔ والسلام! -  
خاکسار غلام احمد ۱۵ اکتوبر ۱۸۹۱ء

راوی خوب.....

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا

جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا

یہ تو بہت جلد بہ آسانی سے فیصلہ ہو گیا۔ مرزا صاحب نے آپ ہی دعویٰ کیا اور خود ہی جواب دعویٰ تنقیح اور ثبوت داخل کر بحث کا خاتمہ ہی کر دیا اب فقط مولانا صاحب حضرت شیخ الکل کے ذمہ ہے۔ کہ وہ اپنا عقیدہ کسی اخبار کے ذریعہ سے شائع کرادیں کہ آنے والا مسیح موعود اسی وقت پیدا بھی ہوگا۔ پھر مرزا صاحب اپنے دعویٰ نبوت اور مسیح موعود ہونے کا ثبوت پیش کریں گے۔ ہمارے خیال میں تو اس کا فیصلہ بھی ساتھ کے ساتھ ہو جائے۔ تو اچھا ہے پھر دوبارہ تکلیف کی کیا ضرورت ہے۔

لگا نہ رہنے دے جھڑے کو یار تو باقی

رکے نہ ہاتھ ابھی ہے رگ گلو باقی

یوں تو رموز مملکت خویشی خسروان داند

فقیر گوشہ نشین تو حافظا مخروش

ہم کو کیا جو اس میں دخل دیں مگر ہمارے خیال میں تو یہ اس سے باآسانی طے ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ الکل اپنا عقیدہ بذریعہ کسی اخبار کے شائع کر دیں۔ کہ آنے والا مسیح موعود اسی امت سے پیدا ہوگا۔ تو ظاہر ہے۔ اس صدی کے سر پر دعویٰ عیسیٰ موعود ہونے کا کسی نے نہیں کیا اور تو اتر سے ثابت ہے کہ عیسیٰ موعود کا آنا ضروری امر ہے۔ اور مرزا صاحب کی گواہی آسمان اور زمین

اور قرآن حدیث پکار پکار کر دے رہے ہیں گو (نوری جامہ کی طرح) کسی کو محسوس نہ ہو یا نظر نہ آئے اس پر مرزا صاحب کے الہام اور پیشگوئی موجود اس سے زیادہ ثبوت اور کیا خدا کہنے آئے گا۔ فیصلہ ہوا مسئلہ حیات و وفات صبح علیہ السلام وہ فیصلہ ہو گیا۔ ثبوت نبوت بتقدیر صبح موجود کا فیصلہ ہو گیا۔

ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کہی  
باتوں باتوں میں فیصلہ ہو گیا ہلدی لگی نہ پھٹکوی

### باب ۲۶ بست و ششم

#### مناظرہ دہلی کے حالات

تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے  
دیکھنے ہم بھی گئے تھے یہ تماشہ نہ ہوا

صبح کا وقت ہے۔ اکتوبر کا شروع مہینہ اعتدال کا موسم نہ گرمی کی شدت نہ سردی کی چنداں شکایت میونسپل کے ملازموں نے سڑک کوچہ و بازار کو خوش و خاشاک سے پاک کر دیا ہے۔ سچے چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ جہنا کی طرف پر بحیرہ ہوشاں کے غول کے غول خوبصورت خوب صورت زرد و سفید ریشمی اور سوتی باریک باریک ساڑھیاں باندھے چھوٹی چھوٹی پر منچی بوٹیاں و گڈیاں ہاتھ میں لیے جھم جھم کرتے ہنسی مذاق اڑاتے جاتے ہیں۔ پازیب کی چھکار سے شور قیامت برپا ہوا اور رفتار ناز کی ہر ایک ٹھوکر پر فتنہ اٹھتا ہے۔ دل عشاق کو پامال کرتے جا رہے ہیں۔ اور کوئی کوئی اشان سے واپس آ رہے ہیں اور مسجدوں سے نمازی نماز صبح سے فراغت پا کر باہر نکل رہے ہیں۔ اور چاندنی محل کی طرف رخ ہے۔

دیکھیں تو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ صفائی تو حسب مراد ہو گئی ہے۔ فرش فروش ہو رہا ہے۔ شامیانہ لٹکانے جا رہے ہیں۔ شہزادہ مرزا اثریا جاہ صاحب بہادر بہ نفس نفیس سرگرم آرائشی مکان اور درستی سامان ہیں۔ اور مولوی عبد المجید صاحب معہ چند عمائد شہر شہزادہ صاحب ممدوح کی معیت میں کمر بستہ ہیں۔ اور جوق در جوق مردیان جمع ہوتے جاتے ہیں اور بیٹھتے جاتے ہیں۔ بھی آج کیا سامان ہے۔ شہزادہ صاحب کے میاں کوئی تقریب شادی ہے ہزار ہا آدمیوں کا ہجوم اس وسیع مکان میں جس میں بیس پچیس ہزار کی گنجائش ہے۔ آج تل رکھنے کو جگہ نہیں چلو تو کسی سے دریافت کریں (مولوی صاحب سے) حضرت آپ بتا سکتے ہیں۔

مولوی صاحب..... آپ نے دہلی کے ہر درو پوار پر نظر کی ہوگی۔

راوی..... جی ہاں سارا شہر آج کل کاغذی پیرہن سے ملبس ہے۔

مولوی صاحب..... اکتوبر کا اشتہار قادیانی صاحب کا اور ۷ اکتوبر کا جواب آپ نے دیکھا ہوگا۔  
مخفل میں پہلے واقع ہوئی اور آدمیوں نے راستہ چھوڑا اور تعظیم کو کھڑے ہوئے  
حضرت میاں صاحب کے تشریف لانے کا شور مچا ہوا۔

حضرت میاں صاحب (مسند پر جو پہلے سے آراستہ ہو چکی تھی) تکبیر کے سہارے متمکن  
ہوئے گل دان رو بہ رو رکھا گیا سانس (جو ضعف اور کبرنی کی وجہ سے چڑھ گیا تھا) درست کر کے  
حاضرین جلسہ کی طرف خطاب کر کے ۸ تو بج گئے ہوں گے۔

حکیم محمد عبدالمجید خان صاحب ڈپٹی محمد الہی بخش صاحب، نواب سید سلطان مرزا  
صاحب آنریری مجسٹریٹ وغیرہ چند صاحبان نے گھڑی جیب سے نکال کر ساڑھے آٹھ بجے ہیں۔  
حضرت مولانا صاحب..... اوہو اور ادھر سے کچھ خبر نہیں آئی۔  
حاضرین..... ابھی تو صدارتِ مناسبت کا نقشہ ہے۔

حضرت..... کوئی حجت باقی نہ رہ جائے آخر انہوں نے آنا تو ہے نہیں۔

مولوی عبدالمجید صاحب..... اشتہار قادیانی مطبوعہ اکتوبر کا جواب ۷ اکتوبر کو منجانب مولوی ابوسعید  
محمد حسین صاحب چھپ کر شائع ہوا تو فوراً اس کا ایک پرچہ مولوی عزیز الحسن صاحب کی وساطت  
سے قادیانی صاحب کی خدمت میں بھجوایا گیا جو مولوی صاحب نے قادیانی صاحب کے دست  
خاص میں دیا ۹ اکتوبر کو شام سے پہلے مولوی ابوسعید صاحب کو مولوی عبدالحق صاحب کی ملاقات  
کے لیے ان کے مکان پر (جو قادیانی صاحب کی فرد گاہ کے قریب ہے) پہنچنے کا اتفاق ہوا تو وہاں  
انہوں نے مزید احتیاط کی نظر سے قادیانی صاحب کے ایک حواری امیر علی شاہ سیالکوٹی کو بلایا اور  
چند اشخاص کے سامنے ان کو وہ جواب دیا دوسرے دن شام کے قریب تک اس جواب کے مضمون  
سے قادیانی صاحب کا انکار ظاہر و مستہر نہ ہوا تو اس سے سمجھا گیا کہ قادیانی صاحب نے مضمون  
جواب کو پسند کر کے ۱۱ اکتوبر کو چاندنی محل میں حاضر ہو جانا اور مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب سے  
گفتگو کرنا منظور کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے اشتہاروں اور خطوں میں اپنے شرائط کے مسلم ہو  
جانے کے بعد صرف فریقِ ثانی کی خواہش اور طلبی پر حاضر ہو جانا قبول کر لیا تھا۔ اور کسی تحریر یا  
اشتہار میں بعد تسلیم شرائط خود اپنے حاضر ہو جانے کو دوبارہ اطلاع منظوری یا کسی اور شرائط سے  
مشروط و متعلق نہ کیا تھا۔

اشتبہار ۶ اکتوبر ۱۸۹۱ء میں (جس میں آپ نے مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب کو بھی اپنا مخاطب اور مناظر بتایا ہے) فرماتے ہیں۔ اس صورت میں یہ عاجز مولوی صاحب کی مسجد میں بحث کے لیے حاضر ہو سکتا ہے۔ مگر دوسری (یعنی بجز حاضری افسر یورپین) تمام شرطیں اشتہار ۲ اکتوبر ۱۸۹۱ء قائم رہیں گی۔ ان فقرات میں منظوری کے دوبارہ اطلاع منظوری یا کسی اور شرط کی تشریح نہیں ہے۔ لہذا تکمیل احتیاط اور قطع حجت کی نظر سے ۱۰ اکتوبر ۱۸۹۱ء کو آپ کو اس امر کی اطلاع دی گئی۔ کہ آپ کی شرط کے مسلم ہو جانے سے آپ کو حاضری مجلس مباحثہ پر راضی سمجھ کر چاندنی محل میں انعقاد جلسہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ وقت مقررہ پر تشریف لائیں۔ اور آئندہ کوئی نیا عذر پیش نہ کریں۔ اور اس مضمون کا ایک خط بھی منجانب مولوی ابوسعید صاحب آپ کے نام لکھوایا گیا۔ جس کو یہ عاجز اور میاں عبدالحق صاحب سو داگر اور حاجی نور احمد صاحب سو داگر اور مولوی عبد الجبید صاحب نے آپ کی خدمت میں پہنچایا۔

نقل خط

جناب مرزا غلام احمد صاحب زاو عنانیتہ

بعد سلام مسنون واضح رائے شریف ہوکل کے اشتہار میں جو جناب مولوی عبدالحق صاحب نے ٹاؤن ہال میں اطلاع دی تھی۔ آج بہ اتفاق چاندنی محل قرار پا گیا۔ وہ مکان اس قدر وسیع ہے۔ کہ جس میں ہزاروں آدمی کی گنجائش ہے۔ اور جناب شہزادہ مرزا اثریا جاہ بہادر و دیگر روساء شہر سے وہاں موجود ہوں گے اطلاعاً تحریر کیا آپ وہیں تشریف لائیں مگر یہ کہ چند یورپین صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ اور پولیس اپنا فرض منصبی (اقامت حفظ امن) کے ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں گے چونکہ فرش و شامیانہ وغیرہ کا انتظام کیا جائے گا آپ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے مکان میں فرش شامیانہ کے لیے بہت روپیہ صرف ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف نہ لائیں اس کی اطلاع خاص و عام کو دی گئی ہے۔ ابوسعید محمد حسین و ابو محمد عبدالحق۔

اس خط کے جواب میں آپ نے ۶ اکتوبر ۱۸۹۱ء کے عہد کو توڑ دیا۔

عہد را بہ شکست و پیمان نیز ہم

پر عمل کیا اور یہ نیا عذر پیش کیا کہ میں مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب سے مباحثہ نہ کروں گا بلکہ خاص جناب میاں صاحب مولوی سید نذیر حسین صاحب سے گفتگو کروں گا۔ ہاں مولوی ابوسعید صاحب ان کے معاون رہیں میاں صاحب کہیں بھول جائیں تو وہ بتادیں اور اگر میاں صاحب خاص اپنے ہاتھ سے تحریر سوال جواب نہ کریں تو ابوسعید صاحب ان کی تقریر کو تحریر

میں لائیں۔ اسی طرح مولوی عبدالحق صاحب بلکہ اور دو چار علماء ان کو مدد دیں۔ تو مضائقہ نہیں اس مضمون کا ایک خط بھی میاں صاحب کے نام کا خاکسار کو دیا جس کا جواب میں نے پہلے تو خود ہی میاں صاحب کی طرف سے زبانی دے دیا۔ اور ان کا وہ عذر توڑ دیا کہ آپ مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب سے مباحثہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ تو آئیں جناب میاں صاحب سے بحث کر لیں۔ ہم جناب میاں صاحب کو وہاں لائیں گے۔ اور وہی آپ سے بحث کریں گے۔ پھر جناب میاں صاحب کی طرف سے وہ اشتہار ۶ اکتوبر ۱۸۹۱ء جس میں سبھی شرائط قادیانی صاحب کو قبول کیا گیا ہے وہ ان کے پاس بھجوا دیا۔

ٹن ٹن کی آواز گھنٹہ گھر کی گھڑی کی کان میں آئی سب صاحبان نے گھڑیاں نکال کر دیکھا ۹ بجے۔

اس وقت چار پانچ ہزار آدمیوں کا مجمع چاندنی محل میں جمع ہے اور جملہ علماء اور رؤساء اور علماء فضلاء شہر حاضر ہیں پتہ کھڑکا اور گردن اٹھا کے دیکھا۔ ذرا آہٹ ہوئی اور جھانکا ہر ایک شخص ہمہ تن چشم ہتا ہوا چشم براہ ہے وقت مقرر گزر گیا اور مرزا صاحب کی تشریف آوری کا انتظار بدستور ہے۔ شہزادہ صاحب..... مرزا اثریاجہ بھائی، ہم تو شمل ہو گئے۔  
نواب صاحب..... واللہ آنکھیں آگئیں مگر وہ نہ آئے۔

ممتاز الدولہ صاحب..... (رئیس بھوپال) سبحان اللہ کیا کہا ہے سادہ کلام میں بھی شاعری۔  
حکیم صاحب..... کیوں نہ ہو یہ تو آپ کا ورثہ آباؤی ہے۔  
ڈپٹی صاحب..... یہ خیر ہوتی تو کھانا کھا کر آتے۔

نواب سید سلطان..... مرزا صاحب ہندوستانوں میں وقت کی قدر اور پابندی نہیں۔  
شہزادہ مرزا خورشید عالم صاحب..... درست فرمایا جناب نے۔

حکیم احمد سعید خان صاحب..... آپ گھاس کھا گئے ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنا کوئی وعدہ وفا کیا ہے۔ جواب آجاتے۔

حکیم محمد ناصر خان صاحب..... ناحق کا انتظار ہے وہ نہ آئے ہیں نہ آئیں گے۔

حکیم حسن رضا خان صاحب..... جب آپ لوگ مرزا صاحب کے عہد و بیان اور قول و اقرار سے واقف تھے تو اس سروردی کی ضرورت ہی کیا تھا۔ ناحق کی قطع اوقات۔

دیگر حاضرین جلسہ..... (معزز اور معتمدان ورؤساء بہ اتفاق) میاں تلبور اور وازہ باہد رسانید کوئی حجت باقی نہ ہے بجائے قرار پایا کہ کوئی صاحب مرزا صاحب کی خدمت میں جائے اور پیغام لے جائے۔

شہزادہ صاحب..... میری سواری بند گاڑی لے جائیں۔

حاجی نور احمد صاحب فشی قمر علی صاحب گاڑی میں سوار ہوئے مرزا صاحب کی  
فرد گاہ پر داخل۔

مرزا صاحب..... مجھ کو جواب اشتہار ۶ اکتوبر ۱۸۹۱ء جس میں مکان تاریخ کی تقرری ہے اب  
تک نہیں ملا اور ایک رقعہ اپنے حواری غلام قادر صاحب ڈیڑھ پنجاب گزٹ کے ہاتھ بھیجا۔  
نقل رقعہ

بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحمد و نصلى

بخدمت جناب مخدوم حضرت سید محمد نذیر حسین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسوس کہ اس عاجز سے بحث کے بارہ میں کوئی امر قرار  
پانے سے پہلے خود بخود مشہور کر دیا گیا کہ فلاں مقام میں بحث ہوگی حالانکہ طریق دیانت یہ تھا کہ  
جب تک صاف اور کھلے کھلے طور پر یہ تصفیہ نہ ہو جاتا کہ وفات حیات مسیح میں بحث ہوگی اور جب  
تک آپ اپنے خاص دستخطی رقعہ سے قبول شرائط کی اطلاع نہ دیتے اور مشورہ سے تاریخ قرار نہ پائی  
تب تک اشتہار جاری نہ کیا جاتا مگر میرے گمان میں ہے۔ کہ سب کارستانیاں بالابالا ظہور میں آئی  
ہیں اور غالباً آپ کو ان باتوں کی خبر بھی نہ ہوگی لہذا آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر  
درحقیقت آپ اس بات پر مستعد ہیں۔ جو اظہار حق کے لیے اس عاجز سے بحث کریں گے تو آپ  
اپنے ہاتھ سے تحریر فرمادیں۔ کہ کل شرائط مندرجہ ذیل آپ کو منظور ہیں۔ اور وہ شرائط یہ ہیں۔

۱..... بحث صرف مسئلہ حیات اور وفات حضرت مسیح ابن مریم کے بارے میں ہوگی اور کوئی  
دوسرا امر غلط بحث کی طرح درمیان میں نہیں آئے گا۔ صرف حیات وفات مسیح میں بحث ہوگی۔

۲..... دوسرے یہ کہ امن قائم رکھنے کے لیے آپ ذمہ دار ہوں گے میں مسافر اور اکیلا  
ہوں۔ اور لوگ خونی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور بنا لوی صاحب مجھے کافر و جال بے ایمان الفاظ  
سے یاد کرتے ہیں۔ یہ آپ اپنے ہاتھ کی تحریر سے مجھے مطمئن کر دیں کہ ہر ایک ہاتھ اور زبان کے  
ردکنے کے آپ ذمہ رہیں گے اور کوئی خلاف تہذیب امر اور بے جا حرکات کسی سے سرزد ہوئیں تو  
اس کی جواب دہی آپ کے ذمہ ہوگی۔ یہ صاف اور کھلی تحریر سے اقرار کرنا چاہیے۔ تاکہ میرے  
پاس سند رہے۔

۳..... تیسرے یہ کہ فریقین اپنے ہاتھ سے تحریر کریں۔ اول ہر ایک فریق تحریر کر کے حاضرین  
کو بلند آواز سے سنا دے اور ایک نقل اپنے بیان کے دستخط کے بعد دوسرے فریق کو دے دیں دوسرا



فریق اس کا جواب لکھ کر حاضرین کو سنا دے اور ایک نقل فریق ثانی کو دے دے۔ اگر یہ تمام شرطیں آپ منظور کر لیں اور اپنے ہاتھ سے رقم لکھ کر تینوں شرطوں کی منظوری سے مجھے اطلاع دیں۔ تو پھر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ والسلام علی من تبع الہدی۔ مرزا غلام احمد ۱۱ اکتوبر ۱۸۹۱ء

حاضرین جلسہ مضمون رقم کو سن کر یہ مرزا صاحب کا حیلہ گریز ہے۔ بلو جوہات ذیل سخت تعجب۔

- ۱..... جس حالت میں جواب اشتہار ۱۶ اکتوبر چھپ کر دہلی کے ہر گلی و کوچہ میں شائع و منتشر ہو چکا ہے اور چار معتبر ذریعوں سے وہ قادیانی صاحب کے پاس پہنچ چکا ہے۔ تو پھر اس کے بھیجنے سے قادیانی صاحب کا انکار کیوں کر درست اور صحیح ہو سکتا ہے؟
- ۲..... جب کہ وہ جواب قادیانی صاحب کو پہنچ چکا ہے اور اس میں جملہ شرط قادیانی کو بلا چون و چرا تسلیم کیا گیا ہے (جس پر انہوں نے اشتہار میں حاضری کا وعدہ دیا ہوا ہے) تو پھر قادیانی صاحب سے دوبارہ منظوری کا حاصل کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟
- ۳..... جس حالت میں پہلے اس خط میں پہلی شرائط کے سوا کوئی نئی شرط نہیں ہے بلکہ ان ہی شرط کا اعادہ ہے جن کو جواب اشتہار ۱۲ اکتوبر میں تسلیم کیا گیا تھا۔ تو پھر ان شرطوں کے اعادہ کی کیا ضرورت تھی؟

ان وجوہات سے تقریباً کل جماعت نے اس پر اتفاق کیا کہ اس خط کا کوئی جواب نہ دیا جائے۔ اور قادیانی صاحب کا مناظرہ سے گریز قرار دیکر جلسہ پر خاست کیا جائے۔

نواب سید سلطان مرزا..... نہیں ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے بلکہ ان کی آخری حجت کو بھی قطع کیا جائے۔ اور اس خط کا یہ جواب دیا جائے کہ آپ کی جملہ شرائط منظور ہیں آپ تشریف لائیں۔

نواب سعید الدین احمد خان صاحب..... میرا بھی اس پر صا د ہے۔

دیگر حاضرین..... بہت بہتر تابدروازہ باید رسائید۔

رقمہ لکھا گیا اور ہمدست حاجی محمد احمد صاحب و نور احمد صاحب و حواریان قادیانی صاحب بھیجا گیا۔

نقل رقمہ

بنام گرامی مرزا غلام احمد صاحب۔

بعد سلام سنون آپ کا رقمہ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۸۹۱ء بدست غلام قادر صاحب اڈیشہ پنجاب گزٹ سیالکوٹ وصول ہوا جس میں تین شرطیں حسب مندرجہ ذیل ہیں۔

- .....۱ بحث صرف حیات و وفات صبح میں ہو۔
- .....۲ امن قائم رکھنے کے لیے آپ ذمہ دار رہیں گے۔
- .....۳ فریقین اپنے اپنے ہاتھ سے تحریر کریں۔
- جواب تحریر ہے کہ تینوں شرطیں منظور ہیں۔ اس قدر ترمیم کے ساتھ کہ راقم بسبب پیرانہ سالی کے اپنے ہاتھ سے نہیں تحریر کر سکتا۔ جس کو آپ اپنے رقعہ ۱۰ اکتوبر ۱۸۹۱ء میں تسلیم کر چکے ہیں۔ یہاں سب انتظاری ہیں اظہار و اتحاق حق کے لیے جلسہ میں تشریف لائیے ورنہ معلوم ہوگا کہ آپ وقت نالنا چاہتے ہیں۔

حاجی محمد احمد صاحب نے مرزا صاحب کی خدمت میں رقعہ پیش کیا۔

مرزا صاحب..... نہیں صاحب میں نہیں جاؤں گا وہاں جانے میں مجھے اپنی جان کا خوف ہے اور رقعہ بھی تحریر کیا۔

حاجی محمد احمد صاحب..... (تسلی اور وعدہ اطمینان دے کر) آپ کی حفاظت کے واسطے شہزادہ صاحب کی محفوظ سواری موجود ہے اور ابھی ان کے چار سوار حفاظت کے واسطے اور آسکتے ہیں اور مجلس میں پولیس موجود ہے اور جلسہ میں معزز رؤساء اور مجسٹریٹ شامل ہیں۔

مرزا صاحب..... نہیں صاحب مجھ کو اطمینان نہیں میری جگہ میرا رقعہ حتمی منکار لے جائیے۔

نقل رقعہ مرزا صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم مری حضرت مولوی سید نذیر حسین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

آپ کا رقعہ پہنچا چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آج جوش عوام کا حد سے بڑھا ہوا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس جوش کی حالت میں کسی مفسدے کا اندیشہ ہے۔ اور ایک شخص مجھ کو کہہ گیا ہے۔ کہ میں محض خیر خواہی کی راہ سے کہتا ہوں کہ عوام کی نیت فساد پر ہے لہذا یہ تجویز قرار پائی ہے۔ کہ میرے دوست مولوی غلام قادر صاحب ڈپٹی کمشنر کے پاس جا کر آپ کی تحریر ذمہ داری سے اطلاع دے دیں۔ کہ مولوی سید نذیر حسین صاحب بحث کریں گے اور امن قائم کرنے کے ذمہ دار ہو چکے ہیں اور یہ بھی التجا اور درخواست کریں گے کہ صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر بھی اپنی طرف سے امن قائم رکھنے کے لیے کچھ مدد کریں۔ یا آپ سے دریافت کر کے اطمینان کر لیں بعد اطلاع صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر آپ کو باقاعدہ اطلاع دی جائے گی۔ پھر ایک تاریخ مقرر ہو کر اسی تاریخ کا اشتہار شائع کر کے جلسہ ہوگا۔ اس اشتہار میں فریقین کے دستخط ہوں گے۔

العبد مرزا غلام احمد قادیانی ۱۱ اکتوبر ۱۸۹۱ء



۷..... ”جبرائیل علیہ السلام جو انبیاء کو دکھائی دیتا ہے۔ وہ بذات خود زمین پر نہیں اترتا اور اپنے ہیڈ کوارٹر (یعنی صدر مقام) نہایت روشن تیز سے جدائیں ہوتا بلکہ اس کی تاثیر نازل ہوتی ہے اور اس کے عکس سے ان کی تصویر ان کے دل میں (یعنی انبیاء) کے منقوش ہو جاتی ہے۔“

(توضیح الہام ص ۶۸، خزائن ج ۳ ص ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹)

۸..... ”آیت متضمن ذکر سجدہ آدم میں آدم کی طرف سجدہ کرنا مراد نہیں ہے۔ بلکہ ملائک کا انسان کامل کے خدمت بجالانا اور اس کی اطاعت کرنا مراد ہے۔“ (توضیح الہام ص ۴۹، خزائن ج ۳ ص ۶۷، ۶۸) یعنی سجدہ حضرت آدم کی کچھ خصوصیت نہیں ہے بلکہ مرزا صاحب بھی مسجود و مخدوم ملائک ہیں۔

۹..... ”لیلۃ القدر سے رات مراد نہیں ہے بلکہ وہ زمانہ مراد ہے جو بوجہ عظمت رات کے ہمرنگ ہے اور وہ بھی یا اس کے قائم مقام سجدہ کے گزر جانے سے ہزار مہینے کے بعد آتا ہے۔“

(فتح الاسلام ص ۵۳، خزائن ج ۳ ص ۳۲، ۳۳)

۱۰..... ”پیشگوئیوں کے سمجھنے کے بارہ میں انبیاء سے بھی امکان غلطی ہے۔ تو پھر امت کا کوارنہ اتفاق یا اجماع کیا چیز ہے۔“

اب ذرا غور و انصاف کریں کہ اہل اسلام کے بھی اعتقاد ہیں۔ جو مرزا صاحب نے لکھے ہیں۔ اور انہیں اعتقادوں کے ظاہر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے یہ بھی الہام مرزا صاحب کو ہو رہا ہے۔ یہ تو طحیروں کی پرانی گھڑت ہے جیسا کہ مرزا صاحب کی قلم سے نکلیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں جس کو الہام کہا جائے۔ کوئی الحادی بھی ہوتی مگر نئی ہوتی تو بھی الہام کا شبہ ہو سکتا تھا۔ فالہموا فجو رہا مگر ان سڑی بھنی گھڑتوں کو کون دل کا اندھا کہے گا۔ مدت ہوئی۔ کہ علماء اہل اسلام اس کی وہجیاں اڑا چکے ہیں۔ مگر الحمد للہ اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مرزا صاحب پر الزام نہیں لگایا گیا ہے۔ بلکہ جو اعتقاد انہوں نے لکھے ہیں یہ ان کا اظہار کیا گیا ہے۔

تقریر ختم ہوئی اور حاضرین جلسہ سے خصوصی علمائے دین جو اس جلسہ میں شامل تھے رائے لی گئی۔

کل علماء دین کے بالاتفاق مرزا صاحب کے الحاد اور تکفیر پر اپنی رائے ظاہر کی اور فتویٰ تحریر ہوا علماء کے دستخط اور مواہیر شہت کرائی گئیں جلسہ برخواست ہوا۔

## باب ۲۷ بست و ہفتم

مولانا عبدالمجید دہلوی سے خط و کتابت

تقریباً وعدہ جاناں میں سو سو بار ہوتا ہے  
کبھی اقرار ہوتا ہے کبھی انکار ہوتا ہے

۱۳ اکتوبر ۱۸۹۱ء کو منشی غلام قادر صاحب ڈیڑھ پنجاب گزٹ سیالکوٹ اور امیر علی شاہ  
حواریان مرزا صاحب..... حضرت مولانا صاحب شیخ الکل کی خدمت میں پہنچے اور خط مرزا  
صاحب قادیانی کا پیش کیا۔

مولانا صاحب..... مجھ کو اس قدر فرصت نہیں۔ کہ اس کو پڑھوں اور اس کا جواب دوں۔ مولوی ابو  
سعید محمد حسین صاحب اور مولوی عبدالمجید صاحب کے پاس آپ لے جائیں وہ اس کو پڑھ کر  
جواب لکھ دیں گے۔ آپ وہی جواب مرزا صاحب کو دے دینا وہ جواب میری طرف سے تصور  
فرمائیں۔ موصوفین مولوی صاحبان موصوفین کے پاس گئے اور خط مذکور پیش کیا۔

### خلاصہ رقعہ مرزا صاحب

۱۱ اکتوبر ۱۸۹۱ء کے جلسہ میں بوجہ خوف میں حاضر نہ ہو سکا۔ اب پولیس وغیرہ کا میں  
نے اپنے طور پر انتظام کر لیا ہے۔ ۱۸ اکتوبر ۱۸۹۱ء کو آپ گھنگو کے واسطے تیار ہیں۔  
مولانا صاحب کی طرف سے حاشیہ جواب خط پر تحریر ہوا۔ میری طرف سے آپ کی تحریر  
کا جواب مولوی ابو سعید صاحب اور مولوی عبدالمجید صاحب دیں گے۔ مجھ کو اپنے خطاب سے  
معاف رکھیں۔

### جواب خط کہ مرزا صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم! از  
خاکسار عبدالمجید بخدمت گرامی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی زادہ لطفہ بعد سلام کہ جمیت اسلام  
ہے واضح رائے عالی ہو۔ آپ کا رقعہ مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۸۹۱ء خدمت میں حضرت شیخنا مولانا شیخ  
الکل مولوی سید محمد نذیر حسین صاحب پہنچا حسب الحکم جناب ممدوح جواب اس کے گزارش ہے کہ  
اس کو دیکھ کر کمال حیرت و تعجب اور انوسوں اور غیرت جناب کے حال سے ہوئی۔ آپ تو اپنی تصحیح  
اوقات اس خیال میں ایک مدت سے کر رہے ہیں۔ اور اب اور بندگان خدا کی بھی اوقات عزیز

میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں۔ اشتہار ۲۲ اکتوبر ۱۸۹۱ء سے یہ سمجھا گیا تھا کہ فی الحقیقت آپ کو تحقیق مسئلہ منظور ہے۔ بنا برآں ۲۲ اکتوبر سے ۱۱ تک کوئی دقیقہ اتمام حجت کا ایسا نہیں چھوڑا جواب باقی ہو اب سوائے افسوس اور دعائے خیر کے اور کوئی بات آپ کے حق میں کرنی باقی نہیں ہے۔ اس عرصہ میں جو جو نیرنگیاں خلاف حق و انصاف آپ سے ظہور میں آئیں وہ ظاہر ہیں۔ کہ آپ کو مجادلہ و مقابلہ و شہرت کے سوائے احقاق حق سے کچھ سروکار نہیں۔ کیوں جناب دوسری اکتوبر کے اشتہار میں آپ نے یہ وعدہ نہیں لکھا تھا۔ کہ اگر وہ شرائط مذکورہ بالا منظور کر کے مجھے طلب کریں تو جس جگہ چاہیں میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس بات کو سچ اور طالب حق جان کر بعد قبول شرائط مقررہ آپ کی بدست چھ اشخاص معززین و معتبرین ایک خط جناب میاں صاحب نے آپ کے پاس بھیجا جس سے کامل امید تھی کہ بعد معائنہ اس خط کے کوئی عذر نہ کریں گے مگر آپ نے ترمیم شرط اول کا حیلہ کر کے انکار کر دیا پھر چند حالتیں رقعہ جناب نواب سعید الدین احمد خان صاحب و جناب حکیم عبد المجید خان صاحب وغیرہم نے کہا کہ ہم ہر طرح ذمہ داری کی تحریر آپ کو دیتے ہیں۔ مگر آپ نے ہرگز نہ مانا جس سے مایوس ہوئے اور معلوم ہوا کہ جناب کا مقصود احقاق حق نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ۶ تاریخ کا اشتہار ۱۷ اکتوبر ۱۸۹۱ء کو پھر مشہر کیا اور ان میں جناب میاں صاحب کے خط اور حاملین رقعہ کی گفتگو اور اپنے انکار کا بالکل ذکر نہیں کیا (جو دیانت اور انصاف سے مراحل دور ہے) اور اس اشتہار میں چند باتیں اور بڑھادیں۔

۱..... مولوی سید محمد نذیر حسین صاحب مجھ کو بوجہ اعتقاد وفات مسیح ابن مریم ملحد اور اپنے بھائی حنیفوں کو بدعتی اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کو ظلم حدیث سے بے خبر قرار دیتے ہیں۔ و ہذا بہتان العظیم!

۲..... مولوی ابو محمد عبدالحق صاحب کی گفتگو سے اعراض۔

۳..... افسرانگریزی کی عدم موجودگی کے جلسہ میں بحث منظور ہے۔

۴..... مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے درخواست مناظرہ۔

۵..... درخواست شیوع حلقی اشتہار۔

۶..... ہدایت پر تو اضع و عاجزی و اکسار۔

۷..... حضرت میاں صاحب کی مسجد میں حاضری کا اقرار۔

اگرچہ بعد معائنہ اس اشتہار کے آپ کے حال و قال پر زیادہ واقفیت ہو گئی تھی مگر

برائے اطمینان مطلق اور اتمام حجت اس اشتہار کی تحریر کے بموجب ایک اشتہار منظوری شرائط قطعی شائع کر دیا گیا گو آپ تو مسجد میں آنے کا اقرار کر چکے تھے تاہم جناب شہزادہ مرزا اثربا جاہ صاحب کو تکلیف دی گئی۔ اور ان کا مکان چاندانی محل جس میں ۱۳ ہزار آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش ہے لیا۔ اور بموجب اجازت و وعدہ مشتمل آپ کے اشتہار ۲، ۱۶ اکتوبر یوم یکشنبہ کو جلسہ مقرر کر دیا۔ اور یہ حلقی اشتہار ایک تو اول مرتبہ آپ کو بدست مولوی عزیز الحسن صاحب بھیجا گیا۔ دوسری دفعہ خود مولوی محمد حسین صاحب آپ کے آدمی امیر علی شاہ صاحب سیالکوٹی کو دے آئے۔ تیسری مرتبہ خاکسار نے امیر علی شاہ صاحب کو دیا۔ چوتھی مرتبہ مولوی محمد دین صاحب آپ کو دے آئے اور احتیاطاً ۱۰ اکتوبر ۱۸۹۱ء کو ایک خط بھی قلمی یہ خاکسار و مولوی عبد الحمید صاحب و مولوی عبدالغنی صاحب، عبدالحق صاحب سو داگر و حاجی نور احمد صاحب دے آئے جس کے جواب میں پھر آپ نے کچھ حیلہ حوالہ لکھا جس کا جواب اسی دن شام کو یہ خاکسار قریب مغرب بھر اسی مولوی عبد الحمید صاحب آپ کے مکان پر دے آیا۔ باوجود ان تمام باتوں کے شب کو یہ خاکسار پھر آپ کے پاس گیا اور آپ نے پھر کچھ لکھا جس کو صاف کرتے ہوئے چھوڑ آیا۔ اور آپ کے آدمیوں نے کہا تھا کہ ہم صبح کو بہت سویرے پہنچا دیں گے مگر نہ وہ تحریر آئی اور نہ وقت مقرر پر باوجود بار بار تاکید کے آپ تشریف لائے آخر کار آپ کے واسطے شہزادہ صاحب بہادر کی سواری اور تین آدمی حاجی نور احمد صاحب و سید قمر علی صاحب و سید آغا حسین صاحب لینے گئے اس پر بھی آپ تشریف نہ لائے (ان تحریرات اور تقریر کا اعادہ کیا گیا ہے جو پہلے تحریر ہو چکی تھی) لاچار ایک بجے جلسہ برخواست کر دیا گیا اب جو عام شہر میں اور آپ کی حق جوئی کا قصہ گھر گھر پھیل گیا تو آپ نے یہ رقعہ ۱۲ اکتوبر ۱۸۹۱ء جناب شیخنا کے نام ارسال فرمایا اس سے وہ دھبہ جو آپ کے دامن پر لگ چکا ہے۔ دھویا نہیں جاسکتا کیا اس خط سے وہ وعدہ خلافیاں جو آپ سے وقوع میں آئیں دور ہو سکتی ہیں؟ کیا اشتہار ۲، ۱۶ اکتوبر ۱۸۹۱ء اور درمیان کی کارروائی جس میں آپ نے مجلس مناظرہ میں آنے سے انکار کیا ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی نہیں ہیں؟ کیا ان رقعات میں آپ کا انکار موجود و مرقوم نہیں ہے پھر اب کیا ممکن ہے۔ کہ اس خط سے یا دوبارہ دعویٰ مناظرہ پر یہ دھبہ دھویا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا اگر آپ کو پھر گفتگو کا خیال ہے تو ہم لوگ حاضر و موجود ہیں۔ جب اپنی ذمہ داری کے ساتھ مکان وغیرہ کا انتظام کر کے اطلاع دیں۔ اور ہم سے جس کو آپ پسند کریں وہ آپ سے گفتگو کے لیے حاضر و مستعد ہے۔ جناب شیخنا و شیخ الملک مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب کی شان اس سے ارفع اعلیٰ

ہے۔ آپ دوبارہ گفتگو کے لیے تکلیف دیں بلکہ آئندہ آپ کسی قسم کی خط و کتابت سے مولانا صاحب سے نہ کریں جو کہنا اور لکھنا ہو ہم سے کہیں اور ہم کو لکھیں۔ آپ نے اپنے خط کے اخیر میں ایک نئی شرط اور بڑھائی ہے اس کا اور دیگر شرائط ضرور یہ کا تصفیہ پبلک کی رائے سے ہوگا۔ ان شروط کو جلسہ میں پیش کیا جائے گا۔ جس امر پر کثرت رائے ہوئی اس کو ماننا پڑے گا بذریعہ تحریر ان شروط کا تصفیہ ناممکن ہے۔ والسلام عبدالمجید ۱۳ اکتوبر ۱۸۹۱ء

(مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب کی جانب سے) ”خاکسار کا بھی اس جواب پر صاد ہے۔ اور اس پر یہ مستزاد ہے کہ آن قطرہ بہ ایران رسید۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت اب ہزاروں دعویٰ کریں اور بیسوں خط لکھیں وہ الزام گریز آپ سے اٹھ نہیں سکتا لہذا آپ کو مناظرہ کا دعویٰ ہے تو جب چاہیں ہم سے مناظرہ کر لیں۔ جناب شیخنا و شیخ الکل سے اب مناظرہ کا نام لینا موجب شرم ہونا چاہیے۔ ابوسعید محمد حسین بنالوی ۱۳ اکتوبر ۱۸۹۱ء  
یہ خبر پھر شہر میں مشہور اور گھر گھر ہے۔ کہ مرزا صاحب نے پھر مناظرہ کا اقرار کیا۔

۱۸ اکتوبر کی صبح سے ہر گلی کوچہ میں ہلڑا مچا ہوا تھا۔ جوق جوق اور غول غول مردمان مولوی عبدالمجید صاحب کے مکان پر آتے ہیں اور وہ جاتے ہیں۔

..... کہئے جناب آج مناظرہ ہوگا قبلہ۔

مولوی صاحب..... بھائی صاحب نہیں۔ خود انتظار میں ہوں ابھی تک کوئی خبر نہیں نکلی۔

۲..... حضرت مولانا صاحب..... فرمائیے کیا بات قرار پائی وقت اور مکان مناظرہ کے لیے کون مقرر ہوا؟

مولوی صاحب..... ابھی تک مرزا صاحب کی طرف سے کوئی خبر یا اطلاع نہیں آئی میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ مولوی صاحب لوگوں کے سوال و جواب سے تنگ آ کر ۱۰ بجے کے قریب لوگوں کے ساتھ اٹھ کر مطبخ فاروقی میں گئے اور بہ معیت میاں محمد صاحب مہتمم مطبخ مذکور نے مرزا صاحب کو رقعہ بھیجا۔

رقعہ

بخدمت گرامی جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی دام لطفہ

بعد سلام کو سنت اسلام ہے کہ واضح رائے عالی ہوا حق حاضر سے تو بسبب کوتوالی کے پہرہ کے جو جناب نے اپنے مکان پر لگا رکھا ہے۔ معذور ہے ۱۸ اکتوبر یوم شنبہ کو آپ نے لکھا تھا کہ مکان اور انتظام کر کے گفتگو کروں گا۔ صبح سے انتظار ہے۔ کہ اگر آج بھی کوئی سبب خاص مانع



ہے۔ تو براہ نوازش مطلع فرمائیں۔ اور امید کہ آپ احقر کے اشتہار ۱۳ ربيع الاول ۱۳۰۹ھ کے جواب باصواب سے بھی ممنون فرمائیں گے والسلام علی من تبع الهدی۔

خاکسار آپ کا خادم محمد عبد الجبید مالک مطیع انصاری  
دہلی ۱۸ اکتوبر ۱۸۹۱ء دفتر مطیع انصاری دہلی

مرزا صاحب..... بعد ملاحظہ خط ایک اشتہار مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۸۹۱ء میاں محمد صاحب کو دے کر مولوی صاحب سے کہہ دیں یہی آپ کا جواب ہے۔

راوی..... ہم کو وہ اصل اشتہار باوجود تلاش نہیں ملا مگر اس کا خلاصہ جس کی سرخی یہ ہے۔

ہم تو سمجھے تھے کہے گا کوئی بات لطیف

پر تیرا نامہ تو ایک شور کا دفتر نکلا

یہی فہرات شب دستم جو مولانا صاحب کی نسبت ہیں۔ ہماری نظر سے گزرا خلاف

تہذیب اور خارج از مطلب سمجھ کر قلم انداز کیا گیا۔

### باب ۲۸ بست ہشتم

مولانا عبد الجبید دہلوی سے مناظرہ

پھر شب عیش و طرب ہو وہی چرچا پھر ہو

وہی ساتی وہی ساغر وہی صہبا پھر ہو

آج دہلی کی جامع مسجد میں بڑا مجمع ہے۔ ایسا تو کبھی جمعہ کیا، جمعہ الوداع میں بھی نہیں

ہوتا۔ مسجد کے اندر اور صحن میں سڑکوں تک آدمی ہی آدمی ہے۔ جگہ کی تنگی کے سبب نظر بھی دخل نہیں

پاتی آج تو جمعہ بھی نہیں مشکل ہے۔ مسلمانوں کے سوا اور قوم کے آدمی بھی نظر آتے ہیں۔ جمعہ کا تو

وقت بھی گزر چکا۔ اور آدمی جمع ہیں۔ اور لوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ مسٹر ہائیڈ صاحب بہادر شی

پہر ٹنڈنٹ اور سید بشیر حسین صاحب انسپکٹر اور ایک بڑی جماعت پولیس کی دردی ڈالے ہتھکڑی

حائل کیے ڈنڈا ہاتھ میں لیے موجود ہیں الہی خیر آج کیا ہے ٹنڈنٹ گھنٹہ گھر کی گھڑی نے دو بجائے۔

حضرت مسیح موعود، مہدی مسعود و فرشتوں (حواریان) کے کاندھے پر ہاتھ کا سہارا دیئے ہوئے۔

مسجد کی سیڑھیوں پر قدم مبارک رکھا اور حواری ارد گرد چاند کے گرد ستاروں کی طرح ہجوم کیے ہوئے

اور پڑھے (مرزا صاحب آئے کے شور کی آواز سے مسجد گونج گئی) مسجد میں داخل ہوئے اور

درمیانی دائیں بائیں جانب بیٹھ گئے لوگ زیارت کے واسطے گرد ہیں سایہ کئے ہوئے نظر دوڑا رہے

تھے۔ ابھی نظارہ زیارت سے سیر نہ ہوئے تھے کہ گھڑی نے تین بجائے ابھی چار نہیں بجے تھے کہ مؤذن نے صدائے اللہ اکبر بلند کی اور ایک طرف آدمیوں میں بل چل پیدا ہوئی۔ آدمیوں کو چہر کر راستہ کیا گیا حضرت مولانا استاد و عرب و عجم شمس العلماء و فضلاء علماء شہر و امرا و انصار جو بیشتر ہی موجود تھے مولانا صاحب کا تشریف لانا تھا کہ اقامت کہی گئی جماعت کے ساتھ چار ہزار آدمیوں نے نماز عصر ادا کی مگر حضرت مسیح زمان معہ حواریان امام کے آگے بیٹھے رہے بعض مسکین نے ان حضرات کو شرکت جماعت کے لیے کہا مگر یہ سب کے سب اسی طرح بیٹھے رہے بعد ادائے نماز عصر جناب مولوی عبدالجید صاحب و سید بشیر حسین صاحب انسپکٹر پولیس و نواب سعید الدین احمد خان صاحب بہادر منجانب مولانا صاحب (حضرت شیخ النکل) مرزا صاحب کے پاس گئے۔

انسپکٹر صاحب..... حسب قرار داد مولانا صاحب آپ لکھ ویں اگر جناب مولانا صاحب نے میرے دلائل تکلف رد کر دیے تو میں توبہ اسی مجمع میں کروں گا۔

مرزا صاحب..... خاموش۔

حوار تین..... (گھبرا کر اور کھڑے ہو کر) ایک سال کے بعد توبہ کریں گے۔ مگر اس میں یہ شرط ہے کہ اگر جناب مرزا صاحب کی بددعا کا اثر نہ ہوا۔

حاضرین جلسہ..... (چند آوازیں) یعنی اگر ایک سال کے اندر مولانا صاحب کو نصیب دشمنان بخارا گیا یا در دسر ہو گیا تو توبہ نہیں کریں گے۔

ظریف..... چلو نمبر کے مہینے میں تبدیل موسم کی وجہ سے نزلہ و زکام تو ایک طبعی لہجہ ہے اور اس پر اندہ سالی سوا سو برس کی عمر میں تو لا بدی۔

پیران نئے پرند مریدان سے پراند  
صاحب سٹی سپریڈنٹ ہنس کر یہ تو کوئی کام کی بات نہیں آپ کی اس بات کو تو کوئی بھی  
منظور کر سکتا۔

مولوی عبدالجید صاحب..... صاحب ہم آپ کو ٹالٹ مقرر کرتے ہیں آپ ان سے دریافت کریں کہ بموجب تحریر مولانا صاحب آپ اپنے عقائد کا ثبوت بیان کر سکتے ہیں اور در صورت عدم تسلیم مولانا صاحب کی قسم اور حلف پر اس وقت توبہ کریں گے یا نہیں۔ ہم بات بڑھاتے نہیں۔ چاہیے نہ وقت ٹالنا۔

صاحب بہادر..... (مرزا صاحب اور ان کے اعوان سے) تم لوگ کیوں بات بڑھاتے ہو۔ ایک بات مختصر کہو کہ ہم کو یہ بات منظور ہے کہ نہیں۔

مرزا صاحب..... ہم صرف حیات و ممات مسیح میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔

مولوی صاحب..... اس مسئلہ حیات و ممات میں بھی اور آپ کے کل عقائد کا ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کیوں ایک مسئلہ کا فیصلہ کریں۔ جب آپ کے بہت سے عقائد خلاف اہل اسلام ہیں۔

اور بڑا دعویٰ تو آپ کو مسیحائی کا ہے آپ اس کا کچھ ثبوت دے سکتے ہیں یا نہیں۔

صاحب بہادر..... وہ دیگر رؤساء بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے۔

مرزا صاحب..... (وہی معمولی جواب) نہیں ہم تو حیات و وفات مسیح میں بحث کریں گے۔

مولوی صاحب..... پبلک کی رائے پر آپ کیوں نہیں فیصلہ کرتے۔

حوارین..... پبلک آپ کے ساتھ ہے۔

صاحب بہادر..... آپ مسیح موعود ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو ثبوت پیش کریں فرض کریں کہ مسیح مر گئے۔ تو اس حالت میں سب لوگ برابر ہیں آپ کو کیا زیادہ حق ہے کہ آپ کو مسیح سمجھا جائے بہر صورت آپ کو اپنے دعوے کا ثبوت دینا ضروری ہے۔

مرزا صاحب..... خاموش جواب نداد۔ یہ چپ ہوا ہے گویا نہیں زبان منہ میں۔

مولوی صاحب..... (بلند آواز سے صاحبو خاموش) ہم ہر مسئلہ میں گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے

پاس اگر کوئی شرعی برہان ہے تو لائیے (بہت بلند آواز سے ہاتھ تو ابراہان کم ان کنتم صادقین۔

غلام قادر صاحب حواری..... (صاحب پرنٹنڈنٹ سے) دیکھیے صاحب یہ لوگوں کو سناتے ہیں۔

صاحب بہادر..... کیوں نہ سنائیں۔

خواجہ محمد یوسف..... (دیکھ کر غلٹہ منجانب مرزا صاحب مولوی صاحب سے) حضرت ایک شخص

مسلمان ہوتا ہے۔ کیوں اسے مسلمان نہیں کرتے۔

مولوی صاحب..... اگر توبہ کرے ہمارا بھائی ہے۔

خواجہ صاحب..... میں ابھی ان سے توبہ نامہ لکھوائے لیتا ہوں۔ وہ لکھ دیں گے کہ جو کچھ قرآن و

حدیث کے خلاف میں نے لکھا ہے وہ مردود ہے اور میں مسلمان ہوں۔

مولوی صاحب..... اگر وہ بغیر کسی مغالطہ کے ایسا لکھیں تو ہم ابھی منظور کرتے ہیں۔

مرزا صاحب..... توبہ نامہ لکھنے لگے مگر ویسا ہی لکھا جیسا کہ ۱۲/ اکتوبر ۱۸۹۱ء کے اشتہار میں شائع

کر چکے ہیں۔

مولوی صاحب یہ تو مرزا صاحب پہلے ہی لکھ چکے ہیں۔ لکھنا تو یہ چاہیے کہ جو عقائد خلاف

اہل اسلام میں فی فتح الاسلام اور توحیح مرام اور ازالہ اہام میں لکھے ہیں۔ ان سے توبہ کرتا ہوں۔

خواجہ صاحب..... مرزا صاحب نے کوئی امر خلاف اہل اسلام نہیں لکھا مگر سمجھنے کا فرق ہے۔  
مولوی صاحب..... اچھا مرزا صاحب ہم سے گفتگو کر لیں۔ کہ یہ عقائد خلاف قرآن وحدیث ہیں  
یا نہیں۔ ہم ابھی ان کی کتابیں پیش کرتے ہیں۔  
مرزا صاحب..... ہم گفتگو نہیں کرتے۔

اراکین جلسہ..... یہ جلسہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ اپنے عقائد کا ثبوت بیان کریں۔ مولانا سید محمد نذیر  
حسین صاحب تسلیم کریں۔ یا حلف سے ان کا خلاف قرآن وحدیث بیان کریں۔ تو آپ توبہ کریں۔  
مرزا صاحب..... ہم صرف حیات وممات مسیح میں تحریری ثبوت چاہتے ہیں (رومال سے عرق جنیں  
پاک کر کے) اور کوئی گفتگو نہیں کرتے۔

اراکین جلسہ..... یہ جلسہ مجمع تحریروں کے لیے منعقد نہیں ہوا یہ کام تو گھر بیٹھے ہی ہو رہے ہیں۔  
جب آپ ثبوت دعویٰ نہیں کرتے تو خلقت کو رخصت کر دینا چاہیے۔

نواب سعید الدین احمد خان صاحب..... (اراکین جلسہ سے) اچھا کچھ نہیں تو مرزا صاحب صرف  
ممات مسیح میں اپنے دلائل پیش کریں۔

مرزا صاحب..... (زبان کو ہونٹوں پر پھیر کر اور ایک گھونٹ پانی کا پانی کر) ہم تو صرف مولانا  
صاحب سے تحریری ثبوت چاہتے ہیں۔

اراکین جلسہ..... اگر آپ گفتگو اور فیصلہ سننا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب اور ان کے تلامذہ تیار  
ہیں۔ خلاف مقصود تحریروں کے لیے یہ جلسہ نہیں ہے۔

خواجہ صاحب..... میں مرزا صاحب کی ایک تحریر سنا تا ہوں۔

مولوی صاحب..... آپ اس بات کا مجاز نہیں رکھتے۔

خواجہ صاحب..... آپ نہ بولیں (کھڑے ہو کر) میں ضرور سناؤں گا۔

مولوی صاحب..... آپ سنائیں ہم ہر ایک جملہ کارڈ کر دیں گے۔

صاحب سپرینٹ..... (خواجہ صاحب کو روک کر) آپ ایسا نہیں کر سکتے اور مولوی عبدالجید صاحب  
سے کہا آپ لوگوں کو پکار کر کہہ دیں۔ رخصت سب لوگ جاؤ مرزا صاحب گفتگو نہیں کرتے۔

مولوی صاحب..... صاحبو! جلسہ برخاست مرزا صاحب اپنے دعوے کا ثبوت نہیں بیان کرتے۔

صاحب سپرینٹ..... (مولوی نذیر حسین صاحب سے بھی) کہہ دیجیے۔ کہ جلسہ برخاست۔

انسپکٹر صاحب..... (مولانا صاحب کی خدمت میں آ کر) جلسہ برخاست مرزا صاحب گفتگو نہیں  
کرتے پھر انسپکٹر صاحب اور صاحب سٹی سپرینٹ پولیس نے مرزا صاحب سے کہا تشریف لے

جائیے اب بیٹھنا بے کار ہے۔ مرزا صاحب کو صاحب بہادر پولیس کی حفاظت میں ان کی گاڑی تک پہنچا دیا۔ مسجد میں سناٹا ہو گیا۔

۱..... انہوں نے آج بھی لوگ محرم ہی گئے۔ مگر آج تو بہت بری ہوئی مرزا صاحب آج چمنس کیسے گئے۔ یہ تو دم میں آنے والی اسامی نہیں تھی۔ ایک مہینہ ہو گیا اشتہار بازی بھی ہوتی رہی مگر مقابلہ پر ایک دفعہ بھی آتے نہ دیکھا۔ جس کی کہ مزید تیاریاں ہوں۔

۲..... اس سے پہلے جو اشتہار جاری ہوا تھا۔ اس میں میاں صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ مرزا صاحب دھوکہ میں آگئے۔ کہ شاید وہ نہ آئیں۔ تو پھر میدان ہمارے ہاتھ رہ جائے گا۔ میاں صاحب نے بایں ہمہ پیرانہ سالی اور ضعیف العمری کے کوئی حجت باقی نہیں رکھی۔

۳..... آج تو مرزا صاحب کے منہ پر زردی چہرہ پر مردنی چھا گئی۔ ہونٹوں پر خشکی کے مارے پڑیاں جم گئی تھیں۔ خشک زبان سے بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ دل میں تو بہت بچھتاے ہوں گے میں کہاں آپنسا۔ اپنے پاؤں پر آپ کھلاڑی مار لی۔ جاتی بلا اپنے گلے ڈال لی۔

ہر کس از دست غیر نالہ کند

سہری از دست خویشم فریاد

۴..... میاں آج تو جس حالت سے گئے ہیں تمام عمر ہی یاد رکھیں گے۔

کلنا غلہ سے آدم کا سنتے آتے تھے لیکن

بہت بے ابرو ہو کر تیرے کوچہ سے ہم نکلے

۵..... میاں ایسی کیا ضرورت تھی۔ یہ لوگ بھی دیوانہ ہو گئے ہیں۔ آزمودہ را آزمودن جہل

است۔ جب مرزا صاحب نے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ہمیشہ مناظرہ کو ہزار بات اور ہزار جیلہ سے نکال کر نکال دیا اب کیا امید تھی۔ اور کس بھروسہ پر لوگ بھاگے چلے آتے ہیں۔ اپنے اوقات عزیز کی تفتیح کرتے ہیں۔

۶..... تم نے سنا ہوگا۔ اور اشتہارات تو دہلی کی دیواروں پر لگے دیکھے ہوں گے قطع حجت کے

واسطے کہ عوام دھوکہ میں نہ پڑ جائے۔ حضرت میاں صاحب نے مرزا صاحب کی ہر ایک درخواست

کو منظور کیا۔ اس مرتبہ یہ درخواست تھی۔ کہ اگر میاں صاحب بھٹ کرنا نہیں چاہتے۔ تو میرے

دلائل و قات مسج ایک مجلس میں اللہ جل شانہ کی تین قسم کھا کر یہ کہہ دیجیے۔ کہ دلائل صحیح نہیں ہیں جس

سے عوام لوگ یہ سمجھیں کہ گویا جناب شیخ النکل مرزا صاحب سے مناظرہ نہیں کرتے۔ اس کا جواب

حضرت مولانا صاحب نے بذریعہ رقعہ منظور فرمایا شرائط مرزا صاحب کو لکھا۔

خط و کتابت در بارہ مناظرہ مندرجہ بالا

بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم

بمطالعہ گرامی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سلمہ

دشنام غلطی راندہم جز دعا جواب

اہرم کہ تلخ گیرم و شرین عوض دہم

بعد سلام مسنون مدعا یہ ہے کہ آپ کا اشتہار مورخہ ۱۷ اکتوبر، ۱۸ اکتوبر کو میرے پاس پہنچا اس میں ۲ اکتوبر، ۶ اکتوبر کے اشتہار سے علاوہ کلمات مہذبانہ صرف ایک بات زیادہ ہے کہ مجمع عام میں آپ اپنے ثبوت دعوے میں آیات صریح الدلالت قرآنیہ اور احادیث صحیحہ پیش کریں۔ اور عاجز اس سے اقرار یا انکار تخلص کرے۔ لہذا یہ ایک ایسی بات ہے۔ جس نے ہم کو آپ کی آزمائش کے لیے پھر آمادہ کیا ہے کہ عاجز آپ کی اس بات کو بھی آزما دیکھے کیونکہ آپ کی دو باتوں کی آزمائش ہو چکی اول یہ کہ ۲ اکتوبر کے اشتہار میں آپ نے عاجز سے استدعا رفع شکوک کی تھی۔ جس کے واسطے ۵ اکتوبر کو آپ کو لکھا تھا۔ کہ آپ اگر حسب شرائط قرار داد خود رفع شکوک کر لیں مگر آپ ثابت قدم نہ نکلے۔

دوسرے ۶ اکتوبر کے اشتہار میں آپ نے مناظرہ کے واسطے درخواست کی جس کے لیے ۱۱ اکتوبر بروز یکشنبہ قرار پا کر جلسہ منعقد ہوا۔ مزید برآں کہ عین وقت جلسہ کے جو کچھ آپ نے کیا عاجز نے محض اظہار الحق قبول کیا مگر آپ تشریف نہ لائے۔

اب تیسری بات جو آپ نے ۱۷ اکتوبر کے اشتہار میں لکھی ہے۔ اس کے پورا کرنے کے لیے عاجز خلاصاً اللہ آپ کی استدعا کے موافق اطلاع دیتا ہے کہ آپ کل بروز شنبہ ۱۶ ربیع الاول ۱۳۰۹ھ کو ۳ بجے دن کے جامع مسجد میں آکر اپنے عقائد محمدیہ (جو آپ کی تالیف میں مندرج ہیں۔ جو ان کی تفصیل ذیل میں واسطے وضاحت کے درج کی جاتی ہے اور جن کی وجہ سے علماء اہل سنت نے کفر والحادیہ کے فتوے لکھے ہیں) بیان کریں اگر یہ عقائد آپ نے کتاب و سنت سے موافق قاعدہ مقررہ علماء اسلام مجمع عام میں میرے روبرو ثابت کر دے تو واللہ باللہ مجھ کو کسی قسم کا عذر قبول کرنے میں نہ ہوگا۔ اور اگر ان عقائد الکلمات مذکورہ بالا کا ثبوت بدل لائل کتابت و سنت نہ دیا۔ تو میں تین قسم سے کیا قسم کے ساتھ ان کا رد کروں گا۔ لیکن ان میری قسموں کا معاوضہ آپ کو یہ کرنا ضرور ہوگا کہ آپ اسی مجمع عام میں نائب ہو جائیں اور عقائد مذکورہ اپنے کے چھوڑ دینے ہیں۔ کچھ حیلہ حوالہ نہ کریں۔ اور آئندہ کے واسطے ایک حلقی اقرار لکھ دیں۔ کہ میں گاہے ایسے عقائد

باطلہ کا اظہار نہ کروں گا۔ ہاں آپ دعا ایک سال نہیں بلکہ تا زندگی کرتے رہیں اور جب ظہور اجابت ہو جووع کا اختیار ہے۔ اگر علاوہ جامع مسجد کے کوئی اور جگہ آپ نے تجویز کر رکھی ہے۔ تو حاملین رقعہ ہذا سے کہہ دیں عاجز وہاں آجائے۔ اور وہی مقام مشتہر کر دیا جائے کہ خلاق حیران نہ ہو مگر آن کہ یہ تیسری دفعہ حسب استدعاء و تحریر آپ کے جلسہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس پر آپ نے کوئی عذر و حیلہ کیا تو مسوع نہ ہوگا۔ والسلام!

جواب رقعہ منجانب مرزا صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحمدہ و نصلی  
بلکرامی خدمت حضرت مولوی سید محمد نذیر حسین صاحب

بعد سلام مسنون واضح ہو۔ آپ نے میرے ۱۷ اکتوبر کے اشتہار کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کے متعلق قسم کھانے اور اس امر میں میری آزمائش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ مگر یہ رقعہ اس قسم کا پیچیدہ ہے کہ یہ نہایت ضروری ہے۔ کہ اسکی توضیح کی جائے میں آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں۔ اور وہ عبارت اشتہار کی نقل کرتا ہوں۔ تاکہ آپ کو خوب یاد رہے کہ آپ کو کس امر کے متعلق اور کس طریق پر قسم کھانی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔ اگر آپ کسی طرح بحث کرنا نہیں چاہتے تو ایک مجلس میں تمام میرے دلائل و قات مسیح سن کر اللہ جل شانہ کی تین مرتبہ قسم کھا کر کہہ دیں کہ یہ دلائل صحیح نہیں ہیں۔ اور صحیح اور یقینی امر یہ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم زندہ بحسدہ العصری آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور آیات قرآنی اپنی صریح اور قطعی الدلائل ہے اور احادیث صحیحہ معتد مرفوعہ اپنے کھلے کھلے منطوق سے اسی پر شہادت دیتی ہیں اور میرا عقیدہ بھی ہے تب میں آپ کی اس حق پوشی پر آسانی فیصلہ کے لیے دعا کروں گا اور اگر ایک سال تک اس کا کوئی کھلا کھلا آپ پر اثر نہ ہو تو میں ضرور صدق دل سے توبہ کروں گا آپ ان الفاظ کو خوب یاد رکھیں۔ اور انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کو قسم کھانی ہوگی اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی شخص کو یا آپ کو میرے تقریر کرنے یا تحریر سنانے کے عرصہ میں بولنے کا اختیار نہ ہوگا۔ میری تقریر یا تحریر کو تمام و کمال سننے کے بعد آپ قسم کھائیں گے۔ غرض اس معاملہ میں آپ کو اشتہار ۱۷ اکتوبر کے الفاظ کی پوری پابندی لازم ہوگی۔ علاوہ اس کے جو آپ نے بہت باتیں مسئلہ حیات و ممات مسیح ابن مریم کے علاوہ تحریر کر کے رقعہ کی پشت پر بھیجے ہیں۔ ان پر میں ہر طرح بحث تحریری کرنے کے لیے کسی اور جلسہ میں جو آپ مقرر کریں تیار ہوں۔ یہ جلسہ جو میرے اشتہار مذکور کے جواب میں آپ نے مقرر کیا ہے۔ صرف حیات و قات مسیح کے متعلق ہے۔ اور صرف اس امر کے متعلق میں نے آپ کو قسم کھانے کی

تحریر کی ہے اور یہ بھی اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو تحریری بحث اس کے متعلق کریں۔ ان جملہ امور کے گوش گزار کرنے کے بعد میں آپ کو مطلع کرتا ہوں میں آج انشاء اللہ تعالیٰ جامع مسجد میں وقت مقررہ پر حاضر ہو جاؤں گا۔ اگر آپ انہیں شرطوں کے موافق بحث کے لیے یا قسم کھانے کے لیے جامع مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ تو واپسی مجھ کو اطلاع دیں یعنی مجھ کو اس امر سے مطلع فرمادیں کہ میں حسب منشاء آپ کے اشتہار ۱۷ اکتوبر ۱۸۹۱ء بحث کرنا چاہتا ہوں۔ یا قسم کھانا چاہتا ہوں۔ تاکہ آپ کا رقعہ بطور سند رکھا جائے۔

خاکسار عبد اللہ الصدق غلام احمد ۲۰ اکتوبر ۱۸۹۱ء

## رقعہ ثانی جناب مولانا صاحب

بحواب رقعہ مرزا صاحب

بعد سلام مسنون مدعا یہ ہے میں تم کو کل خط میں جو کچھ لکھ چکا ہوں۔ اس کے خلاف ایک حرف بولنے کا آپ کو مجاز نہ ہوگا۔ اس میں کوئی پیچیدہ بات نہیں لکھی گئی ہے۔ تمام مضمون صریح و صاف ہے۔ اس کو پیچیدہ کہہ کر حیلہ حوالہ کرنا یہ تمہاری اس موقع سے پہلو تہی کرنا ہے۔ آپ نے میرا قسم کھانا ایک امر پر چاہا تھا میں نے اس کے ساتھ چند امور شامل کر دیے۔ باقی امور کی شمولیت کو موقع پر ملتوی رکھنا۔ جس میں آپ کی درخواست تھی زائد قبول ہوئی کچھ کی نہیں ہوئی اور اس زیادتی میں کسی قسم کا حرج نہیں۔ جب فیصلہ قسم پر قرار پایا تو پھر ایک امر اور چند امور پر قسم کھانا مساوی ہے۔ اور تقریباً مساوی وقت چاہتا ہے لہذا اول آپ کو میری قسم پر اقرار تو بے کا اس مجمع میں لکھنا ہوگا۔ پھر میری طرف سے آپ کے عقائد سنائے جائیں گے۔ پھر ہر عقیدہ پر آپ کو ایک مرتبہ صریح الدلائل آیت یا حدیث صحیح پیش کرنی ہوگی اور قسم پر فیصلہ ہوگا۔ اور اس مجلس میں یہ اختیار آپ کو ہرگز نہ ہوگا۔ کہ اپنی طرف سے آپ کچھ بولیں۔ جب تک میری طرف سے سوال نہ کیا جائے۔ اور سوال کے بعد بھی آپ کو اس قدر بولنا ہوگا۔ جس قدر آپ سے پوچھا جائے۔ زائد از مطلوب اگر آپ بولیں گے تو فوراً روک دیے جائیں گے۔ اور یہ آپ کی صریح پہلو تہی اور حیلہ جوئی سمجھی جائے گی۔

یہ عاجز وقت معینہ پر مسجد میں جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ آپ سے پابندی تحریر امر و دیر و ضرور آئیں۔ اور میری دونوں تحریریں مرقومہ ۱۹، ۲۰، ۲۱ اکتوبر سنہ ۱۲۰۸ھ ضرور ساتھ لائیں۔

الراقم سید محمد نذیر حسین ۲۰ اکتوبر ۱۸۹۱ء



## حاشیہ جات

۱۔ چنانچہ حضرت اقدس (مرزا صاحب) چند خادموں کے پہنچنے ہی جامع مسجد چاہنچے چنانچہ جب انہیں (شیخ الکل صاحب) خیر ملی مرزا صاحب تیار و مستعد مسجد میں تھے تو وہ بھی وقت مقررہ سے آدھا گھنٹہ بعد بعد جبر و اکراہ آئے ٹھیک ساڑھے تین بجے تھے جب انہوں نے مسجد میں قدم رکھا اور نماز عصر کے ادا کرنے میں مصروف ہوئے حضرت اقدس اور ان کی خدام ظہر و عصر جمع کر کے باجماعت پڑھ آئے تھے۔

(ملفوظ صفحہ ۷۷ کالم دوم ضمیر اخبار پنجاب گزٹ مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۱۱ء عن کلمہ فضل رحمانی ص ۱۱۶)

## باب ۲۹ بست و نہیم

## دہلی میں رسوائی

گرچہ ہے کس کس برائی سے ولے با این ہمہ  
ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

دہلی کے ہر فرد بشر برتاؤ پیر اعلیٰ و اسفل صغیر و کبیر مردوزن خاص و عام عمائد و رؤساء شہر درباری و بازاری کی زبان پر مسیح موعود کا تذکرہ ہے جہاں دیکھو یہی ذکر و اذکار ہے اور اشتہاروں نے تو وہ کام کیا کہ چار دانگ خلافت میں ہند سے لے تا شام و روم بمسئد اس یورپ میں دھوم مچا دی مہدی سوڈان نے گوجان دے دی۔ تمام ممالک میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کو یہ شہرت نصیب نہ ہوئی اس کو فقط تعلیم یافتہ اخباروں کے شائق جانتے تھے۔ مگر ان سے جاہل و عالم ہر فرقہ کا انسان واقف ہو گیا۔ عرب عجم میں شہرت ہو گئی۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ خیر یا شر کے ساتھ مگر شہرت میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا۔

اب مسیح موعود کا دہلی میں قیام ہے ایک مکان میں مختصر سا فرش ہو رہا ہے ایک مسجد پر نکیہ لگائے مسیح موعود اور چاند کے گرد ستاروں کی طرح گرد حواری موجود ہیں۔  
دروازہ پر پولیس کا پہرہ کھڑا ہے۔ مکان کے گرد چند کافیشیل۔ کمر بستہ لیس ڈنڈا ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں۔

مرزا صاحب..... اپنے فضائل اور خوارق عادت پیشگوئیوں کا ذکر اور الہاموں کا بیان فرما رہے ہیں۔  
حواری..... ہاں میں ہاں ملا کر آتنا و صدقاً کا کلمہ بنا رہے ہیں۔  
مرزا صاحب..... خوشی کے مارے پھول کر کپا ہو رہے ہیں۔

حواری..... حضرت اقدس وہ میدان مارا کہ باید و شاید۔

۲..... شیخ اکل حضور سے ڈر گئے قسم کھانے کی جرأت نہ ہوئی۔ بھاگے ہی تھے۔

۳..... رعب میں دب گئے۔ خدا کی قسم نہ پر حویلیاں اڑتی تھیں۔ سنگ زد گویا ہمدی پھیری ہوئی تھی۔

۴..... اگر قسم کھاتے تو دیکھ لیتے کیا ہوتا سال ہی خیریت سے گزر جاتا۔

خوشامدی..... ہوں سال کی بھی ایک ہی کبھی مسجد ہی میں غضب الہی نازل ہو جاتا گھر پہنچنے کی نوبت نہ آتی۔ پتھر برسنے لگتے پتھر۔

۵..... بھائی تم سچ کہتے ہو آسمان پر ایک ایر کا کلا سا تو نظر آنے لگا تھا۔

۶..... دیکھا تو میں نے بھی تھا بلکہ جمع کو تو اس میں فرشتے بھی نظر آتے تھے۔

۷..... خدا کے مرسل کا کہنا کبھی ٹل سکتا ہے۔ اور مرسل بھی وہ جس کا خدا خود محکوم۔

سید صاحب..... وہ خود اپنے نبی سے وعدہ کر چکا ہے ادعویٰ استجب لکم۔

خادم..... حضور وہ حاجی صاحب (کچھ سوچ کر) حاجی محمد احمد صاحب سووا اگر حضور کی زیارت کے واسطے آئے ہیں۔

مسح..... آنے دو اور جو حواری ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ جھٹ آن بیٹھے۔

حاجی..... صاحب السلام علیکم۔

مسح..... وعلیکم السلام مزاج بخیر۔

حاجی صاحب..... الحمد للہ (مصافحہ کے واسطے ہاتھ بڑھائے)

مسح زمان..... (نے مسکرا کر ہاتھ ملایا) کیا آج کوئی اور پیغام لائے ہیں۔

حاجی صاحب..... پیغام سے خالی تو نیاز مند نہیں آیا۔

مسح..... (کچھ گھبرا کر) کیا میاں صاحب کا کوئی پیغام ہے۔

حاجی صاحب..... نہیں بلکہ بھوپال سے یہ کہہ کر ایک خط پیش کیا۔

مسح موعود..... اس کا جواب آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔

حاجی صاحب..... پھر تخفیف تصدیق۔

مسح موعود..... اچھا تشریف لے جائیے۔ اس کو دیکھ کر اور جواب لکھ کر بھیج دوں گا۔

حاجی صاحب..... رخصت ہوئے اور حضرت مسح زمان نے لغافہ کھول کر خط پڑھنا شروع کیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم حامداً و مصلیاً ربنا لاتزع قلوبنا بعد

اذهدیتنا وھب لنا من لدنك رحمته انك انت الوھاب . اما بعد السلام علیکم !

جناب مرزا صاحب قادیانی اور ان کے اتباع پر غلطی نہ رہے کہ آپ کے اشتہارات ۲۱ اکتوبر ۱۸۹۱ء اور مورخہ ۶ اکتوبر ۱۸۹۱ء مذکور جو بمقابلہ جناب مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب دہلوی کے شائع ہوئے ہیں۔ دیکھنے میں آئے معلوم نہیں کہ جناب میاں صاحب نے کیا جواب دیا۔ لیکن یہ خاکسار محض نہ نظر احتیاق حق و باطل باطل کے لیے صرف حق تعالیٰ کی نصرت پر اعتماد کر کے آپ کے ساتھ مناظرہ کے لیے تیار ہے اور شروط مسئلہ مندرجہ اشتہار ۱۶ اکتوبر کو تسلیم کرتا ہے لیکن شرط ثالث میں تھوڑی ترمیم چاہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ خود ہی حلفاً اقرار کرتے ہیں اگر میں اس بحث و وفات مسیح میں غلطی پر نکلا تو دوسرے دعوے خود بخود چھوڑ دوں گا۔ اس قدر اس میں اور زیادہ کر دیجیے اگر میں اس بحث و وفات عیسیٰ میں صواب پر نکلا تو صرف اتنی بات سے میرا اصل دعویٰ یعنی عدم نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرا مسیح موعود ہونا ثابت ہوگا۔ بعد ختم بحث و وفات عیسیٰ علیہ السلام کے ان دونوں امور میں بلا عذر بحث ضرور کی جائے گی اور جو کوئی طرفین میں سے عذر کرے گا تو گریز پر حمل کیا جائے گا اور نزول عیسیٰ علیہ السلام صرف ثبوت و وفات عیسیٰ علیہ السلام سے باطل متصور نہ ہوگا۔ آپ کا دعویٰ جو تمام اہل اسلام کے مخالف سمجھا جاتا ہے وہ بھی تو دعویٰ عدم نزول عیسیٰ علیہ السلام اور دعویٰ آپ کے مسیح موعود ہونے کا ہے۔ والسلام علی من تبع الهدی!

خاکسار محمد بشیر عفی عنہ از بھوپال

محلہ گوبر پورہ ۹ ربیع الاول ۱۳۰۹ء

جواب

مجھے یہ منظور ہے کہ اہل حضرت مسیح ابن مریم کی وفات حیات کے بارہ میں بحث ہو۔ بحث کے تصفیہ کے بعد پھر ان کے نزول اور اس عاجز کے مسیح موعود ہونے کے بارے میں مباحثہ کیا جائے اور جو شخص طرفین سے ترک بحث کرے گا۔ اس کا گریز کرتا سمجھا جائے گا۔

رقعہ مرزا صاحب موسومہ حاجی محمد احمد صاحب سوداگر

کرمی اخویم مولوی محمد احمد صاحب سلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسب استفسار آپ کے عرض کیا جاتا ہے۔ مجھے مولوی محمد بشیر صاحب سے مسئلہ حیات و وفات مسیح ابن مریم علیہ السلام میں بحث کرنا بدل و جان منظور ہے۔ پہلے بہر حال یہی بحث ہوگی ہر ایک فریق سوال یا جواب لکھ کر حاضرین کو سناوے گا۔ والسلام!

خاکسار غلام احمد ۱۵ اکتوبر ۱۸۹۱ء

حاجی صاحب..... نے مولوی محمد بشیر صاحب کو اس معاملہ سے اطلاع دے کر طلب کیا اور مولوی صاحب بھوپال سے رخصت ہو کر دہلی میں وارد ہوئے۔

رقعہ اول از جانب مولوی محمد بشیر صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم حامداً و مصلياً و مسلماً جناب مرزا غلام احمد صاحب وام محمد کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار حسب الطلب جناب آگیا ہے۔ اور جناب کی سب شروط کو پہلے سے تسلیم کر چکا ہے اور آپ بھی میری ترمیم کو قبول فرما چکے ہیں۔ اب تاریخ و وقت واسطے مناظرہ کے تحریر فرما کر خاکسار کو مطلع کیجیے۔ تاکہ واسطے مناظرہ کے حاضر ہو۔  
محمد بشیر عثمانی، ۷ اربیع الاول ۱۳۰۹ء

جواب رقعہ اول

بسم الله الرحمن الرحيم . نحمدہ و نصلی! حضرت مولوی محمد بشیر صاحب سلمہ  
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

مجھے آپ کی تشریف آوری سے بہت خوشی ہوئی اور محظ آمہ اخویم مولوی سید محمد احسن صاحب نے آپ کے اخلاق اور مناسب اور تہذیب کا حال معلوم ہوا اول پہلے ہی سے مشتاق ہو رہا تھا کہ اس مسئلہ میں آپ سے اظہار الحق بحث ہو۔ سو الحمد للہ آپ تشریف لے آئے آج مجھے ضروریات سے فرصت نہیں کل انشاء اللہ تقدیر کوئی تاریخ مقرر کر کے اطلاع دوں گا۔ لیکن بحث تحریری ہوگی تاکہ ہر ایک فریق کا بیان محفوظ رہے۔ اور دور دست کے لوگوں کو بھی رائے نکالنے کا موقع مل سکے۔ سب سے اول مسئلہ حیات ممات مسیح کا آپ کو ثبوت دینا ہوگا۔ اس ثبوت کے بعد آپ دوسری بحث کر سکتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک اشتہار بھی بھیجا جاتا ہے۔ جس سے آپ کو معلوم ہوگا۔ کہ حیات و وفات مسیح ابن مریم کن شرائط کی پابندی سے آپ کو بحث کرنا ہوگی۔

والسلام! خاکسار عبد اللہ الصمد غلام احمد ۲۱ اکتوبر ۱۸۹۱ء

رقعہ دوم

بسم الله الرحمن الرحيم! حامداً و مصلياً جناب مرزا غلام احمد صاحب!  
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

آپ کا رقعہ مورخہ ۲۱ اکتوبر ۱۸۹۱ء وصول ہوا آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ کل انشاء اللہ تقدیر کوئی تاریخ مقرر کر کے اطلاع دوں گا اب تک آپ کے ایطاء وعدہ کا انتظار رہا اب گزارش

ہے۔ آج اس وعدہ کا ایفاء ضرور فرمائیے۔ آپ کی یہ بات کہ بحث تحریری ہوگی خاکسار پہلے سے تسلیم کر چکا ہے۔ اور یہ بھی کہ سب سے اول مسئلہ حیات و وفات مسیح میں بحث ہوگی۔ اب آپ کا یہ ارشاد ہے کہ حیات مسیح علیہ السلام کا آپ کو ثبوت دینا ہوگا۔ یہ بھی بسر و چشم قبول کرتا ہوں اس کے بعد نزول حضرت مسیح علیہ السلام میں بحث کی جائے گی۔ من بعد آپ کے مسیح موعود ہونے میں اور آپ بھی اس کو پہلے سے تسلیم فرما چکے ہیں۔ والسلام خیر الانام۔

۱۸ ربیع الاول ۱۳۰۹ء، خاکسار محمد بشیر

### جواب رقعہ دوم

مکرمی اخویم مولوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل دس بجے کے بعد بحث ہوگی۔ یا اگر ایک ضروری کام سے فرصت ہوئی۔ تو پہلے اطلاع دے دوں گا۔ ورنہ انشاء اللہ تقدیر ۱۰ بجے کے بعد تو ضرور بحث ہوگی۔ صرف اس بات کا التزام ضروری ہوگا کہ بحث اس عاجز کے مکان پر ہو۔ اس کی ضرورت خاص وجہ سے ہے۔ جو زبانی بیان کر سکتا ہوں۔ جلسہ عام نہ ہوگا۔ صرف دس آدمی تک جو معزز خاص ہوں۔ آپ ساتھ لاسکتے ہیں۔ مگر شیخ بٹلاوی اور مولوی عبدالحمید نہ ہوں اور نہ آپ کو ان بزرگوں کی کچھ ضرورت ہے والسلام۔

مرزا غلام احمد ۲۲ اکتوبر ۱۸۹۱ء

### جواب رقعہ سوم جو گم ہو گیا تھا

جناب مولوی صاحب کرم بندہ۔

السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام شرطوں کو جو میں اپنے کل کے پرچہ میں لکھا چکا ہوں۔ قبول کرنے سے انحراف ظاہر نہیں کریں گے۔ میں نے جن لوگوں کو آنے سے روکا ہے تجربہ اور مصلحتیہ روکا ہے۔ اور میں خوب جانتا ہوں کہ خیر و برکت اسی میں ہے۔ بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ بعد از فراغ نماز جمعہ بحث شروع ہو۔ اور شام تک یا جس وقت تک ممکن ہو سلسلہ بحث جاری ہو۔ اور دس آدمیوں سے زیادہ ہرگز ہرگز کسی حال میں آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ اور اس لحاظ سے کہ بحث کو طول نہ ہو۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پرچوں کی تعداد پانچ سے زیادہ نہ ہوں۔ اور پہلا پرچہ آپ کا ہو۔

مرزا غلام احمد بقلم خود ۲۳ اکتوبر ۱۸۹۱ء۔

بحث شروع ہوئی اور مولوی صاحب نے پانچ آیتیں قرآن کریم اور حیات مسیح کی عین

بحث میں لکھ کر حاضرین کو سنا کر دستخط کر کے مرزا صاحب کو دیں۔  
 مرزا صاحب..... میں مجلس بحث میں جواب نہیں لکھ سکتا میں جواب لکھ رکھوں گا آپ لوگ اب بچے آئیں۔  
 حاجی محمد احمد صاحب..... یہ معاہدہ کے خلاف ہے اس میں نقض عہد ہوتا ہے۔  
 مرزا صاحب..... میری طبیعت اچھی نہیں آپ کل اب بچے آئیں۔  
 حاجی صاحب..... افسوس آپ کی جملہ شروط منظور کی گئیں۔ مگر۔  
 مرزا صاحب..... دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر مجھ کو دوران سر ہو گیا۔ اب زیادہ گفتگو کی طاقت نہیں  
 رکھتا۔ جلسہ برخاست ہوا۔

### باب ۳۰ سی ام

مولانا محمد بشیر شہسوانی سے مباحثہ

دیکھیں گے جنازہ کوئی رو کے گا کیوں کر

سب باندھ کے ہم بھی تو یہاں سر سے کفن نکلے

برے پھنپے اب کوئی تدبیر مجلس کی نہیں مختلف رقعوں میں شروط میں تغیر تبدیل کیا عام  
 جلسہ ہونے سے روکا چلتے ہوئے جواب لکھنے سے انکار کیا۔ مگر بلا کی طرح اچھا لپٹا کوئی صاحب  
 غیرت ہوتا تو نام نہ لیتا یہ حضرت پہلے موجود۔

اب مولوی محمد بشیر صاحب مردانہ میں بیٹھے ہیں اور مرزا صاحب زنانہ خانہ سے برآمد  
 نہیں ہوتے۔

حاجی صاحب..... مولوی صاحب اب جانے دو ان حضرت کی تو یہی عادت ہے۔ حل من مبارز  
 پکارتے ہیں۔ جب کوئی خم شہوک مقابلہ پر آیا۔ تو پیچھے کو ہٹ گئے۔

مولوی صاحب..... حضرت بندہ تو ان کے دروازہ کی اینٹیں اکھاڑ کر اٹھے گا آپ جانتے ہیں کہ  
 انہوں نے ہر ایک رقعہ میں دو شرطیں بڑھائیں مگر میں نے تسلیم کیا لفظ کو ایسا پکڑا کہ انکار ہی نہیں کیا۔

.....۱ خیات مسخ کا ثبوت۔

.....۲ بحث مرزا کے مکان پر۔

.....۳ جلسہ عام نہ ہو، دس آدمی ساتھ لاؤ

.....۴ شیخ بیالوی اور مولوی عبدالحمید ساتھ نہ آئیں۔

.....۵ پرچوں کی تعداد پانچ ہوں۔ ہر چند کہ ان سب شروط کا قبول کرنا نہ تو خاکسار پر لازم

تھا۔ اور نہ میرے احباب کی رائے ان کے تسلیم کرنے کی تھی۔ مگر محض اس خیال سے کہ مرزا صاحب کو کوئی راہ یا حیلہ مناظرہ سے گریز کا نہ ملے۔ یہ سب باتیں منظور کیں پھر کل کا معاملہ کہ پرچے لے کر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میں جو اب مجلس مناظرہ میں نہیں لکھ سکتا۔ کل ۱۰ بجے آئیں اور آپ زنان خانہ میں چھپ کر بیٹھ رہے اب اخیر تک پہنچائے بغیر اٹھ چلنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ حاجی صاحب..... پھر بیٹھے رہے وہ تو (مرزا صاحب) باہر آتے نہیں مکان کا بیچ نامہ آپ کے نام نہیں لکھا گیا۔ اگر جبراً نکلا دیا جائے۔ تو عزت رہ جائے گی یہ اخلاق مسخ ہے جو آپ دھرتا مار کر بیٹھے ہیں۔ باہر پولیس کا پہرہ موجود ہے۔ مداخلت بے جا نہ میں ماخوذ نہ ہو جائے گا۔

مولوی صاحب..... یہ سب قبول مگر بات کو ایک طرف کیے بغیر اٹھنا قبول نہیں۔

خادم..... حضرت اقدس فرماتے ہیں۔ ابھی جواب تیار نہیں ہوا۔

حاجی صاحب..... مولوی صاحب بھی خوش تو بہت ہوئے ہوں گے اب اور فرمائے کچھ اور بھی حسرت ہے۔

مولوی صاحب..... تو ہم جائیں یا بیٹھے رہیں۔

خادم..... (اندر سے واپس آ کر) آپ تشریف لے جائیں۔ جب جواب تیار ہوگا۔ اس وقت آپ کو بلا لیا جائے گا۔

دو بجے مرزا صاحب نے مولوی صاحب کو جواب سنا کر دستخط کر کے دیا اور فرمایا کہ مجلس بحث میں جواب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مکان پر لے جائیں۔

چھ دن بحث کا سلسلہ جاری رہا تین پرچہ مولوی صاحب کے اور تین پرچہ مرزا صاحب کے ہوئے اور بحث نا تمام رہ کر سلسلہ بحث منقطع ہوا۔

مرزا صاحب..... مجھے زیادہ قیام کی گنجائش نہیں رہی میرے خسر بیمار ہیں۔

مولوی صاحب..... (ایک مضمون جو پہلے بہ نظر احتیاط لکھ رکھا تھا۔ اور متضمن اس امر پر تھا کہ مرزا صاحب کی جناب سے نقض عہد و مخالفت شروط ہوئی) مرزا صاحب کی موجودگی میں پڑھ کر سنا دیا گیا۔ یہ احتمال اول ہے۔ اس پر کہ ان کے پاس اس مسئلہ یعنی ان کے مسیح موعود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل بحث کے لیے دور و کاوشیں انہوں نے بنا رکھی ہیں۔ ایک بحث حیات و وفات مسیح علیہ السلام (جو سر سید بالقرابہ کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے) دوسری نزول عیسیٰ علیہ السلام۔

جب دیکھا کہ ایک روکاوت جو ان کے زعم میں بڑی راسخ تھی ٹوٹنے کے قریب ہے۔ اس کے بعد دوسری روکاوت کی جو ضعیف ہے۔ نوبت پہنچ گی۔ پھر کھل کر قلعہ پر حملہ ہوگا۔ وہاں

کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قلعی کھل جائے گی۔ اس لیے ضرور مناسب ہے۔ مرزا صاحب نے اسی دن یہ سفر درست کیا راتوں رات تاروں کی چھاؤں روانہ ہوا۔

صبح کو مکان خالی نہ پولیس کا پہرہ ہے نہ مکان اندر کوئی خادم یا حواری نظر آتا ہے۔ مولوی صاحب کچھ دن بھوپال واپس گئے۔

اس مضمون مناظرہ الحق الصریح فی اثبات حیات المسح۔ مؤلفہ مولوی محمد بشیر صاحب اور الحق حصہ سوم مؤلفہ سید محمد احسن امر وہی و اعلام الناس سید صاحب موصوف۔

و بیان للناس مؤلفہ مولوی محمد عبد الجبید صاحب میں مفصل درج ہیں۔ اور ان کا خلاصہ انشاء اللہ العزیز دوسرے حصہ ناول ہذا میں جمع کر کے دکھلائیں گے۔ اس جگہ گنجائش نہیں ہے۔

(نوٹ از مرتب) ناول کا دوسرا حصہ تو طبع نہ ہوا۔ البتہ فقیر مرتب احتساب کی جلد ۴۲، ۴۳ وغیرہ میں متذکرہ تمام کو شائع کرے گا۔ انشاء اللہ العزیز!

## باب ۳۱ سی وکیم

### ایک قادیانی کی کہانی

ہزاروی مجھے گردش فلک نے میں نہ پھرا

یہی تو فرق ہے اشراف اور کمینہ میں

ہم اپنے ناظرین کو پھر احاطہ مسجد کے باغچے اور اس کے ملحقہ مکان کی سیر کراتے ہیں۔ اور مولوی صاحب و اعظ مرزئی اور اس شاہد نازک ادا سے انٹرویو کراتے ہیں۔ اس موقع اور مکان پر ہمارے مولوی صاحب اور وہ نازنین شیرین دہن نازک تن رونق افزا ہیں۔ اور میٹھی باتیں ہورہی ہیں۔

نازنین..... خدا کا ہزار ہزار شکر اور احسان ہے واری جاؤں میں اپنے حضرت جی کے قدموں کے جن کی دعا اور بیعت کی برکت سے یہ روز سعید اور آدان حمید نظر آیا اور نہ کس کو امید تھی۔ خدا جانے شخص کیا کیا اڑاتے تھے۔ اور یہاں جب کسی نے کچھ آکر کہا سننے سے جان تن سے نکل گئی۔

مولوی جی..... یہ تمہاری محبت کا تقاضا ہے۔ ورنہ اندیشہ ہی کیا تھا۔ ہم نے کبھی دوران مقدمہ میں فکر نہیں کیا۔ اور ہم کو ابتداء سے بھی امید تھی۔ کہ ہم ہی جیتیں گے۔ اول تو حضرت صاحب کی دعا کی برکت اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس سے وعدہ فرمایا ہے۔ کہ تیرے تابعدار قیامت تک دوسرے مسلمانوں پر جو تیرے تابعدار نہیں غالب رہیں گے۔ اور دوسرے وہ (فریق جانی) دہقانی آدی



ہمارے مقابلہ میں ٹھہر سکتے ہیں۔

نازنین..... خدا کا شکر ہے ہم تورات دن مردوں کی طرح بڑے رہتے تھے۔ نہ کھانا خوش آتا تھا۔ نہ پینا نہ کسی سے ہنسنا بولنا۔ راتوں کو خدا سے اٹھ اٹھ کر دعا مانگتی تھی۔ خدایا میری عزت تیرے ہاتھ ہے کہیں ان ظالموں کے پھندے میں پھنسانہ دینا کیسی زندگی تلخ ہو جائے اور حرام موت مرنا پڑے۔ مولوی..... یہ تمہاری نا تجربہ کاری کا نتیجہ ہے۔ بھلا ہم اور ہار سکتے ہیں۔ زمین و آسمان ٹل جائے۔ حضرت اقدس کا الہام غلط نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے براہین احمدیہ میں نہیں دیکھا۔

نازنین..... اللہ میاں کے وارے وارے جائیں۔ وہ بڑا قادر قدیر ہے۔ اس کے نزدیک کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ جو چاہے سو کرے ہمارے حضرت اقدس ضرور سچے اور پاک نبی اور خدا کے مرسل ہیں۔ اب بھی جو لوگ ایمان نہ لائیں۔ تو بڑا ہی غضب ہے۔ سارے صدر کے لوگ مخالف سارا کنبہ برخلاف اپنا بیگانہ سب دشمن پھر خدا نے کیسا صاف بچایا ہے۔ یہ حضرت اقدس کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر آنکھوں کے اندھے کہتے ہیں کہ حضرت اقدس کا دعویٰ نبوت جھوٹا ہے۔

مولوی..... جب مقدمہ پیش ہوا ہم نے جسٹریٹ کے رد بروصاف کہہ دیا مدعی کا مسامحت کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں مسماۃ بوقت نکاح بالغ تھی اور اس نے نکاح سے انکار کیا تو اس کے باپ اور دیگروں نے مار کر اور دیکھو بوقت ایجاب قبول مسماۃ کا سکوت کرایا تھا۔ وہ اس نکاح سے ہرگز رضا مند نہیں تھی۔ اس واسطے شرعاً اس کا نکاح نہیں ہوا۔

نازنین..... سوچی تو خوب یہ بھی منجانب اللہ ہے۔ جو خدا کو کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ انسان کو ویسے ہی سمجھا دیتا ہے۔ اگر نکاح کے گواہ گزر جاتے۔ اور نکاح ثابت ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ میرا تو اس ذکر کو کرتے ہوئے بھی دل کا پتلا ہے۔ کلیجہ چھلٹا ہے۔ (ہاتھ پکڑ کر اور اپنے سینہ پر رکھ کر) دیکھے تو میرے دل کا کیا حال ہے۔

مولوی..... (ہاتھ سینہ پر نازنین کے رکھ کر اور اپنی طرف کھینچ اور چھاتی سے لگا کر) میری جان اب کیا گھبراہٹ اور اندیشہ ہے۔ اب تو معاملہ طے ہو لیا۔ اور مقدمہ میں مدعی نے راضی نامہ دیدیا۔ اور فیصلہ ڈکس ہو گیا۔

نازنین..... میں نے تو سنا ہے کہ راضی نامہ تو اس کم بخت (مدعی نامرآنہ) نے اس شرط پر داخل کیا ہے۔ کہ عورت کو مدعی کے گھر پہنچا دیں گے۔ اور خرچہ مقدمہ کا ادا کر دیں گے) تو کیا ہوا میرے ساتھ وہ بھی بہکا فطیمستی رہی۔ اب تو بیچ گیا مجھ کو تو وہی روز سیاہ دیکھنا تمام دنیا میں بدنام بھی ہوئی۔ ناک بھی کٹی منہ بھی کالا ہوا اور بات بھی کچھ نہ ہوئی۔

مولوی جی..... (بوسہ لے کر) میں اور تجھ کو دیدوں لاحول ولاقوۃ الا باللہ العظیم یہ ہو سکتا ہے کبھی نہیں۔ اور ہرگز نہیں۔

زمین پھرے آسمان پھرے ہوا پھر جائے

پھروں گا تجھ سے نہ ہرگز خدا پھر دینے

وہ ایک بات دفع الوقتی کے ساتھ تھی ہو چکی جو فیصلہ ہوا الٹو کاٹھہ احق تھا دم میں آگیا۔ اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ سے کاٹ چکا۔ اب کیا ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہاں یہ بات ضرور ہے اگر اپنی خوشی اور رضامندی سے طلاق دے دے تو ہم مقدمہ کا خرچہ اسے دے دیں گے۔ نازنین..... اور جو اس نے طلاق نہ دی تو کیا پھر بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔

مولوی..... نہیں اب وہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب کہ اس نے راضی نامہ دیدیا۔

نازنین..... اگر اس (خاندن نے) نے طلاق نہیں دی۔ تو تمام عمر ہم حرام ہی کرتے رہیں گے اور جو اولاد ہوگی۔ وہ بھی حرام کی ہوگی۔

مولوی..... اوہ یہ کیا بات ہے۔ حرام اور حلال تو ہمارے اختیاری امر ہے۔ جس کو چاہیں حرام کر دیں۔ جس کو چاہیں حلال ہر ایک مسئلہ میں تاویلیں نکل سکتی ہیں۔ اور تاویلیں نکالنا کوئی ہم سے سیکھ جائے۔ بات بات میں ہزاروں تاویلیں نکل سکتی ہیں۔ اگر اتنا بھی نہ ہوا تو علم پڑھنے سے کیا حاصل۔

نازنین..... اچھا ہم تو جب جانیں جب اس میں علماے اسلام کا فتوے منگا دے۔ اس زبانی مداخلہ کو تو ہم مانتے نہیں بات تو وہ جو کر کے دکھائے۔ یوں زبانی جمع خرچ ہر ایک شخص کر سکتا ہے۔

اتنے میں سڑک کی طرف کا دروازہ کھلا اور ہمارے مولوی صاحب کے حبیب لیبب دوست قدیم محمد یوسف آ موجود ہوئے۔

السلام وعلیکم مزاج شریف۔ (نازنین فوراً الماری کے پیچھے ہوئی)

مولوی..... وعلیکم السلام مشفق مزاج اچھے ہیں۔ اور گھر پر سب طرح خیریت کوئی خبر تازہ۔

محمد یوسف..... الحمد للہ! فضل الہی ہے خبر تازہ آپ سنائیں۔ مبارک مقدمہ جیت آئے۔ سنائیے مقدمہ کی کیفیت سنائیے۔

مولوی صاحب..... آپ جانتے ہیں۔ بندہ درگاہ نے وہ جوڑ توڑ لگائے اور دو چار معزز اشخاص کو بیچ میں ڈال مدعی کو سبز باغ دکھا کر جسٹ راضی نامہ داخل کرادیا۔ مقدمہ داخل دفتر ہو گیا۔

محمد یوسف..... میں نے سنا ہے کہ آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ مسماۃ کو واپس اور مقدمہ کا خرچ مدعی کو دے دیں گے۔

مولوی.....نس کرارے میاں ایسے وعدے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ اگر مسماۃ کو دینا منظور ہوتا تو جھگڑا ہی کیا تھا۔ عدالت تک لوٹ پہنچی، بدنامی ہوئی۔ پھر بھی مسماۃ کو دے دیں۔ یہ بھی ایک ہی ہوئی۔ یہ بھی ایک چال تھی۔

محمد یوسف..... اگر آپ نے ایفاء وعدہ نہ کیا۔ تو اس کے خاوند نے طلاق نہیں دینی اور یہ لازمی امر ہے۔ پھر آپ ہی فرمادیں دنیا کیا کہے گی۔ اور شریعت تو بقول آپ کے لوگوں (قادیانی نبوت) کی زبان ہے۔ اور قیامت اور حشر اور عذاب وہ ثواب جنت اور دوزخ یہ سب ترغیب و تخویف کے واسطے ہیں مگر خلق کی زبان تو نہیں روکی جاتی۔

مولوی..... بھائی یوسف تم ہی انصاف سے کہو یہ معشوق کا فرکش، زاہد فریب، بیم تن، نازک بدن ایسی ہے کہ بدنامی یا ذلت یا جان کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں ہرگز نہیں یوں تو ہندوستان اور پنجاب میں ایک سے ایک بڑھ کر حسین دمہ لٹا حیا پر درنا زمین وہ پاک نظر ہیں۔ لیکن اس دشمن دین و ایمان کی ادائیگی اور ہے۔

شاید آنشب کہ مولیٰ دیانی دارو  
بندہ طلعت آئیم کہ میانے دارو  
خدا کی قسم میری تو زندگی ہی اس بدن حرام ہے۔  
محمد یوسف۔

سمجھانے سے تھا ہمیں سروکار  
اب مان نہ مان تو ہے مختار

چونکہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ اس واسطے ٹھیک مشورہ دیتے ہیں۔ ورنہ ہمارا یہ مطلب اور غرض نہیں کہ اب اس (نازمین) کے خاوند کے حوالے کر دیں۔ اور آپ اپنا ایفاء وعدہ کریں بلکہ ہمارا انشاء یہ ہے کہ آپ بدنام نہ ہوں۔

مولوی..... بدنامی اور رسوائی جو کچھ ہوتی تھی وہ ہو چکی اب کیا باقی رہا ہے۔  
محمد یوسف..... یہ بدنامی اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ جواب ہوگی اور آئندہ کو قائم رہے گی۔ اور میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی معشوقہ اور مطلوبہ سے علیحدگی اختیار کریں۔ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں۔ کہ آپ اس کے خاوند سے خانگی طور پر فیصلہ کر لیجیے۔ اور کچھ لے دے کر طلاق دلواد دیجیے۔ پھر چار بھلے آدمیوں میں نکاح پڑھا لیجیے۔

مولوی صاحب..... میاں تم بھی پاگل ہو اس کا (خاوند) نکاح جائز جب عورت بالغ (خواہ بکر ہو)

رضامندی نہیں پھر طلاق کیسی اور اس کی رضامندی کیا معنی رکھتی ہے۔

## باب ۳۲ سی و دوم

نیچریت، مرزائیت، عیسائیت

چند صاحب..... ایک جگہ جمع ہیں۔ اور باہم گفتگو ہو رہی ہے۔

نیچری..... مرزا صاحب نے مبعوث ہو کر کیا کیا جو دین اسلام میں انہوں نے تجدید فرمائی وہ تو سرسید بالقابہ کی تجدید ہے یا یہ کیسے۔ ان کا اثر مرزا صاحب نے لیا باقی جو ان کی دعاوی ہیں بے سرو پا۔  
مرزائی..... یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط، سرسید کو قرآن فہمی کا ملکہ اور مادہ ہی کہاں تھا۔ مرزا صاحب نے جو جو نکات معارف قرآن فہمی کے ظاہر فرمائے وہ ایک اعجاز ہے اور اعجاز کے طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ سرسید نے اپنی گردن فلسفہ کے آگے جھکا دی۔ اور جو کچھ لکھا فلسفہ کی تابعداری کی ہے اور وہ بالکل ارتداد اور الحاد ہے۔ اب دیکھیے سرسید دعا اس کی اجابت کے قائل نہیں اور قرآن کی اول تعلیم دعا ہے۔ دیکھو قرآن کریم تعلیم کرتا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم اب گویا قرآن سے بالکل انکار ہے۔

نیچری..... مرزا صاحب کا فقط دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس میں بالکل شک نہیں۔ کہ مرزائیت سے نیچریت بہتر ہے کیونکہ کسی نیچری نے آج تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیونکہ آج کل نئی تہذیب نئی روشنی اور پھر سائنس اور فلسفہ کی تعلیم کا زور ہے۔ لہذا سرسید مرحوم خواب غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں مغربی تعلیم کو شوکر مار گئے ہیں اور اس بلحاظ سے ان کو ایجوکیشن ریفارمر کہنا بے جا نہیں اور اس وقت تقریباً ایک کروڑ مسلمان ان کے پیرو ہیں اور درحقیقت ان کو ریفارمر سمجھتے ہیں۔ مرزاجی کو تمام عمر بھی یہ فروغ نصیب نہ ہوگا۔ ہاں مرنے کے بعد مرزائی لوگ منارہ کی پرستش کیا کریں۔ تو شاید مرزائیت کا چراغ روشن رہے۔

مرزائی..... نبوت کا دعویٰ کوئی یوں ہی کر سکتا ہے۔ مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت بلا دلیل اور ثبوت کے نہیں کیا زمین نے گواہی دی آسمان سے نشان ظاہر ہوئے۔ قرآن کریم میں الحمد سے لے کر والناس تک مرزا صاحب کے دعویٰ کا ثبوت ہے تمام انبیاء علیہم السلام نے مرزا صاحب کے آنے کی پیش گوئی کی، احادیث صحیحہ مرفوعہ متصلہ شاہد ہیں۔ زمانہ کی ضرورت پکار پکار کر مستعدی ہے۔ کہ کوئی مصلح آئے مرزا صاحب کی پیش گوئی ان گواہی دے رہی ہیں۔ کہ مرزا صاحب نبی اللہ اور رسول اور مامور من اللہ ہیں۔

نیچری..... نہ تو سرسید نے آج تک نبی ہونے کا دعویٰ کیا نہ ان کے معتقدین نے کبھی ان کو نبی سمجھا۔ نہ خلاف اصول و عقائد اسلام ان میں کوئی عظمت اور فضیلت بتائی نہ پیدا کی۔ حالانکہ اگر سرسید چاہتے۔ تو دعویٰ نبوت میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ مگر انہوں نے ایسے دعوے کو الٹا اور ارتداد اور سراسر کفر سمجھا کیونکہ مسلمان تھے۔ اور قرآن پر ان کا ایمان تھا۔ بھلا وہ قرآن کے خلاف کیونکر کر سکتے تھے۔ مرزائیت تو عیسائیت سے پہلے گئی گزری ہے۔ عیسائی عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا اور خدا یقین کرتے ہیں۔ مرزاجی بھی ان کی تقلید پر اپنے کو خدا کا لے پا لک بتاتے ہیں۔ نہ کہ بیٹا کیونکہ اس سے عیسوی مذہب کے تشبیہ ہوتا تھا۔ لیکن اب بھی بات ایک ہی ہے کہ بیٹوں کی دو ہی قسمیں ہیں۔ صلیبی اور عثمینی مرزاجی نے تو یہ غضب ڈھایا کہ بندہ اسحٰ کو گالیاں دیں کیونکہ وہ رقیب اور وراثت کا شریک تھا۔ پس انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ باپ نے صلیبی بیٹے کو عاقق کر دیا ہے کیونکہ اس کے خوارق اچھے نہ تھے۔ اور مجھے گود میں لے لیا ہے۔ لیکن کسی نے یہ دعویٰ تسلیم نہ کیا۔ عیسائیوں نے برأت چاہی اور مسلمانوں نے کافر اور طغہ بنا کر اسلام کی چار دیواری سے بارہ پتھر باہر نکال دیا اور از انسور اندہ ازین سو در ماندہ۔ مرزاجی نے سب کچھ بننا چاہا۔ کہ بروزی محمد میں، مہدی میں، مسیح بھی میں، مگر میں کے گلے پر بالآخر چھری ہی پھر گئی۔ جو دعویٰ ہے لجر اور متناقض جب آپ لے پا لک ہیں۔ تو بروزی محمد کیونکر ہیں۔ کہ آن حضرت نے اہیت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور آپ مسیح ہیں تو محمد کیونکر ہیں۔ کیا مسیح علیہ السلام اور محمد پہلے یا تم بروزی ہو چکے ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ مسیح آپ کے نزدیک ایک مہذب انسان ہی تھا کیا مہذب کا غیر مہذب کے ساتھ صبر روز ہو کر ایک چینی الاصل مغل کے قالب میں بطور اجتماع الضدین حلول کر سکتے ہیں۔ یہ اوٹ پٹانگ دعوے بچے بھی نہیں۔ تو حقہہ اڑائیں۔ مگر بہرہ وان نابالغ مرزا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔

سنی مسلمان..... کرزن گزٹ کا نامہ نگار لکھتا ہے کہ ہم مرزا کو اس وقت سچا جانیں کہ وہ کامل شیراز، ایران، روم، عربستان، بخارا میں خود جا کر یا کسی حواری کو بھیج کر تبلیغ رسالت کریں۔ تو ہم بھی نقد چہرہ شامی حال کا دس ہزار روپیہ نذر کریں گے۔ اس شرط پر کہ وہ مرقومہ الصدر شہروں میں پہنچ کر ہم کو ایک خط بھیجیں کہ لو صاحب، ہم وہاں پہنچ گئے۔ اور اشاعت دین احمدیہ (مرزائیہ) کر رہے ہیں ہم اسی وقت خالص اور کھرے کھرے دس ہزار سے پانچ ہزار گن کر حوالے کر دیں گے اگر ضمانت مانگتے ہیں۔ تو ہم مولوی سراج الدین احمد صاحب بیر سٹریٹ لا مالک چودھویں صدی کو پیش کرتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی اپنی وحی بھی شائع کر دیں گے جو ہم کو اس وقت ہوگی کہ مرزا صاحب پھر مسیح الخیر کبھی قادیان (جس کو دارالامان کہتے ہیں) کی ہوا کھائیں گے یا اس ملک کے لوگ آپ کی

زیارت اسی جگہ بنالیں گے۔

ناظرین! پر بخوبی روشن ہے کہ ہر وقت مرزاجی اور مرزائی جماعت اس دھن میں لگے رہتے ہیں۔ کہ کوئی موٹا مرغ پھینے کوئی فریبہ شکار ہاتھ لگے دھڑا دھڑا چندے ہوں مینار نبی اثاث البیت زیورات سجاوٹ کے سامان عیش و عشرت کے اسباب مہیا ہوں۔ ایک صاحب جھٹ شعر موزوں کراخبار کی ٹاکسل پیج پر داغتے ہیں۔

چگہ گوئم با تو گر آئی چھا در قادیان نبی  
دوسرے صاحب کہتے ہیں۔

نظر آئے گی دنیا کو تیرے اسلام کی رفعت

آنحضرتؐ نے تو یہ دنیاوی سامان بنائے نہ چندے بٹورے نہ زیورات خریدے وہ تو ایک مسافر کی طرح بغیر لہسنگی کے جیسے تشریف لائے ویسے ہی تشریف لے گئے۔ میں حیران ہوں کہ کیسی ظلیت اور کیسی بروزت اور کیسا آئینہ کا عکس مشہہ اور مشہہ بہ میں کچھ تو مماثلت ہوئی چاہیے ہم بجز اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔

تیرے اسلام کو ہرگز نہیں مینار کی پروا  
یہ حیلہ برائے درہم و دنیا یا اللہ  
گو دارالاماں آزا کہ آل داری ست ارخران  
عزیز من مرد آنجا کہ ایمان زیان نبی

اور اس پر یہ غرور اور خشونت اور بدزبانی جیسا کہ اس جماعت کا طریقہ ہے۔ اس کی نظیر دنیا میں نہیں گویا قلم موعظہ حسنہ خلق محمدی یہ جماعت بالکل ضدی مرزاجی کی جماعت میں آگے سے جو موٹے موٹے شکار موجود ہیں کسی کو حکیم الامت کا خطاب کسی کو خلیفہ اول کا کسی کو خلیفہ ثانی کی عزت کسی کو خلیفہ ثالث کا فخر کسی کو خلیفہ چہارم کا عرف بخشا گیا ہے۔ یہ تو معمولی بات ہے۔ کہ جب مرزاجی نے خود خلع نبوت پہن کر محمد کا روپ دھار لیا ہے تو مریدوں کو خلفاء مبارک کا خطاب ملنا ضروری ہے۔ یہ مرزاجی کی فیاضی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ خدا کا وعدہ ہے۔ نحن نزلنا اللہ کبر وانا لحافظون قرآن کریم کی تم شدہ عظمت اور عزت کو پھر بحال کرنے کے لیے غلام احمد کی صورت میں یقیناً محمد رسول اللہ آیا اور خدا نے آسمان سے قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی عظمت و جلال کے اظہار کا ذریعہ پیدا کیا اور ارادہ کیا کہ قرآن کریم کا نزول دوبارہ ہو اور پھر دنیا کو اس کی عظمت پر اطلاع دی جائے اور اس غرض کے لیے اس نے پھر محمد ﷺ کے بروزی رنگ

میں غلام احمد قادیانی کی صورت میں نازل کیا۔ الحکم ۱۰ مئی ۱۹۰۲ء صفحہ ۹ کالم اول۔

اور پھر ایسے سامان کی موجودگی میں یہ بھی لازم ہوا کہ بقول مرزا صاحب مماثلت سلسلہ موسوی کی غرض سے خدا نے تیرہ سو برس تک تو نبوت اور وحی پر مہر لگائی رکھی۔ اور پاس ادب آنحضرت کسی نئے نبی و رسول کی ضرورت نہ سمجھی مگر اب تیرہ سو سال بعد (چونکہ مرزاجی کی خاطر تواضع اور آؤ بھگت خدا کو زیادہ منظور تھی) مہر توڑی اور اس عاجز (یعنی مرزاجی) کو یا نبی اللہ صریح طور پر پکار کر متنازع فرمایا اور سلسلہ موسوی کی طرح جیسا کہ حضرت موسیٰ کے حواری تھے کہلائے اسی طرح حضرت محمد رسول کا (مرزاجی) بھی نبی کہلایا۔ الحکم ۲۳ اپریل ۱۹۰۳ء

اس پر طرہ یہ کہ مرزاجی کو آنحضرت کی قبر میں مسیح موعود کے دفن ہونے کا بھید بہت ہی عجیب طور سے منکشف ہوا۔

تخریر فرماتے ہیں۔ ”رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مسیح موعود کی قبر میری قبر میں ہوگی اس پر میں نے سوچا کہ یہ کیا اسرار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آنحضرت کا یہ ارشاد ہر قسم کے دورے اور دودی کو دور کرتا ہے۔ اس سے آپ نے مسیح موعود کے وجود میں ایک اتحاد کا ہونا ثابت کرتا ہے۔ اور ظاہر کر دیا ہے۔ کہ کوئی شخص باہر سے آنے والا نہیں ہے بلکہ مسیح موعود کا آنا گویا آن حضرت کا آنا ہے۔ جو بردی رنگ رکھتا ہے۔ اگر کوئی اور شخص آتا تو اس سے دودی لازم آتی اور عزت نبوی کے تقاضے کے خلاف ہوتا خداوند کریم نے جو قرآن کریم میں اس قدر تعریف رسول صلعم کی کی ہے اور آپ کو خاتم انبیاء مظہر ایا ہے اگر کسی اور کو آپ کے بعد تخت نبوت پر بٹھا دیتا۔ تو آپ کی کس قدر کسر شان ہوتی جس سے یہ ثابت ہوتا کہ آنحضرت صلعم کی قوت قدسی بہت ہی کمزور ہے آنحضرت نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اطاعت کرتے اس سے مطلب یہ ہے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر سوائے میرے مسیح موعود وہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کا آخری نبی ہے آدے اور آنحضرت کی ختم نبوت کی مہر توڑے۔ تو آپ کو غیرت نہ آئے گی اور کیا خدا تعالیٰ آنحضرت کے اس قدر ہتک کرنا چاہتا ہے؟ افسوس کہ لوگ باوجود مسلمان ہونے کے اور آنحضرت کو ختم الانبیاء ماننے کے نبوت کی مہر توڑتے ہیں۔“ الحکم صفحہ ۲ کالم ۲، مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۳ء

مرزا صاحب کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ الوالعمزم پیغمبر خود تشریف لائیں۔ تو اس سے ہتک اور کسر شان اور قوت مذہبی کی کمزوری آنحضرت کی ثابت ہوتی ہے۔ اور خود بدون مرزاجی نبی بن کر اس مہر کو توڑیں۔ اور اس میں نہ نبی کو غیرت آئے اور خدا نہ برا مانے کیونکہ محمد نے مرزاجی میں روپ دھارا ہے۔ میرا اور ہر مسلمان کا کاشف کاشف کیسا ہے کہ خدا نے

محمد رسول اللہ صلعم کو ختم الانبیاء فرمایا اور نبوت پر مہر لگا دی اب تو حضرت عیسیٰ کی مجال ہے کہ خدا کی لگائی مہر توڑ سکے اور نہ حضرت موسیٰ کی مرزاجی بے چارے کس باغ کی مولیٰ ہیں۔ کسی کو کیا پڑی ہے کہ مرزاجی کی اہلہ فریبوں میں آئے اور ہاتھ کوسر کے گرد گھا کر ناک کو پکڑے مرزاجی عقل کے اندھوں کو جل دے کر اپنا الوسیدھا کریں۔ ہم ایسے خدا کو کہ جس کا قول اور فعل مخالف ہو ایک ناقص بے کار کم عقل خدا کہیں گے۔ کہ کہے کچھ اور کرے کچھ تیرہ سو سال تک تو نبوت کی مہر مضبوط لگائی رکھی اور تیرہ سو سال کے بعد کمال بے وقوفی سے ایک ادنیٰ ترین انسان کے واسطے اپنے قول کا خیال نہ کر کے اس مہر کو توڑ دیا ہمارا خدا تو صادق الوعد ہے دانا مینا قول کا سچا ہے جو بات کہتا ہے اس کو کبھی نہیں بدلتا اس کا قول اور فعل سوامی ہے۔ ضمیر اخبار شحہ ہند مطبوعہ ۸ جون ۱۹۰۳ء

### باب ۳۳۳ سی و سوم

#### میر ناصر کی نظم

جدا ہوں یار سے میں اور نہ ہو رقیب جدا  
 ہے اپنا اپنا مقدر جدا نصیب جدا  
 ادھر غنچہ صبح کھلکھلایا اور خورشید خاوری نے اپنا رخ زیا آب و تاب کے ساتھ دکھایا۔  
 ادھر مہر سپہر امامت و نیر اعظم افق رسالت حضرت مسیح زمان مہدی دوران حضرت اقدس جناب  
 مرزا صاحب زمان خانہ سے برآمد ہوئے۔ مریدان عقیدت کیش حواریان خیر اندیش مصاحب و  
 رفیق پہلے ہی سے اپنے اپنے پایہ اور مرتبہ سے ڈٹے ہوئے لیس تھے تعظیم کو کھڑے ہو گئے اور  
 فراشی سلام ہوا۔

مصاحب..... مزاج بخیر صبح کی نماز تو بیت الفکر میں ادا ہوئی۔  
 حواری..... حضور کی خواب بھی نماز ہے جو دم ہے عبادت میں شمار ہوتا ہے ان نابکار دنیا پرست مولویوں  
 کی نماز ریا اور شب بیداری سے حضور کی خواب ناز بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل و ادولی ہے۔  
 مرید..... اس میں کیا شک ہے مردان خدا کو ہر دم دہر لفظ قرب الہی حاصل ہے۔ زاہد خشک کی تمام  
 عمر کی عبادت ان کی ایک دم کے برابر نہیں۔ اتنے میں خادمان باسلیقہ ستھری چائے کی پیالیاں  
 نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجائی ہوئیں سامنے لائے۔ گنگا جننی ستھری رو پھلی کنوریاں اور بیس  
 بہا جرمن سلور کی چچیاں آب و تاب کے ساتھ پاس رکھی ہوئی۔ حضرت اقدس نے خاص دست  
 مبارک سے اٹھا اٹھا رفتاء اور مصاحبین کی طرف سرکائیں ہر ایک نے شکر یہ ادا کیا گھونٹ گھونٹ



گر ما گرم دودھیا چاء دار چینی اور الائچی کی پلین اٹتی ہوئی کا پینا شروع کیا۔  
 حواری..... ہم نے مہاراجہ جموں کے ہاں کشمیری بادرتوں کی بنائی ہوئی چاء پی ہے۔ مگر نعوذ باللہ یہ  
 بات اس میں کہاں۔

خوشامدی..... یہ تو حضرت اقدس کا اعجاز ہے کچھ چاء تھوڑی ہے۔  
 ۲..... ایسی چاء تو بادشاہوں کے یہاں بھی نہیں بنتی۔ یہ نسخہ کوئی الہامی ہے اور یہ ذائقہ نشان  
 آسمانی حضور اقدس کی غلامی کے تصدق میں ہم لوگوں کو یہی نصیب ہو گیا ورنہ ہم کہاں اور یہ نعمت  
 عظمیٰ غیر مترقبہ کہاں۔

۳..... یہ بہشتی چاء ہے نعماء جنت۔ انسان کی بنائی ہوئی تو نہیں۔ کیوں حضرت بہشت ہی سے  
 نہیں آتی۔

حضرت اقدس۔

بہشت آنجا کہ آزاری نباشد  
 کسے رہا کسے کارے نباشد

جنت کی بات ہے وہیہا ماتشتیہ الا نفس وتلا الا عین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا  
 نام جنت ہے اپنے بندوں کو وہ ہر ایک جگہ جنت دے دیتا ہے جو اس کے تخلص بندے ہیں ان کو وہ  
 لذت عطا کر دیتا ہے۔

حاضرین..... حق ہے حق ہے۔ سبحان اللہ صل علیٰ کیا ارشاد ہوا ہے۔ اتنے میں ایک خادم نے جھک  
 کر آہستہ سے کچھ عرض کیا۔ حضرت کے چہرہ منور کارنگ متغیر ہو گیا۔ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ زردی  
 سی چھا گئی۔ مردنی سی آگئی منہ زرد لب پر آہ سرد۔ ہونٹوں پر خشکی سے پٹریاں جم گئیں۔ زبان پر  
 کانتین کھڑی ہو گئیں۔ آنکھوں میں بے اختیار اشک جاری۔ حزن و اضطراب کی حالت طاری  
 ہو گئی۔ عنان ضبط و استقلال ہاتھ سے نکل گئی۔ ہر چند دل کو رو کا طبیعت کو سنبھالا مگر تو یہ جنون عشق  
 کہیں روکے سے رکتا ہے بے ساختہ زبان پر آیا۔

آہ و نالہ ہے وہی اور وہی رونا ضغم

پر اثر نالہ و فغان میں کہاں ہے کہ جو تھا

حضرت اقدس..... نہایت درد کے ساتھ آہ کھینچ کر انا اللہ وانا الیہ راجعون کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ  
 درد سر محسوس کرتا ہوں شاید دوران سر کا دورہ ہو۔ آپ صاحب بھی اپنے کاروبار میں لگ جائیں۔  
 حضرت اقدس بیت الفکر میں داخل :-

انسوس کوئی تدبیر درست نہ سہی نہ دعا نے اپنا اثر دکھایا نہ عمل نے کچھ عمل کیا۔ نقش لکھے  
تعوذ پہنے گئے۔ برسوں یا دو دو کو باعزیمت پڑھا۔ خود فضل در آتش ہو گئے۔

کھینچ گیا میری طرف سے اور اس کا قاتل دل

واہ واہ جذب محبت کا اثر اچھا ہوا

جو تدبیر کی ایسی پڑی جو عمل کیا خلاف اثر دکھایا کہ اس بت کا دل تک نہ پہنچا نہ اس کے  
درتاء کے دل کو مسخر کیا بلکہ ضد نے پتھر بنا دیا۔ ہر چند الہام سے بھی ڈرایا مگر اس لڑکی کا باپ عجب  
ضدی انسان ہے کچھ ہی خیال میں نہ لایا۔ اپنے متعلقین کو ہی بہتیرا دھمکایا سمجھایا مگر اس کا نتیجہ بھی  
سوائے اس کے کچھ نہ نکلا۔ بیوی سے تو پہلے ہی کچھ ایسا انس اور ارتباط نہ تھا۔ مگر جوان اور لائق بیٹے  
سے قطع تعلق کرنا پڑا۔ اگر اس کی ماں کو طلاق دی تو بڑا بیٹا بھی خوش نہ ہوگا اس سے بھی گویا قطع رحم کرنا  
پڑا دونوں بیٹوں میں علیحدگی ہوئی۔ مخالفین میں مضحکہ ہوا اور جس قدر وہ ہنسی اڑائیں وہ کم ہے۔

موجودہ رفقاء اور رشتہ داروں میں بھی رنجش آدر آزر دگی کا سبب یہی نامراد عشق ہے۔

ایک کاغذ کو اٹھا کر دیکھنے لگے الٹا پلٹا پھر رکھ دیا اور پھر اٹھایا اور پھر رکھ دیا پھر اٹھا کر  
پڑھنے لگے الٹی یہ کیا بوجھی ہے۔

یار اغیار ہو گئے واللہ

کیا زمانے کا انقلاب ہوا

جن لوگوں کی خاطر اپنی جان کو تہلکہ میں ڈالا تمام دنیا کو اپنا دشمن بنایا۔ جو مال محنت،  
مشقت اور جانفشانی سے اکٹھا کیا تھا وہ ان کی آسائش اور آرام کا سامان بہم پہنچانے میں صرف  
کیا۔ رات دن خوشنودی اور رضامندی کو ہر ایک کام پر مقدم رکھا آج وہ بھی ہمارے خلاف اور  
دشمن ہیں۔ اب دیکھیے خیر صاحب نے یہ نظم لکھی ہے کوئی ان ہی سے پوچھے بھائی تم کو کیا تکلیف  
پہنچی تمہاری کسی خاطر داری مدارات میں، خدمت میں، آسائش میں، آرام میں، عزت میں، توقیر  
میں، کس بات میں فرق آگیا کس چیز میں کمی واقع ہوئی۔ ان کی بیٹی کی خاطر تو وضع میں کوئی کوتاہی  
ہوئی ان کی محبت میں موانست میں کچھ نقص واقع ہوا۔ اسلام میں دوسرا نکاح منع نہیں حرام نہیں۔

آخر ان کی بیٹی سے جب نکاح کیا تھا اس سے پہلے بھی بیوی تھی اولاد تھی اگر یہ کہا  
جائے کہ اس نکاح کے بعد پہلی بیوی کی قدر و منزلت کم ہو گئی تھی تو اس کے حسین ہونے کا سبب تھا۔  
ان کی لڑکی تو جو جوان ہے حسین ہے صاحب تمیز ہے اور اگر اس کے بعد تیسرا نکاح ہو  
بھی تو اس کی محبت اور الفت میں کمی کیوں واقع ہو سکتی ہے۔ عدل سے کام لیا جاسکتا ہے۔ طبقہ

نسواں تو سلف سے ناقص الحقل شمار کیا گیا ہے مگر یہ مردود مشہور صاحب تجربہ جہاندیدہ ہو کر عورتوں کے ہم خیال ہو گئے۔ ہم کو امید تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھا بجا کر اس کی رنجش کو دور ایسے بگڑے کہ جسٹ ایک بڑی نظم لکھ ماری اگر یہ نظم کسی ہمارے دشمن کے ہاتھ لگ جائے اور ضرور لگے گی اور غالباً ان کے پاس پہنچ گئی ہوگی۔

اگر یہ شیخ بیٹالوی کے ہاتھ چڑھ گئی تو غضب ہو گیا وہ فوراً اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں شائع کر کے مشتہر کر دے گا۔

مثنوی در حالات مکاری زمانہ، من تاریخ افکار میر صاحب، خسر ثانی حضرت مسیح زمان

مہدی دوران مرزا غلام احمد صاحب قادیانی۔

بعد ازیں یہ عرض ہے اے مسلمین  
ہیں دعا میں آج کل سرگرم لوگ  
ہیں ڈولوں کی کسی جا اشتہار  
شہد کہتے ہیں مگر دیتے ہیں سم  
ظاہری اور باطنی دکان دار  
حافظ و حاجی بہت پھرتے ہیں یاں  
قبر کا کوئی مجاور ہے بنا  
نڈی دل کی طرح نکلے ہیں فقیر  
ہے کہیں ٹوٹس بزرگی کا لگا  
ہو ہمارے فضل میں تم بھی شریک  
مال و دولت اور شے تم پاؤ گے  
مال جو دے وہ مرید خاص ہے  
جو نہ دے کچھ مال وہ کیسا مرید  
ہے مریدی واسطے پیسوں کی اب  
ہر گھڑی ہے مالداروں کی تلاش  
کوئی مل جائے جو دولت کا سبب  
قرض سے اک دفعہ ہو جائے نجات  
ہو قیہوں ہی کا یا رائٹوں کا ہو

آج دنیا میں کہیں تقویٰ نہیں  
سینکڑوں دنیا میں اب پھیلے ہیں روگ  
کھلے گل لوگوں کو دیتے ہیں وہ خار  
جاہلوں کو رات دن دیتے ہیں دم  
خلق کو دھوکہ میں کرتے ہیں شکار  
حال ہے جن کا زمانہ پر عیان  
ہے کوئی زائر بنا اجیر کا  
مارے مارے پھرتے ہیں حضرات حیر  
آؤ لوگو ہم پر ہے فضل خدا  
ہم تمہیں دیں فیض تم دو ہم کو بھیک  
گر بجا خدمت ہماری لاؤ گے  
اس کے دل میں بالخصوص اخلاص ہے  
شمر اس کو جان لویا ہے یزید  
ہائے دنیا میں بڑا ہے یہ غضب  
تاکہ حاصل ہو کہیں وجہ معاش  
ایک دم میں ہوں دلدر پاک سب  
گو طے صدقہ کہ مل جائے زکوٰۃ  
رٹھوں کا مال یا بہانوں کا ہو

حرص کا ہے اس قدر ان کو مرض ان کے حال و حال بے تاثیر ہیں ڈالتے ہیں ہم کو وہ آفات میں دن بدن میں دین میں ہم لوگ پست یہ ہی لوگوں نے کیا ہے روزگار غلق کو اس طرح دم دیتے ہیں وہ اس طرح پڑ گیا یارو غضب جیسے آتا تھا کہیں ان کا ادھار وہ بڑا ملعون اور شیطان ہے سارے بدبختوں کا وہ سردار ہے دوسرا بدنام اپنے کو کیا کچھ گھٹا اس کا نہ ہرگز اتقا جانتا اس کو نہ تم مردوں کو مالک دکان نہ دے گو اشتہار جوز جانے ہے وہ اندھا عقل کا اب دعا بازی پہ ہر ایک تیز ہے کچھ نہیں پرہیت دنیا کی رہی بو مسلم آج احمد بن گئے ہر طرف مارے انہوں نے جال ہیں سارے عالم میں وہ گویا ایک ہیں مال پر لوگوں کے دندان تیز ہیں ہیں یہی تدبیر ہر دم سوچتے کچھ نیا اب شعبہ دکھلائے گاٹھ کا پورا کوئی ہودے مرید میوہ زر کی وہ دیدے ان کو کاش ان کے دل کو اس نے پہنچایا سرور

کچھ نہیں تقییس سے ان کو غرض آج کل مکار ایسے بھڑ ہیں کچھ نہ صحبت میں اثر نے بات میں رہ گئے دنیا میں اب ظاہر پرست اور کہیں تصنیف کے ہیں اشتہار پیٹھلی قیمت مگر لیتے ہیں وہ بعض کھا جاتے ہیں قیمت اس کی سب قیمتیں کھا کر نہیں لیتے ڈکار جو کوئی مانگے وہ بے ایمان ہے بدگمانی کا اسے آزار ہے ایک تو پلے سے اس نے زر دیا کھا گیا جو مال وہ اچھا رہا چیز کی اپنے کرے تعریف جو مٹک کی خوشبو تو خود اڑتی ہے یار آم اور حظل تو ہوتے ہیں جدا آج دنیا مکر سے لبریز ہے کہہ کے بیٹھا دیتے ہیں کھٹا دہی بدمعاش اب نیک از حد بن گئے سبھی دوران بنے دجال ہیں ظاہر انحال ان کے نیک ہیں عالم و صوفی ہیں اور شب خیز ہیں ہر طرح سے مال وہ ہیں نوچتے جس طرح ہو مال کچھ کھا جائیے عقل کا اندھا کوئی ہودے مرید ہو کوئی کیسا ہی گرچہ بدمعاش پھر تو وہ مقبول رحمان ہے ضرور

جو شقی دے ان کو وہ ہے متقی  
 کر کے تعریفیں اڑا لیتے ہیں مول  
 اس قدر ہے ان کی دل میں حرص و آرز  
 وہ روا ہو مال یا ہو ناروا  
 دینداری کی نہیں ہے کوئی بات  
 دولت دنیا ہے کھانے کے لیے  
 ہنسنے رہتے ہیں کبھی روتے نہیں  
 اپنی چالاکي پہ اترتے ہیں وہ  
 ابلیہ کا ہے یہی ان پر اثر  
 آیت قرآن ہے گویا ان کی خواب  
 دشمن اپنا جانتے ہیں بر ملا  
 کم نہیں ہوئی مگر لاف و مغزاف  
 ہے اسی تدبیر سے عزت بڑھی  
 حیلہ سازی میں ہے آسائش بہت

دیکر

کوئی بنتا ہے عیسیٰ درواں  
 نہ ہدایت کا اس میں نام و نشان  
 ماہی میں نہیں رہی ہے جاں  
 ہے بہت ہی ضعیف اب ایماں  
 حد سے باہر ہے کفر اور عصیاں  
 ہیں دکھاؤں میں لوگ سرگرداں  
 حرص دنیا میں پھنس گئے انساں  
 نہ کسی اہل دل کو اس سے اماں  
 نہ امیروں میں شکر کا ہے نشان  
 آج کل ہیں جو پیشوائے جہاں  
 ہیں ملائک خصال جو انسان

متقی ان کو نہ دے تو ہے شقی  
 ہیں امیروں سے بڑھاتے میل جول  
 جو کوئی دے ہاتھ کر دیں گے دراز  
 لیتے دم کرتے نہیں چون و چرا  
 ہیں امیر اور لیتے ہیں صدقہ زکوٰۃ  
 علم ہے دنیا کمانے کے لیے  
 دل میں اپنے مستقل ہوتے نہیں  
 غیظ میں بدست ہو جاتے ہیں وہ  
 نیک رکھتے ہیں گمان وہ نفس پر  
 اپنی تعریفوں سے بھرتے ہیں کتاب  
 اگر کوئی روکے تو ہوتے ہیں خفا  
 سینکڑوں کرتے ہیں گو وعدہ خلاف  
 ہے اسی دن کے لیے منفق پڑھی  
 بات کو ہوتی ہے گنجائش بہت

مہدی وقت ہے کوئی مشہور  
 نہ عیاں اس میں عیسوی برکت  
 نیک سب اٹھ گئے زمانہ سے  
 حب دنیا نے گھیر رکھا ہے  
 بدعتوں کی بہت ترقی ہے  
 نہیں آتا نظر کہیں اخلاص  
 حب مولیٰ جہان سے ہے معدوم  
 نہ بچا اس سے مولوی کوئی  
 نہ فقیروں میں صبر باقی ہے  
 لذت نفس میں وہ ہیں سرگرم  
 مرغ بریان کا شوق ہے ان کو

لوگ کہتے ہیں جن کو قطب زماں  
ان کی صدقہ پہ ہے فقط گزراں  
ان کے دیکھے اگر کوئی ساماں  
دو دولت پہ ہیں کئی درباں  
مال کرتے ہیں مفت میں ویراں  
دیکھنے کو ترس گئے دل و جاں  
رہبر خلق صاحب عرفاں  
جن سے رونق پذیر تھا ایماں  
قاطع شرک و بدعت و عصیاں  
ہے جہالت بھرا جو کوہستاں  
کر کے ظلم و ستم تھکے افغاں  
نہ پھرے حق سے پر کسی عنوان  
کرتے تھے شکر خالق سبحاں  
اور جاری تھی ذکر حق میں لساں  
پاک سیرت تھے اور پاک زباں  
تہی نہ اک ذرہ فکر آب و ناں  
ورد تھا یا حدیث یا قرآن  
یاد آتا تھا وہاں خدائے جہاں  
روز و شب تھی ترقی ایماں  
بات دنیا کی ہو یہ کیا کر مکاں  
پاس آتے تھے ان کے جو انساں  
فضل مولیٰ سے تھی یہ بخت زباں  
پراز حکمت تھا ان کا قول و بیماں  
بے طمع تھے وہ صاحب عرفاں  
وہاں نہ ہوتا تھا لغو اور ہڈیاں  
کر گئے کوچ اب وہ عالی شاں

تورمہ اور پلاؤ کھاتے ہیں  
جو ولایت میں ہیں قدم رکھتے  
جب حقیقت کھلی بزرگی کی  
ٹھاٹھہ ہیں ان کے سب امیرانہ  
رات دن ہیں عمارتیں بنتی  
ہائے آتے نہیں نظر وہ لوگ  
ہر صدی میں ہو رہے ہیں اہل حق  
دین اسلام جن سے تازہ ہوا  
ہے از آنجملہ ایک عبد اللہ  
ملک غزنی کا رہنے والا ہے  
استقامت میں ہے مثال کوہ  
راہ حق میں اٹھائیں تکلیفیں  
ان کو حاصل تھا صبر ایوبی  
تھے عبادت میں رات دن مشغول  
تھے نمونہ سلف کے وہ پیشک  
اپنے مولا کا ان کو تکیہ تھا  
تھے دعاؤ نماز میں مصروف  
ان کی صحبت میں تھی عجب برکت  
لطف آتا تھا وہاں عبادت میں  
ذکر مولا کی تھی وہاں کثرت  
امر معروف آپ کرتے تھے  
نہی منکر شعار تھا ان کا  
ایسے شیریں کلام اور خوش خلقی  
کچھ کسی سے غرض نہ تھی ان کو  
ان کی محفل میں ذکر عقبی تھا  
رہ گیا ذکر خیر دنیا میں

حق انہیں مغفرت نصیب کرے جنت غلہ میں رہیں شاداں  
 نیک بندے جہاں میں اب ہیں حق کو رکھتے ہیں جو عزیز از جاں  
 پر مجھے وہ نظر نہیں آتے دے ملا مجھ کو ان سے یاد رحماں  
 تیری قدرت سے کچھ نہیں ہے دور مجھ کو مشکل ہے اور تجھے آساں  
 ناصر اب ختم کر کلام اپنا حق تری مشکلیں کرے آساں  
 اس نظم کو پڑھ کر امید ہے کہ میر صاحب اپنی اس بات کو کہ میں اشاعت السنہ کے دھوکہ  
 میں آکر قادیانی سے منحرف ہو گیا تھا، واپس لیں گے۔ اور اقرار کریں گے کہ وہ قدیم سے منحرف  
 ہے۔ اس کو جو تاسخ اور جھوٹا مہدی سمجھتے تھے۔ اب وہ قادیانی کے دھوکہ میں آکر اس کو سچا مہدی  
 موعود مسج بخننے لگے تھے۔ جس سے پھر ان کو رجوع ہے۔ (از اشاعت السنہ نمبر ۱۲ جلد ۱۲ صفحہ ۳۱ تا ۳۲)

### حاشیہ جات

- ۱۔ جیسے حکیم نور الدین جن کے اخلاص کی قادیانی نے جا بجا اسی وجہ سے تعریف کی ہے کہ وہ بہت روپیہ ڈے چکے ہیں۔
- ۲۔ دیکھو (فتح اسلام ص ۶۰، ۶۱، خزائن ج ۳ ص ۳۶) جس میں اشاعت کتب کے بہانے روپیہ مانگا گیا ہے اور اشتہار مطبوعہ بر ورق اخیر کشتی نوح واسطے توسیع مکان اور اشتہار جو مرزا امام الدین نے اس کی رو میں شائع کیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ!
- ۳۔ جیسا کہ باللہ قادیانی تائب مرحوم کا روپیہ جو اس قسم سے تھا۔ قادیانی نے منگایا اور اب اس کا جواز انجیلی کے حوالہ سے اور ایک نقلی دلیل سے ثابت کیا ہے۔ جس کا بیان مفصل اشاعت السنہ نمبر ۹ جلد ۱۸ میں درج ہے۔
- ۴۔ براہین احمدیہ کی قیمت بیٹنگی لینے کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا مرزا صاحب کر کے خورز برد کر لیا۔ اور فتح اسلام میں اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے۔
- ۵۔ یہ قادیانی کے نام اور دعوے پر صاف تصریح ہے اور اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے جو بجز قادیانی احمد اور بیسی کہلاتا ہو۔
- ۶۔ اس اشارہ کی تعریف میر صاحب نے زبانی یہ کی تھی کہ جو کوئی دنیا دار اور مال دار قادیانی کے پاس آتا ہے اس کی دعوت کرتا ہے۔ لہذا چنانہ میں خاص ایک وہاں کے رئیس شاہزادہ والا گوہر آئے تو ان کی بڑی دھوم دھام سے دعوت کی۔ جس علی ہذا۔
- ۷۔ اس اشارہ کی تشریح آپ نے یا ایک اور گھر کے بھیدی فتح خان نامی نے یہ کی ہے

کہ قادیانی کی پرائیویٹ مجلس میں خوب کھلی بازی ہوتی ہے۔

۵۔ یہی آپ کے حالات میں کھانے کی تشریح میر صاحب نے زبانی یہ کی ہوئی ہے کہ آپ کھی کی جگہ کھانے میں بادام روغن ڈلواتے ہیں اور چاول ایسی باریک نوش جان فرماتے ہیں جس کی قیمت فی آٹار دو روپیہ یا کم سے کم اس امر کے لیے اپنے منشی مولانا بخش ملازم سفری ڈاک خانہ کو جو دہلی جایا کرتے تھے مامور کیا گیا تھا۔

### باب ۳۳ سی وچہارم

مرزا صاحب کے عقائد اور تجدید اسلام

یا رمن اسماں دعوائے نبوت کردہ است

سماں دیگر گر خدا خواہد خدا خواہد شدن

مرزا صاحب..... ”آیت فلما توفیتنی نے صاف طور پر خبر دیدی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اور وہ جھگڑا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے جو یہود اور حضرت ایلیا کے نزول کے بارہ میں تھا کوئی ایسا مسلمان نہیں جو اس میں یہود کو سچا قرار دے۔ سو دنیا میں دو بارہ آنے کے معنی جو ایک نبی کہے وہی ہم حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارہ میں کرتے ہیں مگر ہمارے مخالف مولوی جو معنی کرتے ہیں ان کے پاس ان معنوں کی کوئی سند نہیں۔

اب سوچنا چاہیے کہ ہم تو اس عقیدہ کو پیش کرتے ہیں جس کی پہلی کتابوں میں نظیر موجود ہیں اور جس کا قرآن مصدق ہے اور ہمارے مخالف مولوی حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارہ میں اس عقیدہ کو پیش کرتے ہیں جس کی تمام انبیاء کے سلسلہ میں کوئی نظیر موجود نہیں اور قرآن اس کا مکتب ہے پھر ہمارے مخالف جبکہ اس بحث میں عاجز آجاتے ہیں تو افتراء کے طور پر ہم پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور گویا ہم معجزات اور فرشتوں کے منکر ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ سب افتراء ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور ہم فرشتوں اور معجزات اور تمام عقائد اہل سنت کے قائل ہیں صرف یہ فرق ہے کہ ہمارے مخالف اپنی جہالت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا حقیقی طور پر انتظار کرتے اور ہم بروزی طور پر جیسا کہ تمام معصومین کا مذہب ہے اور ہم مانتے ہیں کہ نزول مسیح کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔

معرض..... آپ کی تالیف و تصنیف میں یہ عقائد موجود ہیں جن کو ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

دعویٰ نبوت (توضیح المرام ص ۱۸، جزآن ج ۳ ص ۶۰) ”اس میں شک نہیں کہ یہ عاجز خدا کی



طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے اگرچہ اس کے لیے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزئی طور سے ایک نبی ہی ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جاتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو بھی دخل شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے اور مغز شریعت اس پر کھولا جاتا ہے اور بعینہ انبیاء کی طرح مامور ہو کر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں باواز بلند ظاہر کرے اور اس سے انکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سزا ٹھہرتا ہے۔ اور نبوت کے معنی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ امور متذکرہ بالا اس میں پائے جائیں۔“

(توضیح المرآم ص ۱۹، خزائن ج ۳ ص ۶۰)

”فاعلم ارشدك الله تعالى ان النبي محدث والمحدث نبی“

ٹائٹل بیچ ازالہ اوہام از تصانیف مرسل یزدانی مامور رحمانی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی۔

(دافع البلاء ص ۸، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۹) خدا نے نہ چاہا کہ اپنے رسول کو بغیر گواہی چھوڑے۔“

(دافع البلاء ص ۹، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۹) ”یہ طاعون اس حالت میں فرو ہوگی جبکہ لوگ خدا

کے فرستادہ کو قبول کر لیں گے۔“

(دافع البلاء ص ۱۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۹) ”باوجود مخالفت اور دشمنی اور نافرمانی اس رسول

کے طاعون دور ہو سکتی ہے۔“

(دافع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۹) سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

(دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳) ”بجز اس مسیح (مرزا صاحب) کے اور کوئی شفیع

نہیں۔“ (ایضاً) ”سچا شفیع میں ہوں۔“

(ازالہ اوہام ص ۶۷۳، خزائن ج ۳ ص ۴۶۳) ”آیت و مبشر ا یاتی من بعدی اسمہ

احمد۔ مگر ہمارے رسول فقط احمد نہیں بلکہ محمد بھی ہیں یعنی جامع جلال و جمال ہیں۔ لیکن آخری زمانہ

میں برطبق پیشگوئی مجرد احمد جو اپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے بھیجا گیا ہے رسول اللہ تو احمد اور

محمد دونوں تھے لیکن برطبق پیشگوئی صرف احمد مبشر (خود) ہے نہ رسول اللہ ﷺ۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۳۳، خزائن ج ۳ ص ۲۸۶) ”لیکن صاحب نبوت تامہ تو صرف ایک شان

نبوت ہی رکھتا ہے غرض محدث دونوں رنگوں سے رنگین ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے براہین

احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی نبی رکھا ہے۔“

انکار معراج جسمی آنحضرت (ازالہ اوہام ص ۴۷، خزائن ج ۱۸ ص ۱۲۶) ”معراج اس جسم

کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔“

ملائکہ سیاروں کی ارواح ہیں۔ (توضیح المرام صفحہ ۳۹ تا ۴۲، خزائن ج ۳ ص ۶۶ تا ۶۹) ”ملائکہ ستاروں کی ارواح ہیں وہ سیاروں کے لیے جان کا حکم رکھتے ہیں لہذا وہ کبھی سیاروں سے جدا نہیں ہوتے۔“

جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل جس کا سورج سے تعلق ہے وہ بذات خود وہ اور حقیقتاً زمین پر نہیں اترتا ہے اس کا نزول جو شرع میں وارد ہے اس سے اس کی تاثیر کا نزول مراد ہے اور جو صورت جبرائیل وغیرہ فرشتوں کی انبیاء دیکھتے تھے وہ جبرائیل وغیرہ کی عکسی تصویر تھی جو انسان کے خیال میں متمثل ہو جاتی تھی۔

ملکوت سے بذات خود زمین پر اتر کر فیض روح نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی تاثیر سے فیض ارواح ہوتا ہے۔

دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نجوم کی تاثیرات سے ہو رہا ہے۔

حضرت عیسیٰ ابن مریم کے معجزات سے انکار اور یوسف نجار کا بیٹا ہونے کا اقرار۔ حصہ اول (ازالہ ص ۳۲۲، خزائن ج ۳ ص ۲۶۳) ”غرض یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد ہے اور مشرکانہ اعتقاد ہے کہ مسیح مٹی کے پرند بنا کر اور ان میں یہ پھونک مار کر انہیں سچ سچ کے جانور بنا دیتا تھا۔ بلکہ عمل التراب تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح ایسے کام کے لیے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح القدس کی تاثیر رکھی گئی تھی۔ بہر حال یہ معجزہ صرف ایک کھیل کی قسم میں سے تھا اور وہ مٹی وہ حقیقت ایک مٹی رہتی تھی جیسے سامری کا گوسالہ۔“ (ازالہ ص ۳۰۳، خزائن ج ۳ ص ۲۵۴) ”کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دیدی ہو۔ جو ایک کھلونا کھل کے دبانے سے یا کسی پھونک مارنے کے طور سے پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے یا اگر پرواز نہیں تو پیر سے چلتا ہو کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنالینے میں عقل تیز ہو جاتی ہے۔“ (ازالہ ص ۳۰۴، خزائن ج ۳ ص ۳۵۵) ”کیونکہ حال کے زمانہ ہی میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صنایع ایسی ایسی چیزیاں بنالیتے ہیں کہ وہ بولتی ہیں اور ہنستی ہی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چیزیاں گل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔“ (ازالہ ص ۳۲۵، خزائن ج ۳ ص ۲۹۳) یہ بھی قرین قیاس ہے کہ مسمریزی طور سے بطور لہو و لعل نہ بطور حقیقت ظہور میں آسکتیں۔“ (ازالہ ص ۳۰۹، خزائن ج ۳ ص ۲۵۵) ”بہر حال مسیح کی یہ تربی کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور حاضر مصلحت کے

تھیں۔ مگر یاد رکھنا چاہیے یہ عمل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں اگر یہ عاجز (مرزا) اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان عجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ رہتا۔“

تو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام

ایتمکم منم کہ حسب بشارات آدم  
عیسیٰ کجاست تاہ نہد پایہ منبرم

(ازالہ اوہام ص ۱۵۸، خزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

(توضیح المرام ص ۲۲، خزائن ج ۳ ص ۶۲) ”روح القدس، روح الامین، شدید القوی، ذوالانفیع الاعلیٰ۔ جن کا ذکر شروع میں ہے انسان کی نیک صفت ہے۔ جو خدا کی محبت یا اس کے محبوب انسان کی محبت باہم ملتے جلتے متولد ہوتی ہے ان دونوں محبتوں اور ان سے متولد نتیجہ (روح القدس) کا مجموعہ پاک تثلیث ہے۔“

(ابن اللہ ہونے کا دعویٰ، حقیقت الوہی ص ۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۸۹) ”اور اس عاجز (مرزا

صاحب) کا مقام ایسا ہے جس کو استعارہ کے طور پر ابہیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔“

دعوائے مسیح موعود..... ”مسیح موعود میں ہوں جس کی بشارت حدیثوں میں وارد ہے نہ عیسیٰ بن مریم اسرائیلی کی۔“ (فتح الاسلام ص ۱۰، خزائن ج ۳ ص ۷) ”شکر کے سجدے، بجالاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آباء گزر گئے اور بے شمار رو جس اس کے شوق میں سفر کر گئیں۔ وہ وقت تم نے پایا۔“ (فتح اسلام ص ۱۵، خزائن ج ۳ ص ۱۰، احاشیہ) ”مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے چاہو تو قبول کرو۔“ (ازالہ ص ۵۶، خزائن ج ۳ ص ۲۰۲) ”میرے پر خاص الہام سے ظاہر کیا گیا ہے کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا! آنے والے مسیح کے اوصاف جو احادیث میں وارد ہیں اور ان کی تاویل۔ (ازالہ اوہام

ص ۳، خزائن ج ۳ ص ۱۳۸) ”گویا یہ فقرہ جو اللہ جل شانہ نے الہام کے طور پر اس عاجز کے دل پر القا کیا ہے کہ انا انزلناہ قریباً من القادیان۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ انا انزلنا قریباً من القادیان بطرف شرقی عند المنارة البضاء! کیونکہ اس عاجز کی سکونت جگہ قادیان کے شرقی کنارہ پر ہے منارہ کے پاس۔ پس الہام الہی کا یہ فقرہ کہ کان وعد اللہ مفعولاً! اس تاویل ہے۔ پوری پوری تطبیق کہا کہ یہ پیشگوئی واقعی طور پر پوری ہو جاتی ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۲۱۹، خزائن ج ۳ ص ۲۰۹) ”زر و کپڑوں کے یہ معنی ہیں کہ اس کی صحت اچھی نہ ہوگی (آپ ہمیشہ بیمار جو رہتے ہیں)“

(ازالہ ادہام ص ۳۹۵، ۳۹۶، خزائن ج ۳ ص ۳۶۶) ”دو فرشتوں کے بازوؤں پر اترنے کی یہ مراد ہے کہ وہ دراصل وہی آدمی ہیں کہ دوسری حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے سے یہ مراد ہے کہ وہ مسیح کے انصار اور مددگار ہو جائیں گے پاپیہ شوت پہنچ گیا کہ مسیح دجال جس کے آنے کی انتظار تھی پادریوں کا گروہ ہے جو نڈی کی طرح دنیا میں پھیل گیا ہے۔ سو آئے بزرگود دجال معبودیہ ہے جو آچکا ہے۔ مگر تم نے اسے شناخت نہ کیا۔“

(ازالہ ادہام ص ۵۰۶، خزائن ج ۳ ص ۳۷۱) ”یک چشم کے یہ معنی ہیں کہ دین کی آنکھ بالکل نہ ہوگی جیسے کہ آج کل یورپ اور امریکہ کے لوگوں کا حال ہے۔“ (ازالہ ادہام ص ۵۰۲، خزائن ج ۳ ص ۳۶۹) ”یا جو جوج ماجوج آفریز اور روس ہیں۔“ (ازالہ ادہام ص ۵۰۳، خزائن ج ۳ ص ۳۷۰) ”دلۂ الارض سے علماء و ظاہر مراد ہیں کہ ہم ایک گروہ دلۂ الارض کا زمین سے نکالیں گے وہ گروہ مشکلمین کا ہوگا جو اسلام کی حمایت میں تمام اریان باطلہ پر حملہ کرے گا یعنی علمائے ظاہر ہوں گے۔“ (ازالہ ادہام ص ۵۱۵، خزائن ج ۳ ص ۳۷۶) ”اس عاجز پر جو رویا میں ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت کفر و ضلالت میں ہیں آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا۔“ (ازالہ ادہام ص ۵۱۷، خزائن ج ۳ ص ۳۷۷) ”وہی لوگ اسلام سے محروم رہ جائیں گے جن پر دروازہ توبہ کا بند ہے یعنی فطرتین بالکل مناسب حال اسلام کے نہیں۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے کے یہ معنی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو جائیں گے۔“

(فتح اسلام ص ۵۴، خزائن ج ۳ ص ۳۲) ”لیلۃ القدر جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ رات مراد نہیں بلکہ وہ زمانہ مراد ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم رنگ ہے اور نبی یا مجدد کے گزر جانے سے ایک ہزار مہینے بعد آتا ہے۔“

(توضیح المرام ص ۳۹، خزائن ج ۳ ص ۷۶) ”آیۃ مضمّن ذکر سجدہ بابا آدم کی طرف سجدہ کرنا مراد نہیں بلکہ ملائکہ کا انسان کامل کی خدمت بجالاتا اور اس کی اطاعت کرنا مراد ہے۔“

### حاشیہ جات

۱۔ (صحیح بخاری ص ۱۱۴، صحیح مسلم ص ۱۵۹) اصل حدیث میں آنحضرت ﷺ نے بارش کے بعد صبح کی نماز پڑھائی تو اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم جانتے ہو خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اصحاب نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے اور کوئی کافر ہوتا ہے۔ جو یہ کہے کہ ہم پر خدا کے فضل و کرم سے

بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں سے منکر اور جو یہ کہے کہ فلاں ستارہ کے فلاں مقام پر پہنچنے کے سبب بارش ہوئی ہے تو ستاروں پر ایمان لاتا ہے اور مجھ سے کافر ہے۔

## باب ۳۵۵ و پنجم

شیخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیار پور

تا دل مرد خدا تا مدد رد

سچ قوسے را خدا رسوا نہ کرد

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِتْفَانٌ

آج صبح سے حضرت سچ موعود اور مہدی مسعود، امام زمان مجدد دوران کے باورچی خانے میں معمول سے زیادہ سامان ہے یوں تو خدا کی عنایت سے روز شاہانہ سامان اور امیرانہ ٹھانڈھ ہوتا ہے کچھ آج نئی بات نہیں۔ اور امراؤ رؤساء کی مہمانداری بھی معمولی بات ہے روز کوئی امیر یا رئیس مہمان رہتا ہے مگر آج اس معمول سے زیادہ سامان ہے۔ بریانی، مٹن، زردہ، پلاؤ، دورو پے سیر والے چاول کی دیگیچیاں دم ہو رہی ہیں۔ گوشت بھی کئی قسم کا تورما، قلیا اور بریان وغیرہ وغیرہ علیحدہ دم پخت ہو رہا ہے۔ شامی کباب، مچھلی کے کباب، سبزی کے کباب علیحدہ تیار ہوتے ہیں۔ فیرنی کی پیالیاں علیحدہ جمائی جا رہی ہیں۔ کیوڑہ کے قرابہ لٹائے جاتے ہیں۔ شیر مال اور باقر خانیاں تنورین گرم گرم پک کر آ رہی ہیں۔

شام کا وقت قریب آ گیا حواری اور مصاحب اپنے اپنے پایہ و مرتبہ سے ڈٹے بیٹھے ہیں۔ حضرت اقدس مرزا صاحب بھی زیب و ہمسند ہیں۔ گاڑی کی کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ خادم..... شیخ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ چند حواری استقبال کو گئے۔ اور شیخ صاحب تشریف لائے مرزا صاحب کے برابر جگہ پائی آؤ بھگت اور مزاج پُرسی کے بعد ہاتھ دھلائے گئے دسترخوان بچھا کھانا چننا گیا۔

مرزا صاحب..... نے شیخ صاحب کے مقدمہ کی زیر باری اور تکالیف کا افسوس اور بظہوری اپیل کامیابی کی مسرت ظاہر فرما کر لیکچر کے طور پر شروع کیا کہ: ”انسان باوجود سخت ناجیز اور مشمت خاک ہونے کے پھر اپنی عاجزی کیسے بھول جاتا ہے ایک ذرہ درد فرود ہونے اور آرام کا کرٹ بدلنے سے اپنی فردوسی کا لہجہ فوراً بدل لیتا ہے۔ پنجاب کے قریب تمام آدمی شیخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیار پور سے واقف ہوں گے اور میرے خیال میں ہے کہ جس ایک بے جا الزام میں اپنے بعض

پہنائی قصوروں کی وجہ سے جن کو خدائے تعالیٰ جانتا ہوگا چھنس گئے تھے اس قصہ کو ہمارے ملک کے بچے اور عورتیں جانتی ہوں گی۔ (شیخ مہر علی صاحب ہوشیار پور کے رئیس اعظم ہیں اور پنجاب کے مسلمانوں میں دولت و ثروت میں کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں ہے) سواں منسوخ شدہ قضیہ سے تو مطلب نہیں۔ (اشتہار شیخ مہر علی رئیس ہوشیار پور ملحقہ آئینہ کمالات ص ۶۵۳، جزائن ج ۵ ص ۱۵۵)

اس کے اعادہ سے سوائے رنج اٹھانے اور دل دکھانے کے اور پرانا زخم تازہ کرنے کے اور کیا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر اور لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس بلا کو دفع کیا ورنہ کس کو امید تھی۔ آج وہ مبارک دن ہے کہ شیخ صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے صحیح و تندرست ہیں۔

شیخ صاحب..... اس قصہ کو سن کر اپنے مصائب اور تکلیف کا زمانہ یاد کر کے آبدیدہ ہو گئے بلکہ رقت طاری ہو گئی۔

مرزا صاحب..... ”صرف اس بات کا ظاہر کرنا مطلوب ہے کہ اس قصہ سے تخمیناً چھ ماہ پہلے اس عاجز کو بذریعہ ایک خواب کے بتلایا گیا تھا کہ شیخ صاحب کی خانہ نشست کے فرش کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کو اس عاجز نے پانی ڈال ڈال کر بجھایا ہے۔ اسی وقت میرے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ یقین کامل ڈالا گیا کہ شیخ صاحب پر اور ان کی عزت پر سخت مصیبت آئے گی۔ اور میرا پانی ڈالنا یہ ہوگا کہ آخر میری ہی دعا ہے نہ کسی اور وجہ سے وہ بلا دور ہو جائے گی۔ میں نے اس خواب کے بعد شیخ صاحب کو بذریعہ ایک مفصل خط کے اپنے خواب سے اطلاع دیدی اور توبہ اور استغفار کی طرف توجہ دلائی۔ اس کا جواب تو شیخ صاحب نے کچھ نہ لکھا۔

”آخر قریباً چھ ماہ گزر جانے پر ایسا ہی ہوا اور میں انبالہ چھاؤنی میں تھا کہ ایک شخص محمد بخش نام، شیخ صاحب کے فرزند جان محمد کی طرف سے میرے پاس پہنچا اور بیان کیا کہ فلاں مقدمہ میں شیخ صاحب حوالات میں ہو گئے۔“ (ایضاً)

میں..... ”ہم نے چھ ماہ کا عرصہ ہوا بذریعہ خط کے شیخ صاحب کو اطلاع دی کہ آپ اور آپ کی عزت پر کوئی سخت مصیبت آنے والی ہے۔“ (ایضاً)

محمد بخش..... ”مجھ کو اس خط کا علم نہیں مگر مجھ کو شیخ صاحب کے فرزند جان محمد نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور دعا کے واسطے کہا ہے۔“

(اشتہار شیخ مہر علی رئیس ہوشیار پور ملحقہ آئینہ کمالات اسلام ص ۶۵۳، جزائن ج ۵ ص ۱۵۵)

”خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کئی راتیں نہایت مجاہدہ سے دعائیں کی گئیں اور اوائل میں

صورت قضا و قدر کی نہایت پیچیدہ اور مبرم معلوم ہوتی تھی۔ آخر خدا تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ان کے بارہ میں رہا ہونے کی بشارت دیدی اور بشارت سے ان کے بیٹے کو مختصر لفظوں میں اطلاع دی گئی۔“

مصاحب..... پیشک حضور کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا۔ ورنہ مقدمہ بہت پیچیدہ ہو گیا تھا کس کو امید تھی کہ شیخ صاحب بچ جائیں گے۔

حواری..... حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ صورت قضا و قدر کی نہایت پیچیدہ تھی۔ یعنی قضاے مبرم تھی بھلا قضاے مبرم بدل سکتی ہے۔ یہ حضور کے قدموں کا صدقہ تھا کہ قضاے مبرم کو بدل دیا۔

۲..... ہمارے حضرت اقدس امام ہمام نے کئی مرتبہ قضاے مبرم کو بدل دیا ہے یہ خاص حضرت اقدس ہی کا مرتبہ ہے پہلے کسی انبیاء اور اولیاء کو یہ منصب نہیں ملا۔ قضاے معلق تو اور نبی ولی کی دعا سے بدل جاتی ہے قضاے مبرم کسی سے نہیں بدلی۔

۳..... یہ ہمارے امام پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے دوسرے انبیاء اولیاء کو یہ بات نصیب نہیں ہوئی۔

شیخ صاحب..... خاموش سنتے رہے (جیب سے گھڑی نکال کر) دس بج گئے میں اجازت چاہتا ہوں۔ مرزا صاحب..... کتنے دن قیام رہے گا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی معافی مانگتا ہوں۔

شیخ صاحب..... ہاں ابھی کئی دن یہاں رہوں گا اور پھر بھی بشرط فرصت حاضر ہوں گا۔

مرزا صاحب..... ہمارا ارادہ ہے اپنی کل پیشگوئیاں ایک جگہ جمع کی جائیں اور ان کے پوری ہونے کی تصدیق بھی لکھی جائے اس لیے آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کی تصدیق تحریری بھیج دیں۔

شیخ صاحب..... مجھ کو پہلا خط یاد نہیں نہ دوسرے خط کا علم ہے آپ کا پہلا خط تلاش کروں گا کسی صندوقچے میں پڑا مل گیا تو اس کو دیکھ کر اور جان محمد سے آپ کے دوسرے خط کا حال دریافت کر کے لکھوں گا۔ مصافحہ کیا اور رخصت ہوئے (محمد بخش سے استفسار) تم کو ان خطوں کا علم ہے؟

محمد بخش..... میں سخت حیرانی میں تھا۔ مرزا صاحب اور دعوت۔ اس کی کوئی علت ضرور ہے ورنہ ان کی خاطر مدارات اور تواضع مریدان خاص کی ہوتی۔ یہ دعوت بے سبب کیا معنی۔

نہ مرید نہ کبھی کوئی رقم چندہ کی دی۔ اب معلوم ہوا کہ

شیخ صاحب..... بھائی بے سوچے اور دیکھے تو سرٹیکلیٹ نہیں دے سکتا ہوں یوں تو سینکڑوں دوا کی فروشوں کی درخواستوں پر رعایتی سرٹیکلیٹ اخباروں میں دوائیوں کے اشتہاروں کے ساتھ شائع ہوتے ہیں کیا وہ سب سچے ہوتے ہیں، نہیں ایک بھی نہیں فقط رعایتی۔ مگر اس دکانداری کا دین پر

اثر پڑتا ہے۔

محمد بخش..... جب مقدمہ دائر تھا۔ شیخ جان محمد صاحب نے مرزا صاحب کے اشتہارات اجابت دعا کے دیکھ کر مجھ کو بھیجا تھا اور ضرور دعا کی درخواست کی تھی مگر کوئی جواب شافی سوائے معمولی الفاظ کے نہیں دیا تھا۔

جان محمد..... ”وہ خط تو تم ہو گیا مگر غالباً یہی الفاظ تھے یا اس کے قریب قریب فضل ہو جائے گا دعا کی جاتی ہے۔“ (ایضاً) اس اثناء میں مرزا صاحب کا ایک حواری آ موجود ہوا۔ السلام علیکم۔

شیخ صاحب..... وعلیکم السلام آ۔ بیٹے تشریف لائے مزاج کیسے تشریف لائے۔

حواری..... حضرت اقدس جناب امام ہمام مرزا صاحب نے آپ کو سلام علیکم کہا ہے اور فرمایا ہے جس معاملہ میں رات گفتگو تھی وہ تحریر بھیج دیں۔

شیخ صاحب..... حیران اور ششدر ہو کر کون سی تحریر اچھا وہ پیشگوئی کی بارہ میں۔

حواری..... جی ہاں وہی۔

شیخ صاحب..... وہ خطوط تو تم ہو گئے اور خطوط کی صحیح عبارات یاد نہیں میں کیا لکھ دوں۔

حواری..... آپ کا کیا ہرج ہے جیسا حضرت اقدس صاحب فرماتے ہیں وہ لکھ دیجیے کسی فیصلہ میں تو پیش ہی نہیں کیا جانا۔ جو کسی کے مال یا عزت یا جان پر کچھ اثر پہنچے۔

شیخ صاحب..... بیشک کسی مال و جان پر تو اس کا اثر نہیں پہنچتا مگر ایمان پر تو ایک جہاں کے پہنچے گا۔ حواری..... کچھ بات تو ہے نہیں آخر دنیا میں رعایت و مروت بھی کوئی چیز ہے۔

شیخ صاحب..... نہیں صاحب مجھ ہی سے یہ نہیں ہو سکتا آخر ایک دن خدا کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے۔ وہ عظیم بذات الصدور ہے اس کو کیا جواب دوں گا۔ جس قدر انسان میری تحریر پڑھ کر گمراہ ہوں گے وہ سب میرے ہی نامہ اعمال میں درج ہوں گے۔

حواری..... بے نیل و مرام داہن آئے اور مفصل حال حضور اقدس میں عرض کیا۔

مرزا صاحب..... (اس قدر تاب یا رائے ضبط کہاں غصہ میں لال ہو گئے سرو پا کی خبر نہ رہی فوراً اصل خطوط شیخ صاحب سے طلب کیے گئے اور جواب نفی میں سن کر سمندر غیظ کو ایک اور تازیانہ ہوا۔

پھر کیا تھا منہ میں کف بھر آئی۔ زمین پر پاؤں مار کر) یہ کیسی ناخدا ترسی ہے کہ مجالس میں افتراء کی سخت تہمت لگا کر دل کو دکھایا جائے خیر اب ہم بطریق تنزل ایک آسان فیصلہ اپنے صدق اور

کذب کے بارہ میں کرتے ہیں اور وہ یہ ہے۔



آج رات میں جو ۲۵ فروری ۱۸۹۲ء کی رات تھی شیخ صاحب کی ان باتوں سے سخت دردمند ہو کر آسمانی فیصلہ کے لیے دعا کی۔

خواب میں مجھ کو دکھلایا گیا کہ ایک دکاندار کی طرف میں نے کسی قدر قیمت بھیجی تھی کہ وہ ایک عمدہ اور خوشبودار چیز بھیج دے اس نے قیمت رکھ کر ایک بدبودار چیز بھیج دی۔

وہ چیز دیکھ کر مجھے غصہ آیا کہ جاؤ دکاندار کو کہہ دو کہ وہی چیز دے ورنہ میں اس دعاء کی اس پر نالش کروں گا۔ اور پھر عدالت میں کم سے کم چھ ماہ کی اس کو سزا ملے گی اور امید تو زیادہ کی ہے۔ تب دکاندار نے شاید یہ کہلا بھیجا کہ یہ میرا کام نہیں یا میرا اختیار نہیں اور ساتھ ہی یہ کہلا بھیجا کہ ایک سوداگی پھرتا ہے اس کا اثر میرے دل پر پڑ گیا اور میں بھول گیا۔

اور اب وہی چیز دینے کو تیار ہوں اس کی میں نے یہ تعبیر کی کہ شیخ صاحب پر یہ ندامت آنے والی ہے اور انجام کار وہ نادم ہوں گے۔ اور ابھی کسی دوسرے آدمی کا ان کے دل پر اثر ہے۔ پھر میں نے توجہ کی تو یہ الہام ہوا۔ انا نری تقلب فی السماء نقلب فی السماء ما قلبت فی الارض انا معك نرفعك درجات یعنی ہم آسمان پر دیکھ رہے ہیں کہ تیرا دل مہر علی کی خیر اندیشی سے بددعاء کی طرف پھرا سو ہم بات کو اسی طرح آسمان پر پھیر دیں گے جس طرح تو زمین پر پھرے گا ہم تیرے ساتھ ہیں تیرے درجات بڑھائیں گے۔

لہذا یہ اشتہار شیخ صاحب کی خدمت میں رجسٹری کرا کر بھیجتا ہوں۔ کہ اگر وہ ایک ہفتہ کے عرصہ میں اپنی خلاف واقع فتنہ اندازی سے معافی چاہنے کی غرض سے ایک خط بہ نیت چھاپنے کے نہ بھیج دیں تو آسمان پر میرا ان کا مقدمہ دائر ہو گیا اور میں اپنی دعا کو جوان کی عمر اور بحالی عزت اور آرام کے لیے کی تھیں واپس لے لوں گا۔

یہ مجھے اللہ جل شانہ کی طرف سے بہ تصریح بشارت مل گئی ہے پس اگر شیخ صاحب نے اپنے انفرادوں کی نسبت میری معرفت معافی کا مضمون شائع نہ کرایا۔ تو پھر وہی صدق اور راستی کا یہ نشان ہے کہ میری بددعاً کا اثر ان پر ظاہر ہوگا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو وعدہ دیا ہے۔ ابھی میں اس کی کوئی تاریخ بیان نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ابھی تک خدائے تعالیٰ نے کوئی تاریخ میرے پرکھولی نہیں۔ اور اگر میری بددعاً کا اثر کچھ بھی نہ ہوا تو بلاشبہ میں اسی طرح کا ذب اور مفتری ہوں جو شیخ صاحب نے مجھ کو سمجھ لیا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کہا کر کہتا ہوں کہ میں نے مصیبت سے پہلے شیخ صاحب کو خبر دی تھی اور مصیبت کے بعد میں، اگر جھوٹا ہوں تو شیخ صاحب میری بددعاً سے صاف

بچ جائیں گے اور یہی میرے کاذب ہونے کی کافی نشانی ہوگی اگر یہ بات صرف میری ذات تک محدود ہوتی تو میں صبر کرتا لیکن اس کا دین پر اثر ہے اور عوام میں ضلالت پھیلتی ہے اس لیے میں نے فقط حمایت دین کی غرض سے دعا کی تھی اور خدا تعالیٰ نے میری دعا منظور فرمائی۔ سو دنیا داروں کو اپنی دنیا کا تکبر ہوتا ہے اور فقیروں کو کبریائی کا تکبر اپنے نفس پر بھروسہ کر کے پیدا ہوتا ہے اور کبریائی خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے پیدا ہوتی ہے۔ پس میرے صادق یا کاذب ہونے کی یہی ایک نشانی ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ شیخ صاحب کی نجات صرف میری دعا سے ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں نے آگ پر پانی ڈالا تھا۔ اگر میں اس دعوے میں صادق نہیں ہوں تو میری ذلت ظاہر ہو جائے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی

(اشہار شیخ مہر علی رئیس ہوشیار پور ملحقہ آئینہ کمالات اسلام ص ۶۵۵، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

(خاکسار غلام احمد قادیانی)

(مطبوعہ وشمولہ آئینہ کمالات یادافع وساوس)

(عصائی موسیٰ ص ۴۳، مطبوعہ ستمبر ۱۹۰۰ء) ”شیخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیار پور کو اشہار

فروری ۱۸۹۳ء بذریعہ رجسٹری بھیجا۔ جس میں خوف دلانے والے الہامات درج کر کے لکھا کہ ایک ہفتہ میں اگر معافی طلب خط چھوانے کے لیے نہ بھیج دیں تو پھر آسمان پر میرا اور ان کا مقدمہ دائر ہوگا۔ اور میں اپنی دعاؤں کو جو ان کی عمر بحالی عزت و آرام کے لیے کی تھیں واپس لے لوں گا۔ اس مقدمہ کا قضیہ بھی اب تک نامعلوم ہے۔ شیخ صاحب کا کوئی معافی طلب خط چھپا ہوا نہیں دیکھا۔ شاید مرزا صاحب نے شفقت سے اس میں راضی نامہ دیدیا ہو اور مشتہر نہ کیا۔ اگر چہ ایسا کرنا ضروری تھا کیونکہ وائری مقدمہ کا اشہار مشتہر کر چکے تھی۔

باب ۳۶ سی و ششم

مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت

ایک چھوٹی سی مسجد ہے اس کے صحن میں چند صاحب بیٹھے اپنے اپنے خیالات اور مذاق کے موافق گفتگو کر رہے ہیں۔

..... دوسرے سے بھلا کیا آپ کو باوصف احمدی ہو جانے کے حضرت اقدس کی نبوت میں کچھ شک ہے۔

..... ہاں میں حضرت اقدس کو اپنا پیشوا اور بزرگ سمجھتا ہوں مگر ان کو نبی سمجھنا ایک مشکل اور



کیا دوسرے اولوالعزم نبی اس کے پیچھے ہوئے نہ تھے یا ان پر جو کتابیں اتریں الہامی نہ تھیں۔ ان میں کیا کھٹا تھا اور پیغمبر عرب میں کیا بیٹھا تھا۔ نبی تھے سب ایک قسم کی روٹی کیا پتلی کیا ہوئی۔ تم کہتے ہو قرآن میں تناقض اور اختلاف نہیں اور خود قرآن عدم اختلاف کا مدعی ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا لیکن خاتم النبیین کے معنی اگر یہی ہیں جو تم سمجھے بیٹھے ہو تو آیت لَا نُنْفِزُكَ فِيَّيْنِ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ خاتم النبیین کے صریح نقیض ہے کیونکہ جب تم نے پیغمبر عرب کو تمام گزشتہ اور آئندہ انبیاء کا خاتم مان لیا تو انبیاء میں تفریق ڈال دی۔ یعنی یہ نعمت غیر مترقبہ اور موبہبت لاٹانی صرف پیغمبر عرب کو ملی اور دوسرے انبیاء اس سے محروم رہے۔ ایسا عقیدہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے سر میں گدھے کا بیج بجا ہو بات یہ ہے کہ ہر نبی اپنے سے پہلے انبیاء کا بلکہ ہر انسان اپنے سے پہلے انسانوں کا خاتم ہے یعنی جو شخصیات اور صفات اس میں موجود ہیں وہ دوسروں میں نہ تھے پس ہر شخص فی نفسہ خاتم ہے پیغمبر عرب کی کچھ تخصیص نہیں۔ دویم خاتم کے معنی مہر کے بھی ہیں اور مہر ہر کاغذ کے ختم پر لگائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس قدر انبیاء پیغمبر عرب سے پہلے گزرے آپ سب کے اخیر اور سب کے بعد آئے ہیں اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ آپ کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی نہ آئے گا۔ ایسا عقیدہ بالکل کفر ہے اور خدا کی صفت خدائی کو مٹانا ہے اس سے توبہ کیجیے۔

۲..... آپ کی اس طول داستان اور طہرانہ بیان سے جو موثر دوسرے ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ دراصل خاتم النبیین کے معنی ہی نہیں سمجھے جو آنحضرت ﷺ کے معرض مدح میں ہے خاتم النبیین کے معنی سب سے آخر کے نہیں اور نہ یہ اس معنی میں آپ کی مدح ہو سکتی ہے۔ قابل مدح تو اولیت ہے نہ کہ اخرویت ورنہ لازم آئے گا اول البشر آدم علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت ہو۔ بلکہ خاتم النبیین کے معنی ختم اور مکمل رسالت کے ہیں۔ جیسا کہ بیضاوی نے تحت آیت وَلَسَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لکھا ہے اسی من یتلیق بان یختم به النبوة یعنی خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ختم نبوت کی لیاقت و صلاحیت کون رکھتا ہے۔ یہ صلاحیت بجز آنحضرت ﷺ کے دوسرے انبیاء میں اور حدیث میں آپ نے اس آیت کی گو خود تفسیر فرمائی اَنَا بَعُثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ یعنی میں صرف مبعوث ہوا ہوں کہ انسانی اخلاق کو کامل کروں اور جو آپ نے کہا الحاق ہو گیا ہے تو مذاہب اسلام میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں یہ فرق اجماع ہے بلکہ میں بے خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے مذاہب میں سے کوئی مذہب والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں الحاق ہو گیا ہے۔ یہ جیسا منزل من اللہ ہے ویسا ہی آج تک

چلا آتا ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا ورنہ کتب محرفہ میں اور قرآن میں کچھ فرق نہ رہے گا اور نہ اہل اسلام اور خود حضرت اقدس کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ انجیل میں تحریف ہو گئی ہے۔ اور آپ جب الحاق کے قائل ہیں تو حضرت اقدس کے دائرہ بیعت سے خارج ہیں کیونکہ وہ اپنے کو مجدد اسلام بتاتے ہیں نہ محرف نہ مبطل اسلام نہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں الحاق ہو گیا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ خدا نے پیغمبر عرب ﷺ کو کیوں خاتم النبیین بتایا خدا کی قدرت و حکمت میں دخل دینا اور اس سے باز پرس کرنا ہے۔ حضرت اقدس میں بھی یہی باز پرس ہو سکتی ہے کہ منجملہ ۳۳ کروڑ مسلمانان دنیا کے خدا نے انہیں کو کیوں بروزی نبی بنایا۔ الغرض اسلام کے اصول کے خلاف ہیں آپ اسلام سے خارج ہو کر ایسے اعتراضات کر سکتے ہیں۔ انہیں خرافات نے ہمیں اسلامی پارٹی میں بدنام کر دیا ہے۔

راوی..... اس سے یہ نتیجہ تو ضرور نکل سکتا ہے کہ خود مرزائی مرزاجی کی نبوت میں تذبذب اور مشکلک ہیں۔ مجدد السنہ مشرقیہ..... مرزاجی کی بڑی بھاری غلطی یہی ہے کہ قرآن وحدیث کی بعض نصوص (نہ کہ کل نصوص سے) جو کہ ان کے مطلب کے موافق ہیں اپنا دعویٰ ثابت کرتے ہیں اور تاویلات رکیکہ سے جوتیوں کان گانٹھتے ہیں سب وہ بروزی نبی ہیں۔ تو جیسے دوسرے انبیاء ویسے ہی وہ بھی اور جیسے دوسرے انبیاء کے صحف ہیں ویسے ہی ان کے الہامات ہیں۔ پس وہ دوسرے انبیاء کے حریف اور کلہ توڑ جواب میں انہیں قرآن وحدیث سے استدلال کرنے اور ان سے اپنا مدعا ثابت کرنے کی ضرورت کیا۔ قرآن سے تاویل کرنا اور آیات مقدسہ کو توڑ مروڑ کر اپنے مطلب کے موافق چپکانا کوئی خوش عقیدت مرزائی پسند نہ کرے گا۔ کوئی دباؤ کا کولونہیں کوئی وباغت کا شکیبہ نہیں کوئی تعزیر کی چکی نہیں جس میں مرزا کو اپنے پیلے جانے، پیسے جانے، دبے جانے کا خوف ہو۔ کوئی پھانسی نہیں کوئی سولی نہیں جس پر کھینچے جانے کا دھڑکا ہو، آزادی کا زمانہ ہے۔ ملی کے بھاگون چھینکا ٹوٹ پڑا ہے۔ پس یہ بودا پن۔ یہ مسخر اپن مسخ موعود اور امام الزمان اور بروزی نہیں بروزی نبی کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کوئی پھیلی نہیں جس کا اتا پاتا بتانے کی ضرورت ہو قرآن کوئی چیتان اور معنی نہیں جس کے حل کرنے اور تاویلات چھانٹنے کی حاجت ہو اس کی شان تدیاننا لکل شیء اور تفصیل کل ہے اور یسانا لِناس ہے۔ پس جب تک کہ قرآن کو طاق نسیان پر نہ رکھ دیں گے اپنی مقاصد میں ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔ اگرچہ دل میں تو انہوں نے ایسا کیا ہے مگر یہ دکھانے کو کہ میں اسلامی مجدد ہوں اور نبی ہوں۔ کھلم کھلا اقرار کرتے ہوئے قوت ناطقہ لڑ کھڑاتی ہے کیونکہ ان کو اپنے خامکار چیلون پر ابھی پورا پورا اعتماد نہیں ہے ان پر ابھی گہرا رنگ

نہیں چڑھاتا کہ ان سے سرخروئی ہو۔ اور سیروئی کا ڈر جاتا رہے۔ ایک بگلا بھگت منافق مرزائی اکثر ہماری خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ شیر نستان تجرید کا شاکیڈر ہی ہے اور گفتگو رہتی ہے۔ مرزائی..... حضرت اقدس نبی نہیں ہیں نہ ہم ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں ہاں مجدد ضرور ہیں۔

ہم..... وہ (مرزا صاحب) تو اپنے کو نبی اور رسول کہتے ہیں اور آیت **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ** اور **يَأْتِي بَعْدِي إِسْمُهُ** کا نزول اپنے حق میں بتاتے ہیں۔

مرزائی..... یہ ان کی اجتہادوی غلطی ہے یعنی ان الشیاطین لیوحون الی اولیائکم کے مصداق ہیں۔

مجدد السنہ مشرقیہ..... اس سے صاف ثابت ہے کہ سینکڑوں مرزائی اور بھی ایسے ہوں گے جو مرزاجی کو صرف..... سمجھتے ہوں گے کہ بروزی نبی اور آسمانی لے پالک۔ یہ لوگ مرزائی نہیں ہیں بلکہ مرزاجی کے یہودی منافق ہیں وغیرہ۔ اگر مرزاجی اسلام سے علیحدہ ہو کر اپنا جدا گانہ پنتھ قائم کرنے کا اعلان دیتے تو ہمارے علماء اور مشائخ کوان کا تعاقب کرنے اور تکفیر کے فتوے دینے کی کچھ ضرورت نہ ہوتی چونکہ مرزاجی نے خلاف جمہور قرآن میں تاویلیں کیں لہذا ان سے مواخذہ کیا گیا۔ (ضمیمہ اخبار شحہ ہند مطبوعہ ۸ دسمبر ۱۹۰۳ء ص ۷۵ تا ۷۷)

مرزاجی جس طرح اپنے کو مسیح موعود ثابت کرنے کے لیے عیسیٰ کو مارتے ہیں۔ اسی طرح اپنے کو خلاف قرآن و حدیث نبی بنانے کے لیے آیت **وَلَكِنْ رَّسُولِ اللَّهِ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ** اور اسی مضمون کی احادیث صحیحہ سے ہی انکار کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض سمجھ دار مرزائی..... اور مرزاجی کو نبی نہیں مانتے۔ مگر گونگے کا گڑ کھا کر حق پوش بن گئے ہیں..... اور بعض مرزائی جو ہاتھی کے روٹ میں اپنا حصہ لگاتے ہیں۔ وہ کھلم کھلا ایمان کو نگل کر بروزی نبوت کی تصدیق اور ختم رسالت کی تکذیب کرتے ہیں۔

جیسا کہ امر وہی صاحب نے ضدین کو اور نقیضین کو جمع کیا ہے یعنی آنحضرت خاتم النبیین ہی ہیں اور آپ کے بعد دیگر انبیاء بھی آتے رہیں گے۔ آپ نے کھلم کھلا جمع بحار الانوار سے حضرت عائشہ کا قول اور مذہب یوں نقل کیا ہے۔ **عن عائشة قُولُوا اِنَّ خَاتَمَ الْاَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ** یعنی یہ تو کہو کہ آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں مگر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اگر یہ قول بالفرض حضرت عائشہ کا ہے تو آنحضرت ﷺ کی ان احادیث کا معارض نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت علیؓ کی فضیلت کے باب میں آپ نے فرمائی ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتے تو فلاں فلاں ہوتے۔ امر وہی صاحب فرمائیے کیا حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث آنحضرت ﷺ کے چند ارشادات کی تاریخ ہے۔

آنحضرت ﷺ نے حضرت امیر المومنین علیؑ کی نسبت فرمایا اَنْتَ مَنْى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِىنْ مَوْسَى الْاِىَّانَ لَا نَبِىَّ بَعْدِى لِئِنِّىْ تَجَّهْتُ كُوجْهٍ سَءِىٍّ لِّىْ كِى نَبِىٌّ هَیْ جِیْسِىْ هَارُونَ كُومُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ سَءِىٍّ مِىنْ مِىرَءِىْ بَعْدِ كُوكُوفِىْ نَبِىٌّ لِّىْ۔ لَا نَبِىَّ مِىنْ تَحْتِ السَّنْفِىْ اِیْسَءِىْ جِیْسَءِىْ لَا اِلهَ مِىنْ لِئِنِّىْ جِزْءِىْ خَدِىْ اَتَعَالَى كَءِى كُوكُوفِىْ سَءِیَّءِىْ جِھُوءِءِىْ مَوْجُوءِءِىْ۔

خلفا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تو کبھی کسی نے اپنی نبوت کا دعویٰ نہ کیا نہ ایسی تاویلیں چھانٹیں جیسے مرزا اور اس کے شکم پرست حواری چھانٹتے ہیں مرزا جی کا مرتبہ خلفا اور صحابہ سے بھی بڑھ گیا (نہیں جناب انبیاء سے بھی) صحابہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حالانکہ مرزا جی پر ہر دم اٹھتے بیٹھتے وحی نازل ہوتی ہے۔

### لم یبق من النبوة الا المبشرات

(ایام الصلح ص ۷۱، خزائن ج ۱۳ ص ۳۰۵) ”و آخرین منہم جو اس گروہ کو منہم کی دولت سے یعنی صحابہ سے مشابہ ہونے کی نعمت سے حصہ دیا گیا ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔“ (ایام الصلح ص ۷۳، خزائن ج ۱۳ ص ۳۰۷) ”اور آیت و آخرین منہم میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسا کہ یہ جماعت مسیح موعود کی صحابہؑ سے مشابہ ہے ایسا ہی جو شخص اس جماعت کا امام ہے۔ (مرزا صاحب) وہ بھی ظلی طور پر آنحضرت ﷺ سے مشابہت رکھتا ہے۔“ (دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۳ ص ۲۳۳) ”اور اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک (مرزا صاحب) جو اس حسین سے بڑھ ہے اور اگر میں (مرزا) اپنی طرف سے یہ باتیں کہتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں۔“

معلوم نہیں امر وہی صاحب کیوں تاویل کا لٹھ لے کر اپنے بروزی نبی کی نبوت کے پیچھے پڑے ہیں۔ کیونکہ آیات کلام مجید جو مکرر اب بطور وحی نازل ہوتی ہیں۔ مثلاً هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلًا بِالْهِنْدِیْ اور یَسْتَقِیْ مِنْ بَعْدِیْ اِسْمُءِىْ اَحْمَدُ ان سے مرزا جی کے نبی کامل اور رسول برحق ہونے میں امر وہی صاحب کو کیوں شک ہے کیا وجہ ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ کر حدیثوں کو ٹھولتے ہیں اور ان کی لنگڑی گنجی تاویل کرتے ہیں کہ مبشرات سے نبوت نکال کر اپنے بروزی نبی کی نبوت کی جوتیوں کان گانٹھتے ہیں اور گدی کے پیچھے ہاتھ لے جا کر ناک پکڑتے ہیں قرآن تو قطعی اور یقینی وحی ہے جب وحی پر ایمان نہیں تو اپنے بروزی نبی کی نبوت پر بھی ایمان نہیں..... وہ کیوں غل مچاتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نبی کامل تھے اور ہمارا بروزی نبی ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے۔ جب کہ دونوں کے لیے ایک ہی قرآنی وحی موجود ہے۔ بھلا خدا تعالیٰ جس

کی شان میں یہ قطعی وحی نازل کرے کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ تُوَدُّهُ كَمَا كَرِهَتْ نَبِي ناقص ہو سکتا ہے کوئی وجہ نہیں کہ ایک ہی وحی پیغمبر عرب و عجم صلعم کو تو کامل نبی بنائے اور وہی وحی جب کسی اور پر نازل ہو تو اسے ناقص نبی بنائے۔ کیا قرآنی وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ناقص دوسری کامل پھر وہی ایک آیت جب آنحضرتؐ پر نازل ہوئی تھی تو کامل تھی اور مرزا جی پر نازل ہوئی تو ناقص ہو گئی۔ اس حماقت آمیز تعارض کا کوئی جوابہ ہے۔ اگر امر وہی صاحب یا ان کا کوئی پیرو بھائی بلکہ مرزا جی اس اعتراض کا جواب دیں تو ہم دوسروں پر دینے کو تیار ہیں۔ افسوس کہ حتما پھر بھی نہیں سمجھتے اور دین دنیا کی تباہی خریدتے ہیں بحث اس میں تھی کہ امر وہی صاحب نے حدیث مندرجہ عنوان پیش کر کے مبشرات سے نبوت تراشی ہے اور استثناء متصل و منقطع پر بحث کی ہے۔ حالانکہ آپ دونوں سے نابلد ہیں جیسا کہ ہم ثابت کروں گے۔ استثناء متصل تو اس لیے نہیں کہ نبوت اور شے ہے اور مبشرات اور شے۔ ورنہ استثناء شے من نفہ لازم آئے گا کیا یہ معنی ہوں گے کہ لم یبق من النبوة الا النبوة حالانکہ امر وہی صاحب نے استثناء متصل بتایا ہے اور منقطع مانا جائے گا تو امر وہی صاحب کو اپنے ہاتھوں اپنا سر پیٹنا پڑے گا کیونکہ مبشرات نبوت کی جنس نہ ٹھہریں گی۔ بھلا جب ہم یہ فقرہ موزوں کریں کہ لم یبق فی القادیان الا المرء تو کیا یہ معنی ہوں گے کہ آدمیوں میں سے قادیان میں کوئی باقی نہیں رہا مگر گدھے رہ گئے یا یہ معنی ہوں گے کہ نہ قادیان میں آدمی رہے نہ گدھے دونوں معنوں میں سے کوئی معنی قبول کر کے اطلاع دیجیے۔ کہ ہم بحث کریں کہ یہاں استثناء متصل سے یا منقطع۔

اگر امر وہی صاحب نے کتاب شرح صلاً کسی استاد سے پڑھی ہوئی تو ضرور سمجھ جاتے کہ لا اله الا الله میں نہ استثناء متصل ہے نہ منقطع بلکہ لا صفت کا بمعنی غیر ہے یہی ترکیب حدیث بالا کی ہے یعنی نبوت میں سے کوئی شی جو ان احکام کے سوا ہو جن میں مومنوں کو جنت الخلد اور عیش دوام کی بشارتیں دی گئی ہیں باقی نہیں رہی۔ یہ معنی اس صورت میں ہوں گے جب کہ مبشرات اسم مفعول جمع مونث سالم ہو اور اگر اسم فاعل مراد لیا جائے گا تو یہ معنی ہوں گے کہ نبوت میں سے کوئی شے بجز قرآن و حدیث کے احکام و نصوص کے باقی نہیں رہی جو اعمال صالحہ پر مومنین متقین کو نعیم جنت کی بشارت دینے والے ہیں کس کا رویائے صادقہ اور کہاں کی پیشگوئیاں اور الہامات جن کی آڑ میں ہر ایک معلن یا غیر معلن فاجر و فاسق کہہ سکتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے حمل ہے اور اس حمل سے ہاتھی کا پانٹھا لمبی سونٹ نکالے پیدا ہوا ہے اور منفذ و برز حمل ویسا ہی تنگ اور غیر وسیع ہے جیسا پہلے تھا اور ایک سادھو ہو چکا پیشگوئی کر سکتا ہے کہ مجھ پر فلاں شخص کے مرنے کا الہام ہوا ہے۔ یا جب



ملک میں وبا پھیلے کہہ دے کہ مجھ پر تو پہلے ہی انکشاف ہو چکا ہے کہ جو لوگ مجھے آزمائیں گے ضرور وبا سے ہلاک ہوں گے۔ ہر ایک مومن کا اس پر یقین اور اعتقاد ہے کہ قرآن شریف سے بڑھ کر کوئی بشارت دینے والا نہیں۔ خواہ ولی ہو یا غوث ہو یا قطب ہو جو مرزا جی کے نزدیک انبیاء ناقص میں داخل ہیں۔ کیونکہ کامل نبوت ان کے نزدیک بھی ختم ہو چکی ہے۔

حدیث میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے نہ کہ بقاء نبوت کی جانب۔ جتنے نبوت باقی نہیں رہی صرف آیات و احادیث باقی رہ گئیں جو مومنوں کو بشارت دینے والی ہیں۔ ذرا یہ بھی غور سے دیکھنا چاہیے کہ حدیث میں لفظ نبوت وارد ہوا ہے جتنے یوں نہیں فرمایا کہ لم یبق من الانبیاء الا المبعثون لفظ انبیاء اور نبوت میں بڑا فرق ہے نبوت کے لفظ سے مرزا جی کا ختم اکڑتا ہے ہاں نبوت و ابوت کا متاثرہ ضرور نصیب ہوتا ہے۔

پھر اس حدیث میں المہشرات صفت ہے جس کا موصوف مقدر ہے۔ ہم نے تو موصوف بیان کر دیا کہ الآیات المہشرات یا الاحکام المہشرات ذرا امر وی صاحب ہی اپنے دعوے کے موافق موصوف بیان کریں خدا نے چاہا تو بھاگتے راہ نہ ملے گی۔ مجدد کے سامنے منہ کھولنا آسان نہیں۔ (ایڈیٹر)

(ضمیمہ اخبار شحہ ہند مطبوعہ ۲۳ دسمبر ۱۹۰۳ء)

### حاشیہ جات

۱۔ (ایام الصلح) الہام ہوا ھُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلًا بِالْھِذْیِ نے جری اللہ فی حلل الانبیاء اس الہام میں میرا نام رسول بھی رکھا گیا اور نبی بھی۔ پس جس شخص کے خود خدا نے یہ نام رکھے ہوں اس کو عوام میں سمجھنا کمال درجہ کی شوخی ہے۔

### باب ۷۳۳ و ہفتم

مباحثہ مرزا صاحب قادیانی اور مسٹر عبد اللہ آتھم عیسائی

صبح کا وقت ہے گرمی کا موسم بے نگر لے اور آزاد طبع لوگ رات بھر کی گرمی کے مارے ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی ٹھنکی میں سو گئے ہیں اور خوشگوار نیند کے مزے لے رہے ہیں انگریزی لی اور سر اٹھا کر دیکھا ابھی تو وہ نہیں چڑھا کر وٹ بدل کر پھر آنکھ بند کرنی۔

کاروباری اپنے اپنے کام کی طرف جا رہے ہیں۔ کارخانوں کے مزدور کارخانوں طالب علم بظلموں میں کتابیں دبائے مدرسہ میں جا رہے ہیں متولی سبیل کے خا کروہوں نے سڑکوں کو صاف کر دیا ہے چمڑ کاؤ کر رہے ہیں نالیاں پانی سے دھوئی جا رہی ہیں امرت سر کے بازار میں

دوکاندار دوکانیں کھول کر سجا رہے ہیں۔ مالن اور ٹوکری والا سبزی فروش ہری ہری ترکاریوں کی ٹوکری نہر میں دھو کر بازار میں لارہے ہیں شہر سے باہر ایک احاطہ گرد پختہ اینٹوں کی چار پانچ فٹ اونچی چار دیواری کھینچی سڑک کنارہ ایک دروازہ ہے جس میں لوہے کا پھانک لگا ہوا ہے دروازہ کے اندر پڑتی ہے ایک باغیچہ ہے اور روش کی دونوں طرف ڈیڈم برابر تراشی ہوئی۔ اور سڑک پار باریک باریک کوئی ہوئی سرخی پڑی ہے اور تازہ چھڑکاؤ ہوا ہے اور آگے چل کر وسط باغ میں کوشی بنی ہوئی ہے کوشی کے آگے روش یعنی سڑک کے اوپر گھوڑا گاڑی کے آرام کے واسطہ ایک شیڈ بنا ہوا ہے اور ان میں خوش رنگ پھولوں کے گملے رکھے ہیں دیوار پر بتل چڑھی ہوئی ہے۔ باغیچہ کی گری پڑی خس و خاشاک مالیوں نے نکال کر صاف کر دی تھیں۔ برائے میں فرش کیا جا رہا ہے غیر معمولی آدمیوں کی آمد شروع ہے اور اپنے اپنے قرینہ سے ہر ایک بیٹھتا جاتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ کسی یورپین مشتری کی کوشی ہے۔ پھانک کے روبرو ہی سڑک کے اوپر جو شہر سے آتی ہے۔ نظر لگائے آنکھیں گزائے چند اشخاص سفید پوش کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتظار ہے۔ دور سے ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔

..... ۱ وہ آئی دیکھو وہ جو گاڑی آتی ہے۔

..... ۲ کہا نہیں وہ تو نہیں معلوم ہوتی کوئی اور ہے۔

..... ۳ یہ تو خواجہ یوسف شاہ صاحب آنریری مجسٹریٹ کی گاڑی ہے۔ اس عرصہ میں گاڑی قریب آئی پھانک میں سے ہو کر کوشی میں داخل ہوئی اور خواجہ ایک کرسی پر متمکن ہوئے۔

پادری صاحب..... مرزا صاحب تشریف نہیں لائے ڈپٹی عبداللہ آتھم صاحب اور سب صاحب تشریف لے آئے ہیں۔

خواجہ صاحب..... وہ بھی آتے ہی ہوں گے میں تو خیال کرتا تھا کہ وہ پہنچ گئے ہوں گے (گھڑی نکال کر) ابھی تو ۶ بجنے میں پانچ منٹ ہیں اتنے میں گاڑی کے پیچوں کی آواز آئی اور سب اس طرف متوجہ ہوئے اور گاڑی شیڈ میں آ کر کھڑی ہوئی سواریاں اتریں۔

مرزا صاحب..... میں آپ صاحبان سے معافی مانگتا ہوں مجھ کو چند منٹ کی دیر لگ گئی آپ صاحبوں کو تکلیف ہوئی گی۔

حاضرین جلسہ..... آپ کا بہت دیر سے انتظار ہو رہا تھا۔

حکیم نور دین صاحب..... خواجہ صاحب سے ہم آپ کا مکان پر انتظار کرتے رہے کہ ہمراہ چلیں گے آپ بالابال تشریف لے آئے۔

خواجہ صاحب..... بے شک قصور ہوا مجھ کو خیال تھا کہ آپ تشریف لے گئے ہوں گے۔  
سید محمد احسن صاحب..... خیر جی غرض یہاں آنے سے بھی آگے اب مباحثہ شروع کیا جائے دیر پر  
دیر کرنے سے حاصل۔

مرزا صاحب..... نے ۶ ربیع ۱۰۸۰ منٹ پر جواب لکھنا شروع کیا اور ۱۰ منٹ پر ختم کیا اور بلند  
آواز سے سنایا گیا باہمی اتفاق ہوا کہ آج بحث ختم ہو اور آج کا دن بحث کا آخری دن سمجھا جائے۔  
مسٹر عبداللہ آتھم صاحب نے ۷ ربیع ۱۰۸۵ منٹ پر شروع کیا اور آٹھ بج کر ۵۵ منٹ  
پر ختم کیا اور بلند آواز سے سنایا گیا۔

مرزا صاحب نے ۹ بج ۲۳ منٹ پر پھر شروع کیا اور ۱۰ بج ۳۳ منٹ پر ختم کیا (اور  
تقریباً مناظرہ ختم کر کے) ”چونکہ ڈپٹی عبداللہ آتھم صاحب قرآن شریف کے معجزات کے عمداً  
منکر ہیں اور اس کی پیشگوئی سے بھی انکاری اور مجھ سے بھی اسی مجلس میں تین بیمار پیش کر کے ٹھٹھا  
کیا گیا۔ کہ اگر دین اسلام سچا ہے اور تم فی الحقیقت ملہم ہو تو ان تینوں کو اچھے کر کے دکھاؤ۔ حالانکہ  
میرا دعویٰ نہ تھا کہ میں قادر مطلق ہوں نہ قرآن شریف کے مطابق مواخذہ تھا۔ بلکہ یہ تو عیسائی  
صاحبوں کی ایمان کی نشانی ٹھہرائی گئی ہے کہ اگر وہ سچے ایماندار ہیں تو وہ ضرور لنگڑوں اور اندھوں  
اور بہروں کو اچھا کریں گے مگر تاہم میں اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ اور آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ  
ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور استھال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر  
اور ہم عاجز بندے تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر  
دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا  
کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ دونوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ  
لے کر یعنی ۱۵ ماہ تک ہادیہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف  
رجوع نہ کرے۔ اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور  
اس وقت جب یہ پیشگوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سو جا کھے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے  
چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے اسی طرح پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے۔ سو  
الحمد لله والمنعہ کہ اگر یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور نہ فرمائی تو ہمارے یہ پندرہ  
دن ضائع گئے تھے۔ انسان ظالم کی عادت ہوتی ہے کہ باوجود دیکھنے کے نہیں دیکھتا اور باوجود سننے  
کے نہیں سنتا اور باوجود دیکھنے کے نہیں سمجھتا اور جرأت کرتا ہے اور شرفی کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا  
ہے لیکن اب تین فیصلہ کا وقت آ گیا۔ میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا

معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لیے تھا۔  
میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشگوئی جھوٹی لگی ہوتے وہ فریق خدا تعالیٰ کے  
نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے سزائے موت ہادیہ میں نہ پڑے  
تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں مجھ کو ذلیل کیا جائے روسیہ کیا جائے میرے گلے  
میں رسد ڈال دیا جائے مجھ کو پھانسی دیا جائے ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی  
قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرور وہ ایسا کرے گا ضرور کرے گا ضرور کرے گا زمین آسمان ٹل جائیں  
اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔

اب ڈپٹی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ نشان پورا ہو گیا تو کیا یہ سب آپ کی منشاء  
کے مطابق کامل پیشگوئی اور خدا کی پیشگوئی ٹھہرے گی یا نہیں اور رسول اللہ کے سچے نبی ہونے کے  
بارہ میں جن کو اندرونہ باطل میں دجال کی لفظ سے آپ نامزد کرتے ہیں۔ محکم دلیل ہو جائے گی۔  
اب اس سے زیادہ میں کیا لکھ سکتا ہوں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ناحق  
ہنسی کی بات نہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو میری سولی تیار رکھو اور شیطانوں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے  
لعنتی قرار دو لیکن اگر میں سچا ہوں تو انسان کو خدا مت بناؤ، توریث کو پڑھو کہ اول اور کھلی کھلی تعلیم کیا  
ہے۔“ (جنگ مقدس ص ۱۸۸ تا ۱۹۰، جز ۱، ج ۶ ص ۱۹۱ تا ۱۹۳)

خواجہ یوسف شاہ صاحب نے کھڑے ہو کر ایک مختصر تقریر فرمائی۔ حاضرین جلسہ کی  
طرف سے دونوں میر مجلسوں کا خصوصاً ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی  
خوش اخلاقی اور عمدہ انتظام کی وجہ سے یہ جلسہ پندرہ دن تک بڑی خوش اسلوبی اور خوبی کے ساتھ  
انجام پذیر ہوا اور اگر کسی امر پر اختلاف ہو تو دونوں میر مجلسوں نے ایک امر پر اتفاق کر کے ہر دو  
فریق کو رضامند کیا اور ہر طرح انصاف کو مد نظر رکھ کر صورت امن قائم رہی۔ بعد ازاں تحریروں پر  
میر مجلسوں کے دستخط ہو کر جلسہ بر خاست ہوا۔

## باب ۳۸ سی و ہشتم

سلطان بیگ کا محمدی بیگم سے نکاح  
فلک پر یہ مبارکباد ہے اب کس کے ملنے کی  
یہ ایسا کون بخاور ہے جس کا بخت جاگا ہے  
ایک نہایت وسیع اور فراخ مکان ہے۔ فرش فروش سے آراستہ بلور کے جھاڑوسوہتی کے

روشن کیے ہوئے لٹک رہے ہیں چار طرف ہانڈی اور فالوس جل رہے۔ اور لمپ اور ویوار کیروں سے رات دن سے زیادہ روشن ہے سونے پڑے دور سے نظر آتے ہیں۔ رٹھیوں کے طائفے بھاٹوں کی چوگیاں، بھڑے، زنانے قوال ربانی، سرودیئے حاضر ہیں ناچ رنگ ہو رہا ہے۔ ابتداء کا اکھاڑہ ہے یا برج کا منڈل، نعرہ ہائے شادی بلند ہیں۔ قص و سرود جو بن دکھا رہا ہے۔

پہلے رٹھیوں کا ناچ کا شروع ہوا۔ غزل۔ ٹھری۔ پٹنہ گا کر محفل کو محفوظ کیا پھر نقال کود پڑے۔ اوسری گئی اور اوسرا آیا طوائف پیچھے ہٹ گئی اور دھما چو کڑی بچ گئی۔

.....۱ جین۔ جین۔ جین۔

اسپ تازی شدہ بمروح بزیر پالان  
طوق زرین ہمہ در گرون خرمی بنم

میرا گھوڑا ہے کہ گھوڑے والے کے باپ دادے کا دین ایمان ہے۔ میں اپنے گھوڑے کو دھڑی کا گیر اور ادھی کا نیل کھلا دیتا ہوں تڑکے ٹوپیاں لید کر تا ہے۔ گھوڑا کیا ہے نیچری سکول ہے۔

.....۲ جین۔ جین۔ جین۔

اسپ لاغر میان بکار آید  
روز میدان نہ گاد پرداری

میرا گھوڑا کیا ہے کہ ہوا کا پر کالا ہے۔ فلک سیر رکاب میں پاؤں رکھا اور ساتوں طبق کھل گئے۔ خدا سے دو ہاتھیں گئیں اور سچ بنے۔ دہلی کے ٹھگ کہلائے اور کشف کھلا۔ قوم کے لیڈر اور ریفارمروں کی لہ کر دی۔ گھوڑا کیا ہے۔ مسکوں کا گاہک ہے۔

.....۳ جین۔ جین۔ جین۔

اسپ تازی اگر ضعیف بود  
ہم چتاں از طولیہ خرب

ہیں کیا ٹھہرا ہے اس کے اوصاف کچھ نہ پوچھیے دہلی کا قلمیہس کیپ اور ریاضی کہلائی خطاب سے خطاب ہک دیئے۔ گھوڑا کیا ہے جنوری ۱۹۰۱ء کا گورنمنٹ گزٹ ہے۔

.....۴ ڈھولک پر تھاپ لگا کر اور سر میں سر ملا کر

زبان گھس گھسی اپنی دن گنتے گنتے بڑی راہ دکھلائی حضرت سلامت بھلے کو حضور اب بھی تشریف لائے مبارک مبارک سلامت سلامت

تمام نے ایک لے میں الاپ لگا کر مبارک مبارک سلامت سلامت  
 وہ وہ نقلیں سنائیں کہ اہل مجلس کو ہنسا ہنسا کر لٹون کو تر بنا دیا۔ جب یہ ہنگامہ فرو ہوا تو اہل  
 اور بھگتے اور ربائیے اور سرودیئے آئے اور انہوں نے اپنی اپنی نوبت پر گایا جس راگ یا راگنی کو  
 چھیڑا سماں باندھ دیا مجسم سامنے کھڑی کر دی۔

دس بجے کے قریب ایک شخص مشعل ہاتھ میں لیے۔ (یعنی حجام) آیا۔ اس کے پیچھے  
 ایک مختصری جماعت ایک پر تکلف شہنی میں باکر کا جوڑہ سجا آگے آگے آئے۔ دلہا کو جوڑا پہنایا سہرا  
 باندھا۔ مبارک سلامت کا شورا تھا اور گائینوں نے اسی وقت تازہ تازہ نو بہنو بہرہ بنایا اور گاسنایا۔

مرزا سلطان محمد تیرے سر پر سہرا ہو مبارک کہا زہرہ نے سنا کر سہرا  
 گوندھ کر پھولوں کا اور طشت میں رکھ کر سجا بارغ فردوس سے رضوان نے سجا کر سہرا  
 سلک گوہر سے بنا سر پہ جو باندھا تیرے ہو گیا نکس سے چہرے کے منور سہرا  
 سر پہ دستار ہے دستار پہ زرین طرہ افشاں پیشانی پہ پیشانی کے اوپر سہرا  
 کیا ستاروں میں چناں اور چنیں ہے باہم تو نے افشاں کو چھوڑا یا جو اٹھا کر سہرا  
 نظر بد سے پہنچنے نہ بھی پائے گزند باندھے سورہ والنون کو پڑھ کر سہرا  
 ہے فلک پر تیری شادی کا فرشتوں میں غریو گایا رقصہ گردوں نے خود آ کر سہرا  
 ہار دلہن کے لیے پھولوں کا لائیں حوریں اور ملائک نے نوشہ زگل تر سہرا  
 خاطر عیسیٰ موعود ہے ماشاء اللہ مطرب چرخ جو گاتا ہے فلک پر سہرا  
 ان کی منکوہ کشتی کے جو ہے عقد کا دن لائے خورشید و قمر گوند کر اختر سہرا  
 مدتوں دائم و قائم ہو قرآن السعدین خضر نے باندھا ہے اخلاص سے آ کر سہرا  
 عیسیٰ عہد کی پوری ہو یہ پیشین گوئی سایہ حفظ خدا ہو تیرے سر پر سہرا  
 ہر بلا سے رہے محفوظ تو از فضل خدا لائیں شعرا تیری اولاد کا کہہ کر سہرا

اور پھر ادھر سے بری پری کا سامان دلہن کے گھر کو چلا گئی خوان جوڑوں سے سجائے  
 ہوئے اور زیورات سنہری رو پہلی موقع سے لگائے ہوئے اور کئی سوچا سناں (گھڑی) قند اور میوؤں  
 وغیرہ سے پُر لوگوں کے کندھوں پر رکھ کر ہنسا ہنسا اور مشعلیں ساتھ ساتھ بھیجے گئے۔ جب دو دلہن کے  
 گھر یہ سامان پہنچاؤ دینیوں نے سنی گائیں دلہا کو اندر بلا یا لونہ گائے ٹوٹکی کئی۔

صبح کے قریب قاضی آیا اور ایجاب و قبول کیا۔ تعین مہر شرع محمدی نکاح پڑھا گیا۔  
 راوی..... ناظرین کو پوشیدہ نہ رہے مرزا احمد بیگ صاحب ہوشیار پوری کی بیوی لڑکی محمدی بیگم کی

شادی کے واسطے مرزا سلطان محمد بیگ صاحب آئے ہوئے ہیں اور یہ اس برأت کا سامان ہے۔  
صبح بیٹی والوں نے بھی بڑے فراخ حوصلہ سے جہیز دیا اور دلہن کو رخصت کیا۔ ڈومنیوں  
نے پاؤنی گا کر ایسا زلایا کہ آنکھیں کبوتر کی طرح لال ہو گئیں۔ کوئی بشر نہ تھا جس کی آنکھ سے  
اشک جاری نہ تھا۔

## باب ۳۹ سی و نہم

پیر مہر علی شاہ گوڑوی لاہور میں

اے ذوق کسی ہدم دیرینہ کا ملنا  
بہتر ہے ملاقات میجا و خضر سے

ریلوے اسٹیشن پر مسافر اکٹھے ہوتے جاتے ہیں اور ریل کی آمد آمد ہے لوگ انتظار میں  
مضطرب ہیں ایک دوسرے سے دریافت کرتا ہے اب کتنا عرصہ باقی ہے کبھی کوئی گھبرا کر پلیٹ  
فارم پر جاتا ہے اور ٹائم پیس دیکھتا ہے ویننگ روم میں ایک بزرگ فرشتہ صورت ملائک سیرت  
امیرانہ کروفر سے ایک کرسی پر متمکن ہیں اور گرد خدام باسلیقہ کہربائی لباس زیب تن کئے نہایت  
ادب سے دست بستہ کھڑے ہیں کوئی رومال سے گس رانی میں مصروف، کوئی پنکھا چلاتا ہے۔

بزرگ..... اب تو ریل عنقریب آنے والی ہے پلیٹ فارم پر چل بیٹھیں۔

خدام..... بہت بہتر فوراً ایک کرسی پلیٹ فارم پر بچھا کر۔ حضور تشریف لے جائیں کرسی بچھا دی ہے۔

بزرگ..... اٹھ کر کرسی پر رونق افروز ہوئے بڑا ہجوم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک اسٹیشن پر یہی حال رہتا ہے۔

خدام..... غریب نواز ایک جماعت کثیر حضور کی ہمرکابی میں ہے اور بہت آدمی فالتو حضور کی

تشریف آوری کی خبر سن کر زیارت کے واسطے آئے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے مسافر ریل پر

سوار ہونے والے تو بہت ہی کم ہیں۔ یہ سب ہجوم اور کثرت مردمان تو حضور کی تشریف آوری کے

باعث ہے۔ ہمیشہ تو یہ ازوہام یہاں نہیں ہوتا۔

نو وارد..... سلام علیکم حضرت کا مزاج اقدس۔

بزرگ..... وعلیکم السلام۔ آجیے مولوی صاحب آپ کے مزاج اچھے ہیں۔

مولوی صاحب..... الحمد للہ بعد مدت حضرت کی زیارت نصیب ہوئی۔ عرصہ سے دل نیاز منزل

قدم بوسی کا مشتاق تھا۔

بزرگ..... خوب ماشاء اللہ ابتداء ہی غلط۔ بھائی ہماری زیارت کیا ملاقات سے بھی آپ گنہگار

ہوتے ہیں اور اظہار اشتیاق زیارت۔

بین تفاوتِ راہ از کجاست تا کجا

مولوی..... حضرت میں متعصب نہیں بے شک حضرت اقدس کا یہ ارشاد ہے مگر میں اس سے علیحدہ ہوں میرا مسلک صلح کل ہے۔

بزرگ..... آپ کا مرزا صاحب سے بیعت کرنا کیا باعث ہے۔

مولوی..... قرآن کی تفسیر لکھنے میں مرزا صاحب عدیم العیال ہیں اپنا نظیر نہیں رکھتے۔

بزرگ..... آپ مرزا صاحب کو مسیح موعود جانتے ہیں۔

مولوی..... ان کے اس دعویٰ سے میں علیحدہ ہوں۔

بزرگ..... تعجب ہو کر۔ جب آپ ان کو اس دعوے میں کاذب اور مفتری علی اللہ خیال فرماتے

ہیں تو بیعت کیسے ہوئی؟ کیوں جس شخص کو مفتری علی اللہ سمجھا جاتا ہے تو اس کی وقعت اتنی نہیں ہوتی

کہ اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ سمجھ کر اپنے ہاتھ پر رکھا جائے۔

مولوی..... مرزا صاحب قرآن دان بہت عمدہ ہیں۔

بزرگ..... مرزاجی کی تفسیر متعلق سورۃ زلزال کے بارہ میں آپ کیا فرماتے ہیں۔

مولوی..... اس تفسیر سے بھی میں علیحدہ ہوں۔

بزرگ..... تعجب کے لہجہ میں۔ کیا آپ کو کوئی شخص مفتری علی اللہ اور قرآن کا محرف مرزا صاحب

جیسا اپنے علاقہ میں نہیں ملا تھا اس لیے قادیان میں جا کر مرزاجی سے بیعت کی۔

مولوی..... خیر میں نے بیعت تو نہ کی ہے ازالہ اوہام کو دیکھوں گا۔

ناظرین! پر مخنی نہ رہے یہ بزرگ حضرت فخر اصفیا و علماء عصر جناب پیر سید مہر علی شاہ

صاحب سے مراد ہے اور مولوی صاحب حبیب شاہ صاحب خوشابی سے جن کا نام نامی مرزاجی

ایک اشتہار میں اپنے مولویوں اور مریدوں میں لکھتے ہیں۔ (من سیفِ چشتیانی ص ۸۳)

ریل روانہ ہو گئی مجمع منتشر اور مسافر ریل میں بیٹھ گئے واہسی کے وقت آپس میں چہ

میگوئیاں ہونے لگیں۔

سنی مسلمان..... یا مرزاجی نے بھی عجب جال بھیلایا ہے جو اس کی جماعت میں داخل ہوا مولوی

بے بدل اور فاضل افضل بن گیا اب مرزاجی مولوی کی تقریر سنی کیا معقول گفتگو تھی پر امری کے

طالب علم بھی ہنسی اڑاتے ہیں۔

مرزاجی..... نہایت جوش کے لہجہ میں۔ خدا کے خوف سے ڈر کوئی جلاتم پر نہ نازل ہو جائے۔ خدا



کے مامور اور مرسل صادق کی نسبت ایسے کلمہ نکالنے۔

سنی مسلمان..... مرزا صاحب کے صادق ہونے کے دلائل تو جو آپ کے مولوی صاحب نے بیان کیے وہ ظاہر ہیں۔

مرزائی..... آسمان ان کے صادق ہونے کی گواہی دیتا ہے زمین شاہد ہے اور نشانات آسمان سے بارش کی طرح برستے ہیں۔

سنی مسلمان..... کچھ تو ہم پر بھی ظاہر کر دہم کو بھی تو معلوم ہو۔

مرزائی..... ہزاروں پیشگوئیاں حضرت اقدس نے فرمائیں اور وہ کل پوری ہوئیں اور ہوتی ہیں۔

سنی مسلمان..... حضرت بس رہنے دیجیے مرزائی کی پیشگوئیاں تو دن کی طرح روشن ہیں۔ ضمیرہ شکنہ ہند کی عبارت کو ذرا سیئے۔

”اجی مرزائی بس رہنے دیجیے خلق اللہ تیس سال تک آپ کے نمونہ دیکھتے دیکھتے سیر ہو گئی ہے۔“

.....۱ کسی شخص کے پینا پیدا ہونے کے لیے آپ نے..... بہتیرا سرا مارا بلکہ ایک معقول رقم بھی اس سے پھینکا رہی۔ مگر پینا اب تک ندار۔

.....۲ عبداللہ آتھم کے لیے (ازحد) گڑ گڑائے مگر وہ میعاد متعینہ میں نہیں مرا۔

.....۳ خانہ بخش وغیرہ کی بربادی کے لیے ہزار آہ و زاری کی مگر اس کا بھی بال بیکانہ ہوا۔

.....۴ لکھرام کے لیے ہزار سر پنکا مگر اس کی موت نے آخر آپ کو ہی مشتہ کیا۔

.....۵ آسانی منکوحہ کے لیے آپ کا چہرہ بھی خشک ہو گیا۔ مگر حسرت ہی رہی۔

.....۶ کسی شخص کی بیوی کا چما ہونے کے لیے بہترے تو ز جوڑ گئے مگر وہ بیمارہ کر چل ہی بسی۔

.....۷ آپ نے جس لڑکے کو موعود قرار دیا اور اپنے لیے اور دنیا کے لیے باعث برکت سمجھا وہ بھی آپ کو مفارقت دے گیا۔

.....۸ جس قدر مباحثہ آپ نے کیے شکست ہی کھا کر بھاگے اب مباحثہ کے نام سے اسان خطا ہوتے ہیں۔

.....۹ جن آدمیوں نے آپ کو بالمقابل دعا کرنے کو بلایا آپ ایک دن بھی سامنے نہ ہوئے۔

.....۱۰ ہمیشہ آپ نشان دکھلانے کے لیے میعاد مقرر کرتے رہے مگر آخر نہ امت ہی اٹھانی پڑی

چنانچہ اب بھی ایک بڑے بھاری نشان کے لیے میعاد مقرر ہے۔

.....۱۱ آپ کہتے ہیں شاہان یورپ کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی تصانیف بھیجیں مگر ایک

عیسائی بھی آپ پر ایمان لاتے نہ دیکھا۔

۱۲..... آپ نے کہا کہ سب خلقت مجھے قبول کرے گی مگر سب آپ سے متنفر اور بے زار رہی۔ سوائے معدودے چند اشخاص کے جو کسی شمار میں نہیں آسکتے۔ (آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر دعوے سے لکھی لوگوں نے اس کے پڑھنے اڑائے۔

۱۳..... آپ نے منشی الہی بخش صاحب کی نسبت گیارہ کا ہندسہ ظاہر کر کے الہام شائع کیا بفضلہ تعالیٰ اب گیارہ ماہ بھی قریب الاقترام ہیں مگر ان کے عصائے موسیٰ نے آپ کا سارا بنایا کھیل درہم و برہم کر دیا۔

۱۵..... پیر مہر علی شاہ صاحب کے لیے آپ ہر چند دانت پیستے رہے مگر ان کی شہرت ہی شہرت اور عزت ہی عزت ہوتی رہی۔

۱۶..... آپ نے عرصہ سے منارہ بنانا چاہا مگر ہنوز روز اول۔

۱۷..... آپ نے رسالہ انگریزی شائع کرنا چاہا مگر اب تک اقرار اور وعدہ کے مطابق آپ کو ناکامی حاصل ہے۔

۱۸..... آپ نے بجائے اتوار کے جمعہ کے دن تعطیل کرانی چاہی مگر سوائے ناکامی کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔

۱۹..... سینکڑوں اشخاص کے لیے آپ دعا کرتے رہے مگر کوئی اثر یا نتیجہ نہیں نکلتا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کو یہ کرنا چاہیے۔ وغیرہ۔

مرزا جی کی یہ دعائیں شتہ نمونہ از خروارے کافی نہیں ہیں۔

پھر آپ کو بار بار اعلان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ (من سیف چشتیانی ص ۸۳، ۸۵) مرزائی..... کیا اتنے بڑے عالم فاضل اور مولوی اندھے ہیں جو بے سوچے سمجھے بیعت ہو گئے آخر کچھ تو دیکھا ہے۔

سنی مسلمان..... بھائی تم بھولے بھالے آدمی ہو یہ بھی ایک دھوکا ہے ایک مولوی کا تو حال آپ اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہیں اسی پر اور مولوی کو قیاس کر لیں۔

مرزائی..... تو کیا یونہی لوگوں کو مولوی لکھ دیا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ جھوٹ لکھ دیا جائے کہ یہ مولوی ہے اور دراصل وہ کچھ نہ جانتا ہو۔

سنی مسلمان..... یہ بات تو کچھ محتاج بیان نہیں ہے عام قاعدہ ہے جو کوئی اپنا اصلی مذہب ترک کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے تو اس مذہب والے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے

ہیں۔ کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے ایسے کا تیسرا ہے اس کا باپ ڈبل پیسا ہے۔  
 مرزائی..... اتنی اتنی بڑی مضبوط کتابیں لکھی ہیں کیا بے مولوی ہونے کے لکھتے ہیں۔  
 سنی مسلمان..... کتابیں لکھنا تو کوئی دلیل مولوی ہونے کی نہیں اردو خوان بھی کتابوں سے چھانٹ  
 چھانٹ کر لکھ سکتے ہیں۔ اردو میں تمام کتابیں موجود ہیں قرآن کے حدیث کے تراجم موجود اس  
 کے علاوہ جتنے کتابیں لکھنے والے ہیں۔ مرزا صاحب سے تنخواہ پاتے ہیں ان کے دسترخوان پر روٹی  
 کھاتے ہیں۔ پھر جس کا کھائے اسی کا گائے، بجائے ان کو خدا اور خدا کے دین سے کیا کام۔  
 مرزائی..... حضرت حکیم الامت جناب مولوی حافظ حاجی نور الدین صاحب کیا تنخواہ پاتے ہیں اور  
 ان کو کیا لالچ ہے۔ جو اپنے گھر بار روزگار کو چھوڑ کر کچے مکانوں میں قادیان دارالامان میں ہی  
 بود و باش اختیار کر لی ہے۔ یہ ایک جلیل الشان فاضل انسان ہیں اور مولوی حکیم حافظ حاجی حرمین ہیں  
 اور تمام جہان کی تفسیریں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور ایسا ہی ان کے دل میں ہزار ہا قرآنی معارف کا  
 ذخیرہ ہے۔ کیا وہ بغیر کسی بات کے دیکھنے کے دانستہ اپنی خانماں کو چھوڑ کر قادیان میں آ بیٹھے ہیں اور  
 تکلف کے ساتھ کچی کوٹھیوں میں بسر کرتے ہیں کیا کوئی دانستہ اس تکلیف کو گوارا کرتا ہے۔  
 سنی مسلمان..... پہلے ہم کو بھی قبل از تجربہ و توقف سراصل حقیقت سماعی بنیاد پر حسن ظن ہے ایسا ہی  
 گمان تھا لیکن جوں جوں حالات سے آگاہی ہوتی گئی۔ بفضلہ تعالیٰ و تقدس اس غلط حسن ظن سے  
 بھی نجات ہوتی گئی۔

مثلاً سب سے اول تو اس حسن ظن میں فرق ڈالنے والا مولوی صاحب (حکیم  
 صاحب) کا وہ حلقی اشتہار ہوا جو انہوں نے عبداللہ اعظم کے بارہ میں پیشگوئی پورا ہو جانے کا دیا۔  
 باوجودیکہ اس اشتہار سے پہلے ایک شخص کے استفسار پر تحریری شہادت دے چکے تھے  
 کہ وہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔

۲..... مولوی صاحب کے علم و فضل کا جو نمونہ خط و کتابت مندرجہ رسالہ ”خلاف بیانی“ میں  
 موجود ہے وہ جیسا عبرت کا پردہ پر انداز ہے محتاج بیان نہیں کہ اول ایک خط بدرخواست ترک  
 مخالفت اور برس چھ ماہ تک نشان دیکھنے کے لیے خاموش رہنے کے واسطے لکھ کر بھیجا۔ پھر انکار کر دیا  
 کہ ایسا کوئی غلط نہیں لکھا۔ بعد جب وہ خط ظاہر ہونے لگا اور آئندہ خط نے وہ خط لا کر پہنچا دینے کا  
 لوگوں کے رو برو اقبال کر دیا۔ تو پھر وہی خط مشہور کر دیا۔

۳..... مولوی صاحب نے مخالفت قاضی سلیمان صاحب اپنے خط موسومہ نور الدین مطبوعہ  
 اخبار الحکم ۲۴ نومبر ۱۸۹۹ء میں ایسا اندھیر کیا اور اپنی لیاقت اور دیانت کا ایسا ثبوت دیا کہ اپنے فضل

وکمال کے بارہ میں کسی قسم کے حسن ظن کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ جنوں اور مندروں کے بچاریوں کو نعوذ باللہ سچے بھی کہا اور پھر اپنے امام صاحب کی حمایت میں ان کی پیشگوئیوں کو جھٹلایا ہے اور ایسے بدیہی المہلان و غلط حوالہ جات سے کام لیا ہے کہ الامان، جشن اسکول کے طالب علم بھی ان کی تورات دانی اور کج فہمی پر حیران ہیں اور مولوی صاحب نے باوجود اپنی اس سقیم الحالی کے الناقضی صاحب کو خلاف دیانت و امانت دھوکا دہ و ٹھوکر کھانے والا کہہ کر ان کی (اِنَّهُ سِنٌّ سُلَيْمَانٌ) کا مصداق نبی کو (وہ آیت قرآن مجید قاضی صاحب نے اپنی کتاب کے سرورق پر تہرکا لکھی ہے۔) محل طعن قرار دیا ہے ہاں وجہ کہ وہ مکہ ریاست میں نوکر ہیں۔ حالانکہ مذہبی آزادی میں اس ریاست جیسی کوئی دوسری ریاست نہیں۔ کیونکہ علاوہ انتظامی اراکین مسلمان ہونے کے اس کا رئیس مسجد کا بانی اور خادم ہے وہاں تعطیل کا دن بھی مقرر ہے۔ لیکن مولوی صاحب کی فہم پر کچھ ایسا سرپوش آیا کہ انہوں نے اس تحریر کے وقت اتنا نہ سوچا کہ ہم بمقابلہ قاضی صاحب حق پوش کر کے اور ایسی ریاست میں سالہا سال رہ کے جہاں دینی آزادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کیونکہ حق نما اور نور الدین بنے رہے۔ سبحان اللہ اور امامت نے کیا انکاس کیا ہے کہ صاف جگہ پر تو تھکے نظر آتے ہیں اور جہاں شہر اور لٹھوں کے ڈبیر لگے ہیں ان کی خبر ہی نہیں۔

مرزائی..... یہ سب افتراء ہے حضرت حکیم الامت کے پاس ایک بڑا کتب خانہ ہے تمام جہان کی تقاسیر اور دیگر علوم کی کتب ہیں ان کی جانب ایسا گمان ہو سکتا ہے۔

سنی مسلمان..... اڈل تو تمام جہان کی تقاسیر رکھنا خلاف واقعہ امر ہے جو مبالغہ سے مرزا صاحب نے ان کی تعریف میں لکھ دیا ہے جس سے وہی خوش ہوں گے۔ پھر اگر کوئی تمام جہان کی تقاسیریں اور کتا ہیں درحقیقت اپنے پاس بھی رکھے تو کیا مجر درکھنے ہی سے وہ خدا سپدہ، معارف و حقیقت شناس، لطائف و نکتہ رس، معانی حج، حقائق و رموز دان، عالم باللہ، ولی الرحمن روحانی سنت مہاتما فوق العادہ خاتمی اعجازی شخص بلا عمل ہی بن جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے ان کی تقاسیر داری پر ایسا فخر اورتا ز کیا ہے اگر ایسا ہے تو یہ آیت کریمہ قرآن مجید (مَقُلُ الَّذِينَ حَمَلُوا الْقَوَارِءَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَعَتَلِ الْجِمَارِ يَسْمَلُوْنَ اَسْفَاراً الخ) کے کیا معنی ہیں یعنی جن لوگوں پر توریہ اتھوائی گی (دی گئی) پھر انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا (یعنی اس پر کار بند نہ ہوئے) ان کی مثال بیہنہ گدھے کی مثال ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اور اس کا شان نزول کیا ہے کتاب داری تو تب ہی قابل قدر ہوتی ہے کہ جب تعلیم احکام و اطاعت خیر الامام میں اس کا پیر و کار ہو کر اپنی صحت فہم، درایت حقیقت و حقیقت ذاتی کا طمی اور عملی نمونہ دکھائے۔ ورنہ حمار کی طرح

بار برداری و طوطی کی طرح حفظ کرنے اور رٹنے سے کیا فائدہ؟ بقول مولوی روم۔

علم گر برجان زند یارے بود  
علم گر برتن زند مارے بود  
جان جملہ علیہا دین است زین  
کہ بدانی من کیم در لوح این

مرزائی..... فقط یہی تو نہیں کہ کتابوں کا ذخیرہ ان کا فخر کا باعث ہے ان کا علم باعمل اور معارف کا ذخیرہ بھی تو ہے جس کی نسبت حضرت اقدس نے خود لکھا ہے۔

سنی مسلمان..... معارف کا ذخیرہ جو مولوی صاحب میں مرزا صاحب بتلاتے ہیں وہ مرزا صاحب ہی کو نظر آتا ہوگا اور وہ ہی اس ذخیرہ سے فیض یاب ہوتے ہوں گے۔ یا خود مولوی صاحب اس کے ذائقہ اور سرور میں محظوظ و مسرور رہتے ہوں گے۔ دوسروں پر جو مولوی صاحب نے اس عرصہ دوران میں بطور شے نمونہ از خروارے ذخیرہ معارف منتشر فرمایا ہے اس میں سے تو یہی نکلا دکھا ہوا ہے۔

۱..... کہ مولوی صاحب خط مندرجہ ”خلاف بیانی“ میں دریافت کرتے ہیں کہ دو مہمون کے مخالف الہامات میں کس میعار سے ہم فیصلہ کریں گویا ان کو اب تک یہ معلوم ہی نہیں کہ اسلام میں کتاب و سنت ایسے کامل اکمل میعار ہیں جن سے حق و باطل صحیح و غلط درست و کج خوب کما حقہ پرکھا جاسکتا ہے۔ خواہ کوئی کسی بھیس میں روپ بدل مدعی الہام و وحی و نبوت و رسالت وغیرہ ہو کر آوے۔

۲..... خوبی قسمت سے فہم و علم و بائبل میں جو ان کو کمال ہے وہ یہ ہے کہ بتوں و مندروں کے پجاری و سچے نبی میں ان کو امتیاز نہیں اور ایک دوسرے سے فرق نہیں کر سکتے۔ پھر طرفہ یہ کہ چار سو پجاریوں کو سچے کہہ کر پھر ان کی پیشگوئی کو جھوٹا لکھیں تو جناب الہی کی شان میں کوئی بے نہیں لگتا۔ لیکن اگر مرزا صاحب کے مخالف کسی کو سچا الہام ہو تو نعوذ باللہ جناب الہی کی شان میں بے لگتا ہے اور اسلام کا سرچر ہوتا ہے۔ جیسا خط مندرجہ رسالہ خلاف بیانی میں لکھا ہے۔ مولوی صاحب کا سب مہمین راشدین سا لکین تربیت یافتہ حسب سنت رب العالمین و طریقہ سید الاولیاء و آخرین کو چھوڑ کر مرزا صاحب کی بیعت میں داخل ہونا مولوی صاحب کے اسی قول صادق کے موافق معلوم ہوتا ہے جو وہ خود فرمایا کرتے ہیں کہ بعض پنہانی قصور و گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ مرکب کو کسی صادق کی صحبت میں ٹھہرنے نہیں دیتے۔ سو نہ معلوم (غافر الذنوب معاف فرمائے) کہ کس نہانی جرم و قصور کی پاداش میں مولوی صاحب کو باوجود بہت سے اولیاء اللہ صادقین مستقر قین ذکر اللہ تعالیٰ صحبت کیسیا خاصیت میسر آ چکی ہے ان کو ان بزرگان عارفان باللہ کی خدمت میں جس کی انہوں

نے ایک لمبی فہرست بیان فرمائی ہے ٹھہرنا و مستفیض ہونا نصیب نہیں ہوا اور تکفین کے مال کی طرح کورے صاف نکل کر چلے آئے اور آخر کار ایسی دلدل میں آکر پھنس گئے جس سے رہائی کے لیے اگر صدق دل سے اتابت الی اللہ توبہ و استغفار نہ کرے گا تو عاقبت محمود و معرض خطر میں ہے۔

مرزائی..... پھر وہ (مولوی صاحب) آپ کے خیال میں دیوانہ ہیں جو گھر یا خانماں کو چھوڑ کر چلے آئے اور یہاں دیدہ و دانستہ تکلیف گوارا کر رہے ہیں۔

سنی مسلمان..... مولوی صاحب کی دیوانگی خانماں چھوڑ کر مرزا صاحب کے پاس رہنا کچے کونٹوں میں بسر کرنا کچھ نیا نہیں۔ اول تو ان کا خانماں عیال اکثر سب کے سب ان کے ساتھ ہیں۔ دوم مرزا صاحب اور مولوی صاحب کا مذاق ملتا ہے کیونکہ مولوی صاحب سے پہلے ہی باتجاء یا موافقت سرسید نیچری، مسیح علیہ السلام کے مرنے مارنے اور ان کی قبر کھودنے کا خط موجود تھا۔ اب ان کو ایک مددگار وہم خیال مل گیا بلکہ اکثر تو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ چھیڑا نہیوں نے ہی چھیڑی تھی اور مرزا صاحب نے اپنے مفید مطلب سمجھ کر اس کی تکمیل کا بیڑا اٹھا لیا اور شاید کوئی اور تعلقات بھی باعث ہوں۔ اس لیے وہ مرزا صاحب کے گرد ویدہ ہیں اسی طرح بموجب عام قاعدہ کے دوسرے ہزاروں بلکہ لاکھوں مرید اپنے پیروں پر باعث ہم مذاق وہم جنسی کے فدا ہیں یہ کچھ تعجب و اچنبہ نہیں۔

کندہم جنس باہم جنس پرواز  
کیوتر با کیوتر باز باباز

مولوی صاحب کا ڈیرہ لگانا تو ذرا ہی تعجب نہیں۔ ان کی طبیعت و عادت قدیم سے ہی ایسی ہے، کیا مرزا صاحب کو یاد یا خیال نہیں رہا کہ عمر گزشتہ میں انہوں نے کس کس جگہ ڈیرہ نہیں لگایا۔ راپور میں، لکھنؤ میں، حکیم علی حسین صاحب کی خدمت میں، مکہ معظمہ زاد اللہ شرفیاء میں، مولوی رحمت اللہ صاحب و مولوی محمد صاحب کی خدمت مدینہ منورہ میں، شاہ عبدالغنی صاحب مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے کہ سرسید آنجنمانی کے بھی جو مرزا صاحب کے عداوی کے کبھی موافق نہیں ہوئے محبت و معتقد رہ کر یہ صرف خود ہی ان کو مضامین ضروریہ سے امداد دیتے رہے بلکہ دوسروں کو بھی ان کی موافقت و امداد کی دعوت و ہدایت امداد اسلام سمجھ کر کرتے رہے وغیرہ وغیرہ ان کے علاوہ دیگر مقامات و اشخاص بھی ہیں جن کا ذکر مولوی صاحب اپنے خط بجانب الہی بخش صاحب میں کیا ہے۔

غرض صرف حسن عقیدت سے سب کچھ آرام و آسائش رونق آمدنی وغیرہ فراموش

کر کے ڈیرہ لگانا تو درکنار ان پر خوبی قسمت سے مادہ حسن ظنی تو ایسا غالب تھا کہ اس کے سبب یا غلبہ فطرت کے باعث عمدہ اندکار و دعا باز فریبوں کے فریب میں بھی آجاتے رہے اور ان کے کہنے کی تعمیل دھوکہ کھا کر بعد تجربہ بھی کرتے رہے۔ جیسے انہوں نے کئی مواقع خود بیان فرمائے ہیں۔ اور اس لیے یہ بات سب میں ان کے دوستوں تک مشہور ہے کہ ان میں مادہ مردم شناسی ہرگز نہیں ہے وہ سبھی مقامات طبیعت و مذاق پسند پر ایسا ہی کرتے رہے ہیں اور رہی بشرط زندگی خدا جانے آئندہ کیا کچھ کریں گے پھر مرزا صاحب کے پاس کچے کوٹھوں میں رہنا کیا تعجب اور انوکھی بات ہے۔  
(از حصائے موسیٰ ص ۳۷۲)

## باب ۴۰ چہلم

### عبداللہ آتھم کا جلوس

آغوش اس کے شوق میں کب تک رہے کھلا

پھیلائے کب تک رہوں اے انتظار ہاتھ

آج صبح سے امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر میلہ جم رہا ہے۔ نازنینان پر پری چہرہ حورش یورپین اور کرکچین بناؤ سنگار کیے ہوئے کوئی تہا کوئی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے ہوئے ادھر کو رخ کیے چھتری کو پکڑے ایک ہاتھ سے سایہ کو اٹھائے رف رف کرتی آرہی ہیں سایہ کے ساتھ ہزاروں دل پامال ہو رہے ہیں کوئی کھڑکھڑ کرتی ٹمٹم پاس سے نکل جاتی ہے کوئی پیادہ پا خرام ناز سے قدم اٹھائے چلی جاتی ہے۔ اسٹیشن کیا پر یوں کا اکھاڑہ ہے راجہ اندر کا دربار کہانیوں میں سنتے تھے آج آنکھوں سے دیکھ لیا پلیٹ فارم پر عجیب محکمٹھا قدم رکھنے کو جگہ نہیں ملتی۔

اوہو یہ تو انگریزی آ رہا ہے اور شہر کے بے فکرے تماشا کی پراجمائے اڑے آ رہے ہیں نہیں صاحب ان میں تو عمائد شہر اور رئیس و امراء بھی ہیں۔ مسلمانوں سکھوں آریوں سب فرقہ و مذاہب معزز اور واعظان میں شامل ہیں۔

آج کوئی تہوار نہ عیسائیوں کا ہے نہ اور کسی مذہب و ملت کا ۶ ستمبر ہے آج کے دن تو کوئی عیسائیوں کا تہوار نہیں ہوتا۔

یہ ہاتھی پر کون آیا یہ تو پادری صاحب ہیں۔ خوب ہاتھی کی حکم پر پھولوں کا ہار پڑا ہے بھائی یہ بات کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ جو بات ہے، ہے ہی۔

ریل کے آنے میں ابھی تو عرصہ ہے کوئی ۹ بجے ہوں گے چلو تو پلیٹ فارم دیکھیں۔  
اللہ اللہ! یہاں تو نظر کو بھی دخل نہیں ملتا۔

لوگ لین کی طرف جھکے ہوئے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گاڑی کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی  
گاڑی کہاں۔

.....۱ کیا آج لیٹ ہوگئی جواب تک گاڑی نہیں آئی۔

.....۲ بھائی اپنی ٹائم پر آئے گی۔

.....۳ کیا ابھی وقت نہیں ہوا کھڑی دیکھ کر اوہو ابھی تو ۱۰ منٹ باقی ہیں۔

.....۴ انتظار کیا بری بلا ہے حالانکہ ابھی ٹائم میں ۱۰ منٹ باقی ہیں۔ پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ  
گاڑی لیٹ ہوگئی۔

.....۵ انتظار کیا شوق کہو بہتر تھا کہ تار دیا جاتا کہ آکشمیل ٹرین میں آئیں۔

.....۶ بھائی کہا تو درست لوہہ گاڑی آئی۔ دیکھا اب تمام خلقت جھک رہی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر

گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ پولیس ہے کہ ہٹا رہی ہے مگر آدی پر آدی گرا پڑتا ہے۔

پولیس مین..... ارے بھائی کوئی گر کر کٹ جائے گا۔

اسٹیشن ماسٹر..... گھبرانے کی کیا بات ہے اب گاڑی تم لوگوں کے سامنے آجاتی ہے۔

انجن نے سیٹی دی۔ اوہو انجن کے اوپر بھی پھولوں کے ہار پڑے ہیں۔ گاڑی اسٹیشن

کے روبرو کھڑی ہوئی ایک صاحب اترے۔ آہا یہ پادری ہنری کلا راک ہیں اور ان کے بعد ایک اور

صاحب اسی گاڑی سے اترے۔ یہ تو ڈپٹی صاحب مسٹر عبداللہ آتھم ہیں۔

آدی ہیں کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا ہے وہ اس سے آگے یہ اس سے آگے دوڑتے

ہیں مسٹر عبداللہ آتھم صاحب نے سر سے ٹوپی اتار کر سلام کیا یلکھت ٹوپی اچھالی گئی اور ہرے شور

نے اسٹیشن کو گونجا دیا۔

مرزائی..... اس کی نسبت (مسٹر عبداللہ آتھم) تو حضرت اقدس نے پیشگوئی کی تھی وہ تو مر بھی گیا۔

.....۲ ریڈ کا آدی بالکل عبداللہ آتھم کا ہم شکل بنا کر اس میں کل لگا دی چلتا پھرتا ہے دیکھو وہ

بولو وہی سن کے بال وہی سفید بھوس وہی چہرہ وہی چتون وہی پیشانی کمر جھگی ہوئی منہ پر جھریاں

پڑی ہوئیں، ہاتھوں کی نیس کھڑی، واللہ کمال کیا ہے۔

جھوٹ کو سچ کر دکھانا کوئی ہم سے سیکھ جائے

.....۳ اگر یزوں نے صنعت میں تو کمال ہی پیدا کیا ہے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اصلی انسان



نہیں ہے ریز کا بنایا ہوا پتلا ہے۔

۴..... یہ اگر اصل عبد اللہ آہتم ہو تو ہمارے حضرت اقدس کی پیشگوئی غلط ہو جائے۔ زمین ٹل جائے، آسمان ٹل جائے مگر یہ بات کبھی ٹل سکتی ہے ہرگز نہیں اسٹیشن سے باہر جو باجا جانے والے غنجر کھڑے تھے انہوں نے باجا بجانا شروع کیا مسز عبد اللہ آہتم صاحب کو ہاتھی پر سوار کرایا گیا باجے بجاتے ناچتے گاتے عیسائی مرد اور عورت آگے غر لٹوانا ہر کوچہ اور گلی اور بازاروں میں گشت لگانے لگے۔

توڑ ہی ڈالیں گے وہ نازک کلائی آپ کی  
بات کب یہ چھپ سکی ہے اب چھپائی آپ کی  
بات اب بنتی نہیں کوئی بتائی آپ کی  
کون مانے ہے بھلا یہ کج ادائی آپ کی  
ہو گئی شیطان سے ثابت آشنائی آپ کی  
کر رہا ہے شک ہے شیطان رہنمائی آپ کی  
اس کو کب منظور ہے ایکدم جدائی آپ کی  
رات دن کرتا ہے وہ ہی پیشوائی آپ کی  
کس بلا میں اس نے دیکھو جان پھنسی آپ کی  
دیکھو کیسی ناک میں اب جان آئی آپ کی  
آبرو سب خاک میں کیسی ملائی آپ کی  
کس لیے کرتا نہیں مشکل کشائی آپ کی  
جو گلی کوچوں میں کرتے تھے بڑائی آپ کی  
ڈوم کنجر دھوبی کنجرے اور قصائی آپ کی  
جاننے ہیں ہم یہ ساری پارسائی آپ کی  
کام کس آئے گی دولت کمائی آپ کی  
سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی  
فیصلہ کی شرط ہے مانی منائی آپ کی  
کر ہی ڈالے گا حجامت اب تو نائی آپ کی  
ہاتھ کب آئے گی یہ مہلت گنوائی آپ کی

پنچہ آہتم سے مشکل ہے رہائی آپ کی  
آہتم اب زندہ ہے آکر دیکھو تو آنکھوں سے تم  
کچھ کرو شرم و حیا تاویل کا اب کام کیا  
جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بتلانا صریح  
حق ہے صادق اور صادق حق کے سب الہام ہیں  
ہو گیا ثابت کہ سب اقوال ہیں یہ آپ کے  
اپنے پنچہ سے تمہیں شیطان نہیں دیتا نجات  
تم ہو اس کے اور وہ اب ہے تمہارا یار غار  
ہم نہ کہتے تھے کہ شیطان کا کہا مانو نہ یار  
ہر طرف سے لعنت اور پھنکار پر پھنکار ہے  
خوب ہے جبریل اور الہام والا وہ خدا  
ہے کہاں اب وہ خدا جس کا تمہیں الہام ہے  
اب بتاؤ ہیں کہاں وہ آپ کے پیر و مرید  
کرتے ہیں تعظیم جبکہ کہ تو حاصل اس سے کیا  
آپ نے خلقت کے ٹھکنے کا نکلا ہے یہ ڈھنگ  
کچھ کرو خوف خدا کیا حشر کو دو گے جواب  
ڈھیٹ اور بے شرم بھی عالم میں ہوتے ہیں مگر  
کر کے نہ کالا گدھے پر کیوں نہیں ہوتے سوار  
داڑھی سر اور موچھ کا بچنا بڑا دشوار ہے  
اب بھی فرصت ہے اگر کچھ عاقبت کی فکر ہے

آپ کے دعووں کو باطل کر دیا حق نے تمام  
 جھوٹ میں باطل ہیں دعوے قادیانی کے سبھی  
 سخت گمراہ ہو، نہیں سمجھے مسیح کی شان کو  
 خاتمہ بالخیر ہوگا اور ہوگی سرخرو  
 اب دام نکر اور کسی جا بچھائیے  
 بس ہو چکی نماز مصلے اٹھائیے  
 سیالکوٹ میں ریچھ کا تماشا

شہر سیالکوٹ میں ایک دھماچو کڑی بچی ہوئی اور لوگ دوڑے جا رہے ہیں اور ایک مجمع  
 کثیر جم غفیر ایک جگہ اکٹھا ہو رہا ہے۔

۱..... ارے بھائی کیا ہے۔ کہاں جاتے ہو۔

۲..... وہ دروازہ کے پاس جو قصائیوں کی دوکانیں ہیں وہاں چھپھڑوں پر لڑائی ہوئی اور چھری  
 چل پڑی اس کا شور۔

۳..... شہباز خان کے بازار میں ایک خانگی کو کسی نے قتل کر ڈالا وہاں یہ شور ہے اور لوگ  
 جاتے ہیں۔

۴..... جو اس طرف سے آتا تھا یہاں کچھ تماشا ہے۔

۵..... یہاں سنا تھا کہ ریچھ کا تماشا ہے۔

دکاندار۔ یہاں بازار میں ریچھ کے تماشے کا کیا کام۔ گلی کوچہ اور گھروں میں تماشا  
 بچوں کو دکھا کر تماشا والے دائرہ روٹی مانگ لاتے ہیں۔

۲..... ارے بھائی یہ تو پاگل ہے ریچھ کے تماشے کے ساتھ یہ سامان انگریزی باجا جتا ہے۔  
 معزز و سفید پوش تماشائی ساتھ ہیں۔ ریچھ کے تماشے میں لڑکوں کا جوم ہوتا۔

۳..... ہاتھ کنگن کو آری کیا دکان پر بیٹھے باتیں بناتے ہوا ٹھہ کر دیکھو تو کیا عجیب تماشا ہے۔

۴..... اوہو یہ تو عیسائی ہیں سوانگ بنایا ہوا ہے ایک شخص کو کھیل میں سر سے پاؤں تک لپیٹ  
 رکھا ہے اور ریچھ کا چہرہ منہ پر لگا رکھا ہے اور گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے۔ اور ایک عیسائی قلندر کا  
 بہرہ پ بھرے ریچھ کو نچاتا ہے اور برابر گاتا ہے۔

ارے سن او رسول قادیانی لعین و بے حیا شیطان ثانی  
 نہ باز آیا تو کچھ کہنے سے اب بھی بڑھاپے میں ہے یہ جوش جوانی  
 نچا دے ریچھ کو جیسے قلندر یہ کہہ کر تیری مر جائے ثانی

نچاویں تجھ کو بھی ایک ناچ ایسا یہی ہے اب مہم دل میں ٹھانی  
 ہر ایک لکڑی ریچھ کے مار کر رسی کو ہلاتا اور نچاتا ہے اور ریچھ غل چاتا ہے۔  
 قلندر..... ارے سن اور رسول قادیانی۔ لعین و بے حیا شیطان ثانی۔ پھر ریچھ کے لکڑی مار کر اور ہلا کر  
 تری مر جائے ثانی۔

دیگر عیسائی..... سب ایک آواز ملا کر ارے سن اور رسول قادیانی  
 غرض ایک شور و غوغا بلند ہوا اور عیسائیوں نے اسلام کی توہین میں کچھ کلمے زبان سے  
 نکالے۔ دو دروازہ (بازار کا نام ہے) کے قریب یہ شور و غوغا پہنچا۔ اس طرف مرزائی رہتے ہیں۔  
 پولیس نے آ کر اس ہنگامہ کو بموجب حکم صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر فرو کس کیونکہ ششی غلام قادر فصیح  
 اڈیٹر پنجاب گزٹ میونسپل کمشنر اور دیگر میونسپل کمشنروں نے صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کی خدمت میں  
 اطلاع کی کہ عیسائیوں نے یہ شور مچا دیا ہے اندیشہ ہے کہ مذہبی جوش میں فساد ہو جائے۔ پولیس  
 نے خود آ کر اس مجمع کو منتشر کر دیا۔

(سراج منیر ص ۴۷، خزانہ ج ۱۲ ص ۵۵) میں مرزا صاحب خود لکھتے ہیں۔ ”غرض پادریوں  
 نے آہتم کے معاملہ میں حق پوٹی کر کے بہت شوخی کی اور امرتسر سے شروع کر کے پنجاب اور  
 ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں ناچتے پھرے اور بہروپ نکالی اور ایسا شور و غوغا کیا کہ  
 ابتدائی عملداری انگریزی سے کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔

لدھیانہ

بہ نمائے بہ صاحب نظرے گوہر خود را

عیسیٰ نتواں گشت بتصدیق خرے چند

لدھیانہ کی گلی کوچے میں ہر ایک کی زبان پر یہ نظم مرد و عورت چھوٹی چھوٹی گاتی پھرتی ہیں۔

ارے او خود غرض خود کام مرزا ارے جنھوں نا فرجام مرزا  
 غلامی چھوڑ کر احمد بنا تو رسول حق بہ استحکام مرزا  
 مسیح و مہدی معبود بن کر بچائے تو نے کیا کیا دام مرزا  
 ہوا بحث نثار اے میں نہ آخر مسیحائی کا یہ انجام مرزا  
 تیری تکذیب کی شمس و قمر نے ہوا مدت کا خوب اتمام مرزا  
 ڈبویا قادیاں کا نام تو نے کہیں کیا اور بدو بدنام مرزا  
 کہاں ہے وہ تیری پیشین گوئی جو تھا شیطان کا الہام مرزا

اگر کچھ بھی ہے غیرت ڈوب مرتو  
 بشر آیا تھا کیا کم کر گیا تھا  
 کیا تھا اس نے تجھ کو زندہ درگور  
 لیکن تو نہ آیا باز پھر بھی  
 نہ کہتا کچھ اگر منہ پھاڑ کر تو  
 گلے میں اب تیرے رسہ پڑے گا  
 سزا بھی کم سے کم اتنا تو ہوگی  
 ہے سولی اور پھانسی کار سرکار  
 کہ اک بھائی ہے مرشد بھگیوں کا  
 مسلمانوں سے تجھ کو واسطہ کیا  
 کہا اسلامیوں نے حلف پا کر  
 تو ہے ایک انبیاء بعل میں سے  
 زمین و آسماں قائم ہیں اب تک  
 براہین سے ٹھگے تو نے مسلمان  
 بحمد اللہ کہ چھپ کر فتح و توضح  
 مہینے پندرہ بڑھ چڑھ کے گزرے  
 در توبہ ہے وا، ہو جا مسلمان  
 اور کہیں لوگوں کی زباں پر یہ غزل تھی۔

غضب تھی تجھ پہ سنگر چٹھی ستمبر کی  
 ہے قادیانی ہی جھوٹا مرا نہیں آہتم  
 ذلیل و خوار ندامت چھپا رہے تھے کہ تھا  
 یہ لدھیانہ میں مرزائیوں کی حالت تھی  
 مسیح و مہدی کاذب نے منہ کی کھائی خوب  
 ہے روسیاء مثیلی مسیلہ و اسود  
 یہ قادیانی کی تذلیل کے لیے تھی جو نہ تھا  
 پنجاب کے شہروں میں پادریوں میں عموماً ایک شورش اور آوازہ شادمانی بلند ہے اور  
 نہ دیکھی تو نے نکل کر چٹھی ستمبر کی  
 یہ گونج اٹھا امرتسر چٹھی ستمبر کی  
 تیرے مریدوں میں محشر چٹھی ستمبر کی  
 کہ جینا ہو گیا دو بھر چٹھی ستمبر کی  
 یہ کہتے پھرتے ہیں گھر گھر چٹھی ستمبر کی  
 ملا حدہ کا وہ رہبر چٹھی ستمبر کی  
 مہلبہ کا اثر گر چٹھی ستمبر کی

مرزائیوں میں خصوصاً ایک سنا ہے اور سکوت کے عالم میں دم بند ہے چلیں قادیان کا سین بھی دیکھیں وہاں کیا کیفیت ہے۔ مرزا صاحب کا دربار ڈر ہار ہورہا ہے حوالی موالی حواریان عقیدت کیش و شیران خیر اندیش چاند کے گرد ہالہ کی طرح گرد و پیش بیٹھے ہیں۔ مگر سب ادب سے سر جھکائے خاموش۔ صم بکم کا عالم ہر ایک۔ ”یہ چپ ہوا ہے کہ گویا نہیں زبان منہ میں۔“ چشمی رساں نے ایک خط دیا۔

مرزا صاحب۔ خط کا لفظ پڑھا اور ایک آہ سرد کھینچ کر افسوس ہے۔

”وہ پیشگوئی جو امرتسر کے عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ ہو کر ۵ جون ۱۸۹۳ء میں کی گئی تھی جس کی آخری تاریخ ۵ ستمبر ۱۸۹۳ء تھی وہ خدا کے حکم کے مطابق ایسے طور سے اور ایسی معاد کے اندر پوری ہو گئی کہ ایک منصف اور دانا کو بجز اس کے ماننے اور قبول کرنے کے کچھ بن نہیں پڑتا ہاں ایک متعصب اور احمق یا جلد باز جو ان واقعات اور حوادث کو کبجائی نظر سے دیکھتا نہیں چاہتا جو فریق مخالف ظہور میں آئے اور الہامی الفاظ کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کی آرزوؤں کی پیروی کرتا ہے اس کا مرض نادانی لا علاج ہے۔“

اور اگر وہ ٹھوکر کھائے تو اس کی پست فطرتی اور احمق اور سادہ لوحی اس کا موجب ہوگی ورنہ کچھ شک نہیں کہ فتح اسلام ہوگی۔ اور عیسائیوں کو ذلت اور ہادیہ نصیب ہو گیا۔ پیشگوئی کے لفظ یہ ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمد اجسوت کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ انہی دنوں میں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر ۱۵ ماہ تک ہادیہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور جو شخص سچ رہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی۔ اور اس وقت جب پیشگوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سے سو جا کھے کئے جائیں گے اور بعض لتڑے چلے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔

اب یاد رہے کہ پیشگوئی میں فریق مخالف کے لفظ سے جس کے لیے ہادیہ یا ذلت کا وعدہ تھا ایک گروہ سے مراد ہے جو اس بحث سے تعلق رکھتا تھا خواہ خود بحث کرنے والا تھا یا معاون یا حامی یا سرگروہ تھا۔ ہاں مقدم سب سے عبد اللہ آتھم تھا۔ (انوار الاسلام ص ۲۱، خزائن ج ۹ ص ۲۱) (ایک لمبی چوڑی تقریر میں الہام کا ترجمہ اور تفسیر فرما کر ما حاصل اس کا) اس کے الفاظ میں۔ ”بشرطیکہ حق کی طرف رجوع کرے۔ لیکن عبد اللہ آتھم نے منظر بانہ حرکات سے ثابت کر دیا کہ اس نے پیشگوئی کی تعظیم کی۔“ (انوار الاسلام ص ۳، خزائن ج ۹ ص ۴) (اس کی خوفناک حالت کی تقریر فرما کر) ”توجہ سے یاد رکھنا چاہیے کہ ہادیہ میں گرایا جانا جو اصل الفاظ الہام ہیں وہ عبد اللہ آتھم نے

اپنے ہاتھ سے پورے کیے اور جن مصائب میں اس نے اپنے تئیں ڈال لیا اور جس طرز سے مسلسل گھبراہٹوں کا سلسلہ اس کے دامن گیر ہو گیا اور ہول اور خوف نے اس کے دل کو پکڑ لیا ہے اصل ہاویہ تھا اور سزائے موت اس کے کمال کے لیے ہے جس کا ذکر الہامی عبارت میں موجود ہی نہیں..... (پھر کچھ تقریر کو طول دے کر) پس اے حق کے ظالمو یقیناً سمجھو کہ ہاویہ میں گرنے کی پیشگوئی پوری ہو گئی اور اسلام کی فتح ہوئی اور عیسائیوں کو ذلت پہنچی..... (پھر وور چل کر) یقیناً سمجھو کہ اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔“

”یہ تو مسٹر عبداللہ آتھم کا حال مگر اس کے باقی رفیق بھی جو فریق بحث کے لفظ میں داخل تھے اور جنگ مقدس کے مباحث سے تعلق رکھتے تھے خواہ وہ تعلق اعانت کا تھا یا بانی کار ہونے یا مجوز بحث یا حامی ہونے کا یا سرگروہ ہونے کا ان میں سے کوئی بھی اثر پڑا ہے خالی ندر ہا اور ان سب نے میعاد کے اندر اپنی اپنی حالت کے موافق ہاویہ کا مزاد کھ لیا۔ چنانچہ اول خدا تعالیٰ نے پادری رائٹ کو لیا جو دراصل اپنے رتبہ اور منصب کے لحاظ سے اس جماعت کا سرگروہ تھا اور عین جوانی میں ایک ناگہانی موت سے اس جہان فانی سے گزر گیا۔“

(انوار الاسلام ص ۸، خزائن ج ۹ ص ۸)

پھر خط پڑھ کر سنایا گیا۔ یہ میاں محمد علی خاں صاحب رئیس کا خط ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم! مولانا کریم، سلمکم اللہ تعالیٰ، السلام علیکم!

آج ۷ ستمبر ہے اور پیشگوئی کی میعاد مقررہ ۵ ستمبر ۱۸۹۴ء ہے گو پیشگوئی کے الفاظ کچھ

بھی ہوں لیکن آپ نے جو الہام کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے۔

”میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر پیشگوئی جھوٹ نکلی یعنی وہ فریق جو خدا کے

نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے سزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے

تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جائے روسیہ کیا جائے میرے

گلے میں رسہ ڈال دیا جائے مجھ کو پھانسی دیا جائے ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں اور میں اللہ جل

شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرور ایسا ہی کرے گا ضرور کرے گا زمین و آسمان ٹل جائیں پر اس کی

باتیں نہ ٹلیں گی۔“

اب کیا پیشین گوئی آپ کی تشریح کے موافق پوری ہو گئی۔ نہیں ہرگز نہیں۔ عبداللہ آتھم

صحیح و سالم موجود ہے اور اس کو سزائے موت ہاویہ میں نہیں گرایا گیا۔ اور اگر یہ سمجھو کہ پیشگوئی

الہام کے الفاظ کے بموجب پوری ہو گئی جیسا کہ مرزا خدا بخش صاحب نے لکھا ہے اور ظاہری معنی

جو سمجھے گئے ہیں ٹھیک نہیں تھے۔

اول تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس کا اثر عبداللہ اعظم پر پڑا ہو۔ دوسرے پیشگوئی کے الفاظ یہ ہیں۔ ”اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے۔ وہ انہیں دنوں مباحثہ کے لحاظ سے فی دن ایک ماہ کے لئے ۱۵ ماہ تک ہادیہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب پیشگوئی ظہور میں آئے گی بعض امدھے سو جائے کیے جائیں گے بعض لنگڑے چلے لگیں گے۔ بعض بہرے سنے لگیں گے۔“

پس اس پیشگوئی میں ہادیہ کے معنی اگر آپ کی تشریح کے بموجب نہ لیے جائیں اور صرف ذلت اور رسوائی لی جائے تو بیشک ہماری جماعت ذلت اور رسوائی کے ہادیہ میں گر گئی اور عیسائی مذہب سچا ہے عیسائی مذہب جھوٹا اسی حالت میں سمجھا جائے اگر یہ پیشین گوئی سچی سمجھی جائے جو خوشی اس وقت عیسائیوں کو ہے وہ مسلمانوں کو کہاں (مسلمانوں کو تو نہیں بلکہ مرزائیوں کو شرمندگی اور بڑی شرمندگی ہوئی) پس اگر اس پیشگوئی کو سچا سمجھا جائے تو عیسائیت ٹھیک ہے کیونکہ جھوٹے فریق کو رسوائی اور سچے فریق کو عزت ہوگی۔ اب رسوائی مسلمانوں کو ہوئی میرے خیال میں اب کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔ دوسرے اگر کوئی تاویل ہو سکتی ہے تو یہ بڑی مشکل کی بات ہے کہ پیشگوئی کے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ لڑکے کی پیشگوئی میں تقاؤل کے طور پر ایک لڑکے کا نام بشیر رکھا گیا اور وہ مر گیا تو اس وقت بھی غلطی نہ ہوئی اب اس معرکہ کی پیشگوئی کے اصلی مفہوم کے نہ سمجھنے سے تو غضب ہی ڈھا دیا۔ اگرچہ کہا جائے کہ احد میں فتح کی بشارت دی گئی تھی آخر شکست ہوئی۔ تو اس میں ایسے زور سے اور قسموں سے معرکہ کی پیشگوئی نہ تھی اور اس میں لوگوں سے غلطی ہو گئی تھی اور پھر جب مجتمع ہو گئے تو فتح ہوئی۔ کیا کوئی ایسی نظیر ہے کہ اہل حق کو بمقابل کفار کے ایسا صریح وعدہ ہو کر اور معیار حق و باطل ظہور کر ایسی شکست ہوئی ہو۔ مجھ کو تو اب اسلام پر شبہ پڑنے شروع ہو گئے لیکن الحمد للہ! کہ اب تک جہاں تک غور کرتا ہوں اسلام بمقابل دیگر ادیان کے اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن آپ کی دعاؤں کے متعلق تو بہت ہی شبہ ہو گیا پس میں نہایت دل سے التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ فی الواقعہ سچے ہیں تو خدا کرے میں آپ سے علیحدہ نہ ہوں اور اس زخم کے لیے کوئی مرہم عنایت فرمائیں۔ کہ جس سے تشفی ملی ہو جائے جیسا لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ اگر یہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی تو آپ ہی لکھ دیں گے کہ ہادیہ سے مراد موت نہ تھی۔ الہام کے مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی براہ مہربانی بدلائل تحریر فرمائیں۔ اور آپ نے مجھ کو ہلاک کر دیا ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں۔ برائے

استغفار و نہایت ولی رنج سے یہ تحریر کر رہا ہوں۔ راقم محمد علی خاں از: (الہامات مرزا ص ۳۲، ۳۳، ۳۴) مرزا صاحب..... ”یہ جو کہا جائے کہ وہ (آہتمم) میعاد کے اندر فوت نہیں ہوئے تو یہ صاف صاف ہے کیونکہ پیشگوئی میں یہ قطعی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ضرور اسی میعاد کے اندر ہی فوت ہوں گے بلکہ پیشگوئی میں یہ صاف شرط موجود تھی کہ اگر وہ عیسائیت پر مستقیم رہیں گے اور ترک استقامت کے آثار نہیں پائے جائیں گے اور ان کے افعال یا اقوال سے رجوع الی الحق ثابت نہیں ہوگا تو صرف اس حالت میں پیشگوئی کے اندر فوت ہوں گے ورنہ ان کی موت میں تاخیر ڈال دی جائے گی۔ ہاں کسی قدر ہاویہ کا بھی مزاج کھلیں گے۔ سو بلاشبہ پیشگوئی نے میعاد کے اندر اس ہاویہ کا مزاج ان کو چکھادیا۔ جس ہاویہ کی تکمیل رفتہ رفتہ ہوگی۔ اور ضرور تھا کہ وہ پیشگوئی کی میعاد میں ہاویہ کے پورے اثر سے بچے رہتے۔ کیونکہ انہوں نے اسلامی پیشگوئی کا ڈراپنے اوپر ایسا غالب کر لیا کہ ایک قسم کی موت ان پر آگئی اور وہ مردوں کی طرح چپ ہو گئے اور عیسائیت کے پلید عقائد کی حمایت میں جو پہلے تالیفات کرتے رہتے تھے دلکھن ہو گئے اور خوف کے صدمات نے ان کو سرسیمہ کر دیا۔ پس کیا ضرور نہ تھا کہ خداوند تعالیٰ اپنے الہام کی شرط کے موافق موت کو دوسرے وقت پر نال دیتا۔ ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں کہ ہر ایک شریف عیسائی کے چھپانے کے لیے کیا کیا مکروہ اور نالائق افتراؤں سے کام لیا۔ اور کس طرح دلیری کے ساتھ بے بنیاد جھوٹ کو پیش کیا نالائق آہتمم کے سرسربے وجہ مجھے زہر خورانی کے اقدام کی تہمت دی۔ میرے پرافتراء باندھا کہ گویا میں نے اس کے قتل کرنے کے لیے اس کی کوشی میں سانپ چھوڑے تھے اور گویا میں ایسا پرانا خونی تھا کہ تین مرتبہ میں نے مختلف شہروں میں اس کے مارنے کے لیے اپنی جماعت کے جوانوں سے حملہ کرائے۔“

(انجام آہتمم ص ۱۳، ۱۴، خزائن ج ۱۱ ص ایضاً)

یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی تاجھ ہمارا حیر و مرید اس پیشگوئی کی غلط فہمی منخرف ہو گیا تو یسوع صاحب پر سب سے پہلے یہ الزام ہے کیونکہ یہود اسکر ایوٹلی یسوع صاحب سے بڑے زور شور کے ساتھ منخرف ہوا تھا۔

### حاشیہ جات

۱۔ (مولوی ابوباقا ثناء اللہ صاحب امرتسری) اس پیشگوئی نے مرزا جی کو ایسا حیران کر رکھا ہے کہ بلا مبالغہ انہیں کہتے یہ خبر بھی نہیں رہتی کہ میری آواز کدھر سے نکل رہی ہے آج تک باوجود کامل ۹ سال گزر جانے کے وہ سخت حیرانی میں ہیں۔ رسالہ ہذا کی طبع اول سے بعد کی تحریریں پہلی تحریروں سے بھی مزید ار ہیں آپ (کشتی نوح ص ۶، خزائن ج ۱ ص ۶) پر لکھتے ہیں کہ ”پیشگوئی میں



یہ بیان کیا تھا کہ فریقین میں سے جو شخص اپنے عقیدہ کی رو سے جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا سو اہتقم مجھ سے پہلے مر گیا۔“ کیا ہی احمقوں کی آنکھوں میں مٹی کا سرمہ ڈالا ہے۔ مرزاجی اس بات کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ ان لوگوں کی جیب کترنے میں آپ کو کمال ہے۔ الہامات مرزا ص ۳۹۔

## باب ۴۱ چہل و یکم

### عبداللہ آتقم کا جلوس

میں دکھاتا تمہیں تاثیر مگر ہاتھ مرے

ضعف کے ہاتھ سے کب وقت دعا اٹھتے ہیں

اب چلیں لاہور کی بھی سیر کریں دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔

ایک مختصر اور چھوٹا سا کمرہ شاہجہانی عمارت کا یادگار پرانی روش کا بنا ہوا نہایت سادگی کے ساتھ آراستہ کیا ہوا الماریوں کی کتابوں سے سجی ہوئی ایک درمی کافرش اس پر سفید چاندنی چھٹی ہوئی۔ ایک طرف محلی قالین اس پر ایک جانماز چھٹی ہوئی اس کے اوپر مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب رونق افروز ہیں اور ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے علماء و فضلا اور طلبہ اور عمدہ شہر کا مجمع ہے۔ تمام کمرہ نقاد اور متقی مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ بحکم ع ”جائے تک است و مرد ماں بسیار۔“ قدم رکھنے کو جگہ نہیں ملتی۔ مولانا صاحب کے روبرو اشتہارات اور اخبارات کا ڈھیر لگا ہوا ہے بعض بعض تو ابھی کھلے بھی نہیں اسی ڈاک میں آئے ہیں اہل مجلس کے ہاتھ بھی اشتہار یا اخبار سے خالی نہیں۔

سب خاموش سکتہ کے عالم میں سرگرمیاں مراقبوں کی بیعت میں بیٹھے ہیں محفل کیا شیر خورشیاں ہے۔ ہر ایک سر اٹھا کر مولانا صاحب کی طرف دیکھتا ہے پھر بدستور مراقب ہو جاتا ہے۔ چندے یہی عالم سکوت رہا۔ آخر مولانا صاحب نے اس طلسم سکوت کو توڑا۔

مولانا صاحب۔ ۶، ۵ ستمبر تو گزر گئی آپ لوگ ریلوے اسٹیشن پر گئے ہوں گے مسز عبد اللہ آتقم فیروز پور سے آتے ہوئے گزرے تھے اور کچھ دیر ریل یہاں ٹھہرتی تھی۔

۱..... میں اس وقت اسٹیشن پر موجود تھا جب فیروز پور سے گاڑی آئی تھی جس میں مسز عبد اللہ آتقم اور ڈاکٹر کلارک صاحب تھے۔

۲..... میں بھی گیا تھا بڑا ہجوم تھا عیسائی تو عموماً لاہور کے کیا امرتسر گوجرانوالہ وغیرہ امصار قرب و جوار کے موجود تھے۔ قس علی ہذا آریہ بھی موجود تھے اور ہندو مسلمان بھی موجود تھے غرض ایک بڑا ہڈ رونق میلہ تھا۔ عیسائیوں میں تو عموماً نعرہ شادمانی بلند ہوئے اور قوم کے لوگ اور خصوصاً

مسلمانوں نے بھی اظہار مسرت کیا مسٹر عبداللہ آتھم اور پادری کلا رک صاحب پلیٹ فارم پر ٹہلتے رہے عجب نظارہ تھا۔

مولانا صاحب..... آپ صاحبوں نے چشم خود دیکھا اور اخبارات کا ملاحظہ کیا ہوگا عبداللہ آتھم اب تک زندہ ہے اور قادیانی کی پیشگوئی جھوٹی ہوئی۔ اشاعت السنہ جلد ۱۵ میں ہم نے مفصل اس کا حال لکھ کر اس شخص کے آلہ یا حربہ کا گلٹ یا ملمعہ کھول دیا ہے فقط فقرہ بازی ہے اور کچھ نہیں اگر کوئی پیشگوئی اتفاقیہ صحیح بھی ہو جائے تو وہ کیونکر معجزہ ہو سکتی ہے عرب کے کاہن، نجومی، جنری، رملی، جوتی، طبعی فلاسفر، سائنٹفک وغیرہ وغیرہ۔ قیافہ شناس، انکل باز، بھنگڑ، پھلکو، اور پو پو بھی کہا کرتے ہیں جو بعض اوقات سچی نکلتی ہیں معہذا وہ نبی مرسل محدث ملہم نہیں کہلاتے اور یہ بھی ثابت اور مبرہن کر دیا کہ پیشگوئی فی نفسہ و بانفرادہ اسلام میں کچھ وقعت و حقیقت نہیں رکھتی جب تک کہ پیشگوئی کرنے والے میں حسن اعتقادی، کریم الاخلاقی، مدت العمری۔ راستبازی، رحمہ لی۔ بے غرضی۔ عفت عدالت وغیرہ اوصاف حمیدہ پائے نہ جاتے ہوں۔ جن تین ہزار پیشگویوں کو اپنے دعوے اور منجانب اللہ ہونے کی تائید و تصدیق میں یہ پیش کرتا ہے ان میں سے ایک بھی صادق اور منجانب اللہ ثابت نہیں اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس کی پیشگوئی محض دروغ گوئی۔ چالاکی، فقرہ بندی۔ دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ درگتھ، از انجملہ اس کی پیشگوئی کے متعلق موت خسر فرضی مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری پر جلد ۱۵ میں اسی (۸۰) سوالات جرح وارد کر کے یہ ثابت کیا کہ اسی قسم کی اس کی اور پیشگوئیاں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی سچی نکل آئے تو وہ منجانب اللہ نہیں ہو سکتی دوسری پیشگوئی موت مسٹر عبداللہ آتھم کے متعلق مدلل طور سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ پیشگوئی نہیں بلکہ محض لاف زنی ہے۔

پانچ و لیلیں (اندرونی شہادتیں) اس پیشگوئی کے الفاظ سے اخذ کر کے بیان کیں۔ اس بیان سے بہت سے مسلمانوں کو اس کے دام تزویر سے بچ جانا نصیب ہوا۔ لیکن بعض ضعیف الاعتقاد جو اس بات پر جمے ہوئے تھے کہ اگرچہ آج تک قادیانی کی کوئی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی مگر حال میں جو اس نے مسٹر عبداللہ آتھم کے پندرہ مہینے میں مرجانے کی پیشگوئی کی اور اس کے عدم پر اپنے لیے سخت سزا مانی ہوئی ہے اس کا انتظار کرنا ضروری ہے اس میں وہ جھوٹا نکلتا تب اس کو ضرور دجال کذاب سمجھا جائے گا۔

ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں بھی اس کو جھوٹا کیا۔ اس کی میعاد ۳ ستمبر ۱۸۹۳ء کو گزر گئی اور آتھم کو زندہ رکھا..... اب گھر گھر قادیانی کے دروغ ظاہر ہونے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں دور و نزدیک سے مبارکباد کی آوازیں و پیغام آتے ہیں اکثر نامی شہروں کے گلے

کوچوں میں اس مضمون کے اشتہار و اخبار شائع ہو رہے ہیں اور مسلمان خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام پر بڑا فضل کیا ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان اگر یہ پیشگوئی صحیح ہو جاتی تو قادیانی کو ولی اور ملہم سمجھ کر اس کے دام تزدور میں پھنس جاتے، طرفہ یہ کہ اہل اسلام کی اس خوشی میں آریہ ہندو، سکھ وغیرہ اشخاص مذاہب غیر بھی شریک ہیں۔ گوان سب کے خوش ہونے کی وجوہات و اسباب مختلف ہیں مسلمانوں کی خوشی کی وجہ تو اور پرانھی بیان ہو چکی ہے۔

عیسائی اس لیے خوش ہیں کہ اس پیشگوئی میں خاص کر وہی مخاطب تھے۔ ہر چند اس پیشگوئی کے وقوع صدق کی صورت میں وہ کسی الزام قادیانی کے مورد نہ ہو سکتے چنانچہ (اشہد انہ ج ۱۵ ص ۲۳۸) سنہ گزشتہ میں بیان ہو چکا ہے مگر اس کے جھوٹے نکلنے کی حالت میں وہ قادیانی کو شرمندہ کرنے کے حق دار ہو گئے ہیں اور اب وہ اس کو شرمندہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئیے جناب وعدہ وفا کیجیے اور ہمیں قدرت و اختیار دیجیے کہ ہم آپ کے چہرہ مبارک کو کالا کریں مگر ڈاڑھی سرخ ہی رہے گی۔

اور گلوئے اقدس میں رسی ڈالیں۔ پھر جوتیوں کی مالا آراستہ کر کے بٹالہ، لاہور، سیالکوٹ، امرتسر خصوصاً جنڈیالہ اور نیز دیگر مشہور و معروف ہندوستان کے شہروں کی سیر کرائیں۔ جب آپ پیدل چلنے سے تھک جائیں تو آپ کو اسی فارسی گدھے پر جو آپ کی دمشق مسجد کے زیر سایہ ہر وقت موجود رہتا ہے سوار کرائیں گے۔

نیز آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے مقرب فرشتوں کو بھی اپنے ہمراہ رکھیں۔ لیکن آپ کو اپنے اصلی رنگ و روپ میں رہنا ہوگا۔ تاکہ آپ کا نور دین بوجہ احسن ظاہر و آشکار ہوئے وغیرہ۔

مگر عیسائیوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے قادیانی پر فتح یابی کو اسلام پر فتح یابی بنایا اور اس کے جھوٹا ہونے سے مسلمانوں کو جھوٹا کرنا چاہا۔ حالانکہ وہ اشتہار ڈاکٹر ہنری مارٹن کلاک رک مطبوعہ اختر پریس امرتسر و ضمیمہ نور افشاں ۱۲ مئی ۱۸۹۳ء میں قادیانی کو جماعت مسلمانوں میں سے خارج اور ان کے اتفاق سے کافر تسلیم کر چکے ہیں..... ان نا شکر عیسائیوں نے اس نا شکر ہی پر یہ زیادتی بھی کی ہے کہ اسلام کے ہادی اور رہنما کی عالی جناب میں کسی قدر گستاخی کی ہے مگر ان کو اس کی سزا ہمارے جوان اہل اسلام ڈاکٹر حکیم غلام رسول صاحب امرتسری و فشی مولوی سہد اللہ لدھیانوی و مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری۔ میاں امام الدین صاحب لاہور وغیرہ صاحبان نے کافی دیدی ہے۔

وغیرہ وغیرہ بڑا طول طویل بیان فرمایا پھر اشتہاروں اور اخباروں کی رائے کا اظہار ہونے لگا۔ پہلے اشتہار پڑھے گئے۔

(مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری) مرزا قادیانی اور آتھم کی لڑائی میں اسلام کی صداقت اِنَّا نَحْنُ اِنَّمَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ آج ہم اس آیت کی تصدیق پاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دین اسلام کی کیسی تائید کرتا ہے جو لوگ اس دین کی آڑ میں ہو کر اس دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں چنانچہ مرزا قادیانی کے ساتھ یہی معلوم ہوا۔ کہ تمام مخلوق کی نظروں میں ذلیل اور رسوا ہوا کہ آتھم امرتسری باوجود پیرانہ سالی کے پندرہ مہینے کی مدت میں نہیں مرے نہ صرف آتھم ہی بلکہ ایک اور صاحب بھی (جن کی موت کے بعد مرزا صاحب نے ان کی بیوی سے نکاح کرنا تھا جس کی مدت حسب تحریر شہادت القرآن مصنف مرزا صاحب ۱۳۰ اگست ۹۳ء کو پوری ہو گئی) نہیں مرے۔

تھے دو گھڑی سے شیخ جی شیخی بگھارتے

وہ ساری اس کی شیخی جھڑی دو گھڑی کے بعد

کیا آج کوئی نہیں جو مرزا کا ساتھ دے۔ حکیم نور الدین کہاں ہیں۔ احسن صاحب کہاں ہیں پنجاب گزٹ کے ایڈیٹر کہاں ہیں۔ نوجوان ریاض ہند کے شیخ جو مارے خوشی کے پھولے نہ ساتے تھے کہاں ہیں۔ اور سیالکوٹ کے لیکچرار معذور کہاں ہیں جو مسلمانوں کو ابوسفیان کا نقشہ بتلاتے تھے کہاں ہیں۔ خوبصورت صاحب لاہوری کہاں ہیں۔ سچ ہے اور بالکل سچ ہے۔ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْاَقَاوِیْلِ۔ لَا خِذْنَا مِنْهُ بِالْمِیْنِ مگر افسوس صد افسوس عیسائیوں کے حال پر کہ انہوں نے مسلمانوں کا اس میں ناحق دل دکھایا اور اپنی عادت قدیمہ کے موافق بدزبانی سے کام لیا۔

(شیخ محمد سعد اللہ صاحب) مسیح کا ذب خاک دانی مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشگوئی (زلزل) جموئی ہونے کے سبب پادری صاحبان کا اہل اسلام پر طعنے کرنا بالکل غلط ہے خود انہی کی تحریرات اور مسلمات کے برخلاف۔

ایک شخص مسی مرزا غلام احمد قادیانی نے کئی سال سے ایسے ایسے دعاوی اور عقائد پھیلائے ہیں جن کی وجہ سے سب علماء اسلام نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔

چند لوگ جو بوجہ مختلف اس کے دام تروی میں آچکے تھے اسی طرح پھنسے رہے۔ ذیقعد ۱۳۱۱ھ میں بن بلائے مسلمانوں کا وکیل بن کر پادریوں کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ پادری کلارک صاحب پریزیڈنٹ مناظرہ نے اہل چند یا نہ بانیان مناظرہ کو لکھا بھی کہ تم ایک ایسے

بزرگ کو بحث کے لیے پیش کرتے ہو جس کو ایک محمدی شخص بھی تصور کرنا مشکل ہے۔ علمائے اسلام نے اس کو اسلام سے خارج کر رکھا ہے لیکن یہ بن بلا یا مہمان ان احمق مسلمانوں کے سرخی چڑھ گیا اور جلسہ مباحثہ میں مان نہ مان میں تیرا مہمان اپنی خود کلامی و خود غرضی سے جو اس کے خمیر میں ہے یہاں بھی وہی اس کے مد نظر تھی کہ کوئی ایسی تدبیر کروں جس سے میری مسیحیت سرسبز ہو۔ مولوی رحمت اللہ صاحب اور پادری فنڈز صاحب کے مباحثہ میں کلی مدارج طے ہو چکے تھے نئی بات یہ تھی کہ کسی طرح مسیحیت کا سکہ جیسے چنانچہ فریق ثانی کا مناظر عبد اللہ آتھم جو ایک سن رسیدہ پیشین یافتہ آدمی تھا ایام مناظرہ میں اس کو پیار دیکھ کر کذاب قادیانی نے یہ زٹل ہانک دی کہ پندرہ (۱۵) مہینے تک یہ شخص مر جائے گا۔ اور اس کے بعد کئی کتابوں میں اس کی تشہیر خوب واضح طور پر کر دی۔ اور اس کے نہ مرنے کی صورت میں اپنے لیے سخت سزائیں جو مخالف چاہئیں منظور کیں سیرے گلے میں رسہ ڈالا جائے وغیرہ وغیرہ۔

ایک ضعیف العمر آدمی کو ایسی دھمکیاں سخت برا اثر پہنچاتی ہیں۔

ابھر مسلمانوں سے مبلہ کی ٹھہرائی کہ مجھے عسلی و مہدی ونبی و رسول مہش کیوں نہیں مانتے۔ اہل اسلام میں بھی ایک مرد صالح عبدالحق (عاقاہ اللہ) غزنوی مقیم امرتسر وہیں اٹھا اور جناب باری میں قادیانی کے مقابل آکر اس عجز و نیاز سے جھوٹے پر لغت کی کہ اہل بصیرت کی نظر میں جھوٹے پر اس کا اثر اسی وقت نمایاں تھا اور اس کی قبولیت کے آثار ایک جہان دیکھ رہا ہے۔ قادیانی کو یہ روز بد ایسی سخت ذلت ساتھ لے کر پیش آ گیا جو اس نے اپنی لعنت میں جھوٹے کے لیے اپنے منہ سے کہی تھی۔

خیر آج ۶ تاریخ کا دن ہے اور آتھم مذکور چنگا بھلا زندہ موجود ہے۔

کوئی شخص بن آئی نہیں مر سکتا خواہ اپنے ہاتھ سے اپنے مرنے کی کوشش کرے پھر کسی کی تدابیر علمی، عملی، بحر، مسمریزم و عمل الترب وغیرہ سے کیا ہو سکتا ہے۔

لہذا نہ کے پرانے سستی پادریوں نے یہاں کے مرزائی نئے مسیحوں کو خوب شرمندہ کیا۔ اور ان کی روزمرہ کی لٹرائیوں پر خوب فضیحت کی کہ وہ منہ چھپا کر اپنے اندر جا گھسے۔ یہ تو ان کو حق تھا۔ جو کچھ چاہتے کرتے۔ کیونکہ قادیانی اپنے لیے سب سزائیں منظور کر چکا ہے اس کے چیلے بھی اس کے مستحق ہیں۔

پرانے مسیحوں نے بہت کچھ بے جا الفاظ بحق اسلام بھی اسی خوشی میں آ کر لکھ مارے۔

جو ان کے بے جا تعصب پر دلالت کرتے ہیں۔

اس مباحثہ میں کوئی مسلمان جس کو محمدی بمعنی امت محمد رسول کہا جائے۔ عیسائیوں کے مقابل نہ تھا۔ تماشائی ہونا اور بات ہے۔

یوں تو ہندو بھی شریک ہوں گے۔ افسوس ہے کہ قادیانی کا خالہ زاد سالہ جو تھوڑے دنوں سے پرانے مسیحیوں میں ملا ہے۔ اس جھگڑے کا نام مسیحیوں اور محمدیوں کا جنگ مقدس رکھے۔ یہ خود نیا مسیحی اور مسلمانوں کا فتویٰ اپنے نئے مسیح کے حق میں دیکھ چکا تھا۔ اور سبجہ میں نہیں آتا۔ کہ اس نے گلارک صاحب کا اشتہار تو دیکھا ہوگا جو اہل جنتیالہ کے لیے مشتہر ہو چکا ہے۔ وغیرہ وغیرہ (عام مسلمانان لدھیانہ)

### فتح اسلام شکست قادیانی ناکام

ارے او بیوفا غدار مرزا	ارے پر فتنہ و مکار مرزا
سج کاذب مہدی کذاب	سراپا جھوٹ کی آثار مرزا
ترا چھوٹا سامنہ اتنی بڑی بات	نہ ہو کیونکر ذلیل و خوار مرزا
پڑے گی ہر طرف سے تجھ پہ لعنت	بس اب ہر وقت رہ تیار مرزا
ذرا خوش ہو کے گھر جا کر دکھانا	گلے میں لعنتوں کا ہار مرزا
خفا مت ہو کہ عبدالحق سے تو نے	طلب کی تھی یہی پھٹکار مرزا
نشانہ کیسا اس تیر دعا کا	ہوا تیرے جگر کے پار مرزا
تجھے روتے ہی گزرے پندرہ ماہ	ہوئی حالت یہ تیری زار مرزا
رگ جان کاٹنے آیا تھا تیری	ستمبر کی چٹھی کا تار مرزا
دلے پھر بھی نہ مرنے پایا آہتم	وہ بھی پہلے سے تھے تیار مرزا
کہاں ہے سیالکوٹی واحد العین	تیرا مداح کج رفتار مرزا
کہاں ہے تیرا نورالدین و احسن	فصح و حامد و طرار مرزا
مصیبت ہر طرف سے تجھ پہ آئی	ابھی ہے وقت استغفار مرزا

مسز عبداللہ آہتم کے ایک خط کا خلاصہ مندرجہ اخبار دفا دار لاہور۔ ۱۵ ستمبر ۱۸۹۳ء

میں خدا کے فضل سے تندرست ہوں..... میری نسبت اور دیگر صاحبان کی موت کی

پیشین گوئی جو ہے۔ اسے شروع کر کے آج تک جو کچھ گزری۔ آپ کو معلوم ہے۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آہتم نے دل میں اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس لیے نہیں مرا۔ خیران کو اختیار ہے جو چاہیں۔ سو لکھیں۔ جب انہوں نے میرے مرنے کی بابت جو چاہا سو کیا اور ان کو خدا نے جھوٹا

کیا۔ اب بھی ان کو اختیار ہے۔ جو چاہیں تاویل کریں۔ کون کسی کو روک سکتا ہے۔ میں دل سے اور ظاہر پہلے بھی عیسائی تھا۔ اب بھی عیسائی ہوں۔ اور خدا کا شکر کرتا ہوں۔ کہ جب اس امرت سر میں جلسہ عیسائی بھائیوں میں شامل ہونے کو آیا تھا۔ تو وہاں بعض اشخاص نے تو ظاہر کر دیا تھا۔ کہ آتھم مر گیا ہے۔ نہیں آئے گا۔ اور جب مجھے ریلوے پلیٹ فارم پر دیکھا گیا۔ تو کہنے لگے۔ انگریز بڑے حکمت والے ہیں۔ ریلوے کے آدمی میں کل لگا دی۔ ایسی ایسی باتوں کا جواب صرف خاموشی ہے۔ میں راضی خوشی تندرست ہوں۔

اور ویسے ایک دن مرنا تو ضرور ہے زندگی موت صرف رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اب میری عمر ۶۸ برس سے زیادہ ہے۔

نور انشاں لدھیانہ ۱۴ ستمبر ۱۸۹۴ء

اس مقام پر اس بات کا ذکر کرنا خالی از لطف نہ ہوگا کہ امرتسر میں ڈپٹی صاحب (عبد اللہ آتھم) کے قتل کرنے کے لیے تین حملہ کیے گئے۔ چونکہ ان کا امرتسر میں رہنا باعث اندیشہ تھا۔ اس لیے ڈپٹی صاحب ۱۳۰ اپریل کو امرتسر سے جنڈیالہ میں تشریف لے گئے اور وہاں سے لدھیانہ کو چلے گئے۔ جہاں ایک شخص نے برہمچھی سے ڈپٹی صاحب کا کام تمام کرنا چاہتا تھا۔ لدھیانہ میں کچھ دن رہ کر ڈپٹی صاحب فیروز پور میں رونق افروز ہوئے۔ اس جگہ ان پر چار حملے ہوئے۔ بندوق کی بھی دو دفعہ گولی چلی۔ ایک دفعہ ایک شخص گنڈا سائے ہوئے نظر آیا۔ دو دفعہ تین تین آدمی رات کے وقت قریب کے کھیتوں میں چھپے ہوئے معلوم ہوئے۔ جو پولیس کے تعاقب کرنے پر مفروض ہو گئے اور انہی میں سے ایک دفعہ رات کے وقت تین آدمی کوشھی کا دروازہ توڑ رہے تھے۔ چونکہ ایسے وقت میں زیادہ حفاظت کی ضرورت تھی۔ (جو پیشگوئی کا آخری روز تھا) اس لیے ڈاکٹر کلارک صاحب ۵ ستمبر ۱۸۹۴ء کو امرتسر سے فیروز پور تشریف لے گئے رات کے وقت حسب معمول پہرہ رہا۔

مسٹر عبد اللہ آتھم کا امرتسر کا آنا

(مسٹر آتھم) میرا خیال تھا کہ شاید میں مارا ہی جاؤں۔ لیکن اس پر بھی کلیسا خدا کی کلام کو یاد رکھے۔ جو موسیٰ کی معرفت ہوا۔ کہ اگر تمہارے درمیان جھوٹا نبی آئے اور نشان مقرر کرے اور اس کے کہنے کے بموجب ہو۔ تو خبردار تم اس کے پیچھے نہ جانا کیونکہ خداوند تمہارا تم کو آزماتا ہے۔

اور یہ جو مہینے گزر رہے ہیں۔ اس کی بابت میں نے دو باتیں دیکھیں۔ جن سے میری

تسلی رہی۔ تجھے خداوند روح القدس کا سہارا اور خداوند یسوع مسیح کا خون (یہ کہہ کر اس کے بپے اختیار آنسو نکل پڑے اور جماعت کے آدمی بھی اٹھکبار ہوئے۔)

(مولانا صاحب) قادیانی چونکہ ایسا شیر بہادر دلیر ہے کہ عقل اور حیا دونوں سے اکیلا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس نے عبداللہ آسٹم کی اس بات کے کہنے کو کہ میں مارا جاتا۔ اور اس پر رو دینے کو اپنے دعوے کی دلیل بنا لیا۔ اور یہ مشتہر کیا۔ کہ عبداللہ آسٹم نے میری پیشگوئی سے ڈر کر یہ کلمہ بولا۔ اور اس پر رو پڑا اس کے رو جواب اور نیز قادیانی کی درخواست قسم وغیرہ کے جواب میں مسٹر عبد اللہ آسٹم کو یہ مشتہر کرنا پڑا۔ کہ میں تیری پیشگوئی کی عظمت سے نہیں ڈرا۔ بلکہ تیرے ناجائز وسائل و تدابیر سے ڈرنا پڑا۔ اور قسم کھانا اور مال کالا لچ کرنا میرے مذہب میں منع ہے۔

خط مسٹر عبداللہ آسٹم

بخدمت مکرم اڈیٹر صاحب نور افشاں! بعد نیاز تصدیق یہ ہے کہ فتح اسلام اور مختصر تقریر مرزا صاحب قادیانی کا جواب میری طرف سے یہ ہے۔ کہ میں نے کچھ بھی عظمت اسلام سے جناب کی نبوت اولیٰ سے نجات کے لیے مدد نہیں لی۔ ہاں میں آپ کے خونی فرشتوں سے چھپتا رہا ہوں۔ خصوصاً چار مہینے آپ کی ۱۵ ماہ کی مدت میں۔ نہ اسلام کی عظمت الہامی اور نہ اسلامی توحید کی تعظیم سے اور نہ تنبیہ میں کچھ تزلزل ہو کر۔ اہیت الوہیت میرے نزدیک صحیح ہے جو بوقت مباحث میں نے شرح کی تھی۔ باقی رہی یہ بات کہ میں نے پہلے جناب کے ساتھ کوئی قسم یا شرط باندھی تھی۔ اور نہ آئندہ باندھوں گا۔ اور نہ آپ کے رویوں کا مجھے لالچ ہے۔ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ بے ہودگی کی ہے اور جو آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ شامل نہیں۔ یہ بھی جناب مرزا صاحب کو معلوم ہو کہ قریب ستر برس کے تو عمر اب میری ہے۔ پھر آئندہ سال بڑھانا جناب کے کیا معنی رکھتا ہے۔ کیا جناب کے خونی فرشتوں کو پہلے موقع میرے مارنے کا نہیں ملا۔ جو ایک سال مہلت اور طلب ہوتی ہے۔ مرزا صاحب! سچے خدا سے ڈرو۔ میں تو موت کے لیے تیار ہی بیٹھا ہوں۔ مگر آپ کو بھی مرنا ہے۔ میں آپ سے بدلہ کچھ نہیں چاہتا۔ مگر خدا سے آپ کے لیے خیر و عافیت کی دعا مانگتا ہوں۔ والسلام

عبداللہ آسٹم مقام فیروز پور ۱۷ اکتوبر ۱۸۹۳ء اشاعت السنہ

نمبر ۸۵۱ جلد ۱۶ ص ۱۱۲ ۱۱۳

ڈپٹی آسٹم صاحب کا خط آمدہ ۲۷ اکتوبر ۱۸۹۳ء

جناب محسن بندہ جناب ملامحہ بخش صاحب مالک اخبار جمعہ رٹلی لاہور۔ تسلیم آپ



کے خط کے جواب میں قلمی ہے۔ کہ میں اپنے ایمان مسیحی کی بابت مفصل اخبار نور افشاں وغیرہ میں اشتہار دے چکا ہوں۔ کہ میں سچے دل سے عیسائی جس طرح تھا اب تک اپنے ایمان پر قائم ہوں۔ اور ہرگز اسلام کی طرف ذرا بھی مائل نہیں ہوا نہ ظاہر، نہ باطن، تو اب فرمائیے۔ کہ اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں۔ جو آدمی کچھ بھی عقل رکھتا ہو۔ اس سے صاف جان سکتا ہے۔ باقی رہا مرزا صاحب کا شرط لگانا کہ آٹھم قسم کھا کر یہ بات کہہ دے۔ سو صاحب من! میرے مذہب میں تو قسم کھانا منع ہے۔ مٹی کی انجیل میں صاف لکھا ہے کہ تم ہرگز قسم مت کھاؤ۔ ہاں کی ہاں اور نہ کی نہ ہونی چاہیے۔

اور ہزار دو ہزار کی شرط لگانا تو ایک طرح کی جوے بازی ہے۔ میرے خیال اور میرے مذہب میں اس طرح کا لالچ بھی منع ہے۔ مرزا صاحب کی مرضی جو چاہیں کہتے جائیں۔ میں تو پہلے سے یہ دعانا لگتا تھا۔ اب بھی یہی دعانا لگتا ہوں کہ یا خدا تعالیٰ تو مرزا صاحب قادیانی پر رحم کر اور اس کو ہدایت کر، راہ راست پر کروے۔ اور اس کو صحت و تندرستی جسمی اور دماغی بخشے آمین۔ اس سے زیادہ سب کچھ فضول ہے۔ اور میں ایک ضعیف العمر آدمی قریب متر سال کی عمر کا ہوں۔ آخر کہاں تک جیوں گا۔ کون جانتا ہے کہ کب خدا تعالیٰ بلا لے۔ زیادہ نیاز آپ کا مشکور  
عبداللہ آٹھم پنشنر اسٹرا اسٹنٹ از مقام فیروز پور۔

### اشتہار

مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں محمدی ہوں۔ اور علماء اسلام کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں۔ کفر کا فتویٰ لگا کر اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب مجمع عام میں ایک لقمہ خنزیر کے گوشت کا سب کے سامنے کھا کر کہیں۔ کہ میں مسلمان ہوں تو ہم یقین کریں گے کہ علماء اسلام کا فتویٰ غلط اور یہ درحقیقت مسلمان ہیں۔

اور اگر مرزا صاحب یہ نہیں کر سکتے تو وہ مسٹر آٹھم صاحب کو بھی قسم کھانے سے معذور سمجھیں گے۔ کیونکہ جیسے قرآن کے حکم سے وہ سور کا گوشت نہیں کھا سکتے اسی طرح آٹھم صاحب انجیل کے حکم سے قسم نہیں کھا سکتے۔ جب تک کہ کسی حاکم سے قسم پر مجبور نہ کرائے جائیں۔ عیسائی کو قسم کھانا جائز نہیں ہے اگر آٹھم صاحب قسم کھاتے تو ثابت کر دیتے۔ کہ میرا عمل انجیل پر نہیں ہے۔ پس مرزا صاحب کو لازم ہے کہ ہماری اس دعوت کو قبول کر کے اس شرط کو بوجب اپنے تئیں محمدی ثابت کریں۔ ورنہ بار بار قسم کے اشتہار آٹھم صاحب کے نام پر دینے بند کر دیں۔

اور مرزا صاحب گویا الہام سے یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ آٹھم صاحب ہرگز قسم نہ کھائیں

گے۔ سو معلوم ہو کہ اگرچہ مجھے الہام نہیں ہوتا۔ اور جبرائیل ہمارے پاس نہیں آتا۔ تاہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب ہرگز خوک کا گوشت کھا کر اپنے تئیں مسلمان ثابت نہ کر سکیں گے۔ الراقم ڈاکٹر ایچ ایم کلارک ایم ڈی میڈیکل مشنر۔ از اشاعت السنہ ۱۹۲۱۵ نمبر ۸۲۱ جلد ۱۶۔

## باب ۴۲ چہل و دو

### پیش گوئی کی بابت

اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا  
لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

ادھر صبح ہوئی اور سورج کی کرنوں نے اپنا سنہری عکس دیواروں کی چوٹیوں اور درختوں کے پتوں پر ڈالا۔ اور روشنی نے اپنا قبضہ کیا۔ ادھر حضرت اقدس امام ہمام صبح وقت مہدی دوران عشر تکدہ خاص میں برآمد ہو کر دربار عام میں رونق افروز ہوئے۔ مصاحب با توفیق و رفقاء طریق اور خوشامدی لنگر کے کھڑے کھانے والے مرید پیروں کو بے پر کے اڑانے والے پہلے سے منتظر چشم براہ حاضر تھے۔ سلام و بجزا ادا ہوا۔ نعت و مناقب نظم و نثر حضرت اقدس (مرزا صاحب) کی شان میں پڑھی گئی۔ اپنے اور بیگانے اپنے اپنے پایہ اور ٹھکانے سے جاگزیں ہوئے۔ دربار عام منعقد ہوا۔

بات بھی کچھ کی تو پہلے ذکر دشمن کا کیا

خدا جانے کیا بات تھی کہ مرزا صاحب نے پہلے ذکر رقیب ہی چھیڑا۔

(مرزا صاحب) بہت لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے داماد سلطان محمد ساکن پٹی کی نسبت جو پیشگوئی تھی۔ اس کی میعاد پوری ہوگئی اور ابھی پیشگوئی کے پورے ہونے کا نام و نشان بھی نہیں۔ اس لیے ان کو اصل حقیقت پر مطلع کیا جاتا ہے۔

اس پیشگوئی کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ مرزا احمد بیگ کی وفات معہ اس کی دوسری مصیبتوں کے اور دوسرا حصہ اس کے داماد کی وفات کی نسبت تھا۔ یہ دونوں حصہ ایک ہی پیشگوئی اور ایک الہام میں داخل تھے۔ چنانچہ مرزا احمد بیگ میعاد کے اندر فوت ہو گیا۔ اور جیسا کہ پیشگوئی کا منشاء تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پیشگوئی کے بعد اپنے بیٹے کی وفات اور دو ہمشیروں کی وفات اور کئی قسم کے جرح اور تکالیف مالی اور ناکامیوں دیکھیں اور اس حصہ پیشگوئی کی نسبت میاں شیخ بالائی صاحب نے اپنے اشاعت السنہ میں لکھا۔ کہ اگرچہ یہ پیشگوئی تو پوری ہوگی۔ مگر الہام سے

نہیں۔ بلکہ علم ربیل یا نجوم وغیرہ کے ذریعہ سے کی گئی۔ غرض اس بات سے بڑے دشمن بھی انکار نہ کر سکے۔ کہ اس پیشگوئی کا نصف حصہ بڑی صفائی سے پورا ہو گیا۔

(مجموعہ اشتہارات جدید ایڈیشن ج اول ص ۳۹۶، اشتہار نمبر ۱۲۳)

(حاضرین جلسہ) آمنا و صدقنا۔ اس میں کیا شک ہے؟ ہر کہ شک آرد کا فرگرد۔

(غیر) حضرت جی! مرزا احمد بیگ کا مرنا تو عجائبات سے نہیں کہ ایک امر طبعی ہے۔ اور

ہر ایک ذی روح کے واسطے بحکم کل من علیہا فان ایک دن آتا ہے۔ گفتگو تو یہ ہے کہ احمد بیگ کی وفات آپ کی پیشگوئی کا نتیجہ نہیں یہ آپ کا نرالا ڈھکوسلا ہے۔ مولانا محمد حسین صاحب بنا لوی نے اپنی اشاعت النہ میں اس پیشگوئی کے کسی حصہ کے پورا ہونے کو تسلیم نہیں کیا۔ بلکہ نمبر اول جلد ۱۵ ص ۲۵ میں بسوال سوم مولانا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اس اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء کو جس میں آپ نے یہ تینوں پیشگوئیاں درج کی ہیں۔ آپ نے پبلک میں شائع کیا تھا۔ اور اس کا کیا ثبوت آپ دے سکتے ہیں۔ کہ اس کو چھاپ کر اپنے پاس رکھ چھوڑا تھا۔ اور پرائیویٹ طور پر خاص خاص آدمیوں میں شائع کیا تھا۔ جب کہ آپ کے بعض اشتہارات کی نسبت یہ معلوم ہو چکا ہے۔

اس سوال سے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ اشتہار جس میں یہ پیشگوئی درج ہے۔ احمد بیگ کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ اس صورت میں آپ ہی فرمادیں۔ کہ آپ کی پیشگوئی کی بنیاد اور الہام کی وقعت کیا ہے۔ جب کہ وہ بعد وقوع ظاہر کیا گیا۔ دوسرے حصہ سلطان محمد داماد احمد بیگ یا رقیب خود کی بابت جو پیشگوئی ہے۔ خواہ الہام سے اور کچھ اور۔ حصہ اول مرقوم جناب کی نسبت یہ کسی کو سوال ہے اور یہ اس کو نتیجہ آپ کی پیشگوئی کا کوئی شخص سمجھتا ہے۔ جب تک کہ آپ ثابت نہ کر دیں۔ کہ احمد بیگ کی وفات کی نسبت پیشگوئی اس کی وفات سے پہلے پبلک میں شائع ہو چکی ہے۔ اب آپ سے ان کے نکاح آسمانی اور آپ کی محبوبہ و مطلوبہ کے زواج ثانی کی وفات کی بابت سوال ہے۔ جواب تک پوری نہیں ہوئی۔

(مرزا صاحب) اس شخص کو کہہ دو۔ کہ خاموش بیٹھا ہماری تقریر سنے جائے اور کچھ گفتگو

دخل در معقولات نہ کرے ورنہ محفل سے (پادبست و گری دست بدست و گری) نکلوائے جاؤ گے۔

(حوارین) آپ سنتے نہیں کہ حضور کیا فرماتے ہیں خاموش۔ دم در کش۔ ورنہ ہم کو

مجبوراً تعمیل ارشاد میں آپ سے نہ بنا پڑے۔

(غیر) ہم کو کیا غرض۔ ہم نے ایک حق بات کہی تھی۔ اگر یہاں سچ بولنا حرام اور گناہ

کبیرہ ہے۔ اور اس پر جرم میں گلے کھتے ہیں۔ تو لیجئے ہمارا سلام۔

(مرزا صاحب) باقی رہا دوسرا حصہ جو احمد بیگ کے داماد کی وفات ہے۔ یہ میعاد مقررہ میں پورا نہ ہوا۔ بلکہ میعاد کے بعد پورا ہوگا۔ تو اس پر وہی لوگ اعتراض کریں گے۔ جن کو خدا تعالیٰ کی ان سنتوں اور قانون سے بے خبری ہے جو اس کی پاک کتاب میں پائے جاتے ہیں۔ ہم کلی بار لکھ چکے ہیں۔ کہ جو تحویف اور انداز کی پیشگوئیاں جس قدر ہوتی ہیں۔ جن کے ذریعے سے ایک بے باک قوم کو سزا دینا منظور ہوتا ہے اور ان کی تاریخیں اور میعادیں تقدیر مبرم کی طرح نہیں ہوتیں۔ بلکہ تقدیر مطلق کی طرز سے ہوتی ہیں اور اگر وہ لوگ بزدل عذاب سے پہلے توبہ اور استغفار اور رجوع الی الحق سے کسی قدر اپنی شوخیوں اور چالاکیوں اور تکبروں کی اصلاح کریں۔ تو وہ عذاب کسی ایسے وقت پر جا پڑتا ہے۔ کہ جب وہ لوگ اپنی پہلی عادت کی طرف پھر رجوع کر لیں یہی سنت اللہ ہے۔ کہ قرآن کریم اور دوسری انہی کتابوں سے ثابت ہوتی ہے اور چونکہ یہ نسبت مستمرہ اور عادت قدیمہ حضرت پاری عزوجل کی ہے جس کا ذکر..... اب بعد اس تمہید کے جاننا چاہیے۔ کہ یہ پیشگوئی بھی بطور انداز اور تحویف کے تھی اور موت کا بطور عذاب کے وعدہ تھا۔

پس خدا تعالیٰ نے تمام طہ گروہ کے حق میں مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ..... كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَتَوَلَّوْا بِهَا يَسْتَهْزِؤْنَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَيُرُدُّهَا إِلَيْكَ لَآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ یعنی ان لوگوں نے ہمارے نشانوں کی تکذیب کی اور ان سے ٹھنٹھا کیا۔ سو خدا ان کے شر دور کرنے کو تیرے لیے کافی ہوگا۔ اور انہیں یہ نشان دکھائے گا۔ کہ احمد بیگ کی لڑکی ایک جگہ بیاہی جائے گی۔ اور خدا اس کو پھر تیری طرف واپس لائے گا۔ یعنی وہ آخر تیرے نکاح میں آئے گی۔ اور خدا سب روکیں درمیان سے اٹھا دے گا خدا کی باتیں ٹل نہیں سکتیں۔ تیرا رب ایسا قادر ہے۔ کہ جس کام کا وہ ارادہ کرے اس کام کو وہ اپنی مشاء کے موافق ضرور پورا کرتا ہے سو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اس قوم کے لیے نشان تھا۔ جو بے باکی اور نافرمانی اور ٹھٹھے میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ فہرہ فسگیفیگہم اللہ کی شرح دوسرے الہاموں سے یہ معلوم ہوئی۔ کہ خدا احمد بیگ کو نکاح سے تین سال کے اندر بلکہ بہت قریب موت دے گا۔ اور اس کے داماد کو اڑھائی سال کے اندر..... احمد بیگ نکاح سے چھ ماہ بعد فوت ہو گیا۔ اور اس نے اس ڈرانے والے الہام کی کیفیت دیکھ لی۔ جو اس کو سنایا گیا تھا۔ اور ایسے ہی اس کے بے دین اقارب کو اس کرنے کا صدمہ کامل طور پر پہنچ گیا۔ لیکن اس کا داماد جو اڑھائی سال کے اندر فوت نہ ہوا تو اس کی یہی وجہ تھی۔ جو اس عبرت انگیز واقعہ کے بعد جو احمد بیگ اس کے خسر کی وفات تھی۔ ایک شدید خوف اور حزن اس کے دل پر وارد ہو گیا۔ وغیرہ وغیرہ..... چنانچہ اس کے بزرگوں کی

طرف سے دو خط ہمیں بھی پہنچے۔ جو ایک حکیم صاحب ہاشمہ لاہور کے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے۔ جن میں انہوں نے اپنی توبہ اور استغفار کا حال لکھا ہے۔ سوان تمام قرآن کو دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا تھا۔ کہ تاریخ وفات سلطان محمد قائم نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ ایسی تاریخیں جو تحریف اور انداز کے نشاںوں میں سے ہوتی ہیں۔ ہمیشہ بطور نقدیر مطلق کے ہوتی ہیں..... جو خوف اور رجوع سے دوسرے وقت پر جا پڑتی ہیں۔ جیسا کہ تمام قرآن اس پر شاہد ہے۔ لیکن نفس اس پیشگوئی کا یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے۔ جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لیے الہام الہی میں یہ فقرہ موجود ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی۔ پس اگر ٹل جائے۔ تو خدا تعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے۔ سوان دنوں کے بعد جب خدا تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو دیکھے گا کہ سخت ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے اس ڈھیل اور مہلت کا قدر نہ کیا۔ جو چند روز تک ان کو دی گئی تھی۔ تو وہ اپنے پاک کلام کی پیشگوئی پوری کرنے کے لیے متوجہ ہوگا۔ اور اسی طرح کرے گا۔ جیسا کہ اس نے فرمایا کہ: میں اس عورت کو اس کے نکاح کے بعد واپس لاؤں گا اور تجھے دوں گا اور میری تقدیر کبھی نہیں بدلے گی۔ اور میرے آگے کوئی بات ان ہونی نہیں۔ اور میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا۔ جو اس حکم کے نفاذ میں مانع ہوں۔ اب اس عظیم الشان پیشگوئی سے ظاہر ہے۔ کہ وہ کیا کیا کرے گا۔ اور کون کون سے قہری عذاب دکھائے گا اور کس کس شخص کو روک کی طرح سمجھ کر اس دنیا سے اٹھائے گا وغیرہ وغیرہ!

(مجموعہ اشہار اساتذہ اولیٰ اشہار نمبر ۲۳ ص ۳۹۶ تا ۳۹۸)

اس کے بعد جو اس سے انکار کرے۔ ان کو صلواتیں سنا کر ایک لمبی چوڑی تقریر فرمائی اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی عبدالباق صاحب اور مولوی رشید احمد صاحب کو مقابلہ پر لپکار کر ایک ڈانٹ بتلائی ہے۔ (از انوار الحق)

معتقدین و خوشامدی..... سبحان اللہ! صلی علیٰ کیا کیا نکات فرمائے ہیں۔ جو دل کے اندر ہے اور ختم اللہ علیٰ قلوبہم کے صدق ہیں۔ وہ کیا خاک سمجھیں گے۔

## باب ۴۳ چہل وسوم

### مولانا محمد حسین بٹالوی کا معرکہ

ہم اپنے ناظرین کو مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب کی مجلس و خطبہ کے کمرہ کی آج پھر میر کراتے ہیں۔ مولانا محمود معہ چند عمائد شہر اور قمبر علماء اور طلبہ معمول کے موافق رونق افروز

ہیں۔ مرزا صاحب قادیانی کا مصنفہ ایک رسالہ انوار الاسلام رو برو پڑا ہے۔ اور اس کے چند اوراق ہاتھ میں ہیں۔ حاضرین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں.....

آنانکہ چشم بر گل تحقیق وا کنند  
از ہرچہ فہم رنگ رنگ تکیر و حیا کنند  
از سختی کہ غیر خموشی علاج نیست  
پر ہرزہ است تکیہ بچون و چرا کنند

قادیانی کی فرضی و خیالی زوجہ مرزا احمد بیگ مرحوم کی دختر نیک اختر کے شوہر ثانی مرزا سلطان محمد بیگ ساکن پٹی علاقہ تصور ضلع لاہور (خدا اس کو زندہ رکھے اور اس کی موت چاہنے والے کے منہ میں خاک ڈالے) کی نسبت قادیانی نے یہ پیشگوئی کی تھی۔ کہ جس تاریخ وہ قادیانی کی زوجہ مذکورہ اپنے نکاح میں لائے گا اس تاریخ سے اڑھائی برس کے عرصے تک وہ فوت ہو جائے گا۔ اور اس کے مرنے کے بعد پھر خدا تعالیٰ اس زوجہ قادیانی کو قادیانی کی طرف واپس لائے گا۔ اصل عبارت یہ ہے جو اس کے اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء سے نقل کی جاتی ہے۔

(مجموعہ اشتہارات ج اول اشتہار نمبر ۳۸ ص ۱۳۳ تا ۱۳۸)

بسم الله الرحمن الرحيم . نحمدہ و نصلی . یا معین برحمتک نستعین

ایک پیشگوئی پیش از وقوع کا اشتہار

پیشگوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا  
قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا  
جھوٹ اور سچ میں قوی فرق وہ پیدا ہوگا  
کوئی پا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا

اخبار نور افشاں ۱۰ مئی ۱۸۸۸ء میں جو..... ایک خط مضمین درخواست نکاح چھاپا گیا ہے۔ اس کو صاحب اخبار نے اپنے پرچہ میں درج کر کے عجب طرح کی زباں درازی کی ہے..... (دو ورق دافع البلاء میں ص ۲۸۱ سے ص ۲۸۲ تک ایڈیٹر نور افشاں کی خبر لی گئی ہے۔ جس نے اس پیشگوئی کو شہوت پرستی قرار دیا تھا)

اب یہ جاننا چاہیے کہ جس خط کو ۱۰ مئی ۱۸۸۸ء کے نور افشاں میں فریق مخالف نے چھپوایا ہے۔ وہ خط محض ربانی اشارہ سے لکھا گیا تھا۔ ایک مدت دراز سے بعض سرگروہ اور قریبی رشتہ دار مکتوب الیہ کے جن کی حقیقی ہمیشہ زادہ کی نسبت درخواست کی گئی تھی نشان آسمانی کی طالب

تھی اور طریقہ اسلام سے انحراف اور عناد رکھتی تھی اور اب بھی رکھتے ہیں چنانچہ اگست ۱۸۸۵ء میں جو چشمہ نور امرتسر میں آپ کی طرف سے اشتہار چھپا تھا۔ یہ درخواست ان کے اس اشتہار میں بھی مندرج ہے۔ ان کو نہ محض مجھ سے بلکہ خدا اور رسول سے دشمنی ہے۔ اور والد اس دختر کا باعث شدت تعلق قرابت ان لوگوں کی رضا جوئی میں مجھ اور ان کے نقش قدم پر دل و جان سے فداء اور اپنے اختیارات سے قاصر و عاجز بلکہ انہیں کا فرمانبردار ہو رہا ہے۔ اور اپنی لڑکیاں انہیں کی لڑکیاں خیال کرتا ہے۔ اور یہ ایسا ہی سمجھتے ہیں اور ہر باب میں اس کی مدارالہام اور بطور نفس ناطقہ کے ان کے لیے ہو رہی ہیں۔ سبھی تو فقارہ بجا کر اس کی لڑکی کے بارے میں آپ ہی شہرت دے دی۔ یہاں تک کہ عیسائیوں کے اخباروں کو اس قصہ سے بھر دیا۔ آفریں بریں عقل و دانش ماموں ہونے کا خوب حق ادا کیا۔ ماموں ہوں تو ایسے ہی ہوں۔ غرض یہ لوگ جو مجھ کو میرے دعویٰ الہام میں مکار اور دروغ گو خیال کرتے ہیں۔ اور اسلام اور قرآن شریف پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ اور مجھ سے کوئی نشان آسمانی مانگتے تھے۔ تو اس وجہ سے کئی دفعہ ان کے لیے دعا بھی کی گئی تھی۔ سو وہ دعا قبول ہو گئی۔ خدا تعالیٰ نے یہ تقریب قائم کی۔ کہ والد اس دختر کا ایک اپنے ضروری کام کے لیے ہماری طرف ملتی ہوا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ نامبرودہ کی ایک ہمیشہ ہمارے ایک چچا زاد بھائی غلام حسین نام کو بیاہی گئی تھی۔ غلام حسین عرصہ پچیس سال سے کہیں چلا گیا ہے اور مفقود الخبری سے اس کی زمین ملکیت جس کا ہمیں حق پہنچتا ہے۔ نامبرودہ کی ہمیشہ کے نام پر کاغذات سرکاری میں درج کرادی گئی تھی۔ اب حال کے بندوبست میں جو ضلع گورداسپور میں جاری ہے۔ نامبرودہ (یعنی ہمارے خط کے مکتوب الیہ) نے اپنی ہمیشہ کی اجازت سے یہ چاہا کہ وہ زمین جو چار ہزار یا پانچ ہزار روپیہ کی قیمت کی ہے۔ اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور ہبہ منتقل کرا دیں۔ چنانچہ ان کی ہمیشہ کی طرف سے یہ ہبہ نامہ لکھا گیا۔ چونکہ وہ ہبہ نامہ بجز ہماری رضا مندی کے بے کار تھا۔ اس لیے مکتوب الیہ نے بہ تمام تر بجز واکسار ہماری طرف رجوع کیا۔ تاہم اس ہبہ پر راضی ہو کر اس ہبہ نامہ پر دستخط کر دیں۔ اور قریب تھا کہ دستخط کر دیتے لیکن یہ خیال آیا۔ کہ جیسا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے۔ جناب الہی میں استخارہ کر لینا چاہیے۔ سو یہی جواب مکتوب الیہ کو دیا گیا۔ پھر مکتوب الیہ کے متواتر اصرار سے استخارہ کیا گیا۔ گویا آسمانی نشان کی درخواست کا وقت آپہنچا۔ جس کو خدائے تعالیٰ نے اس پیرا یہ میں ظاہر کر دیا۔ اس خدائے قادر حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے۔ کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا۔ اور یہ نکاح تمہارے

لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا۔ اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے۔  
جواشتہارہ ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں۔ لیکن نکاح سے انحراف کیا۔ تو اس لڑکی کا انجام نہایت  
برا ہوگا۔ اور جس کسی دوسرے شخص سے بیانیہ جائے گی۔ وہ روزی نکاح سے اڑبائی سال تک اور ایسا  
ہی والد اس کا تین سال تک فوت ہو جائے گا۔ اور ان کے گھر پر تفرقہ اور غمی اور مصیبت پڑے گی۔  
اور درمیانی زمانہ میں اس دختر کے لیے کراہت اور غم کا امر پیش آئے گا۔

پھر ان دنوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ  
خدا تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے۔ کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کلاں کہ جس کی نسبت درخواست کی گئی  
ہے۔ ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی عاجز کی نکاح میں لائے گا۔ اور بے دینوں کو  
مسلمان بنائے گا۔ اور گمراہوں میں ہدایت پھیلا دے گا۔ چنانچہ الہام میں اس بارہ میں یہ ہے۔  
كذبوا بما ایتنا يستهزؤن فسیکفیکہم اللہ ویردہا الیک لا تبدیل لکنمات اللہ  
ان ربك فعال لما یرید انت معی وانا معك عسی ان یبعثک ربك مقامًا محمودًا  
یعنی انہوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا۔ اور پہلے ہی ہنسی کر دی تھی۔ سو خدا تعالیٰ ان سب کے  
نذارک کے لیے جو اس کام کو روک رہے ہیں۔ تمہارا مددگار ہوگا۔ اور انجام کار اس کی اس لڑکی کو  
واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو چاہے وہ ہی ہو  
جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور عنقریب وہ مقام تجھے ملے گا جس میں  
تیری تعریف کی جائے گی۔ یعنی گواہ اول الحق اور ناداں لوگ بد باطنی اور بد ظنی کی راہ سے بدگوئی  
کرتے ہیں۔ اور تالائق بائیس منہ پر لاتے ہیں۔ لیکن آخر خدا تعالیٰ کی مدد دیکھ کر شرمندہ ہوں  
گے۔ اور سچائی کے کہنے سے چاروں طرف سے تعریف ہوگی۔

اس جگہ ایک اور اعتراض نور افشاں کا رفع دفع کرنے کے لائق ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ  
اگر الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اس پر اعتماد کلی تھا۔ تو پھر پوشیدہ کیوں رکھا۔ اور کیوں اپنے  
عہد میں پوشیدہ رکھنے کے لیے تاکید کی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ایک خانگی معاملہ تھا۔ اور جس کے لیے یہ نشان تھا ان کو تو پہنچا دیا  
گیا تھا۔ اور یقین تھا کہ والد اس دختر کا ایسی اشاعت سے رنجیدہ ہوگا اس لیے ہم نے دل شکنی اور  
رنج دہی سے گریز کیا۔ بلکہ یہ بھی چاہا کہ در حالت انکار وہ بھی اس امر کو شائع کریں۔ اور گوہم شائع  
کرنے کے لیے مامور تھے۔ مگر ہم نے مصلحت دوسرے وقت کا انتظار کیا۔ یہاں تک کہ اس لڑکی کے  
ماموں مرزا نظام الدین نے جو مرزا امام الدین کا حقیقی بھائی ہے۔ شدت غمیض و غضب سے اس



مضمون کو آپ ہی شائع کروایا۔ اور شائع بھی ایسا کیا کہ شاید ایک دو ہفتہ تک دس ہزار مرد و عورت تک ہماری درخواست نکاح اور ہمارے مضمون الہام سے بخوبی اطلاع یاب ہو گئے ہوں گے۔ اور پھر زہانی اشاعت پر اکتفا نہ کر کے اخباروں میں ہمارا خط چھپوایا۔ اور بازاروں میں ان کے دکھلانے سے وہ خط جا بجا پڑھا گیا۔ اور عورتوں اور بچوں تک اس خط کی مناوی کی گئی۔ اب جب مرزا نظام الدین کی کوشش ہے۔ وہ خط ہمارا نور افشاں میں بھی چھپ گیا اور عیسائیوں نے اپنے مادہ کے موافق بے جا افتراء کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم پر فرض ہو گیا۔ کہ اپنے قلم سے اصلیت کو ظاہر کریں۔ یہ خیال لوگوں کو واضح ہو۔ کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محکم امتحان نہیں ہو سکتا اور نیز یہ پیشگوئی ایسی بھی نہیں۔ کہ جو پہلے پہلے اسی وقت ظاہر کی ہو۔ بلکہ مرزا امام الدین و نظام الدین اور اس جگہ کے تمام آریہ اور نیز لکھنؤ اور پشاور اور صد ہا دوسرے لوگ جانتے ہیں۔ کہ کئی سال ہوئے کہ ہم نے اس کے متعلق مجملًا ایک پیشگوئی کی تھی۔ یعنی یہ کہ ہماری برادری میں سے ایک شخص احمد بیگ نام فوت ہونے والا ہے۔ اب منصف آدمی سمجھ سکتا ہے۔ کہ وہ اس پیشگوئی کا شعبہ تھی یا یوں کہو کہ یہ تفصیل اور وہ اجمال اور اس میں تاریخ اور مدت ظاہر کی گئی اور اس میں تاریخ اور مدت کا کچھ ذکر نہیں تھا۔ اور اس میں شرائط کی تفریح اور وہ بھی اجمالی حالت میں تھی۔ سمجھ دار آدمی کے لیے یہ کافی ہے کہ پہلی پیشگوئی اس زمانہ کی ہے کہ جب کہ ہنوز وہ لڑکی نا بالغ تھی۔ اور جبکہ یہ پیشگوئی بھی اسی شخص کی نسبت ہے جس کی نسبت اب سے پانچ برس پہلے کی گئی تھی۔ یعنی اس زمانہ میں یہ لڑکی آٹھ یا نو برس کی تھی۔ تو اس پر نفسانی افتراء کا تمان کرنا اگر حماقت نہیں تو کیا ہے۔ والسلام من اتق اللہی!

خاکسار غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپور۔ پنجاب ۲۱ جولائی ۱۸۸۸ء

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۱ تا ۲۸۰، خزائن ج ۵ ص ۲۸۰ تا ۲۸۱)

از انجاں کہ پیشگوئی یا الہام صرف نتیجہ جوش احکام قادیانی تھا۔ اور اسی وجہ سے وہ اس پیشگوئی کے مضمون اور وعدہ پر مطمئن نہ تھا۔ اور خوب جانتا تھا کہ میں نے ایک شکار کے لیے جال پھیلا یا ہے۔ جو ہاتھ پاؤں مارنے کے بغیر دام میں آنا نہایت مشکل ہے۔ لہذا اس نے اس وعدہ پر صبر و سکوت اختیار نہ کیا۔ بلکہ وہ نا جائز وسائل و تدابیر کے درپے ہو گیا۔ پس پہلے تو اس نے مرزا احمد بیگ اپنی فرضی زوجہ کے والد کو ڈراتا۔ اور پھسلانا شروع کیا۔ اور کئی عطا خصمن ترغیب و ترصیب (ڈرانے) کے ذریعے سے اس کو دام میں لانا چاہا۔ اور جب وہ قابو میں نہ آیا۔ تو پھر اس کی ہمیشہ کو جو قادیانی کے بیٹے فضل احمد کی خوش دامن تھی۔ (اس خیال سے کہ عورتیں عموماً بزدل ہوتی ہیں۔ اور

ایسی باتیں سن کر ڈرجاتی ہیں) ڈرانا اور پھسلانا چاہا اور اس کے نام ایک خطر جشری شدہ متضمن ترغیب وترہیب روانہ کیا۔ وہ عورت بھی جو انہر نکلی۔ تو اس کے شوہر کو (مرزا علی شیر بیگ) کے نام اس مضمون کا خط لکھا۔ وہ خط میں نقل کیا جاتا ہے جس میں پہلے خطوں کی بھی تصدیق پائی جاتی ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم . نحمدہ و نصلی

مشفق مرزا علی شیر بیگ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمتہ

اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو آپ سے کسی طرح فرق نہ تھا۔ اور میں آپ کو ایک غریب مزاج اور نیک خیال آدمی اور اسلام پر قائم سمجھتا ہوں۔ لیکن اب جو میں آپ کو ایک خبر سنانا ہوں۔ اس سے آپ کو بہت رنج گزرے گا۔ مگر میں اللہ ان لوگوں سے تعلق چھوڑتا ہوں جو مجھے ناچیز بتاتے ہیں۔ اور دین کی پرواہ نہیں رکھتے۔ آپ کو معلوم ہے۔ کہ مرزا احمد بیگ کی لڑکی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت ہو رہی ہے۔ اب میں نے سنا ہے کہ عید کی دوسری یا تیسری تاریخ کو اس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے۔ اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورے میں ساتھ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہ اس نکاح کے شریک میرے سخت دشمن ہیں۔ بلکہ میرے کیا دین اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ عیسائیوں کو ہنسانا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی کچھ بھی پروا نہ نہیں کرتے۔ اور اپنی طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ کہ اس کو خوار کیا جائے، ذلیل کیا جائے، روسیہ کیا جائے۔ یہ اپنی طرف سے ایک تلوار چلانے لگے ہیں۔ اب مجھے بجالینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر میں اس کا ہوں۔ تو ضرور مجھے بچالے گا۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ سمجھتا۔ کیا میں چوہڑا یا چار تھا۔ جو مجھ کو لڑکی دینا عاری یا تنگ تھا بلکہ وہ تو ایک ہاں سے ہاں ملاتے رہے۔ اور اپنے بھائی کے لئے مجھے چھوڑ دیا۔ اور اب نکاح کے لیے سب ایک ہو گئے۔ یوں تو مجھے کسی کی لڑکی سے کیا غرض کہیں جائے۔ مگر یہ تو آزما یا گیا۔ کہ جس کو میں خویش سمجھتا تھا۔ اور جس کی لڑکی کے لیے چاہتا تھا کہ اس کی اولاد ہو اور میری وارث ہو۔ میرے خون کے پیاسے رہے۔ میری عزت کے پیاسے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ خوار ہو اور اس کا روسیہ ہو۔ خدا بے نیاز ہے جس کو چاہے روسیہ کرے۔ مگر اب تو وہ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں نے خط لکھا کہ پرانا رشتہ مت توڑو۔ خدا تعالیٰ سے خوف کرو کسی نے جواب نہ دیا۔ بلکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی نے جوش میں آکر کہا کہ ہمارا کیا رشتہ ہے۔ صرف عزت بی بی نام کے لیے فضل احمد کے گھر میں ہے۔ بے شک وہ طلاق دے دے۔ ہم راضی ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کیا بلا ہے۔ ہم

اپنے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے۔ یہ شخص کہیں مرتا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجسٹری کرا کر آپ کی بیوی صاحبہ کے نام خط بھیجا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ اور بار بار کہا اس سے ہمارا کیا رشتہ باقی رہ گیا کہیں مرا بھی ہوتا۔ یہ باتیں آپ کی بیوی صاحبہ کی مجھے پہنچی ہیں۔ بیشک میں ناجیز ہوں، ذلیل ہوں اور خوار ہوں۔ مگر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں میری عزت ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب جب میں ایسا ذلیل ہوں۔ تو میرے بیٹے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے؟ لہذا میں نے آپ کی خدمت میں خط لکھ دیا ہے۔ کہ اگر آپ اپنے ارادے سے باز نہ آئیں۔ اور اپنے بھائی کو نکاح سے روک نہ لیں۔ تو پھر جیسا کہ آپ کا خود منشاء ہے۔ میرا بیٹا فضل احمد بھی آپ کی لڑکی کو نکاح میں رکھ نہیں سکتا۔ بلکہ ایک طرف جب محمدی (آسمانی منکوحہ نام ہے) کا کسی شخص سے نکاح ہوگا۔ تو دوسری طرف فضل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ اور اگر نہیں دے گا تو میں اس کو عاق اور لاوارث کروں گا۔ اور اگر میرے لیے احمد بیگ سے مقابلہ کرو گے۔ اور یہ ارادہ ان کا بند کر دو گی تو میں بدل و جان حاضر ہوں۔ اور فضل احمد کو جواب میرے قبضہ میں ہے ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی کی آبادی کے لیے کوشش کروں گا۔ اور میرا مال اور اس کا مال ہوگا۔ لہذا آپ کو بھی لکھتا ہوں۔ کہ آپ اس وقت کو سنبھال لیں۔ اور احمد بیگ کو پورے زور سے خط لکھیں کہ باز آ جائیں۔ اور گھر کے لوگوں کو تاکید کریں کہ وہ بھائی کو لڑائی کر کے روک دیوے۔ ورنہ مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے۔ کہ اب ہمیشہ کے لیے رشتہ نانا توڑ دوں گا۔ اگر فضل احمد میرا فرزند اور وارث بنا چاہتا ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ کی لڑکی کو گھر میں رکھے گا۔ جب آپ کی بیوی کی خوشی ثابت ہو۔ ورنہ جہاں میں رخصت ہوا۔ ایسا ہی سب ناتے رشتے ٹوٹ گئے۔ یہ باتیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کہاں تک درست ہیں۔ واللہ اعلم!

الراقم: غلام احمد از لدھیانہ اقبال منیج ۳ مئی ۱۸۹۲ء

جب وہ صاحب بھی قابو نہ آئے۔ تو قادیانی نے اپنی پرانی بیوی اور بچوں کو جو مرزا احمد بیگ کے خیر خواہ و صلاح کار تھے۔ گھورنا اور ڈرانا شروع کیا۔ سب کو ایسی ناجائز دھمکی دی۔ کہ کسی پر لے درجے کے شہوت پرست سے (بشرطیکہ وہ شریف کہلاتا ہو) ایسی جرأت نہ ہو سکے۔ عاجز اور ضعیف العمر بیوی کی طلاق دینے کا ڈر سنایا اور بچوں کو عاق اور لاوارث کر دینے کا۔ اور اس مضمون کا اشتہار چھاپ کر مشہور کر دیا اور دھرق فریق ثانی اور اس کے وارثوں کو دھمکانا اور ڈرانا شروع کیا۔

مرزا سلطان احمد بیگ کو لکھا۔ کہ تم اس تعلق کو قطع کر دو۔ تمہارا نکاح دوسری جگہ کر دیا جائے گا۔ تمہاری جوانی پر مجھے رحم آتا ہے تم اس ارادہ سے باز آؤ۔ اور اس کے وارثوں کو متعدد

خطوں کے ذریعہ سے ڈرایا اور دھمکایا۔ مگر وہ لوگ بھی جو امر دلکھے۔ اور اس کی دھمکیوں کو گیندر بھکیاں قرار دے کر اپنے خیال پر قائم و مستحکم رہے ہم ان کے نام کے خطوط کی اس مقام پر نقل کرنے کی غرضاً نہیں دیکھتے۔ اور بجائے اس کے قادیانی کے اعتراف و اقرار تخریف (ڈرانے) د خطوط نویسی کو نقل کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ آپ اشتہار چار ہزار کے نوٹس ص ۴ میں فرماتے ہیں۔ ”احمد بیک کے داماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تخریف کا اشتہار دیکھ کر پروانہ کی۔ خط پر خط بھیجے گئے۔ ان سے کچھ نہ ڈرا۔ پیغام بھیج کر سمجھایا گیا۔ کسی نے اس طرف ذرا التفات نہ کی۔ اور احمد بیک سے ترک تعلق نہ چاہا۔ بلکہ وہ سب گستاخی و استہزاء میں شریک ہوئے۔ سو یہی قصور تھا۔ کہ پیشگوئی کو سن کر پھر نادمہ کرنے پر راضی ہوئے۔ مگر اے حضرات نازنین چونکہ وہ الہام محض کذب اور صرف جوش احتلام قادیانی تھا۔

(اگر اس میں صدق کا دل ہوتا۔ تو قادیانی اس کو بچ بتانے کے لیے ان کمروہات کا مرتکب نہ ہوتا کہ بیوی کو طلاق اور بیٹے کو عاق اور بہو کو بیٹے سے طلاق دلوائے) لہذا اس کا کوئی ناجائز صلہ کارگرنہ ہوا۔ اور سات تاریخ اپریل ۱۸۹۲ء کو قادیانی کی منکوحہ آسانی کا نکاح ثانی اسی بیک مین (جوان) مرزا سلطان محمد بیک سے (خدا اس کو اس نکاح پر دیر گاہ متمتع رکھے) ہو گیا۔ چنانچہ اشاعت السنۃ نمبر ۱۵ جلد ۱۵ کی ص ۱۶ میں قادیانی سے منقول ہے۔ پھر اس نکاح سے چار بیٹے کے بعد مرزا احمد بیک نے حسب مقتضائے قضاء و قدر و تقاضا مرحلت کی۔ تو اس سے قادیانی کی چڑھ بچ گئی۔ اور رال ٹھک پڑی۔ اپنی بطنیں بجانی شروع کر دیں۔ اور متعدد تحریرات میں (کہ از الجملہ بعض اشاعت السنۃ نمبر ۱۵ جلد ۱۵ میں منقول ہیں) یہ باتیں کہیں کہیں کی موت میری ہی پیشگوئی کا اثر ہے اور آئندہ سلطان محمد کے لیے بھی موت تیار ہے۔

ہر چند منزل اشاعت السنۃ نے قادیانی کی ان باتوں کا دعواں جس جواب دیدیا اور جلد ۱۵ کے نمبر ۲ میں اس پر یکساں سوالات جرح کر کے اس کو مجروح و خیم بطل بلکہ مردہ کر دیا۔ ان سوالات میں اس نے یہ ثابت کر دیا۔ کہ ایسی پیشگوئیاں نجومی و جھڑی جوشی بھی کیا کرتے ہیں۔ جو بعض اوقات ہمیں ملتی ہیں یہ پیشگوئی الہامی نہیں ہو سکتی۔ جن کے جواب میں قادیانی سے بجز سکوت کچھ بن نہ پڑا۔ جس سے سمجھا گیا۔ بس قادیانی کا پردہ چھٹ گیا مگر اے حضرات ناظرین! قادیانی بڑا صاحب حوصلہ و طاہر ہے وہ اس قدر سوالات جرح کا بار سہہ کر بے ہوش و حواس ہو کر سرک پڑا۔ اور پھر بھی مرزا احمد بیک کی موت کو پہلے الہام کا نتیجہ قرار دے کر اس سے مرزا سلطان محمد اور ان کے بی بی خواہان اسلام کے ڈرانے لگ گیا۔ اور اپنے دام القادہ مقبول کو اپنی تھلید پر جمانے لگا۔

چنانچہ رسالہ (شہادت القرآن مطبوعہ ۱۸۹۳ء، ص ۸۰، خزائن ج ۶ ص ۳۷۵) میں اس نے کہا ہے۔ ”پھر ما سوا اس کے بعض اور عظیم الشان نشان اس عاجز کی طرف سے معرض امتحان میں ہیں۔ جیسا کہ منشی عبد اللہ آختم امرتسری کی نسبت پیشگوئی جس کی میعاد ۱۸۹۳ء سے ۱۵ ماہ تک اور پنڈت لکھرام پشاوری کی موت کی نسبت پیشگوئی جس کی میعاد ۱۸۹۳ء سے چھ سال تک ہے۔ اور پھر مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی نسبت پیشگوئی جو پٹی ضلع لاہور کا باشندہ ہے۔ جس کی میعاد آج کی تاریخ سے جو ۳۱ ستمبر ۱۸۹۳ء ہے قریباً گیارہ مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تمام امور انسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں۔ ایک صادق یا کاذب کی شناخت کے لیے کافی ہیں۔ کیونکہ احیاء اور امات دونوں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اور جب تک کوئی شخص نہایت درجہ کا مقبول نہ ہو۔ خدا تعالیٰ اس کی خاطر سے اس کے دشمن کو اس کی دعا سے ہلاک نہیں کر سکتا۔ خصوصاً ایسے موقع پر کہ وہ شخص اپنے تئیں منجانب اللہ قرار دے۔ اور اپنی اس کرامت کو اپنے صادق ہونے کی دلیل ٹھہرا دے۔ سو پیشگوئیاں کوئی معمولی بات نہیں۔ جو انسان کے اختیار میں ہو۔ بلکہ محض اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہیں۔..... سو اگر کوئی طالب حق ہے۔ تو ان پیشگوئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے۔ یہ تینوں پیشگوئیاں ہندوستان اور پنجاب کی تینوں بڑی قوموں پر حاوی ہیں۔ یعنی ایک مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ہندوؤں سے۔ اور ایک عیسائیوں سے اور ان میں سے وہ پیشگوئی جو مسلمانوں کی قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی عظیم الشان ہے کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں۔

- ۱..... مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔
- ۲..... پھر داماد اس کا جو اس کی دختر کلاں کا شوہر ہے۔ ڈھائی سال کے اندر فوت ہو۔
- ۳..... پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تاروز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو۔
- ۴..... اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو۔
- ۵..... اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔
- ۶..... اور پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جائے اور ظاہر ہے۔ کہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔

وازا نکاح کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ جموٹوں کا منہ کالا کرتا ہے۔ گو ایک وقت تک ان پر حرہ لٹکل (نادم کی سرخی)..... رہی۔ لہذا سات اپریل ۹۳ء سے اڑھائی سال کی مدت گزر گئی۔ مرزا سلطان محمد زندہ صحیح و سالم خوش و خرم رہا۔

اور اس نکاح سے ان کو خدا تعالیٰ نے ولد صالح بھی عطاء کیے جس سے قادیانی کی

دروغ گوئی اور ذلت اور رسوائی تمام دنیا پر ظاہر ہوئی۔ اور اس کی پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ مگر اے حضرات قادیانی بڑا صاحب حیا و حوصلہ و ہاضمہ ہے کہ وہ اس ذلت اور رسوائی کو شیر مادر کی طرح غٹ غٹ کر کے نوش فرما کر ہضم کر گیا۔ اور اس جوان کی عدم وفات پر اس نے ایسی راست بیانی کی ہے۔ جس نے جہان کے بے شرموں اور جھوٹوں کو مات کر دیا۔ ۶ اکتوبر ۱۸۹۴ء کو اس نے عنوان ذیل کی ایک تحریر شائع کی ہے۔

مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری اور اس کے داماد سلطان محمد کی نسبت جو پیشگوئی کی تھی۔ اس کی حقیقت اس تحریر میں چونکہ قادیانی نے حسب عادت قدیم تطویل بلا طائل کی ہے اور پورے آٹھ صفحہ میں بے ہودہ سرائی اس سے ہوئی ہے لہذا ہم اس کی پوری عبارت کے نقل کرنے کی اس مقام میں گنجائش نہیں پاتے۔ صرف اس کا خلاصہ نقل کرتے ہیں۔

۱..... اس پیشگوئی کے دو حصہ ہیں پہلا اور بڑا مرزا احمد بیگ کی وفات تھی دوسرا حصہ اس کے داماد مرزا سلطان محمد بیگ کی وفات۔

۲..... پہلا حصہ پورا ہو گیا جس کا اقرار صاحب اشتمۃ السنہ نے بھی کیا اور کہا ہے کہ اگرچہ پیشگوئی تو پوری ہو گئی۔ مگر یہ الہام سے نہیں۔ بلکہ نجوم یا رمل وغیرہ سے کی گئی ہے۔

۳..... دوسرا حصہ گو میعاد میں پورا نہیں ہوا۔ مگر بعد میعاد پورا ہوگا۔ میعاد میں پورا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مرزا سلطان محمد بیگ بھی عبداللہ آتھم کی طرح ڈر گیا تھا۔ بلکہ اس کے دل پر شدید خوف و حزن وارد ہوا تھا۔ اس لیے وعدہ عذاب موت کو خدا نے میعاد سے ٹلا دیا۔

۴..... مرزا سلطان محمد بیگ کے ڈر جانے پر دو دلیلیں ہیں۔ ایک عقلی، دوسری نقلی..... عقلی یہ ہے کہ جب ایک پیشگوئی میں دو شخصوں کے ہونے کی خبر دی جائے۔ اور ان میں سے ایک شخص مطابق پیشگوئی فوت ہو جائے۔ تو اس سے دوسرے کا ڈر جانا لازمی امر ہے۔ بناء علیہ خبر پیشگوئی کے مطابق مرزا احمد بیگ کے مرجانے سے۔ سلطان محمد بیگ ایسا ڈر گیا ہوگا۔ کہ وہ جیتا ہی مر گیا۔

نقلی..... دلیل یہ ہے کہ مرزا سلطان محمد بیگ کی بزرگوں کی طرف سے ہمیں دو خط پہنچے۔ جو ایک حکیم صاحب باشندہ لاہور کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ جن میں انہوں نے اپنی توبہ و استغفار کا حال لکھا ہے سوان تمام قرآن کو دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ تاریخ وفات سلطان محمد قائم نہیں رہ سکتی۔

۵..... مرزا سلطان محمد بیگ کے ڈر جانے سے اس عذاب موت کا ٹل جانا کو اس پیشگوئی میں بطور شرط مذکورہ نہیں تھا۔ مگر یہ بانی کتابوں کی تعلیم سے ثابت و معلوم ہے۔ کہ خدا تعالیٰ موقت اور

موجود عذاب موت کو لوگوں کے ڈر جانے سے اپنی وقت سے ٹلا دیا کرتا ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی قدیم سنت ہے۔ لہذا اگر کسی خبر و پیشگوئی میں اس کا ذکر بطور شرط نہ بھی ہو۔ تو بھی خدا تعالیٰ اس کا لحاظ کرتا ہے اور اس کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔

۶..... اس سنت الہی سے مولوی عبدالجبار امرتسری اور مولوی رشید احمد گنگوہی اور ابو سعید محمد حسین واقف ہیں۔ اگر وہ اس سے انکار کریں تو وہ تینوں یا ان میں سے ایک تاریخ مقرر کر کے جلسہ عام میں مجھے (قادیانی) سے اس بارہ میں نصوص صریحہ کتاب اللہ اور احادیث نبویہ و کتب سابقہ سنین اور صرف دو گھنٹہ تک مجھے ان کے بیان کرنے کی مہلت دیوں۔ پھر اگر ان کا یہ خیال ہوگا۔ کہ یہ دعویٰ نصوص صریحہ سے ثابت نہیں۔ اور جو دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ وہ باطل ہیں تو ہم دوسورویہ انعام دیں گے۔ اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیں گے کہ وہ دلائل باطل ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدوں اور میعادوں میں کسی کی توبہ یا خوف سے تاخیر ڈال دیتا ہے۔ یہ آپ کے آٹھ صفحہ کا پورے مطالب کا خلاصہ ہے۔ اب ناظرین اس پر ہماری ریماکس (تشریحات) سنیں۔

۱..... میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس پیشگوئی کا بڑا حصہ مرزا احمد بیگ کی موت تھی۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ احمد بیگ مرچکا تھا نہ مرتا تو یہی چھوٹا حصہ ہو جاتا۔

مگر قادیانی کے اصل الہام یا احکام اشتہار ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء ص ۱۱۳۵ اور اشتہار ۲ مئی ۱۸۹۳ء ص ۱۸۴ اور اس کے خط ۳ مئی ۹۳ء اور اس کے مضمون ص ۸۰ شہادت القرآن منقول ص ۱۱۸ شاعت السنہ نمبر ۲۲ جلد ۱۶ کے ملاحظہ سے ناظرین پر مخفی نہ ہوگا۔ کہ بڑا حصہ اس کا اور اصل مقصود الہام منکوحہ آسمانی قادیانی کا اس کے پاس آتا ہی موت مرزا احمد بیگ تو اس کا ایک چھوٹا حصہ اور ایک ذریعہ یا زینہ ہے۔ اس کو قادیانی بڑا حصہ قرار دیتا ہے جو سفید جھوٹ ہے۔

۲..... میں جو قادیانی نے کہا ہے کہ پہلے حصہ کے پورا ہونے کا صاحب اشاعت السنہ نے اعتراف کر لیا ہے۔ یہ بھی سفید جھوٹ ہے اور وروغ گوئم بر دے تو۔ کا مصداق۔ قادیانی سچا ہے۔ تو بتا دے کہ اشاعت السنہ کا یہ اعتراف کس صفحہ میں مرقوم ہے۔ اشاعت السنہ کے ص ۳۹ جلد ۱۵ نمبر ۲ میں تو اس کے وقوع کی لاعلمی ظاہر کی گئی ہے۔

۳..... جو قادیانی نے مرزا سلطان محمد بیگ کا ڈر جانا بیان کیا ہے یہ بھی محض کذب ہے۔ ہم نے ایک دوست (مشی محمد سعید نقشبند لویس راولپنڈی) کی معرفت مرزا سلطان محمد بیگ سے چند سوالات اس امر کے متعلق کیے تو انہوں نے جواب میں ڈر جانے سے انکار کیا۔ جو معہ سوال ذیل

میں نقل کیا جاتا ہے:

(اشاعت السنہ) مرزا غلام احمد کے الہام سے آپ کے دل پر کیا اثر ہوا تھا کیا آپ ڈر گئے تھے یا نہیں۔

(مرزا سلطان محمد) مرزا صاحب کو میں جھوٹا اور دروغ گو جانتا تھا۔ اور جانتا ہوں اور میں مسلمان آدمی ہوں۔ خدا کا ہر وقت شکر گزار ہوں۔ سلطان محمد بیک بقلم خود:

حضرات ناظرین! کیا آپ جانتے ہیں؟ کہ در صورت انکار مرزا سلطان محمد بیک سے قادیانی نے قسم کا مطالبہ بوجہ انعام بکھرا لغایت چار ہزار کیوں نہیں کیا۔ جب کہ عبد اللہ مستقیم سے کیا تھا۔ اس کی وجہ بھی ہم سے سنیں۔ قادیانی کو خوب یقین تھا کہ سلطان محمد مسلمان پھر نوجوان پھر انگریزی خواں پھر پولیس والوں کا صحیحی اور متعلق ہے۔ وہ اپنے سچے انکار پر فوراً قسم کھا کر روپیہ وصول کرے گا۔ عبد اللہ مستقیم کی طرح بڑھا اور ضعیف القلب اور عیسائی نہیں کہہ سکتے تھے۔

حضرات! اس سب کی ان پالیسیوں کو اور اس کے مکار اور عیار ہونے کا یقین کریں۔

۴..... میں جو مرزا سلطان محمد بیک کے ڈر جانے پر عقلی دلیل بیان کی ہے وہ بھی محض دروغ و مغالطہ ہی عقل مند انسان اگر کسی پیشگوئی کرنے والوں کو جھوٹا جانتا ہوں۔ تو ایک نہیں ہزار بار اگر وہ کسی شخص کے موت کی پیشگوئی کرے اور پھر وہ شخص فوت بھی ہو جائے تو وہ عقل مند اس موت کو پیشگوئی کا اثر نہیں سمجھتا اور نہ اس سے ڈرتا ہے بنا علیہ احمد بیک کی موت سے سلطان محمد کا ڈر جانا لازمی اور ضروری نہ ہوا۔

اور جو نقلی (روزی) دلیل بیان کی ہے وہ ہرگز لائق اعتماد و قبول نہیں کیونکہ اس روایت کے راوی اور ان خطوط کے کاتب حکیم فضل الہی صاحب متوطن (کوٹ بھوانی اس ضلع گوجرانوالہ) مقیم لاہور ہیں۔ خاکسار نے ان کو اپنی فرد گاہ لاہور میں بلا کر حال دریافت کیا۔ تو انہوں نے چند اشخاص کے ساتھ اقرار و اظہار کیا۔ کہ کل خطوطوں کا کاتب میں ہی ہوں۔ اور ان کی یہ روایت قادیانی کی تائید و تصدیق میں تین وجہ سے لائق قبول و اعتماد ہیں۔

۱..... کہ ان خطوط کا بقول قادیانی وحسب بیان حکیم صاحب مرزا سلطان محمد بیک کا اعتراف قصور و توبہ درج نہیں جو کچھ ہے۔ ان کے بزرگوں کی طرف سے ہے واز انجا کہ قصور نکاح جانی زوجہ آسانی قادیانی کا مرتکب اور اصل مباشر خود مرزا سلطان محمد بیک صاحب ہیں۔ نہ ان کے بزرگ جو صرف معاون و دستبر ہیں۔ لہذا وہ اعتراف قصور و توبہ اصل مباشر کے انکار و اصرار کے مقابلے کا نام لیکن و ناقابل اعتبار ہے۔



دوم..... یہ کہ مرزا سلطان محمد بیگ نے اپنی اس تحریر میں جو ہمارے سوالات کے جوابات میں انہوں نے ارسال کی ہے۔ اس سے انکار کیا ہے کہ ان کے کسی رشتہ دار نے کوئی خط حضمین توبہ و استغفار غلام احمد کے نام بھیجا ہو۔ لہذا ان خطوں کا اعتراف قصور توبہ باوجودیکہ وہ غیر مباشر کا اعتراف ہے اور غیر راقم کے قلم سے لکھا ہوا ہے۔ لائق اعتبار نہیں ہے۔

سوم..... اس لیے کہ اس اعتراف توبہ کے ناقل حکیم فضل الدین صاحب ہیں اور وہ قادیانی کے چھپے حواری (مددگار) اور ذوالوجہین (دورنی) ہیں مسلمانوں کی جماعت میں وہ آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں قادیانی کا حواری نہیں ہوں۔ اور جب قادیانی کے حواریوں اور پیروؤں میں خلوت کرتے ہیں۔ تو ان کے ہم رنگ و مددگار بن جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ..... ان وجوہات تلاش سے ناظرین یقین کریں گے کہ حکیم صاحب قادیانی کے پکے حواری ہیں۔ لہذا ان کی روایت و شہادت قادیانی کی تائید میں مقبول نہیں۔

مرزا سلطان محمد بیگ کے خوف پر عقلی و نقلی دلیل بیان کر کے جو قادیانی نے کہا ہے کہ ان تمام قرآن کو دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا۔ کہ تاریخ وفات سلطان محمد بیگ قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ بھی محض جھوٹ ہے۔ اور بناء فاسد علی الفاسد۔ آپ کو یہ یقین یا کم سے کم غالب ظن یا اولیٰ درجہ کا وہم ہے اس کا گزرتا تو آپ ۶ اکتوبر ۱۸۹۳ء سے پہلے اس مضمون کا اشتہار جاری کرتے۔ آپ اشتہار چھاپنے کے ایسے عادی ہیں۔ کہ اپنی محبوبہ زوجہ کا حمل اور مقبوضہ زوجہ کی طلاق اور اولاد کو عاق کرنے کے اشتہار میں نہیں رک سکے۔ پس اگر ان کو کچھ بھی اشارہ عالم بالا سے ہوتا یا آپ کا ملہم معلم الملوکوت آپ کو القاء کرتا۔ یا واقعہ میں آپ کو کوئی خط محذرت بزرگان سلطان محمد بیگ کی طرف سے ملتا۔ تو آپ ضرور اس کا اشتہار کر دیتے۔ تاریخ وفات مرزا سلطان محمد بیگ گزر گئی۔ اور اس جوان کی صحت کے ساتھ زندگی آپ کی شرمندگی کا موجب ہوئی تب آپ کے چھپے حواری کی مدد سے یہ ڈھکوسلا بنالیا۔

دنیا میں کون ایسا احمق ہے جو ان واقعات کو سن کر یا جان کر آپ کے اس ڈھکوسلے کو مان لے گا۔ اور اس کو آپ کی بناوٹ نہ کہے گا۔

۵..... جو آپ نے ڈر جانے سے الہی وعدہ و عذاب نل جانے کو سنت قدیم خداوندی قرار دیا ہے۔ یہ بھی محض کذب ہے جس کا کافی بیان جلد ۱۲ نمبر ۱۶ ص ۵۶ سے ص ۱۰۰ تک ہو چکا ہے۔

۶..... جو آپ نے ہم تینوں میں سے کسی ایک کی قسم اس بیان پر چاہی ہے اس قسم کے لیے

خاکسار قبل تاریخ جس مقام میں بجز قادیاں آپ چاہیں حاضر ہے۔ مگر اس پر انعام دوسوروپہ نہیں چاہتا۔ بلکہ بجائے دوسوروپہ کے آپ کے مسلمان ہو جانے اور عقائد جدیدہ کفریہ سے آپ کے تائب ہونے کا طالب ہے اور اگر آپ اس سے انکار کریں۔ تو پھر اور انعام تجویز کیا جائے گا۔ جو از قلم مال ہوگا۔ اس کا اظہار آپ کے مسلمان ہونے اور عقائد کفریہ سے تائب ہونے سے انکار کے بعد کیا جائے گا۔ وغیرہ وغیرہ۔ اشاعت السنہ نمبر ۶ جلد ۱۶ ص ۱۷۹ سے ۱۹۵ تک۔

### حاشیہ جات

۱۔ وہ یہ ہے۔ ”اشتہار نصرت دین و قطع تعلق از اقارب مخالف دین متین علی سنت ابراہیم حنیفا۔ چو بدندان تو کرے افتاد۔ آں نہ دندانے کن اے استاد۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس عاجز نے ایک دینی خصوصیت کے پیش آجانے کی وجہ سے ایک نشان کے مطالبہ کے وقت اپنے ایک قریبی مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں کی نسبت بحکم الہام الہی یہ اشتہار دیا تھا۔ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر و قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔ خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے۔ یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لے آئے۔ چنانچہ تفصیل ان کل امور مذکورہ بالا کی اس اشتہار میں درج ہے۔ اب باعث تحریر اشتہار ہذا یہ ہے کہ میرا بیٹا سلطان احمد نام جو نائب تحصیل دار لاہور میں ہے۔ اور تائی صاحبہ جنہوں نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ وہی اس مخالفت پر آمادہ ہو گئے ہیں اور یہ سارا کام اپنے ہاتھ میں لے کر اس تجویز میں ہیں۔ کہ عید کے دن یا اس کے بعد اس لڑکی کا کسی سے نکاح کیا جائے۔ اگر یہ دوسروں کی طرف سے مخالفانہ کارروائی ہوتی۔ تو ہمیں دخل دینے کی کیا ضرورت اور کیا غرض تھی۔ امر ربی تھا وہی اپنی فضل و کرم سے ظہور میں لانا۔ مگر اس کام کے مدار الہام وہ لوگ ہو گئے ہیں۔ جن پر اس عاجز کی اطاعت فرض تھی اور ہر چند سلطان احمد کو سمجھایا۔ اور بہت تاکیدیں خط لکھے کہ تو اور تیری والدہ اس کام سے الگ ہو جائیں۔ ورنہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ اور تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ مگر انہوں نے میرے خط کا جواب تک نہیں دیا۔ اور بلکل مجھ سے بے زاری ظاہر کی۔ اگر ان کی طرف سے ایک تیز تلوار کے ذریعے بھی مجھے ذخم پہنچتا۔ تو بخدا میں اس پر صبر کرتا۔ لیکن انہوں نے دینی مخالفت کر کے اور دینی مقابلہ سے آزار دے کر مجھے بہت ستایا۔ اور اس حد تک میرے دل کو توڑ دیا۔ کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور عمدہ اچاہا۔ کہ میں سخت دلیل کیا جاؤں۔ سلطان احمد ان دو بیوے گناہوں کا مرتکب ہوا۔

اذل یہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کرنی چاہی اور یہ چاہا کہ دین اسلام پر تمام مخالفوں کا حملہ ہو۔ اور یہ اپنی طرف سے اس نے ایک بنیاد رکھی تھی اس امید پر کہ یہ جھوٹے ہو جائیں گے۔ اور دین کی ہنک ہوگی۔ اور مخالفوں کو فتح۔ اس نے اپنی طرف سے مخالفانہ کمپنیاں چلانے میں کچھ فرق نہیں کیا۔ اور اس نادان نے یہ نہ سمجھا کہ خداوند قدیر و مجبور اس دین کا حامی ہے وہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اگر سارا جہان مجھے برباد کرنا چاہے۔ تو اپنی رحمت کے ہاتھ سے مجھے تمام لے گا کیونکہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا۔ دوم سلطان احمد نے مجھے جو میں اس کا باپ ہوں ناچیز قرار دیا۔ دینی مخالفوں کو مدد دی۔ اور اسلام کی ہنک بدل دجان منظور کئی سو چونکہ اس نے دونوں طور کے گناہوں کو اپنے اندر جمع کیا اپنے خدا کا تعلق بھی چھوڑ دیا اور اپنے باپ کا بھی۔ اور ایسا ہی اس دونوں کی والدہ نے کیا۔ سو چونکہ انہوں نے کوئی تعلق مجھ سے باقی نہ رکھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اب ان کا کسی قسم کا تعلق مجھ سے باقی رہے۔ اور ڈرتا ہوں کہ ایسے دینی دشمنوں سے پیوند رکھنے میں معصیت نہ ہو۔ لہذا میں آج کی تاریخ سے کہ دوسری مئی ہے عوام اور خاص پر بذریعہ اشتہار ہذا ظاہر کرتا ہوں۔ کہ اگر یہ لوگ اس ارادے سے باز نہ آئے اور وہ تجویز جو اس لڑکی کے ناطہ و نکاح کرنے کی اپنے ہاتھ سے کر رہی ہیں اس کو موقوف نہ کر دیا۔ اور جس شخص کو انہوں نے نکاح کے لیے تجویز کیا ہے اس کو رد نہ کیا بلکہ اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو اسی نکاح کے دن سے سلطان احمد عاق اور محروم الارث ہوگا اور اس روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے اور اگر اس کا بھائی فضل احمد جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والد لڑکی کی بھانجی ہے اپنی اس بیوی کو اسی دن جو اس کو نکاح کی خبر ہو۔ طلاق نہ دیوے۔ تو پھر وہ بھی عاق اور محروم الارث ہوگا۔ اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پر نہیں رہے گا۔ اور اس نکاح کے بعد تمام تعلقات خویشی اور قربت اور ہمدردی دور ہو جائے گی۔ اور کسی کی بدی، رنج، راحت، شادی، ماتم میں ان سے شراکت نہیں رہے گی۔ کیونکہ انہوں نے آپ تعلق توڑ دیئے۔ اور توڑنے پر راضی ہو گئے۔ جو اب ان سے کچھ تعلق رکھنا قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے برخلاف ہے اور ایک دیوثی کا کام ہے۔ مومن دیوث نہیں ہوتا۔

(مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۱۹ تا ۲۲۱)

چوں نبود خویش را دیانت و تقویٰ

قطع رحم بہ زمودت قربی

والسلام علی من تبع الہدیٰ! مرزا غلام احمد لدھیانہ ۲ مئی ۱۸۹۱ء

(مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۱۹ تا ۲۲۱)

## باب ۴۵ چہل و پنجم

سید واجد علی ملتانی کا دافع البلاء کا جواب

ایک کھلی چٹھی

سید واجد علی صاحب سیکرٹری انجمن اسلامیہ ملتان نے مرزا صاحب کے رسالہ دافع البلاء پر ایک کھلی چٹھی شائع کی ہے جس کی تمہید حسب ذیل ہے۔

”میرے ایک دیرینہ کرم فرمانے جو مرزائی ہو گئے ہیں۔ رسالہ دافع البلاء میرے پاس پہنچایا جو مرزا غلام احمد قادیانی نے طاعون کے متعلق لکھا ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں۔ ابن مریم سے بدرجہا اچھا ہوں۔ میں نبی ہوں، خاتم الانبیاء و خاتم الاولیاء ہوں اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے برابر ہوں۔ کیونکہ میں سچا شفیع ہوں اور ہر ایک زمانہ میں قیامت تک نجات دلانے والا ہوں۔ اہل بیت رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر ہوں میں ابن اللہ ہوں۔ اور جس طرح ابن اللہ ہے بطور اولاد ہوں۔ اسی طرح مجھ سے بطور میری اولاد کے ہے۔ یعنی ابو اللہ ہی ہوں۔ میرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ مجھ سے بیعت کرنا خدا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے برابر ہے مجھے اس طرح نہ ماننے کی وجہ سے اور مجھے برا کہنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے بطور سزا کے اس ملک میں طاعون بھیجا ہے۔ اور اس کا علاج جسمانی اور روحانی جو آج تک دنیا نے سوچا اور اختیار کیا ہے۔ کوئی ٹھیک نہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا دعا مانگنا ہے کہ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے یہ بھی ضلالت ہے علاج صحیح یہ ہے کہ مجھ پر ان اوصاف و فضائل و شرائط کے ساتھ ایمان لاؤ۔ جو اس طرح مجھ پر ایمان نہ لائے گا۔ جملائے طاعون ہو کر مر جائے گا۔

اور اپنے ان کل فضائل اور دعاوی کی صحیح اور حق ہونے کی دلیل یہ پیش کی ہے۔ کہ تمام پنجاب میں طاعون پھیل گیا ہے۔ قادیان کے چاروں طرف دو دو میل کے فاصلے پر طاعون کا زور ہے۔ مگر خاص قادیاں اس سے پاک ہے۔ اور ہمیشہ پاک رہے گا۔ بلکہ جو طاعون زدہ قادیاں میں آیا اچھا ہو گیا اور جو آئے گا۔ اچھا ہو جائے گا۔

میں نے مرزا صاحب کے ان دعاوی اور استدلال کو پڑھا۔ اور جو میری رائے اس پر ہوئی۔ میں نے نہایت نیک نیتی کے ساتھ بذریعہ ایک خط کے اپنے اس عنایت فرما دوست پر ظاہر کرنی چاہی۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ میری رائے مرزائی معتقدات اور تعلیمات کے خلاف ہے۔

تو مجھے کچھ ڈرایا اور دھمکایا تاکہ میں اپنی رائے ظاہر نہ کروں۔ مگر میرے دیگر ہم خیال احباب نے اس بات پر زور دیا۔ لا تلبسو الحق بالباطل وتکتبوا الحق وانتم تعلمون۔ دوست مرزائی..... مناسب نہیں کہ آپ مرزا صاحب یا مرزا صاحب کے خدام کا مقابلہ کریں۔ جس وقت آپ اس مقابلہ میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت آپ کے تماشائی یا سب چلتے نہیں گے۔ کیونکہ یہ راستہ بڑا سخت راستہ ہے۔ یہ (مرزا صاحب) وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ دکھاتا ہے۔ میں آپ کو کمر رکھتا ہوں۔ کہ آپ اوپن لیٹر کو بند رکھیں۔ اور اس راہ میں قدم مارنے کی جرأت نہ کریں۔

(میں) اپنے محترم دوست اور کل ایسے احباب کی خدمت میں جو مرزائی ہو گئے ہیں۔ اور مجھے ان سے شرف نیاز مندی حاصل ہے عرض کرتا ہوں کہ اس رسالہ واقع البلاء پر اوپن لیٹر لکھنے سے میرا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ مرزا صاحب سے یا ان کے خدام سے مقابلہ کروں میں نے جو کچھ اس خط میں عرض کیا ہے۔ اس رسالہ کے مضمون پر یا اس تعلیم پر عرض کیا ہے۔ جو اس رسالہ میں ہے۔ مثلاً۔

(یہ رسالہ) سکھاتا ہے کہ انسان کے بیٹے کو ابن اللہ کہو۔

(میں) لکھتا ہوں۔ اسلام اس کے برخلاف یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔

(رسالہ) سکھاتا ہے کہ تم اللہ کو ایسا جانو۔ جیسی تمہاری اولاد۔

(میں) قرآن مجید محمد صلعم کو خاتم النبیین کہتا ہے اور وہ خود سچا نبی صلعم فرماتا ہے۔ لا

نَبِيٌّ بَعْدِي

(رسالہ) ایک کلمہ گو آدمی کو اہل بیت رسول کریم صلعم سے بدرجہا بہتر مانو۔

(میں) جس اہل بیت کے واسطے قرآن مجید میں آیت تطہیر موجود ہے۔ جن کی عزت

نبی نے کلام اللہ کے برابر فرمائی ہے۔ جن کے مخالف کو جہنمی قرار دیا ہے۔ جن کو نبی نے کل جنتیوں

کا سردار فرمایا ہے۔ وہ اپنے ایک ادنیٰ امتی سے تقرب الی اللہ اور علوم و مدارج میں کسی طرح کم

ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ہر ایک قول کی تائید میں آیات قرآنی اور احادیث نبوی پیش کر دی

ہیں۔ پس اگر مقابلہ ہے تو اس رسالہ کا قرآن کریم اور حدیث نبوی سے مقابلہ ہے نہ کہ مجھ ناچیز کا

مرزا صاحب یا ان کے خدام سے۔

دوسرے مرزائی صاحب..... اگر تم اس خط کو شائع کر دو گے۔ تو تمہاری جان جو کھوں میں پڑ

جائے گی۔

میں..... اگر ان دوستوں کا یہ خیال ہے کہ مرزا صاحب بددعا کریں گے اور اس سے مجھے نقصان پہنچے گا۔ تو ان کے اس خیال پر افسوس کرتا ہوں وہ مہربانی فرما کر بہ نظر انصاف میرا خط پڑھیں۔ تو انہیں سے معلوم ہو جائے کہ جس شخص کے یہ باطل دعادی ہیں۔ جو قرآن مجید اور حدیث پاک کی رو سے کفر اور شرک تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ مستجاب الدعوات کس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر ان دوستوں کا یہ خیال ہے کہ مرزا صاحب یا ان کے حواری اپنے کسی خادم کو میری جان لینے کے واسطے تعینات کریں گے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ان کا یہ خیال بھی غلط ہے۔ مرزا صاحب اس کریکٹر کے آدمی ہوں گے۔ شاید ان دوستوں کا یہ خیال ان روایات پر مبنی ہو۔ جو عیسائیوں یا آریوں نے مرزا صاحب کی نسبت شائع کی ہیں۔ بالفرض محال ایسا ہو بھی۔ تو میرے ان نصیحت کرنے والے احباب کو خوش ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر میں کلمہ حق کہنے کے واسطے مارا بھی جاؤں گا۔ تو میراثِ جدی پاؤں گا۔ یا شاید یہ دھمکی مرزا صاحب کی تقلید میں ہو۔ کیونکہ مرزا صاحب بھی اس قسم کی دھمکیاں اپنے مخالفین کو دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی رسالہ کے ص ۳۴ سطر ۱۹ اور ۲۰ میں مرزا صاحب نے مولوی احمد حسن صاحب کو اسی طرح دھمکایا ہے۔ لیکن امر وہ یہ بھی مسخ موعود کی محیط ہمت سے دور نہیں۔ اس لیے اس مسخ کا کافر شدم ضرور امر وہ یہ تک پہنچے گا۔ لیکن حضرات کوئی معقول آدمی اس دم میں نہ آئے گا۔ یہ خالی خوبی دم جھانہ ہے۔ اس دم میں جس کا نام اس دم خم کے ساتھ کافر شدم رکھا گیا ہے۔ کوئی دم نہیں۔

بہر حال میں نہیں جانتا کہ ان کا مجھے دھمکانا اور ڈرانا کیا معنی رکھتا ہے اصل یہ ہے کہ یوں تو شاید میں اس خط کو شائع نہ بھی کرتا۔ مگر ان کے اس دھمکانے اور ڈرانے نے مجھے شائع کرنے پر مجبور کر دیا۔ کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے میرا ضمیر کہتا ہے کہ اگر تو میں کلمہ حق کو کسی کے خوف سے چھپاتا ہوں۔ تو میں ایمان کامل نہیں رکھتا، میرا عقیدہ ہے اگر کوئی شخص اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو ڈرائے کہ اگر تو نماز پڑھے گا۔ تو تجھ کو یہ نقصان ہوگا۔ اور اس ڈرانے سے وہ تارک الصلوٰۃ ہو جائے۔ تو وہ کافر ہے اسی طرح جو چند تعلیمات مرزا جو رسالہ واقع البلاء سے مجھے خلاف اسلام معلوم ہوئیں۔ اور میں نے ان کو بموجب حکم خدا اور رسول کفر و شرک سمجھا۔ مگر علانیہ ان کا اظہار نہ کیا۔ تو میں ایک حد تک گنہگار رہتا۔ لیکن جب مجھ کو ڈرایا گیا کہ اگر میں کلمہ الحق کا اعلان کروں گا۔ تو مجھ کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ تو اب میرا دھمکی کی وجہ سے اعلان قال اللہ وقال الرسول سے باز رہنا کفر کے درجہ تک پہنچتا ہے۔ پس مرزائی دوست مجھے معاف فرمادیں کہ میں اس خط کو شائع کرتا ہوں۔ اور صرف اس سبب سے کہ

اپنے اللہ اور اپنے رسول اللہ کے ساتھ قرار دیا جاؤں۔ نہ اس غرض سے کہ آپ کے نبی اور آپ کے ابن اللہ کو نچا دکھاؤں۔ اور ناموری حاصل کروں۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُوْرِ وَاِنْتَعَا الْاَعْمَالُ بِالْيَقِيْنَاتِ مرزا صاحب نے اپنی کل دعادی کی تصدیق اس رسالہ میں اس بات پر رکھی تھی۔ کہ قادیان میں کبھی طاعون نہ آئے گا۔ اور جو میرا معتقد ہوگا۔ وہ کبھی اس مرض سے نہ مرے گا۔ مگر چونکہ قادیان میں طاعون آ گیا۔ اور خاص قادیان میں اور دیگر مقامات میں بہتیرے مرزائی طاعون میں مر چکے۔ جن کی فہرست اس خط کے ساتھ شامل ہے۔ تو مرزائی دوست خود فیصلہ کر لیں کہ مرزا صاحب کہاں تک سچے رہے اور جو سچا نہیں وہ کاذب ہے اور کاذب کی نسبت قرآن کریم کیا لکھتا ہے۔ اب میرے مرزائی دوستو! ممکن ہے کیا آپ کا مجھے ڈرانا اور دھمکانا حق دوستی ادا کرنے کے ارادہ سے ہے۔ کیونکہ تم خود کسی دھوکا میں آ کر ڈر گئے ہو۔ اور اسی طرح مجھے بھی ڈراتے ہو۔ تو میں بھی حق دوستی ادا کرنے کی نیت اور آپ کو صراطِ مستقیم پر لانے کی غرض اور اس جموںے ڈر سے نکالنے کے واسطے خالصتاً اللہ عرض کرتا ہوں کہ اے میرے مکرم دوستو! مرزا صاحب کی تحریرات اور خصوصاً یہ رسالہ جو میں نے فور سے پڑھا ہے بتلاتا ہے کہ وہ نفسِ امارہ کے مطیع ہو کر اپنی بڑائی اور خود ستائی میں اس درجہ مجو ہیں۔ کہ اِنْسِي وَاسْتَكْبَرُوْا كِي حَتَّكَ بَنِيْعٌ گئے ہیں آپ ان کی تحریرات کو کوئی وقعت نہ دیں۔ چہ جائیکہ ان کو معتقدات میں شامل کر لیں۔

۰ اے مرزائی دوستو! میں نے دو چار موٹی موٹی باتیں اس رسالہ میں سے مخلصانہ طریق پر آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اگر آپ اس رسالہ کو بنظر انصاف ملاحظہ فرما دیں گے۔ تو مرزا صاحب کا ایک قول بھی اس قابل نہ پائیں گے۔ کہ کوئی سلیم العقل تسلیم کرے۔

انسان جس مذہب میں ہو۔ اس کو اس طرح خراب نہیں کرتا۔ جس طرح قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ یعنی اسلام کو مرزا صاحب نے اس رسالہ میں خراب کیا ہے۔ اور اب توجو معیار انہوں نے اپنی سچائی کا اس رسالہ میں قرار دیا تھا۔ اس کے بموجب وہ خود کاذب ثابت ہو گئے۔ تو آپ مرزائی معتقدات سے اب تو باز آئیں۔

۱ اول ..... اللہ تعالیٰ کو انہیں صفات کے ساتھ وحدہ لا شریک مانیں۔ جو قرآن مجید سکھاتا ہے۔

دوم ..... قرآن مجید کلام اللہ مان کر اس امر کا ایمانی یقین رکھیں۔ کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔

سوم ..... چونکہ وہ نبی پاک دین کی کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ کے نہ کہتا تھا۔ بلکہ ان حوالا وحی یوحی۔ پس اس نبی کے قول لَا نَسِيْ بِعَدِيْنِيْ. کو برحق سمجھیں۔

چہارم ..... تصدیق قلب کے ساتھ کہیں۔ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ابن اللہ ہوں۔ تو وہ کفر کہتا ہے۔

پنجم ..... اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو سچے دل سے پکار کر کہہ دو کہ ایسا دعویٰ کرنے والا کاذب ہے۔ کیونکہ خاتم النبیین کے اس قول کے بعد کہ لا نبی بعدی کسی کا دعویٰ نبوت کرنا قرآن مجید اور نبی کریم کو جھٹلاتا ہے۔

ششم ..... جو شخص اہل بیت نبی کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے وہ ضلالت میں ہے۔ ہفتم ..... اگر یہ دعویٰ برابری اور برتری کسی شخص اور نفسانیت کی وجہ سے ہے۔ تو وہ شخص جہنمی ہے۔ میرے اس قول کی تائید میں آپ کو آیات قرآنی اور احادیث نبویہ میرے اس خط میں آپ کو مل جائے گی۔ جو ایک مسلمان کے اطمینان قلب کے واسطے کافی اور وافی ہیں۔

اے میرے پیارے دوستو! مجھ سے ناراض نہ ہونا اور یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کے مرزا صاحب کو خدا نخواستہ برا کہتا ہوں۔ میرا یہ ارادہ مطلق نہیں۔ میں تو صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ رسالہ دافع البلاء جو تعلیم دیتا ہے وہ ضلالت ہے۔ جو شخص یہ تعلیم دیتا ہے وہ مسلمان نہیں اور اگر مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے تو سلیم احمق نہیں۔ اور جو شخص اس تعلیم کو اپنے معتقدات میں سمجھے۔ خسار الدنیا والاخرہ ہوگا۔

کلام لغو میگوئید ولی میخواند الہامش ہم ابن اللہ شدست و ہم رہ حق ی نهدنا مش۔  
خودش گمراہ شدت و خلق را ہم مکیند گمراہ کسی کی پیروش باشد نہ بنیم نیک انجامش  
والسلام علی من اتبع الهدی! خاکسار و اجد علی از ملتان  
ماخوذ از صمیمہ شحہ ہند میرٹھ۔ مطبوعہ مارچ ۱۹۰۳ء۔ نمبر ۱۰ جلد ۲۱ و ۲۲

## باب ۴۶ چہل و ششم لیکھرام کا قتل

انہیں کچھ رحم بھی آتا ہے یا رب وقتِ خونریزی  
چھری کو پیٹ میں جلاؤ جب یوں کھوب دیتے ہیں  
شام کا وقت ہے۔ ۶ بج گئے ہیں۔ آریہ سانج لاہور کے احاطہ کے اندر سے ایک حج کی  
آواز درد سے بھری ہوئی نکلے۔ ارے کوئی ہے دوڑو! مار ڈالا۔ اور قاتل ہاتھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔  
ادھر ادھر سے تو چل میں چل آدمیوں کا انبوہ اکٹھا ہو گیا۔



ایک کمرے میں چار پائی پر ایک جوان پڑا ہائے ہائے کر رہا ہے اور خون کا پر نالہ جاری ہے۔ ایک جوان اور حسین عورت پریشان حالت سر کے بکھرے ہوئے بال نوج رہی ہے۔ اور دھاڑیں مار مار کر روتی ہے۔ اغلب کہ یہ آواز اس کی عورت کی تھی۔

تماشائی..... ارے بھائیو! کیا ہوا خیر تو ہے۔ یہاں تو خون کا نالہ بہہ رہا ہے دیکھو تو کمرہ سے باہر تک آیا ہے۔

دوسرا..... ارے غضب ہوا۔ دن دھاڑے لاہور بھی پشاور ہو گیا۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے ایک خون سر بازار ہو گیا تھا۔ ان ظالم قاتلوں کو دوسرے کا درد یا خدا کا خوف نہیں۔ اپنی جان کا بھی اندیشہ نہیں کرتے۔

تیسرا..... کون مارا گیا کس نے مار دیا۔ کوئی لڑائی فساد کا شورغل ہی نہیں سنا۔ یہ کیا بات ہے؟ ابھی تو رات بھی نہیں جو کوئی چور مار گیا ہو۔ اندر جا کر دیکھا تو مجروح کے پیٹ میں چھری کا ایک گہرا زخم ہے۔ فوراً ڈاکٹر صاحب کو خبر ہوئی۔

ڈاکٹر..... زخم کاری ہے۔ امید نہیں کہ مجروح جانبر ہو سکے۔ صاحب مجسٹریٹ کو اطلاع دی۔ صاحب مجسٹریٹ نے مجروح کا اظہار قلمبند کیا۔

مجروح..... میرا نام پنڈت لکھرام ہے۔ میں آریوں کا اپدیشک ہوں۔ کچھ دن سے ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو لوگوں نے مسلمان کر لیا تھا پہلے میں ہندو تھا۔ اب میں پھر ہندو ہونا چاہتا ہوں۔ مجھ کو شدمی کر لیجیے۔ میں نے اس کو اپنے پاس ٹھہرنے کی جگہ دی۔ کہ تجھ کو شدمی کیا جائے گا۔ آج شام کو میں باہر سے آکر اپنے کمرہ میں لیٹنے کو آیا۔ بستر پر قدم رکھا۔ کہ ظالم (اس شخص) نے میرے پیٹ میں چھری ماری۔ کہ تابدستہ اندر چلی گئی۔ پھر مجھ کو خبر نہیں کیا ہوا۔ بیٹھا تو گرا۔ گرا تو بے ہوش۔

عورت..... میں مجروح کی بیوی ہوں۔ میں دوسرے کمرہ میں تھی۔ جب ظالم نے ضرب لگائی۔ اور ہائے کی آواز میرے کان میں پہنچی۔ میں فوراً اس طرف آئی۔ قاتل مجھ کو دروازہ میں ملا۔ میں نے اس کو پکڑا۔ مگر وہ جوان اور مضبوط مرد اور میں عورت ذات مجھ کو دھکا دیا۔ اور ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا۔

پولیس نے اور لوگوں سے دریافت کیا۔ سب نے لاعلمی بیان کی۔ تفتیش مقدمہ تلاش مجرم ہونے لگی۔ مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔

مجروح کا نہایت سرگرمی کے ساتھ علاج ہوا۔ مگر زخم کاری تھا۔ جانبر نہ ہوا۔ دن نکلنے

سے پہلے دم نکل گیا۔

ڈاکٹر صاحب نے مقتول کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا۔ اور نتیجہ پولیس میں بھیج کر لاش در ثاء مقتول کو دی گئی۔

آریوں نے مقتول کے حسب دستور جھنڈے و گلفین کا سامان کیا۔ گو جرنوالہ دامر تر وغیرہ کے آریہ بھی آگئے تھے۔ بڑے دھوم دھام سے اترتی نکالی گئی۔

پولیس کی تفتیش اور تلاش سے قاتل کا پتہ یا سراغ نہیں لگا۔

لوگوں کے دل پر اس ناگہانی موت کا سخت اثر ہوا۔ ہر ایک شخص کی آنکھ سے آنسو جاری ہنسی طاری ہوئی۔

پہلا..... اگرچہ نو سالہ بچہ دھبی نیست۔ این ماتم سخت ست کہ گوئند جواں مرد۔

دوسرا..... بھائیو! اس دنیا کے لیے بغض و عداوت حسد و کینہ سے تو تم میں میں کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ دنیا چند نفس ہے اس کا اعتبار کیا ہے ایک قدم اٹھایا۔ دوسرے کا بھروسہ نہیں۔ یہ چل چلاؤ لگی ہوئی ہے۔ کل شام پنڈت لکھرام بازار میں پھرتا تھا۔ اس کو خبر تھی کہ میں رات کو مر جاؤں گا۔ آج اس کو پھونکنے کے لیے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں خاک کی ڈھیر کے سوا نشان بھی نہ ملے گا۔ پھر وہ بھی نہیں۔

انسوس کہ عمر رفت ہوشیاری ہست

ور واکہ خیال خویہمتن واری ہست

فخاں کہ قافلہ عمر رفت نیم قدم

طریق راست نہ پیوود نفس کامل

تیسرا..... دنیا کے بھی کارخانے ہیں۔ ایک آتا ہے ایک جاتا ہے کہیں شادی ہے کہیں غم ہے کس کس کو روئیں اور کس کس کا غم کریں۔ آخر سب کے واسطے ایک روز یہ دن در پیش ہے۔

کسی کی مرگ پر اے دل نہ کیجیے چشم تر ہرگز

بہت سارے اس پر جو اس جینے پر مرتے ہیں

چوتھا..... آدمی اپنی آن کا پورا تھا۔ کسی سے دے کے نہیں چلا۔

پانچواں..... جب ہی تو یہ روز بد دیکھا۔ اکثر لوگ اسی وجہ سے اس کے دشمن ہو گئے۔ خصوصاً غیر

مذہب والے۔ منہ پھٹ تو تھا ہی۔ جو زبان پر آیا۔ بک دیا۔ تہذیب کلام یا زبان کو لگام تو تھا نہیں۔

چھٹا..... ذاتی عداوت تو کسی سے تھی نہیں۔ مذہبی جوش میں ہر ایک سے اڑ جاتا تھا۔ اس واسطے

سب سے براتھا۔

اس طرح جی کہ بعد مرنے کے  
گاہ گاہے تو کوئی یاد کرے

ساتواں..... مرزا قادیانی نے اس کے مرنے کی پیشگوئی کی تھی۔ اور میعاد مقررہ قریب الاختتام ہے۔ ڈپٹی عبداللہ آسٹم جو پیشگوئی کے موافق نہیں مرا تو قادیانی کو بڑی ذلت اور رسوائی ہوئی تھی۔ اس نے خیال کیا اگر یہ پیشگوئی خالی گئی تو میری بڑی رسوائی ہوگی۔ اور ہوا اکھڑ کر ساری دوکانداری خاک میں مل جائے گی۔ ہمارے خیال میں ان میں اس کی سازش ہے۔  
آٹھواں..... بعض کہتے ہیں کہ یہ عورت جو اس کے پاس ہے اس کی بیابتا نہیں ہے۔ اس کے وارثوں کا کام ہے۔

فکر ہر کس بقدر ہمت اوست

ہر ایک اپنی اپنی رائے زنی میں ہے۔ مقتول کی عورت کا حال نہایت اہتر تھا۔ اس کے دیکھنے سے پتھر کے دل پانی ہوتے تھے۔ اور اس کے بین سے سنگدل سے سنگدل بھی آٹھ آٹھ آنسو روتے تھے۔

عورت..... رو کر اور چھاتی پکڑ کر ہائے رے میرے پیارے مجھ سے کیوں روٹھا۔ میری خطا تو بتا۔  
کچھ بول تو سہی۔ ہائے اخیر وقت میں بات بھی نہ کی۔ اپنی کہی نہ میری سہی۔  
چلے ہو کس لیے ہو کر خفا سنو تو سہی  
تا دو پہلے ہماری خطا سنو تو سہی  
جو اب نہیں دیتے۔ کچھ تو کہو مجھ کو کس پر چھوڑا۔ کس کے سپرد کیا۔  
چھوڑا کر مجھ سے میرے خانماں کو  
چلا ہے چھوڑ کر تنہا کہاں کو؟  
میں تیری منتیں کرتی ہوں۔ مجھ کو بھی لے چل۔ یہ بے مروتی خلاف امید مجھ سے نہ کر۔  
مجھ سے کیا کیا وعدے وعید تھے سب بھلا دیئے۔

گر شریعت وصال نہیں موت ہی سہی

کوئی تو نکلے اس دل بیمار کی ہوس

(لوگ) آپ بدھواں ہیں۔ آپ کو مت دینا عقل کے خلاف ہے۔ صبر کرو۔

عورت..... میں نے بہت ضبط کیا۔ اب ضبط کا پارا نہیں رہا

اے جان غم فراق میں میں زہر کھا مردوں  
 اس کے سوا نہیں کوئی تدبیر دوسری  
 غرض بڑی سوزشیں غم و اندوہ کے ساتھ میت اٹھائی گئی۔ اور مرگھٹ میں صندوق کے  
 ڈھیر میں رکھ کر آگ لگا دی گئی۔ اور باہم گفتگو شروع ہوئی۔

پہلا..... اس میں تو کلام نہیں کہ مرزا قادیانی کا الہام تھا۔ اس قتل میں اس کی سازش ہے۔ عام  
 مسلمانوں کو بھی مقتول کی بدزبانی کا سخت رنج تھا۔ عجب نہیں کہ وہ بھی اس مشورہ میں شامل ہوں۔  
 دوسرا..... بھائی مرزا اور مسلمانوں پر ہی کیا حصر ہے۔ ہندو، برہمن، عیسائی، سکھ بھی کون سے اس کی  
 تیغ زبان کے زخم سے بچے تھے۔ سب ناراض ہیں۔ خوش کون تھا؟  
 آریہ..... (جوش کے لہجے میں) مسلمانوں کے جس قدر لیڈر (رہنما) ہیں ان سب کو جام شہادت  
 پلایا جائے۔ تو سہی۔

مسلمان..... بھائی! مسلمانوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ مقتول نے اپنی  
 بے خبری اور زبان درازی سے مذہبی اور قومی وکیل بن کر سالہا سال دل کھول کر اسلام اور اس کے  
 ہادی ﷺ کو برا بھلا کہا۔ اور براہین احمدیہ کے جواب میں چند کتابیں جو فقط بدکلامی اور بے تہذیبی  
 سے پُر ہیں اور بڑا حصہ ان کا عیسائی حصبوں کی تحریرات سے انتخاب ہوا ہے ادھر ادھر سے اکٹھا  
 کر کے چھپوا کر شائع کرائی ہیں۔ اور عام جلسوں میں زبانی تقریروں میں بھی اسلام اور بانی  
 اسلام ﷺ کو گالیاں سنائی ہیں۔ مسلمانوں کا دل دکھایا ہے۔ تو ان سے اور مذہب والے کون خوش  
 ہیں۔ وہ (مقتول) جوان چلتا پھرتا منہ پھٹ زبان دراز آدمی تھا۔ پنڈت مقتول سے جیسے کہ  
 مسلمان آزار سیدہ اور ناخوش تھے ویسے ہی ہندو بھی تھے۔ ممکن ہے کوئی ہندو ہی اس کا قاتل ہو۔  
 مذہبی جوش سب قوم میں ہے۔ یہ (مقتول) ہندوؤں کے بزرگوں کو بھی پانی پی کر کوستا تھا۔ جیسا  
 کہ اوروں کے بزرگوں کو۔

آریہ..... بھائی! تمہارے ساتھ ہماری گفتگو نہیں ہے براہین احمدیہ کا جواب پنڈت لکھرام نے  
 سخت دیا تو کیا غضب کیا؟ اس نے بھی کتاب مذکور اور دیگر رسائل میں ہندوؤں کو کوسنا اور ان کی  
 بہو بیٹیوں کو گالی دینا۔ اور اپنے الہامات میں ان کو دھمکانا اور الہامی قتل سے ڈرانا اور ان کے  
 معبودوں کو برا بھلا شروع کیا تھا۔

کلونخ انداز را پاواش سنگ ست  
 مسلمان..... صاحب اس کا تو ہم کو بھی اعتراف ہے۔ مرزا قادیانی کی بدزبانی اس بدگوئی کی علت

ہے۔ مگر قادیانی کا مسلمانوں سے تعلق کیا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں بہت ہی کم لوگ ہیں۔ جو الہامی صاحب (مرزا قادیانی) کو مسلمان سمجھتے ہوں۔ جمہور علماء اسلام ان کو اسلام سے خارج کر کے تکفیر کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ اور اس کو کافر کا ذب کہتے ہیں اور اس (قادیانی) کی ایسی کارروائی ہے کہ وہ لوگوں کو گالیاں دیتا اور غیر مذہب کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ وہ بھی ناراض ہیں۔ جو اس کو کافر نہیں کہتے۔ مگر گمراہ اور خطا کار سمجھتے ہیں۔

آریہ..... وہ (قادیانی) اپنے آپ کو مسلمانوں کا وکیل امام اور مجدد بیان کرتا ہے اور خود مسلمان کہلاتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کی سازش سے یہ قتل واقعہ ہوا۔ کیونکہ اس کے الہام کی تصدیق اس قتل سے ہوتی ہے۔ گود و سرائے مانے۔ مگر وہ تو اپنے خیال میں یہ سمجھے ہوئے ہے۔ اور تھوڑی دنوں کا ذکر ہے کہ عبداللہ آتھم کی پیشگوئی جھوٹی ہونے پر اس کی کس قدر تذلیل اور تضحیک ہوئی۔

مسلمان..... اس میں ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اس کی نسبت اپنا اشتباہ ظاہر کریں۔ یا یقین کو اپنے دل میں جگہ دیں۔

## باب ۷۴ چہل و ہفتم

عبداللہ آتھم کی پیش گوئی ہر اخبار عام کا تبصرہ

یارب وہ نہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات

دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان اور

آج قادیان میں عجیب چہل پہل مچی ہوئی ہے درود یوازے سے فرح و انبساط کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ شادی و کامرانی کے چہچہا بلند ہیں۔ گو کچھ کچھ آریوں کے گھروں میں صف ماتم چھٹی ہوئی ہے۔ سوگ کا سامان نظر آتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب کا دربار شاہانہ اور جلوس ملوکانہ منعقد ہے اور ہر ادنیٰ و اعلیٰ کی مارے خوشی کے باجھیں جاری ہیں۔ ریشہ مختلطی ہو رہے ہیں۔ بند قبا ٹوٹے جاتے ہیں۔ کوٹوں کے ٹنن ایسے اڑتے ہیں۔ جیسے بوتل کے کاک۔ ہر ایک سینہ او بہارے نتھنے پھیلائے نہایت رستخیز سے سینہ کو چوڑائے بیٹھا ہے اور چہرہ پر خوشی کے مارے ایک رنگ آتا اور ایک جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود مہدی مسعود امام زمان مرزا صاحب بھی رونق افروز ہیں۔ آج ادب و تعظیم معاف ہے۔ قہقہہ اور خوش آوازیں ہو رہی ہیں۔ چھوٹ ہے جو جس کا جی

چاہے کہے۔ لیکھرام کے قتل کا ذکر نہایت رنگ آمیزیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تہنیت اور مبارکباد کا شور ہے۔

مرزا صاحب..... (اخبار ملاحظہ فرماتے ہوئے) اخبار عام ۱۰ مارچ ۱۸۹۷ء ہماری نسبت اشارہ کر کے لکھتا ہے کہ ایک عیسائی ڈپٹی صاحب کی پیشگوئی فوت ہونے کی در عرصہ ایک سال ششہر کی گئی ہے۔ اور اخباروں میں اس کا چرچہ تھی اور خدا نخواستہ ان ایام میں اگر ڈپٹی صاحب کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جاتا۔ (یعنی قتل) جس کا خمیازہ لیکھرام صاحب کو بھگتنا پڑا ہے۔ تب اور صورت تھی۔

اب ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ایڈیٹر صاحب کی اس تقریر کا کیا مطلب ہے۔ بس یہی مطلب ہے۔ کہ اگر ڈپٹی آتھم صاحب قتل ہو جاتے۔ تو ایڈیٹر صاحب کے خیال میں گورنمنٹ کو پیشگوئی کرنے والے کی نسبت فی الفور توجہ پیدا ہوتی۔ اور تفتیش ہوتی۔ جواب نہیں ہے۔

حواری..... اس تقریر سے ایڈیٹر صاحب کی کوئی نیک نیت نہ ہوگی۔

مرزا صاحب..... نہیں یہ تقریر ایک سطحی خیال اور خلاف سمجھ کا داغ رکھتی ہے۔

حواری..... اور یہ تو حضور نے غور نہیں فرمایا۔ افسوس تو اس کا ہے۔

مرزا صاحب..... ہاں ہاں میں خوب جانتا ہوں۔ ایڈیٹر صاحب کی تقریر سے پایا جاتا ہے۔ کہ آتھم کی نسبت پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔

حواری..... یہی تو میں عرض کرتا تھا۔

مرزا صاحب..... ”ہم مختصر طور پر یاد دلاتے ہیں۔ کہ وہ پیشگوئی بڑی صفائی سے پوری ہوئی۔ آتھم صاحب میرے ایک پرانے ملاقاتی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ زبانی اور ایک خاص رقعہ کے ذریعہ سے بھی الحاح کیا تھا۔ کہ اگر میری نسبت کوئی پیشگوئی ہو اور وہ سچی نکلے تو میں کسی قدر اپنی اصلاح کروں گا۔ سو خدا نے ان کی نسبت یہ پیشگوئی ظاہر کی۔ کہ وہ پندرہ مہینے کے عرصہ میں ہادیہ میں گریں گے۔ مگر اس شرط سے کہ اس عرصہ میں حق کی طرف انہوں نے رجوع نہ کیا ہو۔ پس چونکہ خدا کی ہیش گوئی میں ایک شرط تھی۔ آتھم صاحب خوفناک ہو کر اس شرط کے پابند ہو گئے تھے۔ پس ضرور تھا کہ وہ اس شرط سے فائدہ اٹھاتے۔ لہذا شرط کی تاثیر سے ان کی موت میں کسی قدر تاخیر ہو گئی۔“

حواری..... حضور اگر کوئی معترض اعتراض کرے۔ کہ اس کا ثبوت کہ انہوں نے دل میں اسلام کی طرف رجوع کیا اور ان پر اسلام کی پیشگوئی کا خوف غالب آ گیا تھا۔

مرزا صاحب..... ”جب خدا نے ہم کو اطلاع دی۔ کہ آتھم نے شرط سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اس

کی موت میں ہم نے کچھ تاخیر ڈال دی۔ تو ہم نے آتھم کو چار ہزار کے انعام پر قسم کھانے کے لیے بلایا۔ اور وہ نہیں آیا اور نہ اس نے قسم کھائی۔“ (سراج النبی ص ۱۸۰، ۱۸۱، خزائن ج ۱۲ ص ۲۰، ۲۱) حالانکہ یہ ان کو صاف اقرار تھا کہ میں میعاد کے اندر ڈرتا رہا۔ مگر الہامی ہیبت سے نہیں۔ بلکہ تعلیم یافتہ سانپ اور حملہ وغیرہ سے۔

حواری..... آخر مر ہی گیا۔ اس وقت نہ مرا، چند ماہ بعد کہی۔

مرزا صاحب..... ”میرے الہام میں یہ بھی تھا۔ اگر آتھم سچی گواہی نہیں دے گا۔ اور قسم نہ کھائے گا۔ جب سے اصرار کے بعد جلد مرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور آتھم صاحب میرے آخری اشتہار سے سات مہینے کے اندر مر گئے۔“ (سراج النبی ص ۱۸، خزائن ج ۱۲ ص ۲۱)

حواری..... اس میں کلام کیا ہے؟ حضور آخر مرنا ہی تھا اور کیوں نہ مرتا۔ اور حضرت جی یہ سب تباہ ہوں گے۔ یہ بھی اس ملعون (لکھنؤ ام) کی طرح لقمہ وہان اجل ہوں۔ تو حقیقت معلوم ہو۔  
مرزا صاحب..... اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہماری اہانت کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اور پھر ذلیل ہوگا۔ اگر اب شیخ بنالوی اور دیگر مولویوں نے اس الہام (قتل) کی تصدیق نہیں کی؟ ان کو بھی یہ رد زبہ پیش آئے گا۔

حواری..... آمنا و صدقنا کے نبی اور مرسل کی توہین نمودن باللہ۔ تو بہ ہزار تو بہ۔

مرزا صاحب..... ”یہ آریہ لوگوں کی بالکل غلطی ہے۔ جو گورنمنٹ کی طرف سے خیال کرتے ہیں کہ لکھنؤ ام کے مقدمہ میں سچی نہیں کی ہے اور آتھم کے مقدمہ میں اگر وہ قتل ہو جاتا۔ تو سستی نہ کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہندو مسلمانوں کو دونوں آنکھوں کی طرح برابر دیکھتی ہے۔ لیکن گورنمنٹ کا اس میں کیا قصور ہے۔ اور کون سی سستی کی۔ کس قاتل کو آریہ صاحب کس ثبوت کے ساتھ گرفتار کرانا چاہتے ہیں۔ جس کے پکڑنے میں تاہل ہے لیکن خدا کی پیشگوئیوں میں دخل نہیں دے سکتے۔ وہ اہل کتاب ہے خدا سے منکر نہیں۔ جو عالم الغیب آئندہ زمانے کی اس طرح خبر دے۔ گویا وہ موجود ہے۔ کیا چھ سال کی میعاد بیان کرنا اور عید کے دوسرے دن کا پتہ دینا۔ اور صورت موت بیان کر دینا یہ خدا سے ہونا محال ہے؟ اگر خدا سے محال ہے۔ تو ان قیدیوں کے ساتھ انسان کی ایسی پیشگوئی کیونکر ممکن ہے؟ کیا دور دراز عرصہ سے ایسی صحیح خبریں دینا انسان کا کام ہے؟ اگر ہے۔ تو اس کی دنیا میں کوئی نظیر پیش کرو۔“ (سراج النبی ص ۱۹، خزائن ج ۱۲ ص ۲۲، ۲۳) حواری..... اخبار والوں نے اس پیشگوئی سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ایک منصوبہ تھا جو پیشگوئی کے طور پر مشتمل کیا گیا۔

مرزا صاحب..... ”اس بات کو ہم خود مانتے ہیں کہ پیشگوئی کی تشریح میں فہم الہی سے بار بار ظاہر کیا ہے کہ وہ بیبت ناک طور پر ظہور میں آئی گی اور نیز یہ کہ لکھرام کی موت کسی بیماری سے نہیں ہوگی بلکہ خدا کسی ایسے کو اس پر مسلط کرنے کا جس کی آنکھوں سے خون نپکتا ہوگا۔ مگر پنجاب سماچار نے ۱۰ مارچ ۱۸۹۷ء میں الہام کے حوالہ سے جو عید کا دن لکھا ہے یہ اس کی غلطی ہے۔ الہام کی عبارت یہ ہے کہ ستمبر یوم العید والعید اقرب۔ یعنی تو اس نشان کو جو عید کی مانند ہے پہچان لے گا۔ اور عید اس نشان کے دن سے بہت قریب ہوگی۔ یہ خدا نے خبر دی ہے کہ عید کا دن قتل کے دن کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ (سراج المبرور ص ۲۱، خزائن ج ۱۲ ص ۲۳، ۲۵)

حواری..... کوئی نہیں سوچتا۔ کیا یہ انسان کا کام ہے کہ تاریخ بتلائی گئی۔ دن بتلایا گیا۔ سبب موت بتلایا گیا۔ اور اس حادثہ کا وقوع بیبت ناک طرزی ظہور میں آنا بتلایا گیا۔ اشدھ السنہ کے پرچہ پیش کر کے۔ یہ حضور نے ملاحظہ فرمایا۔

مولانا محمد حسین صاحب..... چھریوں والے الہام کا کہیں وجود معلوم نہیں ہوتا۔ اور یوم العید والے الہام میں قتل لکھرام کا کہیں ذکر یا اشارہ تک نہیں اس میں کشف کی آپ نے سرمہ چشم آرہے میں کچھ معنی لیے ہیں اور قتل لکھرام کی بابت کچھ لیے ہیں۔ براہین احمدیہ کے الہامات میں سے علیٰ ہذا تقیاس بعد قتل لکھرام کے معنی گزر کر ڈالے گئے ہیں اس سے آپ یا آپ کے ملہم کے خیال میں ہے۔ یہ معنی نہیں تھے۔ اس باب میں جو کچھ آپ نے کہا ہے، سفید جھوٹ ہے۔ ہاں اس قدر مسلم ہے کہ چھ سال کی میعاد قتل لکھرام کے لیے اشارہ ۲۰ فروری ۱۸۹۳ء میں ضرور مقرر کی گئی تھی۔ مگر اس میعاد کے مطابق یہ قتل وقوع میں نہیں آیا۔

بلکہ اس میعاد سے دو سال پہلے چار ہی سال کے بعد قتل وقوع میں آیا۔ اس سے وہ پیشگوئی جھوٹی ہے نہ تھی۔

جو لوگ چار اور چھ میں فرق کر سکتے ہیں۔ وہ اس پیشگوئی کے جھوٹے ہونے میں شک نہ کریں گے۔ اس کے جواب میں اگر الہامی صاحب بھی کہیں کہ چار کا وعدہ چھ کے عدد میں داخل ہے۔ لہذا چار سال پیشگوئی کے پورے ہونے سے چھ سال میں اس کا پورا ہونا صادق آسکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا چار کا عدد چھ میں داخل ہے۔ دس میں اور سو تین بھی داخل ہیں۔ پھر کیا اس نظر سے جو واقعہ چار سال میں واقع ہونے والا۔ اس کا دس، بیس، سو برس، تین کی میعاد میں وقوع بیان کرنا اور اس کو تھی اور کرامت کے طور پر مخالفین کے مقابلہ میں پیش کرنا جائز ہے؟ نہیں



نہیں ہرگز نہیں۔ اس سے تو توحیدی اور کرامت باطل ہوتی ہے اور توحیدی اور کرامت اور اخبار غیب تو اسی صورت میں متصور ہے کہ جو اس واقع کے وقوع کی اصلی حد ہو۔ وہ بتا دی جائے۔ کسی میعاد قریب کو بید کر کے بتانا نہ صرف بطل توحیدی و خلاف کرامت ہے بلکہ وہ حکمت کے بھی برخلاف ہے اور سراسر حماقت اور سفاقت ہے جو خدا حکیم و عظیم و ملہم الصادقین کی شان کے مخالف ہے۔ اور اس کا عکس کہ ایک امر بیدار وقوع کو ایسے سچے اور صحیح الفاظ میں بیان کرنا جس سے اس کا قریب ہونا مفہوم ہو۔ عین حکمت ہے۔

اس اصول سے اسلام میں اور پہلے دینوں میں قیامت کو قریب بتایا گیا ہے۔ باوجودیکہ ہزار برس گزر چکے ہیں۔ اور اس وجہ سے خبر فتح روم کو جو سات برس میں واقع ہونے والی تھی۔ لفظ بضع سے اس کا اطلاق عرب میں تین سے نو تک ہوتا ہے۔ اور اس لفظ کے بولنے سے تیسرے ہی سال کے بعد فتح کی امید شروع ہو گئی تھی۔ اور اس سے دوستوں کو خوشی اور دشمنوں کو خوف پیدا ہو گیا تھا۔ بتایا گیا ہے جس کی تفصیل ہمارے مضمون خط میں صفحہ ۳۳۶ جلد ۱۷ میں ہے۔ الہامی صاحب نے موت لکھرام کے متعلق پیشگوئی میں اس اصول حکمت کا خلاف کیا۔ اور اس سے یہ ثابت کیا۔ کہ وہ پیشگوئی الہامی اور روحانی نہ تھی۔ بلکہ ایک وسوسہ شیطانی تھا۔ جو جھوٹا نکلا۔ ایک وجہ اس پیشگوئی شش سالہ کی جھوٹی نکلنے اور سچی نہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ اس عذاب کی (جس کی اس پیشگوئی میں خبر دی گئی ہے) الہامی صاحب کے آئینہ کمالات کے صفحہ اخیر میں ان الفاظ سے کہ وہ غیر معمولی اور خارق عادت ہوگی۔ تفسیر کی ہے۔ چنانچہ کہا ہے کہ اگر اس شخص پر چھ برس کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا۔ جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اندر بہت الہی رکھتا ہو۔ تو سمجھو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ اور یہ قتل جس کیفیت سے وقوع میں آیا ہے۔ وہ معمولی کیفیت ہے۔ نہ نرالی، نہ غیر معمولی، نہ خارق عادت، ایسے واقعات صد ہا وقوع میں آتے ہیں۔ ہسپتالوں میں جا کر زخمی لاشیں دیکھ لو۔ پولیس اور عدالت میں ایسے صد ہا کیس ملاحظہ کر لو۔ تھوڑے دن ہوئے کہ لاہور کے بازار انارکلی میں ایک میم کو ایک فقیر نے چھری سے مار ڈالا۔ اس سے پہلے چھاؤنی پشاور کے اسٹیشن پر ایک فوجی افسر کو ایک سرحدی افغان نے چھری سے قتل کیا۔ ایسے واقعات کو آنکھوں سے دیکھنا ہو تو پشاور کے قریب چلے جاؤ۔ اور مشاہدہ کر لو۔

ایسے واقعات کو کوئی ذی عقل اور صاحب فہم معمولی سی نرالی اور خارق عادت نہیں کہہ

سکتا۔ معمول سے نرالے اور خارق عادت عذاب وہ تھا جو پہلے نبیوں کے منکروں پر آئے۔ کوئی زمین میں دھنسیا گیا کوئی آسمانی سخت آواز سے ہلاک ہوا۔ کسی پر آسمان سے پتھر برسے اور کئی غیر معمولی طور پر یہ بیت جمعی غرق آب ہوئے۔ جن کا ذکر قرآن میں سورہ عنکبوت کے رکوع ۲ میں ہوا ہے۔ آج کل کا طاعون جو بمبئی اور کراچی پر مسلط ہے۔ کاش اسی کا حصہ اکیلا لکھنؤ کو پہنچتا۔ تو بھی تسلیم کیا جاتا کہ اس شہر میں جو عذاب سے مامون ہے۔ صرف لکھنؤ کے لیے وہ غیر معمولی اور خارق عادت عذاب ہے۔ چھری مارنے کو جو رات دن لوگوں کو لگتی ہے۔ غیر معمولی اور خارق عادت قرار دینا آپ ہی کا کام ہے جو الہام سے ہوتا ہے۔ اس بیان سے یہ ثابت ہوا کہ پیشگوئی اور اس کے متعلق جس قدر الہامات الہامی صاحب نے بیان کیے ہیں۔ وہ سچے نہیں نکلے بلکہ سراسر کذب و فریب ظاہر ہوئے۔

حواری..... حضور نے دیکھا۔ جس قدر الہام و دلائل اس میں گزرے گویا وہ اپنے دلائل لا طائل سے باطل کر چکے۔ براہین احمدیہ کے الہامات جو تیرہ برس اس واقع سے پہلے ہوئے۔ اور سرمہ چشم آریہ کا کشف جو بارہ برس پیشتر ہوا۔ اور الہامات سب کا بطلان کر دیا۔ اپنے خیال میں شرمہ لگا نہیں رکھا۔

مرزا صاحب..... خدا جانے یہ شخص کیسا ضدی ہے ہار مانتا ہے نہ جیتے بنتی ہے۔ اس کی چالپوسی بھی کی ہے۔ طبع بھی دیا کہ ہم کو الہام ہوا ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب رجوع کریں گے۔ سراج المنیر میں شائع بھی کر دیا۔ مگر پتھر پر جو تکب لگتی ہے۔ کچھ اثر نہ ہوا۔ تلا ہوا بیٹھا ہے۔ بات منہ سے نکلے اور کاٹے۔ ہم نے (۱۱/۱۱ اپریل ۱۸۹۷ء، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۸۳ حاشیہ) کے اشتہار میں لکھا ہے اگر جلسہ عام میں میرے روبرو مولوی محمد حسین صاحب قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ یہ پیشگوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی اور نہ سچی نکلی اور اگر خدا کی طرف سے تھی اور فی الواقعہ پوری ہو گئی۔ تو اسے قادر مطلق ایک سال کے اندر میرے پر کوئی عذاب شدید نازل کر۔ پھر اگر مولوی صاحب موصوف اس عذاب شدید سے ایک سال تک بچ گئے۔ تو ہم اپنے تئیں جھوٹا سمجھیں گے۔ اور مولوی صاحب کے ہاتھ پر توبہ کریں گے اور جس قدر ہمارے پاس اس بارہ میں الہام ہوں گے جلا دیں گے۔

حواری..... غریب نوازا! مولوی صاحب نے اس بات کا جواب بھی تو اس پرچہ میں لکھا ہے۔ مولوی صاحب..... اگر آپ کا وہ الہام بھی سچا تھا۔ جو تین بار آپ کو ہوا ہے۔ اور خدا کی طرف سے تھا اور آپ اس کے بیان میں سچے تھے۔ تو پھر آپ کو میری مخالفت اور مخالفانہ تحریر کی فکر کیوں

پڑی۔ جب میں آپ کی طرف رجوع اور آپ کے موافق ہونے والا ہوں۔ تو چاہوں ہزار مخالفت کروں۔ آخر میدان تو آپ کے ہاتھ آنے والا ہے..... لہذا اس یقین کرنے کی کافی وجہ بھی موجود ہے۔ وہ الہام آپ کا محض افتراء ہے۔ جس سے آپ کی غرض یہ ہے کہ خاکسار آپ کی پیشگوئی کی نکتہ چینی نہ کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں۔ مخالفانہ تحریر کی کیا ضرورت ہے۔ مہبلہ سے آسانی سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔

یہ خاکسار اپنی نیک نیتی اور سچائی کی نظر سے اور خدا تعالیٰ کو ناصر و معاون حق ہونے کے امید و بھروسہ پر آپ کی دعوتِ قسم کی قبول کرنے کو بغیر کسی معاوضہ یا تاوان کے حاضر ہے۔ وغیرہ  
از اشاعت السنہ نمبر ۲ جلد ۱۸ ص ۵۱ و ۵۲۔

حواری..... عجیب ولیر اور ضدی آدمی ہے۔ خدا کے نبی اور مرسل کے مقابلہ میں مہبلہ کو بھی تیار ہے۔

مرزا صاحب..... (آشفٹہ خاطر سے) حاسد ہے۔ کم بخت اپنی جان کا بھی خوف نہیں کرتا۔ ہمارا مقابلہ گویا خدا کا مقابلہ ہے۔

ظریف..... حضور! ”گھر کا بھیدی لٹکا ڈھائے“ یہ ایک مشہور مثل ہے۔ وہ بھی تو آپ کے ہم مکتب ہیں۔ ساتھ کھیلے۔ ساتھ پڑھے۔ ایک استاد کی شاگردی کی۔ ان کا شک و حسد بھی بجا ہے بے جا نہیں۔ آپ کے ایک بھائی مرزا امام الدین چوہڑوں کے پیر سلطان العارفین ہو جائیں اور ایک نمبر دوس کے سردار اور آپ کے مدارج علوی کا تو ذکر کیا ہے۔ امام، مجدد، محدث، مسیح موعود، مہدی بنے نظیر انبیاء و اصفیاء سے اولیٰ و افضل بلکہ خدا اور خدا کے بیٹے اور خدا کے باپ بھی بن گئے۔ جو آدم سے لے کر آج تک کسی کو یہ منصب نہ ملا۔ اور نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا۔

مولوی صاحب بے چارے نے برسوں جان کھپائی دماغ کھپایا۔ مغز کھایا گھر بار چھوڑا۔ اپنے بیگانے کا رشتہ توڑا۔ استاد کی خدمت کی۔ جوتیاں اٹھائیں۔ مولوی کے مولوی رہے۔ جو حضرت (مرزا صاحب) کے دربار سے ہر ایک کندہ ناتراش کو بے چھیلے چھلائے خرد پر چڑھائے یہ خطاب عطا ہو جاتا ہے۔ بس بیعت کی دیر ہے۔ ساتوں طبق کھلے۔ عالم فاضل بن گئے۔ حقائق و معانی قرآنی اور نکات و حدیث و انبی کے واقف اور ماہر ہو گئے۔ اور واقف بھی ایسے کہ صحابہ کرام اور تابعین کا کیا ذکر ہے۔ نبی کریم ﷺ کی بھی سمجھ میں جو بات نہ آئی۔ وہ ان کو بتلائی گئی۔ مولوی صاحب بھی انسان ہیں۔ کوئی فرشتہ نہیں۔

حواری..... لو اور لیجیے۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری بھی پانچوں سواروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بھی اس پیشگوئی کے صادق ہونے سے منکر ہیں۔

مرزا صاحب.....

سخت مشکل ہے سخت ہی بیداد  
ایک میں خوں گرفتہ سو جلا

تمام دنیا مسلمان عیسائی، ہندو، آریہ میری مخالفت پر دکھا کھائے بیٹھے ہیں۔

اور یہ میرے ساتھ ہی مخصوص نہیں۔ پہلے صادقوں اور خدا کے مرسل اور نبیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا ہے۔ اب دیکھو اس تمام پیشگوئی کا ماحصل یہ ہے۔ ایک ہیبت ناک واقعہ ہوگا۔ جو چھ سال کے اندر وقوع میں آئے گا۔ اور وہ دن عید کے دن سے ملا ہوا ہوگا۔ یعنی ۲ شوال کا ہوگا (سراج النہیر ص ۲۱، خزائن ج ۱۲ ص ۲۵) اس کا تمام نقشہ برکات الدعاء کے مضمون میں دکھایا گیا ہے۔ کیا یہ کسی منصوبہ باز کا کام ہو سکتا ہے؟ کہ چھ برس پہلے ایسے صریح نشانوں کے ساتھ خبر دیدی۔ اور خبر پوری ہو جائے۔ تو ریت گواہی دیتی ہے کہ جھوٹے نبی کی پیشگوئی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ خدا اس کے مقابل پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تا دنیاتاہ نہ ہو۔

حواری..... ان کی یہ بدگمانی ہے کہ حضرت کے کسی مرید نے لکھرام کو مار دیا ہوگا۔ یہ کیسا شیطانی خیال ہے۔

مرزا صاحب..... ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ مریدوں کا مرشد کے ساتھ ایک نازک تعلق ہوتا ہے۔ اور اعتقاد کی بنیاد تقویٰ اور طہارت اور نیکو کاری پر ہوتی ہے۔ جس قدر دنیا میں نبی اور مرسل گزرے ہیں۔ یا اگلے مامور اور محدث ہوں۔ کوئی شخص ان کے مریدوں میں اس حالت میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہوگا۔ جبکہ ان کو مکار اور منصوبہ باز سمجھتا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری جماعت میں بڑے بڑے معزز داخل ہیں۔ بی اے۔ ایم اے اور تحصیل دار اور اکثر اسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کلکٹر اور بڑے بڑے تاجر اور ایک جماعت علماء و فضلا کی۔ تو کیا یہ تمام لہجوں اور بد معاشوں کا گروہ ہے۔ ہم با آواز بلند کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں نہایت نیک چلن اور مہذب اور پرہیزگار لوگ ہیں (سراج النہیر ۲۲، ۲۳، خزائن ج ۱۲ ص ۲۵، ۲۷) کوئی ان سے پوچھے کہ لوگوں میں بھی بڑے بڑے اوتار گزرے ہیں۔ جیسے رام چندر اور راجہ کرشن صاحب۔ کیا آپ لوگ ان کی نسبت یہ گمان کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت کیونکر اور کن الفاظ سے آریہ صاحبان کی تسلی دیں۔ کہ بد معاش کی چالیں ہمارا طریق نہیں ہے۔ ایک انسان کی جان سے ہم دردمند ہیں۔ اور خدا کی ایک پیشگوئی سچ

ہونے پر ہم خوش بھی ہیں کاش وہ سوچیں اور سمجھیں۔ کہ اس اعلیٰ درجہ کی صفائی کے ساتھ کئی برس پہلے خبر دینا انسان کا کام نہیں ہے۔ ہمارے دل کی عجیب حالت ہے۔ درد بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ درد اس لیے کہ اگر لکھنؤ میں رجوع کرتا، زیادہ نہیں تو اتنا ہی کرتا۔ کہ وہ بد زبانوں سے باز آجاتا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں اس کے لیے دعا کرتا۔ اور میں امید رکھتا تھا کہ اگر وہ کلکڑے کلکڑے بھی کیا جاتا تو زندہ ہو جاتا۔ وہ خدا جس کو میں جانتا ہوں۔ اس سے کوئی بات انہونی نہیں۔ خوشی اس بات کی کہ پیشگوئی نہایت صفائی سے پوری ہوئی۔ آتھم کی پیشگوئی پر بھی اس نے دوبارہ روشنی ڈال دی۔

حواری..... ایک خاص بہادر مسلمان پیہ اخبار کا اڈیٹر اپنی وسعت اور کثرت کی وجہ سے بڑا دلیر تھا۔ اس نے پرچہ ۲۰ مارچ ۱۸۹۷ء میں حضور سے ڈر کر التجا کی ہے کہ مجھے کچھ عرصہ زندہ رہنے دیجیے۔ اور میری نسبت کوئی پیشگوئی نہ کیجیے گا۔ اور ۲۷ مارچ کے پرچہ میں اس جواب کو جواب معقول تسلیم کر کے تائید کرتا ہے۔ مگر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اس کی تردید کرتے ہیں۔

مولانا محمد حسین صاحب..... حاصل جواب الہامی صاحب یہ ہے کہ اخبار پنجاب سماچار میں جو مجھ پر سازش قتل کا الزام لگایا۔ اور یہ کہا ہے کہ اس کے مرید نے مقتول کو قتل کر دیا ہوگا۔ اس سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے راجہ رام چندر یا کرشن نے کسی اپنی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے ایسا جیلہ کیا۔ اور کسی جیلہ سے کہا تھا؟ کہ میری عزت رکھنے کے لئے ایسا کرنے پر اگر مرید سے یہ کہے تو وہ اس کا معتقد اور مرید کب رہتا ہے۔

اس جواب کے نامعقول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہندو آپ پر سازش قتل کا الزام لگاتے ہیں۔ اور آپ کے مریدوں کو ایک صاوق پیر کے مرید کب خیال کرتے ہیں۔ وہ تو ہندو ہیں اکثر مسلمان آپ کو فریبی اور آپ کے کئی مریدوں کو بناوٹی مرید اور کرایہ کے ٹٹو خیال کرتے ہیں۔ اور ”یکے دُڈ دباشد۔ یکے پروہ دار۔“ کا مصداق *نِصْفَ لِيْ وَ نِصْفَ لَكُمْ* کے شرکاء۔

آپ جو ایسے مریدوں کی پاکی و نیک چلتی بیان کرتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں وہ ان کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ کہ وہ اسلامی انجمنوں کے وکیل بن کر اور ان کی طرف سے واعظ ہو کر بنگالی عورتوں کے اغوا کے مقدمات میں ماخوذ ہوئے۔ گو آخر مستغیث کو جھوٹا وعدہ دے کر ہم تیری عورت کو علیحدہ کر دیں گے۔ سزا سے بچ گئے۔ مگر عورت کو علیحدہ نہ کیا۔ اور انجمنوں کے چندہ سے زنا کاری اور شراب خوری کے مرتکب ہوئے۔ اس وجہ سے انجمنوں نے ان کو اپنی وکالت سے علیحدہ کیا۔ اور ان کے حالات کو بذریعہ اشتہارات مشتہر کیا۔

ایسے ہنادی مریدوں کا ایسے فریبی پیر کی کارروائیوں میں اگر وہ وقوع میں آئی ہوں۔ مدوگار ہونا کون سے تعجب کا محل ہے۔ اور کیا مشکل ہے اس صورت میں اس جواب کو معقول نہ کہنا کیونکر معقول ہو سکتا ہے۔..... پہلے آپ اپنا صادق پیر اور مریدوں کا نیک چلن و نیک نیت مرید ہونا ثابت کریں۔ پھر ہندوؤں کے سامنے راجہ رام چندر اور مسلمانوں کے سامنے ولی مسلم ہوں۔ تو اس وقت یہ جواب معقول ہو سکتا ہے۔ اس اعتراض میں ہم نے فرض منہی کو ادا کیا ہے۔ الہامی صاحب نے اپنی ساری جماعت کو پاک کہا اور اس کا اثر بد قوم پر ظاہر ہونے والا تھا۔ تو ہم کو ہمارے فرض نے مجبور کیا۔ کہ ہم اس امر کا اظہار کر دیں کہ اس جماعت میں ناپاک خصائل و افعال کے لوگ بھی ہیں۔ الہامی صاحب کے دھوکے میں آ کر ساری جماعت کو نیک نہ سمجھ لینا چاہیے۔ ورنہ ہم کو ذاتیات سے کوئی پر خاش مقصود نہیں ہے۔ از اشاعت السنہ نمبر اجلد ۱۸ ص ۷۷۔

مرزا صاحب نے اس پیشگوئی کو سچا اور نہایت صفائی سے پورا ہونا (سراج المنیر ص ۲۱۹ اخیر کتاب تک) بڑے زور سے ثابت کیا ہے اور سراج المنیر وہ کتاب ہے۔ جو ۶ فروری ۱۸۸۶ء کے اشتہار میں اس کے شائع ہونے کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اور ۱۸۹۷ء میں لکھنؤ ام کے قتل کے بعد ۷ صفحہ پر شائع ہوئی۔ اور ان میں فقط لکھنؤ ام کی پیشگوئی کا ثبوت ہے یا کچھ پیشگوئیاں سابقہ اس کے ثبوت میں درج ہیں۔ جس صاحب کو شوق ہو۔ ملاحظہ کر سکتا ہے۔

### حاشیہ جات

۱۔ یہ دھمکی عام طور پر پہلے تو اشتہار ۱۵ مارچ ۱۸۹۷ء آریہ کے ساتھ مولویوں کو شامل کر کے خود الہامی قاتل نے شائع کی۔ پھر ان کے خلفا میاں معراج الدین صاحب وغیرہ نے آسمانی فیصلہ کے ذریعے مشتہر کی۔ پھر خصوصیت کے ساتھ خاکسار کو مخاطب کر کے الہامی صاحب کے خلیفہ اکبر و حواری اعظم حکیم نور الدین صاحب بھیروی نے ایک خط کے ذریعہ سے جو الہامی قاتل کے مرید میاں محمد صادق صاحب کلرک اکاؤنٹس جنرل آفس اور میاں عبدالرحمن صاحب کلرک ریلوے میرے پاس لائے۔ وہ دھمکی دی اور یہ بات لکھی کہ اس کے لیے بشرط انکار کم سے کم پنڈت لکھنؤ ام کی طرح پیشگوئی کے واسطے صاف ارادہ فرمادیں۔ آخر حضرت الہامی صاحب نے اپنے اشتہار متعلق (قتل لکھنؤ ام مطبوعہ ۱۱ اپریل ۱۸۹۷ء، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۸۳ حاشیہ) میں صاف لکھ دیا ہے کہ اگر مولوی محمد حسین صاحب قسم کھالیں کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ تو پھر ایک سال میں بخیر رہے۔ تو ہم جھوٹے سمجھے جائیں گے اشاعت السنہ نمبر اجلد ۱۸ ص ۳۔

## باب ۲۸ چہل و ہشتم

فرانسیسی مسیح ڈاکٹر ڈوئی اور اس کی دعا کے بیان میں

تِلَّ بَلْبِلْ شَيْدَا تَو سَنَا نَسْ نَسْ كَر

اب جگر تھام کے بیٹھو مہری باری آئی

ضمیمہ اخبار ششم ہند میرٹھ کا شور تو مرزا صاحب اور ڈاکٹر ڈوئی کی مستجاب اور مسٹر پکٹ کے دعاوی سے بھی دو ہاتھ ادا نچا اٹھا ہوا ہے۔ وہ بھی تو مجدد السنہ شرقیہ شوکت اللہ ہونے کے مدعی ہیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کو ان کے اجلاس کا جلسہ بھی دکھا دیں۔ بہت سے اصحاب خیر و ارباب دانش اور علم فضل موجود ہیں۔ نہایت خوبصورتی کے ساتھ ایک مجمع جمع ہے جو جناب مرزا صاحب کے دربار گوہر بار سے نکل لیتا ہے۔ مجدد السنہ شرقیہ ایک مسند پر رونق افروز ہیں۔ ہمارے ناول کے ہیرو حضرت اقدس مرزا صاحب کا ذکر خیر ہے مگر ڈاکٹر ڈوئی صاحب کے ساتھ۔

ایک..... ڈاکٹر ڈوئی کے کیرکٹر سے ناظرین اچھی طرح واقف ہیں ان کا ذکر ضمیمہ میں بمقابلہ قادیانی مسیح بار ہا ہوا ہے۔ روزانہ پیسہ اخبار میں ان کی تصویر اور دعا کرنے کی کل کا فوٹو معہ کوائف شائع ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح بننے کے لیے سائنس میں ابھی مرزا جی ادھورے ہیں۔ گویا فرانسیسی مسیح کے مقابلہ میں پرائمری تعلیم پار ہے ہیں۔ بہتر ہو کہ چند روز ڈاکٹر ڈوئی کو اپنا ماسٹریا لیڈر بنائیں۔ پھر دیکھیں کیسا چوکھا رنگ نکلتا ہے۔ ڈاکٹر ڈوئی کی نسبت لکھتا ہے کہ وہ اپنی دعا کرنے کی کل کے ذریعہ سے فی گھنٹہ کئی ہزار آدمیوں کو آسمانی باپ کے اجلاس سے بخشش کا سرشلیٹ دلوا سکتا ہے۔ مرزا جی نے تو ابھی تک ایسی کل بھی ایجاد نہیں کی۔ بے دیکھی صرف ایک مینار کی بنیاد ڈالی۔ اس کی تعمیر بھی ابھی تک ہوا پر ہے۔ بلکہ بدخواہوں کی بدولت اس میں روڑے لگے ہوئے ہیں افسوس اور نہایت افسوس۔

دوسرا..... سنا ہے ڈاکٹر ڈوئی کے نئے مذہب پر جو شخص ایمان لاتا ہے۔ وہ اس سے آمدنی کا عشر ضرور لے لیتا ہے۔

تیسرا..... اس قدر تو مرزا صاحب قادیانی کو بھی مریدوں سے مختلف چندوں و دیگر وسائل سے مل جاتا ہوگا۔ مگر یہ نہیں کہ وہ ظاہر الفاظ میں اقرار لکھتے ہوں کہ ۱۰/۱ کی آمدنی سے حصہ دار ہیں۔ یوں تو بیعت کے وقت بیعت کرنے والے کے جان و مال کا بیہ کر کے بیع نامہ لکھا لیتے ہیں۔ مگر جو رقم وصول کرتے ہیں۔ نہایت نرمی اور خوب صورتی سے جو کسی کو ناگوار نہ گزرے۔

چوتھا..... ڈاکٹر ڈوئی کے اندر ایسی کیا صفت ہے؟ اور اس کے عقائد میں کیا جادو ہے۔ جس کے اثر سے اتنے آدمی اس کے گرد لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کے مرید ایسے خوش اعتقاد ہیں۔ کہ اپنی آمدنی کا عشر ہمیشہ خندہ پیشانی سے ادا کر کے اس کی سخت قواعد کی پوری تعمیل کرنے اور اس کے جوش انگیز و عطف دل لگا کر سنتے ہیں۔ اور اپنی تندرستی اور آسودگی اس کی دعاء کی برکت سے سمجھتے ہیں۔ خواہ یہ دعائی الحقیقت ان کے واسطے کی جائے یا ان کا صرف نام دعا کی مشین میں چھپ جائے۔ ایسی کارروائیوں سے ہمیں خواہ مخواہ بت پرستوں کا زمانہ آجاتا ہے۔

اڈیٹر..... ڈاکٹر ڈوئی کی مشین ایک زبردست آلہ ہے۔ جب کبھی اس کا کوئی بیمار مزید صحت کا خواستگار ہوتا ہے۔ تو وہ صرف خط میں لکھ دیتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اور آپ کی دعا چاہتا ہوں۔ جب نبی صاحب کو فرصت ہوتی ہے۔ تو وہ ایسے خطوط کی نوکری پر نظر ڈالتا ہے۔ اور ہر خط کو ایک منٹ کے لیے اد پڑھاتا ہے اور دعا پڑھتا ہے۔ پھر وہ خط کو ایک مشین میں جس میں زہر شامپ لگی ہوئی ہے ڈال دیتا ہے۔ اور اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے ہتھ کو گھماتا ہے۔ جس سے اس کے خط پر یہ الفاظ چھپ جاتے ہیں کہ تمہارے لیے دعا مانگی گئی۔ بیمار اسی وقت اپنی صحت تصور کرنے لگتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ڈوئی کے لیے ایک بد قسمتی یہ ہے کہ بعض اوقات راسخ الاعتقاد مریدوں کو بھی صحت نہیں ہوتی۔

ایک شخص..... تعجب ہے کہ وہ مرید بد اعتقاد ہو کر اکھڑے نہیں۔ یہ ہندوستانی جاہل اور پنجابی ڈھکے (بیل) تو ہیں نہیں یورپ کے تعلیم یافتہ ہیں۔

اڈیٹر..... مگر یہ ایسا چالاک اور فطرتی شخص ہے کہ اپنی ناکامی کو بھی کامیابی کے پیرا یہ میں دکھاتا ہے۔ ایک دفعہ اس کی حقیقی بیٹی کوئی چیز سپرٹ کے چولہے پر گرم کر رہی تھی۔ کچھ بھول ہو گئی۔ تو بے رحم والد نے تاکید کی حکم دے دیا کہ اسی سپرٹ سے اسے جلا دیا جائے۔ وہ جل کر اسی روز مر گئی۔ اس کی نافرمانی سے مریدوں کو عبرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ بعد سزا دی کے میں نے اور اس کے تمام بزرگوں نے اس کی جان بخشی کے لیے سفارش کی۔ لیکن قبول نہ ہوئی۔ شہرچہوں میں طلیب اور شراب خانہ اور دو خانہ کا نام تک نہیں۔ یہاں تک کہ سوڈا واٹر بھی نہیں مل سکتا۔ تاہم جعلی پیغمبر کا رسوخ پھیلا ہوا ہے۔ اور شہر معمولی رفتار سے ترقی کرتا جاتا ہے۔ اس شہر میں لیس کی بڑی تجارت ہے۔ اس لیے کہ ڈوئی بڑا دور اندیش تاجر ہے۔ اور ایسا نبی ہے کہ اپنے ذاتی فائدہ کو پہلے تاڑ لیتا ہے۔ جاننے والے کہتے ہیں کہ اس کی کامیابی فصاحت اور مضبوطی دلائل پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس گرم جوشی اور کشش پر ہے۔ جو سننے والے کو اس کی صورت دیکھتے ہی پیدا ہوتی ہے جب وہ بولتا



ہے۔ تو بعض سامعین کو اس کے الفاظ سنائی نہیں دیتے۔ وہ صرف اپنی نظر اس کے چہرہ پر جمائے رہتے ہیں۔ اور اس کے اوضاع و چمکدار آنکھوں اور عالمانہ ابروؤں پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے شاندار کلمات ختم کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو سامعین بے خودی سے ہوش میں آتے ہیں۔ مگر اس پر اعتراض کرنے کی کسی کوجرات نہیں پڑتی۔ یا عقل میں نہیں آتی۔ پچھلے دنوں وہ نیویارک میں معہ اپنے تین ہزار حواریوں کے بدیں غرض آئے تھے۔ کہ خدا کے کام کے واسطے چندہ وصول کریں۔ حواریوں نے میڈنس کے میدان میں کھانا کھایا اور مختلف بورڈنگ ہاؤسوں میں رہنے کو چلے گئے۔ لیکن خود معہ اپنی بیوی کے ایک فیشن ایبل ہوٹل میں اترے۔ اور آپ نے پولیس میں اطلاع لکھائی ہے۔ کہ میری بیوی کا بروج جس کی قیمت ساڑھے چار ہزار روپیہ ہے۔ گم ہو گیا ہے غالباً کسی نے استقبال کے وقت اڑا لیا۔ (ضمیر اخبار سخن ہند میرٹھ مطبوعہ ۱۶ نومبر ۱۹۰۳ء نمبر ۳۳ جلد ۲۲) ایک صاحب..... میسیوں کا ڈر باکھل گیا۔ ایک دو تین اس وقت ایک زمانہ میں پیدا ہو گئے۔ فرانس میں ڈائٹری ڈوٹی، لندن میں مسٹر پکٹ اور پنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی ہر ایک بجائے خود سچ ہونے کا مدعی ہے اور لوگ بھی اندھا دھند رجوع ہوتے چلے جاتے ہیں۔

ایڈیٹر..... پانیر کے جس مضمون کا ذکر ہم نے مجمل طور پر کیا تھا۔ کرن گزٹ میں اس کا پورا ترجمہ حسب ذیل چھپا ہے۔

کرن گزٹ..... جو لوگ چشم پینار کہتے ہیں۔ یا اس تماشا گاہ کی آنکھ کھول کر سیر کرتے ہیں۔ ان کو خطہ زمین پر عجائبات نظر آتے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان میں ایک اور نبی کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کی جانب خیال کیا جائے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اگر فرانس کی رعایا کی طرح یہاں کے بھی لوگ لاپرواہ یا بے غرض ہوتے۔ یہاں تو ذرا سی مذہبی بات بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ جیسی بھس میں چنگاری۔ یہ بات صرف سر بر آرد وہ یا خاص لوگوں ہی میں نہیں۔ بلکہ عام ہے۔ سو ڈانی شمالی اور سرحدی فرقوں کی زندہ مثالیں موجود ہیں۔

ایم جوسس لوکس فرانسیسی سیاح نے یہاں والوں کی نسبت حسب ذیل رائے قائم کی ہے۔ مذہب کا پاس بالکل نہیں۔ تصوف پھیلا ہوا ہے جس کو وہ اپنے زعم باطل میں مجذوبوں کا عقیدہ کہتا ہے۔ اکثر لوگ افسی ہیں ان کے خصائل اور عادات غیر معمولی بچوں جیسے دیرینہ رو بہ تنزل ہیں۔

پانیر..... اس نے یہ مذمت انگریزوں کی ہے اور ہندوستانوں کی نسبت عمدہ رائے قائم کی ہے۔ (ایم لوکس) آگے چل کر یہ لوگ اس وقت ترقی کر سکتے ہیں۔ جبکہ نفسیات سے پرہیز کرنا اور اداسگی

فرض ہم سے سیکھیں۔ منتشر الخیالی چھوڑ دیں۔ اور اپنی طاقت کے موافق مغربی طریقہ اختیار کریں۔ ایک خطرہ ملک میں یہ پھیلا ہوا ہے۔ کہ بے حساب مذہبی تحریکیں ہوتی رہتی ہیں۔ حالانکہ گورنمنٹ ہند نے اپنی حکمت عملیوں سے دینی حرارت یا تعصب کو بہت کچھ دبا دیا ہے۔

آپ بتائیں کہ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں میں کتنے انگریزوں کو اس بات کا علم ہے۔ کہ پنجاب میں احمدیہ تحریک ہو رہی ہے۔ حالانکہ مذہب اسلام میں جو دو بڑی تحریک یا رخنہ اندازیاں ہوئیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کل ہندوستان میں چار نئے گروہ پیدا ہوئے۔ ممالک متحدہ اور بنگال میں علی گڑھ والے اور برہم سماجی دو گروہ ترقی کر رہے ہیں یہ دونوں فرقہ آزاد منش بے تعصب قدرت کے قائل اور گورنمنٹ کے خیر خواہ ہیں۔ جو لوگ ہندوستان کی بہبودی چاہتے ہیں۔ ان کے پرسان حال نہیں ہوتے۔ کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور کس رنگ میں ہیں۔

مدت ہوئی کہ آریہ سماج اصلاح کے لیے بہمنی میں قائم کیا گیا تھا مگر اب وہ پنجاب میں ترقی کر رہا ہے اور اپنی کمال عروج پر ہے۔ ہم اس وقت اس کے متعلق بحث کرنا نہیں چاہتے۔ اسلام کے نام پر فرقہ احمدیہ نے انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ یہ لوگ بالکل نئے عقائد کے پابند ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہ ہم ملکی امن کے بدل خواہاں ہیں۔ اور گائے کی طرح غریب اور حلیم الطبع ہیں۔ مگر ان کی حرکتوں پر ایک دو مرتبہ گورنمنٹ کو توجہ کرنی پڑی ہے۔

ہنوز اس فرقہ کی تحریک پنجاب تک محدود ہے۔ اس کے پیروؤں کی تعداد پر نظر ڈالنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے گزشتہ مردم شماری کے آدی گیارہ سو جوان مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں۔ اس کا آرگن تو یہ لکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ پچاس ہزار بلکہ ستر ہزار آدی کا گروہ ہے (نہیں جناب تقریباً دو لاکھ) حال میں ۳۶ صفحہ کا ایک پمفلٹ شائع ہوا ہے جس کا نام ”مرزا غلام احمد مہدی مسیح قادیانی“ ہے اس کے مصنف لاہور کے پادری ایچ ڈی گراؤنڈ صاحب فلسفہ کے ڈاکٹر ہیں۔ اس رسالہ میں معمول سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیا گیا ہے۔ مگر جو کچھ لکھا ہے وہ بادی النظر میں صحیح اور درست معلوم ہوتا ہے۔ قادیاں ضلع گورداسپور میں واقع ہے۔ وہاں ایک پینشنہ سالہ آدی رہتا ہے۔ جس کی صورت بزرگوں کی سی ہے۔ چہرہ مسخر القلوب اور عقل تیز ہے۔ یہ مرزا غلام احمد رئیس قادیاں ہیں۔ اسی وجہ سے قادیانی کہلاتے ہیں۔ فرقہ احمدیہ کے بانی و سردار ہیں۔ ذات سے مغل ہیں۔ چار صدیاں گزریں۔ بابر کی عہد حکومت میں ان کے بزرگ سمرقند سے آئے تھے۔ موروثی پیشہ دو فروشی ہے۔

غلام احمد نے اپنے مختصر رسالوں میں لاف زنی اور چٹھی چٹھی ادویات کے ذرائع سے وبا

کے زمانہ میں بہت کچھ کر ڈالا۔ آخر کار گورنمنٹ نے دست اندازی کر کے اس کاروائی کو بند کیا۔ اس کا خاندان غدر کے زمانہ میں خیر خواہ تھا۔ چنانچہ سر لیبیل گرینٹن نے اپنی کتاب روسائے پنجاب میں بھی ذکر کیا ہے۔

یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں گورنمنٹ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ مگر یہ دعویٰ بالکل تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ کہتا ہے کہ میرا فتویٰ جہاد کے خلاف ہے۔ پانچ سال ہوئے۔ سر میکوریک کو ایک میموریل اس نے لکھا تھا۔ کہ جہاد کے مسلمہ مسئلہ سے انکار کرنا ہی مجھ کو مسیح موعود اور مہدی مان لینا چاہیے۔ پادری صاحب کہتے ہیں کہ اہل اسلام میں تعصب اور مذہبی جوش کا میلان نہ ہوتا۔ تو یہ مذہب بہت ہی اچھے عقیدہ کا ہوتا۔ جبکہ مجھ کو بہت سے معزز و محترم اصحاب کی ملاقات سے معلوم ہوا۔ (سبحان اللہ۔ اس مقدس مذہب کی عظمت اسی سے ظاہر ہے کہ پادری صاحب کے قلم سے بے ساختہ اس کی تعریف نکل رہی ہے۔ بدنام کنندہ ٹیکو نامے چند۔ ان کو دیکھ کر اسلام کے متعلق رائے قائم کر لینا سخت غلطی ہے)

مرزا صاحب کی تعلیم تعصب جہالت کے بند کھول رہی ہے۔ اور اس کوشش میں ہے۔ کہ مذہبی جوش جڑ بنیاد سے جاتا رہے۔

کسی تیز طرار مسلمان کا نام احمد ہونا ہی اس کے لیے قیامت ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں آنے والے احمد کی پیشگوئی درج ہے۔ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا: کہ اے بنی اسرائیل لاریب میں خدا کا رسول ہوں۔ اور اس لیے بھیجا گیا ہوں۔ کہ خدا کے ان احکام کو مضبوط کروں جو مجھ سے پہلے آچکے ہیں اور اس رسول کا اعلان دوں۔ جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ اس آیت کا اسلامی تاریخ پر بہت برا اثر نہیں پڑا۔ بڑا تباہ کن سوڈانی مہدی بھی احمد نامی تھا۔ ہندوستان میں ہی چار احمد مذہبی سردار ہو چکے۔ (۱) شیخ احمد سرہندی۔ (۲) سید احمد غازی بریلوی۔ (۳) سید احمد خان۔ (۴) قادیانی رسول (مگر یہ تو غلام احمد بیگ ہے۔ نہ کہ مرزا احمد۔ تاہم نہ صرف احمد سے بلکہ تمام انبیاء سے اپنے کو برتر سمجھتا ہے) غلام احمد کے خاندان میں تعصب تو نہیں مگر لالچ ضرور ہے۔ اس کا پچازاد بھائی پنجاب کے مہتروں (حلال خوروں) کا گرو بن بیٹھا۔ اس طرح ایک بھائی دوسرے کے خلاف چلتا ہے۔

اسی موضع قادیاں میں مہتروں کا سالانہ ہجوم یا میلہ ہوتا ہے غلام احمد وہاں کارکن ہے اس کے اصول چار ہیں۔ تعلیم میٹرنس۔ مباحثہ کے مطالبے، قادیاں میں اس کا ایک کتب خانہ اور ایک مطبع ہے اور وہیں احکم شائع کرتا ہے۔ اور انگریزی میں ریویو آف ریسپنٹس یعنی مذہب کی

تحقیق۔ اس کے بیان کے موافق اسی گزشتہ بائیس سال میں تھمینا پچاس کتابیں عربی، فارسی، اردو میں تصنیف کی ہیں۔ جو علاوہ ہندوستان کے ایران عربستان کا مل سیریا اور مصر میں بھی شائع کی گئی ہیں۔ اس نے دنیا بھر کے مصنفوں کو ایک کھلی چشمی میں مخاطب کر کے لکھا ہے کہ میں آپ کو نئی بات بتاتا ہوں۔ یعنی مسیح کشمیر میں آئے تھے اور ان کا مقبرہ آج تک وہاں موجود ہے۔

ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں تصویر کشی رنگ روغن میں جماعت خوجہ جا بجا پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں نہ کوئی مذہبی پابندی ہے نہ تعصب، ڈر کے مارے حج کرنے کو بھی نہیں جاتے۔ کہ کہیں سنیوں کے ہاتھوں جان سے نہ جاتے رہیں۔ دو عجیب غلط گروہوں کے پیروؤں کا نام خوجہ رکھا گیا ہے۔ ایک وشن (ہندو) دوسری علی ہزہائیس آغا خان جی سی ایس آئی۔ ہمارے شاہی خاندان کے جوان دوست کا یہ گروہ معتقد ہے۔ قانون کی رو سے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک مقدمہ میں ثابت ہوا ہے۔ یہ سیریا کے ایک ..... پہاڑی کی نسل سے ہیں۔ جس کے نام سے مجاہدین وغیرہ کا نپتے تھے۔ اور جو قزاقوں کا سردار مشہور تھا۔ بغیر کسی ایسی حیثیت کے جیسے کہ آغا خان کی ہے۔ اور بغیر کسی تاریخی واقعہ کے غلام احمد بھی ان کی طرح مشہور ہونا چاہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے مسیح اور مہدی ہونے کا فوراً دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ اور نبوت میں کہتا ہے کہ عیسیٰ صلیب پر نہیں مرے۔ بلکہ فی الحقیقت ہندوستان میں آ کے ستاسی سال کی عمر میں بمقام کشمیر میں فوت ہوئے۔

ان کا مقبرہ سڑک خان یار کے قریب سری نگر میں موجود ہے۔ مرزا اپنی شان میں لکھتا ہے کہ میں ایک سچی بات کے اخصاء کا گنہگار ٹھہردوں گا۔ اگر میں اس بات کا اظہار نہ کروں۔ کہ نبوت باری تعالیٰ نے مجھ کو بخشی ہے وہ تقدس طاقت اور راستی میں اس رسالت سے کہیں زیادہ ہے۔ جو مسیح کی مہمل پیشگوئیوں پر مبنی تھی۔ میں خدائے برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ کہ جن الفاظ کا میری شان میں الہام ہوا ہے وہ ان الفاظ سے بہت زیادہ وزنی اور مقدس ہیں۔ جو مسیح کے متعلق انجیل میں مندرج ہیں۔

باوجود ان بے ہودہ خیالات کے غلام احمد میں ذرا بھی تعصب نہیں خوش عقیدہ اہل اسلام نے اس کو اپنی برادری سے خارج کر دیا ہے۔ اور یہ لقب دیئے ہیں۔ کافر، دجال، ملحد، مرتد، کذاب مگر اس کو ذرا بھی پرواہ نہیں کہ کہتی ہے ہم کو خلق خدا کا تباہ کیا؟

بلکہ مسلمانوں کے سردار ہام پرستی کی تہمت دھرتا ہے لکھتا ہے کہ تم پیروں کے ہاتھ بک گئے ہو۔ قبریں پوجتے ہو۔ جہاد کا عقیدہ رکھتے ہو۔ اور جاہل ملاؤں کے ساتھ ہر جگہ جانے کو رضا

مند ہو۔ غلام احمد ایشیائی تعلیم سے ناواقف نہیں معلوم ہوتا۔ یہ پہلا مسلمان ہے جس نے عبرانی تعلیم کے قالب میں روح پھونکنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت ہم کو اس سے بحث نہیں۔ وہ جس طرح چاہے مسلمانوں اور عیسائیوں سے جھگڑے مول لیتا پھرے۔ اگر ڈاکٹر ڈوئی کے واقعہ کو خیال کریں۔ تو وہ اپنے طریق کا سچا نبی ہے۔ سینکڑوں پیشگوئیاں اس کی ثابت ہو چکی ہیں۔ اور ہزاروں غلط پہلے اکثر اس کی پیشین گوئی اس قسم کی ہوا کرتی تھیں۔ کہ کسی خاص تاریخ سے پہلے فلاں شخص مر جائے گا یا اس کو کوئی سخت صدمہ پہنچے گا۔ آخر کار اسٹنٹ کمشنر نے اس کو مجبور کیا کہ وہ آئندہ ایسا نہ کیا کرے۔ پھر بھی اس نے اس قسم کی ایک سو اکیس پیشین گوئیاں کیں۔ اس کی شہرت اس پیشگوئی سے زیادہ ہو گئی۔ جس میں اس نے یہ ظاہر کیا تھا کہ پنڈت لکھرام اس کا مخالف مر جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ قتل ہو گیا۔ ۱۸۹۳ء کو امرتسر کے عیسائیوں میں اس کو چنداں کامیابی نہ ہوئی۔ ضعیف مسٹر آتھم اس کی تاریخ مقررہ سے کچھ دن بعد مرا۔ بہت سی پیشین گوئیاں اس کی تولد فرزند کی بابت تھیں۔ مگر لڑکیاں ہوئیں۔ اور اس کی پیشین گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ فرقہ احمدیہ کا موجودہ سردار ہمہ صفت موصوف ہے۔ لیکن اس کی آئندہ ترقی اس بات پر منحصر ہے کہ اس کو آئندہ

کیسا افرماتا ہے۔ اور غلام احمد کا جانشین قانون کے پنجے سے بچنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ یا نہیں؟  
ڈاکٹر ویوولڈ آخر میں یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پنجابی نبی فریبی نہیں ہے اور نہ فاتر اعقل

ہے۔ مگر خود فریب خوردہ ہے ایک افغانی بکس والے نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نسبت کیا خوب کہا ہے کہ امیر کابل یہاں کے حاکم ہوتے۔ تو بہت جلد مرزا صاحب تین سری ہو جاتے ہیں۔ اگر یزی راج میں جو جس کے دل میں آئے کرے۔ شیر بکری ایک گھاٹ پانی پی رہا ہے۔

(ضمیر اخبار شونہ ہند مطبوعہ ۲۳ نومبر ۱۹۰۳ء)

ایک صاحب..... (جو اس جلسہ میں موجود تھا) جب سے لندن میں مسٹر پکٹ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا جی کے پاؤں تلے کی نکل گئی کہ ہیں یہ کیا ہو گیا۔ ایک وقت اور زمانہ میں دو مسیح سچا اور اصلی مسیح تو میں ہوں۔ یہ جموٹا مکار فریبی کہاں سے آکودا مگر ذرا مسٹر پکٹ سے بھی پوچھنا چاہیے۔ کہ وہ مرزا کو کیا سمجھتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ پکٹ کو گروہ نے پکٹ کے مسیح تسلیم کر لیا اور مرزا جی کے گروہ نے مرزا جی کو۔

دوسرا..... حیرانی تو اس میں ہے کہ ہندوستان میں الٰہی تعلیم کا اثر پورے طور پر نہیں ہوا۔ جہلاء میں اگر کسی نے کچھ تعلیم پائی۔ تو ناقص۔ دوسرے اختلاف مذاہب اپنے اصول دین سے واقف نہیں۔ اردو میں فلسفہ کے چند دلائل دیکھے۔ فلسفی بن گئے۔ اصول اس کا نہیں جانتے دم جھانے میں پھنس

جائیں تو عجب نہیں۔ مگر یورپ کے تعلیم یافتہ آزاد منہ اندھے ہو کر جو گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اور شروط کی سلاسل میں ان کو جکڑ لیتے ہیں۔ یہ عجب معاملہ ہے۔ ان (مسٹر پکٹ) میں ضروری کوئی بات ہوگی۔ جو ایک گروہ عظیم نے اس کو مسخ تسلیم کر لیا۔

تیسرا..... یہ تو ممکن ہے۔ دنیا میں ایک خیال کے کچھ آدمی جمع ہو کر سادہ لوح انسانوں کو اپنے جال میں پھانس لیں۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں۔ جن کے لاکھوں آدمی معتقد اور مرید ہیں۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ کہ میں مسخ ہوں۔ کیا وہ مسخ یا مہدی ہو جائے گا۔ اور کوئی مسخ یا مہدی ہو سکتا ہے سوڈان میں کتنے مہدی پیدا ہوئے۔ کیا ان میں کوئی سچا مہدی تھا۔ اپنی اپنی خود غرضی کو اس مکر و فریب کے پردہ میں دیکھا کر معدوم ہو گئے۔

چوتھا..... مرزا صاحب مسٹر پکٹ کا دعویٰ مسیحیت سن کر جھلائے۔ تو بہت غصہ میں کچکا غیظ و غضب میں دانتوں کو چبا کر مسٹر پکٹ کے نام ایک چٹھی لکھ ماری جس میں بدستور دوپٹی پیشگوئی ہانگی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ (مسٹر پکٹ) اپنے دعویٰ سے توبہ نہ کرے گا تو بہت جلد میری زندگی میں ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ویسی تاویل ہے جیسی میعاد مقررہ پیشگوئی میں مسٹر عبداللہ آتھم کے مرنے پر کی گئی۔ یعنی اس کے دل میں خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس لیے ہلاک نہ ہوا۔

پانچواں..... اس لغو تاویل کی بار بار جھنکار ہو چکی ہے۔ چونکہ مرزا جی خود چاہتے ہیں کہ میری پیشگوئی غلط اور گوزشتہ ہے۔ لہذا کوئی میعاد نہیں بتائی۔ کیونکہ ان کو آتھم والی پیشگوئی کا خوف ہوا۔ صرف لفظ (بہت جلد) لکھنے پر ٹالا۔

چھٹا..... خوب اگر مسٹر پکٹ مرزا جی کی زندگی میں نہ مرا۔ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو یہ قید لگادی تھی۔ کہ اگر وہ اپنے دعویٰ سے توبہ نہ کرے گا تب ہلاک ہوگا۔ اب چونکہ وہ زندہ رہا۔ لہذا ضرور اپنے دعویٰ سے تائب ہو چکا ہے۔ وہ ہی آتھم والی راگ مالا۔

اب فرمائیے! کہ مرزا جی کی پیشین گوئی نے کیا تیر مارا۔ ہر مدبر بلکہ ہر ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ فلاں معاملے کا پہلو یوں نہ ہوا۔ تو ضرور مضمر ہوگا۔ اور یوں ہوا تو مفید ہوگا۔ ایک وکیل اپنے ملزم موکل سے کہہ سکتا ہے کہ اگر اس نے اپنا ڈیفنس عمدہ طور پر کیا۔ تو تم رہا ہو جاؤ گے۔ ورنہ سزا پاؤ گے۔ دونوں باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہتی ہے۔

مگر کیا ہر وکیل مسخ موعو ہے؟ معلوم نہیں کہ مرزائیوں کی محفل کہاں فخت ریود ہو گئی ہے۔ کہ اپنے ہر و مرشد کی چالوں کو نہیں سمجھتے اور اس کو مسخ تسلیم کر لیتے ہیں۔

(ضمیمہ شنبہ ۲۳ مئی ۱۹۰۳ء)

ایڈیٹر..... بے شک ہر انسان کے دل پر اس کی کائنات کی صلاحیت کے موافق الہام ہوتا ہے۔ الہام نہ صرف نیکی ہے۔ بلکہ بدی سے متعلق ہے۔ (الہما فجو رہا و تقوہا) مگر یہ ایسی کیفیت نہیں۔ کہ بجز ملہم کے کوئی اور محسوس کر سکے۔ کیونکہ علم بذات الصدور صرف خدائے علام الغیوب ہے۔ ہاں سچے ملہم کے آثار دوسروں پر بھی کھل جاتے ہیں۔ جیسے پھولوں کی خوشبو کہ آنکھوں سے محسوس نہیں ہوتی۔ مگر دائمی حس میں پہنچ جاتی ہے۔ سچے الہام کی یہی صفت ہے اور چونکہ کوئی شخص اپنا دل چیر کر کسی کو نہیں دکھا سکتا۔ تاکہ معلوم ہو کہ الہام ہے یا اضغاث احلام یا دوسرے احکام یا خیالات فسق و حرام یا صور احکام و ادہام۔ لہذا ہر مکار دعویٰ کر سکتا ہے۔ کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے جس کا ثبوت مریدوں اور چیلوں کے محض عقیدے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بعض بہروپے اور سادھو بچے تو روغن قازل کر وہ روپ گانٹھتے ہیں۔ کہ بڑے بڑے سیانے کو ان کے دام میں پھنس جاتے ہیں۔

بھوپال میں ایک بڑے مولوی صاحب جو مشاہیر علمائے اہل حدیث سے ہیں۔ ان پر ایک سادھو بچے نے ایسا افسوس دم کیا۔ کہ اس کے دلالوں کے جھانسون اور کمرو زور کے دلاسوں میں پھنس کر پرتیج کپوت بن گئے اور بیعت ہو کر اس کا دم بھرنے لگے۔ اور بالآخر یہ اعلان دیا کہ یہ شخص مجدد ہے۔ شوکت اللہ کو اس سادھو بچے کی حقیقت اچھی طرح معلوم تھی۔ اور اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ جبکہ وہ ایک دفتری کے امر لوٹے پر فریفتہ ہوا تھا اور رات دن اس کے تشق میں روتا اور درس و وعظ سے جو کچھ کھاتا۔ اس کے والدین کے چولہے میں جھونک دیتا تھا۔ چنانچہ کئی سو روپیہ اس کے والدین کو دیا۔

یہ مکار بڑے بڑے چالوں سے لوگوں کو ٹھگتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے وطن سے متواتر اپنے نام خطوط منگوائے۔ کہ فلاں شخص کے قرض میں آپ کا گھر نیلام ہونے والا ہے۔ اور عدالت نے اس کو ڈگری دیدی ہے۔

اس عیار نے لوگوں کو وہ خطوط دکھائے۔ اور یوں رقیں اینٹھیں بالآخر اسی دفتری کے لوٹے کے تشق میں بدنام ہو کر یہ لوطی بڑی رسوائی اور شح کے ساتھ نکالا گیا۔ ذرا تظار روتا ہوا ہمارے پاس آیا کہ لالہ میری دیکھ سزی کرو اور مجھے وطن تک پہنچا دو۔ الغرض ہم نے ضروری صد روپے دیے اور رخصت کیا۔

جب ہم کو مولوی صاحب بھوپالی کی نوگرفتاری کا حال معلوم ہوا۔ اور چار طرف سے بعض معتبر اور مستند لوگوں کے خطوط آئے۔ اور بھوپال سے بھی نامہ نگار نے مولوی صاحب جیسے متقی

اور عامل بالحدیث کی حالت پر افسوسناک مضمون بھیجا۔ تو ہم نے مولوی صاحب کو ڈانٹا۔ چنانچہ وہ اپنی سادہ لوحی اور اس حرکت سے تاب ہوئے۔ اور اعلان دیا۔ کہ مجھ پر اس مصنوعی مہر دینی الدین کا کذب ظاہر ہو گیا۔ لہذا بیعت فتح کرنا ہوں۔

یہ سادہ و متصل کے ایک قصبہ میں پہنچا۔ اور وہاں کے مسلمانوں کو چکنے چڑے و عظ سے ٹھکنا چاہا۔ ایک صاحب نے حضرت شیخ اکمل مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب محدث دہلوی مرحوم کے نام اس شخص کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے خط بھیجا۔ حضرت مرحوم نے جواب میں لکھا۔ کہ یہ شخص بڑا عالم ہے اس کے کید سے بچتے رہو۔ بالآخر وہاں سے بھی نکالا گیا۔ اس شخص کی ظاہری حالت یہ تھی کہ ایک میمہ کرتے اور ایک تہ بند اور ایک کبیل اوڑھے ہوئے تھا۔ گلے میں حائل کلام مجید تھی۔ اور بس خواہ مخواہ ہر شخص دھوکہ میں آجاتا تھا۔ کہ باخدا بلکہ ولی اللہ ہے۔

سادہ و بچے تو وہ روپ گانٹھتے ہیں کہ مرزاجی ان کے مقابلہ میں پیر نابالغ ہیں کیا طاقت ہے کہ ان کی خود غرضی کا مجید کسی پر حمل سکے۔ مرزاجی نے تو اکثر اوقات آپ اپنی قلمی کھول دی ہے اور کھول رہے ہیں۔ گرگٹ کی طرح میں پچیس برس کے عرصہ میں کیا کیا رنگ بدلے۔ اولاً الہام کے مدعی پھر مثل اسخ پھر سچ موعود پھر مہدی مسعود پھر ظلی اور بروزی بنی پھر خاتم الخلفاء اور امام الزمان ہو گئے۔ جس شخص کو ذرا بھی عقل ہے وہ اس تغیر حالت سے نتیجہ نکال سکتا ہے کہ آپ بظاہر سب کچھ ہیں۔ مگر درحقیقت کچھ بھی نہیں۔ مرزاجی اپنی زبان حال سے یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

گر کوئی آ کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہوں میں

سر پر اٹھائے پھرتی ہے شور فغاں مجھے

مرزا صاحب مدعی الہام رہتے۔ تو دس گنی ترقی کرتے۔ مگر چور کے پاؤں کہاں ہوتے ہیں؟ کچے سادہ و بچوں میں استتفال کہاں، اولاً پیٹ میں قراقرم ہوا۔ ریاح فاسد کی گھوڑ دوڑ ہونے لگی۔ پھر سوہ، ہضم کی لوبت آئی۔ پھر تھمہ ہوا۔ پھر ہیضہ ہوا۔ پھر اس کے سمیت دبائی طور پر تمام مرزائیوں میں پھیل گئی۔ کیونکہ بے احتیاطی کے نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہیضہ اور طاعون وغیرہ سب انسانی افعال کے ثمرات ہیں۔ خدا تعالیٰ جس کی صفت رحمن و رحیم ہے کسی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا۔ بلکہ انسان خود ہلاکت میں پڑتا ہے۔ ورنہ خدائے تعالیٰ ہرگز یہ ارشاد نہ کرتا۔ (ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکة) یعنی اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس سے ثابت ہے کہ اکثر ہلاکتیں خلاف مرضی الہی اور خلاف مشیت ہیں جس طرح شراب خوری، حرام کاری، قتل اور



سلف، ظلم، مہب، خلاف مرضی الہی ہے۔ پس مکاروں اور کذابوں کا الہام بھی خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یہ تو خدا پر تہمت ہوتی ہے اور مفتری علی اللہ سخت عتاب کا مستوجب ہوتا ہے۔ جب براہین احمدیہ لکھی۔ تو بیان کیا کہ میرے بطن سے الہام کی سرسراہٹ ہوتی ہے۔ پھر جھٹ سے بارہ ہزار روپیہ جائیداد کا انعام اس شخص کے لیے مشتہر کیا۔ جو براہین کا جواب لکھ دے۔ آریوں نے تکذیب براہین لکھ کر شائع کر دی۔ انعام کا ضبط تو آپ کی گھٹی میں نیچرل طور پر پڑا ہے۔ ہر معاملہ میں تعلیمیاں اور ہمایانیاں اگلے رہے ہیں۔ مگر آج تک کسی کو پھوٹی کوڑی بھی دی ہو۔ تو خدا کرے۔ قسمت ہی پھوٹے اور تو کیا کہیں۔

فی الحقیقت چال تو بہت خاصی ہے۔ حقائق غلطی جاتا ہے کہ ایک شخص اپنی ساری جائیداد بٹکیے پر دھرے دیتا ہے بالکل ولی اللہ اور خلوص اور مہمیت کا پتلا ہے۔ یہ خبر نہیں کہ:

زر زر کھد در جہاں گنج گنج

مرزاجی گویا اپنی نبوت کو روپیہ پیسہ کا لالچ دے کر فروخت کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے انعامی مجوزہ رقم دیدی۔ تو نبوت گویا فروخت ہو گئی۔ اور مرزاجی اس کے حلقہ بگوش بن گئے۔ اور اگر کوئی گاہک نہ ہوا۔ تو آپ فرمائشی بنی ہی ہیں۔ گویا مرزاجی یہ ثابت کر رہے ہیں۔ کہ میں نبی نہیں۔ بلکہ ایک متمول سیٹھ سا ہوں، کارکنی دار ہوں۔ میرے پاس لاکھوں روپیہ جمع ہیں۔ کیا کسی نبی نے اپنی نبوت کا دار و مدار روپیہ پیسہ پر رکھا ہے۔ اور اس طرح اپنی نبوت اور اپنا اعجاز فروخت کیا ہے۔ جب آتھم کی پیشگوئی میں مرزاجی کے منہ پر قدرتی تھپڑ لگا۔ یعنی درمیا مقرر میں فوت نہ ہوا۔ تو آپ نے جھٹ اشتہار دیا۔ کہ آتھم حلف سے کہہ دے۔ کہ اس پر پیشگوئی کا خوف طاری نہیں ہوا تھا۔ اور چار ہزار لے جائے۔ مرزاجی کو خوب معلوم تھا کہ انعام کی یہ شرط ہرگز پوری نہ ہو سکے گی۔ کیونکہ اس کے یہ معنی تھے۔ کہ آتھم جو مسیحا ہے۔ مرزائی بن جائے۔ اس عیاری پر مرزا جی پھوٹے نہیں ساتے۔ وغیرہ وغیرہ۔

ضمیمہ ششمہ ہند مطبوعہ یکم جون ۱۹۰۳ء

## باب ۴۹ چہل ونہم

اگ رہا ہے درو دیوار سے سبزہ غالب

ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے

گورداسپور کی ضلع کی کچھری کے احاطہ میں آج معمول سے زیادہ رونق ہے۔ ایک پر دس اور دس پر سو سو آدمی گرتا ہے۔ جدھر دیکھو۔ ٹرکی ٹوپی کے پھندے اڑ رہے ہیں۔ کوٹ پتلون

ڈالے جنٹل مین داڑھی کا صفایا کرانے محلقین و مقصرین کے اوپر عمل کیے پھر رہے ہیں۔ ایک طرف برابر تھکٹ ہو رہا ہے۔ مجتہدین رف رف کرتے جاتے ہیں۔ وعظ و نصیحت کی آواز آتی ہے۔ آہا ہا یہ تو حضرت مسیح دوراں، مہدی زماں، مرزا صاحب ہیں سامعین ہر ایک بزبان حال کہہ رہا ہے۔

برقعہ کو اٹھا چہرے سے کرتی ہیں وہ باتیں  
اب میں ہمہ تن چشم بنوں یا ہمہ تن گوش

مسیح موعود..... یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ باتیں حضرت مسیح کی تعلیم میں تھیں ان کی تعلیم میں تو ریت پر کوئی بھی زیادت نہیں تھی۔ انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ میں انسان ہوں اور جیسا کہ خدا کے مقبولوں کو عزت اور قربت اور محبت کے خدا تعالیٰ کی طرف سے القاب ملتے ہیں اور یا جیسا کہ وہ لوگ خود عشق کی جویت میں محبت اور یکدلی کے الفاظ منہ پر لاتے ہیں ایسا ہی ان کا بھی حال تھا۔ اس میں کیا شک ہے کہ جب کوئی انسان سے محبت کرے یا خدا سے تو جب وہ محبت کمال کو پہنچتے ہیں۔ تو محبت کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روح اور اس کے محبوب کی روح ایک ہو گئی ہے۔ اور فنا نظری کے مقام میں بسا اوقات وہ اپنے تئیں محبوب بھی ایک ہی دیکھتا ہے جیسا کہ اس عاجز کو اپنے الہامات میں خدا تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اور زمین و آسمان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ میرے ساتھ ہیں اور تو ہمارے پانی سے ہے۔ اور دوسرے لوگ خشکی سے ہیں۔ اور تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تو مجھ سے اس مقام اتحاد میں ہے۔ جو کسی مخلوق کو معلوم نہیں۔ خدا اپنے عرش سے بڑی تعریف کرتا ہے۔ تو اس سے نکلا اور اس نے تمام دنیا سے تجھ کو چنا۔ تو میری درگاہ میں وجہ ہے۔ میں نے اپنے لیے تجھ کو پسند کیا۔ تو جہان کا نور ہے۔ تیری شان عجیب ہے میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور تیرے گردہ کو قیامت تک غالب رکھوں گا تو برکت دیا گیا ہے۔ خدا نے تیری عزت کو زیادہ کیا۔ تو خدا کا وقار ہے پس وہ تجھے ترک نہیں کرے گا۔ تو کلمۃ الازل ہے پس تو مٹایا نہیں جائے گا۔ میں فوجوں کے سمیت تیرے پاس آؤں گا۔ میرا لوٹا ہوا مال تجھ کو ملے گا۔ میں تجھے عزت دوں گا۔ اور تیری حفاظت کروں گا۔ وہ ہوگا یہ ہوگا۔ اور پھر انتقال ہوگا۔ تیرے پر میرے کامل انعام ہیں۔ لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے پیار کرتے ہو۔ تو آؤ میرے پیچھے چلو۔ تا خدا بھی تم سے پیار کرے۔ تیری سچائی پر خدا گواہی دیتا ہے۔ پھر کیوں تم ایمان نہیں لاتے۔ تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں نے تیرا نام متوکل رکھا۔ خدا عرش سے تیری تعریف کرتا ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ اور تیرے پروردار بھیجتے ہیں

لوگ چاہیں گے کہ اس نور کو بجھائیں۔ مگر خدا اس نور کو جو اس کا نور ہے کمال تک پہنچائے گا۔ ہم ان کے دلوں میں رعب ڈالیں گے۔ ہماری فتح آئے گی۔ اور زمانہ کا کاروبار تم پر ختم ہوگا۔ اس دن کہا جائے گا کہ یہ حق نہ تھا۔ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جہاں تو ہے جس طرف تیرا منہ، اس طرف خدا کا منہ۔

تجھ سے بیعت کرنا ایسا ہے جیسا کہ مجھ سے۔ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے۔ اور خدا کی نصرت تیرے اوپر اترے گی۔ تیرے لیے لوگ خدا سے الہام پائیں گے۔ تیری حمد لہوں پر جاری کی گئی۔ اور تیرا ذکر بلند کیا گیا۔ خدا تیری جنت کو روشن کرے گا۔ تو بہادر ہے۔ اگر شیا پروین ہوتا۔ تو تو اس کو پالیتا۔ خدا کی رحمت کے خزانے تجھے دیے گئے۔ تیرے باپ دادے منقطع ہو جائیں گے اور خدا ابتداء تجھ سے کرے گا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشین بناؤں تو میں نے آدم کو یعنی تجھ کو پیدا کیا ہے۔ او اھسن (خدا تیرے اندر اتر آیا)۔ خدا تجھے ترک نہیں کرے گا۔ اور نہ چھوڑے گا۔ جب تک پاک اور پلید میں فرق نہ کرے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ پہنچانا جاؤں۔ تو مجھ میں اور تمام مخلوقات میں واسطہ ہے۔ میں نے اپنی روح تجھ میں پھونکی۔ تو مدد دیا جائے گا۔ اور کسی کو گریز کی جگہ نہیں رہے گی۔ تو حق کے ساتھ نازل ہوا۔ اور تیرے ساتھ نبیوں کی پیشگوئیاں پوری ہوئیں۔ خدا نے اپنے فرستادہ کو بھیجا تاکہ اپنے دین کو قوت دے۔ اور سب دینوں پر اس کو غالب کرے۔ اس کو خدا نے قادیان کے قریب نازل کیا۔ اور وہ حق کے ساتھ اتر ا۔ اور حق کے ساتھ اتارا گیا۔ اور ابتداء سے ایسا مقرر تھا۔ تم گڑھے کے کنارے پر تھے۔ تمہیں خدا نے نجات دینے کے لیے اسے بھیجا۔ اے احمد تو میری مراد اور میرے ساتھ ہے۔ میں نے تیری بزرگی کا درخت اپنے ہاتھ سے لگایا۔ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ اور تیری مدد کروں گا۔ کیا لوگ اس سے تعجب کرتے ہیں کہ خدا عجیب ہے۔ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور اپنے کاموں سے پوچھنا نہیں جاتا۔ خدا کا سایہ تیرے پر ہوگا۔ اور وہ تیری پناہ میں رہے گا۔ آسمان بندھا ہوا تھا۔ اور زمین بھی ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ تو وہ عیسیٰ ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تیرے جیسا موتی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشان بنائیں گے۔ اور یہ امر ابتداء سے ہی مقدر تھا۔ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا مجھ پر ابھید ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں وجہیہ اور مقرب ہے۔ تیرے پر انعام خاص ہے اور تمام دنیا پر تجھے بزرگی ہے۔ محرام کہ وقت تو نزدیک رسیدہ پائے محمدیاں برینار بلند محکم اوقفا میں اپنی چکار دکھلاؤں گا۔ اپنی قدرت سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذر آیا۔ پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا لیکن خدا اسے

قبول کرے گا۔ اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اس کے لیے وہ مقام ہے۔ جہاں انسان اپنے اعمال کی قوت سے نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے لیے رات اور دن پیدا کیا گیا۔ تیری میری طرف وہ نسبت ہے۔ جس کی مخلوق کو آگاہی نہیں۔ اے لوگو! تمہارے پاس خدا کا نور آیا۔ پس تم منکر مت بنو۔ وغیرہ الخ!

(کتاب البریہ ص ۸۵ تا ۸۲، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۰ تا ۱۰۳)

اور ان کے ساتھ اور مکاشفات ہیں۔ جو ان کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک کشف میں میں نے دیکھا کہ میں اور حضرت عیسیٰ ایک ہی جوہر کے ٹکڑے ہیں اس کشف کو میں براہین میں چھاپ چکا ہوں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تمام صفات روحانی میرے اندر ہیں۔ اور جن کمالات سے وہ موصوف ہو سکتے ہیں۔ وہ مجھ سے بھی ہیں۔ اور ہر ایک کشف سے جو (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۳، ۵۶۵، خزائن ج ۵ ص ۵۶۳، ۵۶۵) میں مدت سے چھپ چکا ہے۔ ”میں نے اپنی کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اور میرا اپنا کوئی امر کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا۔ اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں یا اس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنے بغل میں دبا لیا ہو۔ اور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا۔ یہاں تک کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہ گیا ہو۔ اس اثناء میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی۔ اور میرے جسم پر مستولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پہنایا کر لیا۔ یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہیں رہا۔ اور میں نے اپنی جسم کو دیکھا۔ تو میرے اعضاء اس کے اعضاء اور میری آنکھ اس کی آنکھ اور میرے کان اس کے کان اور میری زبان اس کی زبان بن گئی ہے۔ میرے رب نے مجھے پڑا۔ اور ایسا پکڑا۔ کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا۔ اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں بخوش مارتی ہے۔ اور اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے۔ حضرت عزت کے خیمہ میرے دل کے چاروں طرف لگے ہیں۔ اور سلطان جبروت نے میرے لہس کو پیش ڈالا۔ سونہ تو میں ہی رہا۔ اور نہ میری کوئی تمنا ہی باقی رہی۔ میری اپنی عمارت گر گئی۔ اور وہب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی۔ اور الوہیت بڑی زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی اور میں سر کے پاؤں کے ناخن پاتک اس کی طرف کھینچا گیا۔ پھر میں ہمہ تغیر ہو گیا۔ جس میں کوئی پوست نہ تھا۔ اور ایسا تیل میں گیا۔ کہ جس میں کوئی میل نہ تھا اور مجھ میں اور میرے لہس میں جدائی ڈال دی گئی۔ پس میں اسی شے کی طرح ہو گیا۔ جو نظر نہیں آتی۔ یا اس قطرہ کی طرح جو دریا میں جا ملے۔ اور دریا اس کو اپنی چادر کے نیچے چھپالے۔ اس حالت میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا۔ اور میرا وجود کیا

تھا۔ الوہیت میری رگوں اور پشوں میں سرایت کر گئی۔ اور میں بالکل اپنے آپ سے کھویا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے سب اعضاء اپنے کام میں لگائے۔ اور اس زور سے اپنے قبضہ میں کر لیا۔ کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اس گرفت سے میں بالکل معدوم ہو گیا۔ اور میں اس وقت یقین کرتا تھا۔ کہ میرے اعضاء میرے نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں۔ اور میں خیال کرتا تھا۔ کہ میں اپنی سارے وجود سے معدوم اور اپنی ہوت سے قطعاً نکل چکا ہوں۔ اب کوئی شریک اور متاع روکنے والا نہیں رہا۔ خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا۔ اور میرا غضب اور حلم اور مٹی اور شیرینی اور حرکت اور مکان سب اس کا ہو گیا اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین بنانا چاہتے ہیں۔ سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی۔ پھر میں نے مشاء حق کے موافق ان کی ترتیب اور تفریق کی۔ اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کی خلق پر قادر ہوں اور میں نے آسمان وغیرہ کو پیدا کیا۔ اور کہا کہ انا زیننا السماء الدنیا بمصابیح پھر میں نے کہا کہ اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی اور زباں پر جاری ہوا۔ اردت ان استخلف فخلق آدم انا خلقنا الانسان في احسن تقویم“ (کتاب البریہ ص ۷۸، ۷۹، تذکرہ ص ۱۹۲، ۱۹۳، خزائن ج ۵ ص ۵۶۲، ۵۶۵)

”اب حضرت پادری صاحبان سوچیں۔ اور غور کریں اور ان الہامات کو یسوع مسیح کے الہامات سے مقابلہ کریں۔ اور پھر انصافاً گواہی دیں کیا یسوع کے وہ الہامات جن سے وہ اس کی خدائی نکالتے ہیں۔ ان الہامات سے بڑھ کر ہیں۔

کیا یہ سچ نہیں۔ اگر کسی کی خدائی ایسے الہامات اور کلمات سے نکل سکتی ہے۔ تو ان میرے الہامات سے نفوذ باللہ میری خدائی یسوع کی نسبت بدرجہ اولیٰ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور ان سے بڑھ کر ہمارے سید و مولیٰ رسول اللہ کی خدائی ثابت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آپ کی وحی صرف یہی نہیں۔ کہ جس نے تجھ سے بیعت کی۔ اس نے خدا سے بیعت کی۔ اور نہ صرف یہ کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے اور آپ کے ہر فعل کو اپنا فعل ٹھہرایا ہے۔ اور یہ کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی آپ کے تمام کلام کو اپنا کلام ٹھہرایا ہے۔ بلکہ ایک جگہ اور تمام بندوں کو آپ کے بندے قرار دیا ہے۔ قل یا عبادی یعنی کہہ کہ اے میرے بندے! بس ظاہر ہے کہ جس قدر صراحت اور وضاحت سے ان پاک کلمات سے ہمارے نبی ﷺ کی خدائی ثابت ہو سکتی ہے۔ انجیل کے کلمات سے یسوع کی خدائی ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔

بھلا اس سید الکوین علیہ السلام کی تو شان عظیم ہے ذرا انصافاً پادری صاحبان ان میرے الہامات کو ہی انصاف کی نظر سے دیکھیں اور پھر خود ہی منصف ہو کر کہیں کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اگر ایسے کلمات سے خدائی ثابت ہو سکتی ہے تو میرے الہامات یسوع کے الہامات سے بہت زیادہ میری خدائی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اگر خود پادری صاحبان سوچ نہیں سکتے۔ تو کسی دوسری قوم کے تئیں منصف مقرر کر کے میرے الہامات اور انجیل میں بھی یسوع کے وہ کلمات جس سے اس کی خدائی سمجھی جاتی ہے۔ ان منصفوں کے حوالہ کریں پھر اگر منصف لوگ پادریوں کے حوالہ کریں۔ پھر اگر منصف لوگ پادریوں کے حق میں ڈگری اور حلقہ یہ بیان کریں۔ کہ یسوع کے کلمات میں سے یسوع کی خدائی زیادہ صفائی سے ثابت ہو سکتی ہے۔ تو میں تاوان کے طور پر ہزار روپیہ ان کو دے سکتا ہوں اور میں منصفوں سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنی شہادت سے پہلے یہ قسم کھالیں۔ کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ ہمارا بیان صحیح ہے اور اگر صحیح نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ ایک سال تک وہ عذاب ہم پر نازل کرے۔ جس سے ہماری تباہی اور ذلت اور بربادی ہو جائے۔ اور میں خوب جانتا ہوں۔ کہ پادری صاحبان ہرگز اس طریق فیصلہ کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں۔ کہ جو مسیح کے منہ سے نکلا۔ وہ تو حقیقت میں خدا کا کلام تھا۔ اس لیے وہ دستاویز کس طور پر قبول ہو سکتا ہے۔ لیکن جو تمہارے منہ سے نکلا۔ وہ خدا کا کلام نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یسوع کے منہ سے جو کلام نکلا۔ اس کے خدا کے کلام ہونے میں ذاتی طور پر تو حضرت عیسا یوں کو کچھ معرفت نہیں۔ خدا نے بلا واسطہ ان سے باتیں نہیں کیں۔ ان کے کانوں میں کسی فرشتے نے آکر نہیں پھونکا۔ کہ یسوع خدا یا خدا کا بیٹا ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا۔ کہ یسوع دنیا میں تولد پا کر ایک کبھی بھی پیدا کی۔ صرف چند کلمات ان کے ہاتھ میں ہیں۔ جو یسوع کی طرف منسوب کیے گئے ہیں جس کو مروڑ تر وڑ کر یہ خیال کر رہے ہیں۔ کہ ان سے ان کی خدائی ثابت ہوتی ہے۔

یہ کلمات اور مکاشفات جو میں نے پیش کیے ہیں۔ وہ ان سے صد ہا درجہ بڑھ کر ہیں۔ پھر اگر اس خیال سے ان کلمات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ معجزات سے ثابت ہو چکے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یسوع معجزات جو اس زمانہ کے لیے صرف قصہ اور کہانیاں ہیں۔ کوئی بھی کہہ نہیں سکتا۔ کہ میں نے ان میں سے کچھ آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ مگر وہ خوارق اور نشان جو خدا تعالیٰ کے فضل سے مجھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ تو ہزاروں انسانوں کی چشم دید باتیں ہیں۔ پھر یسوع کے معجزات کو جو محض قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں بتائی جاتی ہیں۔ ان چشم دید نشانوں سے کیا مناسبت۔ پھر جب کہ خدا تعالیٰ کے گزشتہ قصہ جن میں جھوٹ کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے۔ قبول کیے

گئے ہیں تو موجودہ نشان بدرجہ اولیٰ قبول کرنے کے لائق ہیں۔ اگر دنیا میں کسی عیسائی کے دل میں انصاف ہے۔ تو میری اس تقریر کو نہایت منصفانہ تقریر سمجھے گا۔“

”میں دوبارہ لکھتا ہوں کہ میری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو خدا بنا رکھا ہے۔ یہ سراسر ان کی غلطی ہے۔ جن کلمات سے وہ یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ یسوع خدایا ابن اللہ ہے ان کلمات سے بڑھ کر میرے الہامی کلمات میں پادری صاحبان سوچیں۔ اور خوب سوچیں۔ اور اور بار بار سوچیں۔ کہ یسوع کے خدا بنانے کے لیے ان کے ہاتھ میں بجز چند کلمات کے اور کیا چیز ہے۔ پس میں ان سے یہی چاہتا ہوں کہ وہ میرے الہامی کلمات کو ان کے کلمات کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھیں۔ اور پھر انصافاً ذکر کریں کہ اگر ظاہر الفاظ پر اعتبار کیا جائے تو ایک شخص کے خدا بنانے کے لیے جیسے میرے الہامی کلمات قوی دلالت کرتے ہیں یسوع کے الہامی کلمات ہرگز ایسی دلالت نہیں کرتے۔ تو پھر کیا وجہ کہ جن کلمات سے یسوع کو خدا بنایا جاتا ہے۔ اور وہی کلمات بلکہ ان سے بڑھ کر جب دوسرے کے حق میں ہوں۔ پھر اس کے اور معنی کیوں کیے جاتے ہیں۔ اگر کہو کہ پہلی کتابوں میں مسیح کے آنے کی خبر دی گئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان ہی کتابوں میں بلکہ مسیح کی زبان سے مسیح کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی تھی۔

اور وہ میں ہوں جیسا کہ انجیل میں لکھا تھا۔ زلزلہ بھی آئے ایک قوم کی دوسری قوم سے لڑائیاں بھی ہوئیں۔ سخت سخت و بائیں پڑیں اور آسمان سے ظاہر ہوئے غرض میں ہی پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہوں۔“ (کتاب البریہ ص ۵۷، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۸، ۱۰۵، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲)

آرڈلی..... پادری کلارک صاحب اور مرزا غلام احمد قادیانی حاضر ہے؟

مرزا صاحب..... حاضر پادری صاحب پہلے سے کچھری کے کمرہ کے اندر تھے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک صاحب، مستغیث بنام مرزا غلام احمد قادیانی، جرم زیر دفعہ ۱۸۸ ضابطہ فوجداری، بیان ہنری مارٹن کلارک باقر اصرار

میں پندرہ سال سے ڈاکٹر مشنری ہوں۔ ہماری واقفیت مرزا صاحب سے ۱۸۹۳ء سے ہے۔ مسٹر عبد اللہ آتھم اور ان کے درمیان جب مناظرہ مذہبی ہوا تھا۔ اس کا میں صدر تھا۔ مرزا غلام احمد نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے پیشوا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مناظرہ ہو۔ ہم نے ایک کتاب پیش کی۔ جو مولوی محمد حسین صاحب بنالوی نے لکھی ہوئی تھی۔ اور اس میں اہل اسلام کے پیشواؤں نے قرار دیا۔ کہ مرزا صاحب مسلمان نہیں۔ بلکہ کافر ہیں۔ اور دجال کے چچا ہیں۔

میں عیسائیوں کی طرف سے پریذینٹ کمیٹی مناظرہ تھا۔ دوسرے دن ہم کو مناظرہ میں بیٹھنا پڑا۔ مرزا صاحب نے اظہار کیا کہ وہ معجزات دکھاتے ہیں۔ ہم نے انہوں کو ننگڑوں کو اچھا کرنے کے واسطے کہا۔ جو موجود کیے گئے تھے مگر وہ نہ کر سکے۔ پھر مرزا صاحب نے وہ پیشگوئی کی کہ عیسائی مخالف پندرہ ماہ کے اندر مر جائے گا۔ یعنی جو شخص فریقین سے راستی پر نہیں ہے۔ پندرہ ماہ کے اندر ہمارے موت ہادیہ میں گرایا جائے گا۔

کتاب جنگ مقدس چھاپہ شدہ پیش کرتا ہوں۔ اور جس جگہ مرزا صاحب نے یہ پیشگوئی لکھی۔ A کر دیا ہے بعد ازاں لوگوں کے خیالات عبد اللہ آتھم صاحب کی طرف تھے۔ عبد اللہ آتھم ضعیف آدمی تھا۔ تاہم عبد اللہ آتھم کی تیار داری کی طرف تھے۔ عبد اللہ آتھم پر حملے کیے گئے۔ جس سے اس کو اپنے مکان کی تبدیلی کرنی پڑی۔ وہ امرتسر سے لدھیانہ اور لدھیانہ سے فیروز پور گیا۔ اور پیشگوئی کے آخری دو ماہ میں خاص گھڑانی بذریعہ پولیس دن رات کرائی گئی۔ خاص حملہ جو کیا گیا۔ ایک امرتسر میں ہوا تھا۔ ایک سانپ (کوبرا) ایک برتن میں بند کر کے ایک شخص پادری عبد اللہ آتھم کے گھر میں ڈال گیا۔ گوہم نے خود نہیں دیکھا۔ مگر یہ امر سچ ہے کہ وہ سانپ مارا گیا تھا۔ اور عام لوگ کہتے تھے۔ مسٹر آتھم نے ہی ہمیں اطلاع دی ہے کہ ایسا ہوا۔ فیروز پور میں دو دفعہ عبد اللہ آتھم پر بندوق چلائی گئی اور ایک دفعہ عبد اللہ آتھم کے اوپر بندوق چلائی گئی۔ اور ایک دفعہ عبد اللہ آتھم کے سونے کے کمرہ کا دروازہ توڑا گیا۔ مرزا غلام احمد دولت مند آدمی ہیں وہ ہمیشہ اپنے دعاوی کی تصدیق کرنے کے واسطے بڑی بڑی رقمیں شرطیہ لکھتے ہیں۔ چنانچہ اشتہار معیار الاخیا رو الاشرار میں پانچ ہزار انعام کا وعدہ انہوں نے لکھا ہے۔ مجھ کو علم ہوا ہے کہ وہ بہت روپیہ اپنے بیروؤں سے حاصل کرتا ہے۔ ڈاک خانہ کی معرفت بہت روپیہ حاصل ہوتا ہے۔ عبد اللہ آتھم کی زندگی پر حملے جو ہوئے۔ وہ عام طور پر مرزا صاحب کی طرف منسوب کیے گئے۔ اخباروں میں اسی طرح درج ہوتا رہا۔ مگر مرزا صاحب نے کبھی ان کی تردید نہیں کی۔ بلکہ ایک طرح پر خوشی منائی۔ اور یہ اظہار کیا کہ عبد اللہ آتھم اندر سے مسلمان ہو گئے تھے۔ مرزا صاحب اپنے آپ کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ ان کا مدعا یہ ہے کہ ایک قسم کا خوف تمام پیدا ہو جائے۔ اور مسیح موعود ہونے کے دعویٰ سے لوگوں کے دلوں میں رعب قائم کرے اور وہ لوگ اس کے دعاوی کو مان لیں۔

مرزا صاحب..... عدالت کے استفسار پر کتاب جنگ مقدس میں جو الہامی فقرات صفحہ ۱۶۔ ۱۷ پر درج ہیں۔ وہ میری طرف سے ہیں اور اشتہار جو پانچ ہزار کا وعدہ ہے۔ وہ بھی میری طرف سے ہے۔ اور کتاب شہادت میں صفحہ ۱۸۵ پر جو پیشگوئیوں کا ذکر ہے۔ وہ قریباً میرے الفاظ ہیں۔



پادری صاحب..... کتاب شہادت میں پیشگوئیاں موت کی ہیں۔ مذاہب کے واسطے کی گئی ہیں۔ ایک احمد بیک کے داماد کی نسبت مسلمانوں سے۔ دوسری لکھنؤ کی نسبت ہندوؤں سے اور مسٹر عبداللہ آتھم کی نسبت عیسائیوں سے۔ جس سے مرزا صاحب کی مراد ڈرانے کی تھی۔ میں عبداللہ آتھم کی حفاظت کا انتظام کرتا رہا۔ اور جب عبداللہ آتھم کی نسبت پیشگوئی پوری نہ ہوئی۔ تو میں نے عام طور پر مرزا صاحب کے جھوٹا ہونے کی بابت مشتہر کیا۔ اور عام جلسہ کیے گئے جس سے مسلمانوں نے مرزا صاحب کو سخت نفرت کی نظر سے دیکھا۔ اور ان کی بہت حقارت ہوئی۔ اور مرزا صاحب میرے سخت مخالف ہو گئے۔ ایک شخص مولوی عبدالحق صاحب غزنوی نے ایک اشتہار چھاپا۔ (حرف D) جس میں مرزا صاحب کی نسبت انہوں نے لکھا کہ اس نے آریہ وغیرہ سے بزرگوں کو گالیاں دلوائی ہیں۔ پھر قرآن کا اردو ترجمہ پادری عماد الدین صاحب نے کیا۔ جس سے آریوں نے مرزا صاحب کو کہا کہ کیوں پادری عماد الدین کو ابھارا کہ اس نے ترجمہ کیا علاوہ ازیں ایک تعداد اشخاص کی عیسائی ہو گئی جن میں ایک شخص محمد یوسف تھا جو ایک اچھا مقرر آدمی ہے۔ اور پرہیزگار دین دار بناد سبھا جاتا تھا۔ اور سیکرٹری اور ایجنٹی مباحثہ میں رہا تھا عیسائی ہو گیا۔

دوسرا آدمی میرے محمد سعید تھا۔ جو مرزا صاحب کی بیوی کا خالہ زاد بھائی تھا وہ بھی عیسائی ہوا۔ اور خاص ہمارے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اور جس سے اور بھی مرزا صاحب ہمارے برخلاف ہو گئے۔ جب محمد یوسف خاں عیسائی ہوا۔ اس کو مسلمانوں نے پوچھا کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی آتھم کی بابت پوری کرتے ہو۔ یہ بات خلوت میں انہوں نے پوچھی تھی۔ پیشگوئی جو نسبت احمد بیک کے ہوئی۔ وہ پوری نہیں ہوئی۔ پیشگوئی جو عیسائیوں سے آتھم صاحب کی بابت ہے۔ وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا۔ کہ مرزا صاحب کی عزت اور آمدنی میں فرق آ گیا۔ دوکان اس کی بند ہو گئی۔ اور لوگ ٹھنکا کرنے لگے۔ اب صرف پیشگوئی برخلاف ہندوؤں کے باقی رہی ہے۔ کچھ عرصہ گزرا ہے۔ کہ لکھنؤ میں قتل کیا گیا ہے۔ جس کے مرنے سے عام آگ ملک میں لگ گئی۔ حالات قتل کے عجیب ہیں۔ قاتل نے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کیا۔ اور کہا کہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اب پھر ہندو ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا رسوخ اور اعتبار لکھنؤ کے ساتھ پیدا کیا۔ اور یہ واقعہ قتل اس کے چند ہفتے بعد ظہور میں آیا۔ قتل عام طور پر نسبت مرزا غلام احمد کے قریباً منسوب کیا جاتا ہے میں ایک کتاب مصنف مولوی محمد حسین صاحب ٹالوی پیش کرتا ہوں۔ جس میں وہ مرزا صاحب پر اس قتل کا الزام لگاتے ہیں۔

مرزا صاحب..... میں نے کچھ کچھ کتاب حرف E کو دیکھا ہے۔

پادری صاحب..... مرزا صاحب نے ۲۲ مارچ ۱۸۹۷ء کو ایک ہینڈ مل ضیاء الاسلام پر لیس قادیاں سے شائع کیا۔ جو اس امر پر بڑا زور دیتا ہے۔ ہم کو خبر تھی کہ لکھنؤ میں ۶ مارچ ۱۸۹۷ء کو ۶ بجے شام کے وقت مارا جائے گا مگر واقعہ کے بعد یہ ہینڈ مل شائع کیا گیا اور یہ کہ ہماری پیشگوئی کے مطابق تھا۔

مرزا صاحب..... ہم نے پہلے سے یہ پیشگوئی کی ہوئی تھی۔ اور اس کے حوالے سے الہامی طور پر اشتہار دیا گیا ہوگا۔

پادری صاحب..... قاتل کبھی نہیں ملے گا۔ یہ امر مرزا صاحب نے کہا تھا غام مشہور ہے۔ ہمارا قیاس یہ ہے کہ لکھنؤ میں قاتل بھی قتل کیا گیا ہے۔ جو کاغذات اس بارے میں ہمارے پاس تھے۔ وہ سرکار میں ہم نے بھیج دیئے تھے۔ اور ایک وجہ مجھ کو ایذا پہنچانے کے واسطے یہ تھی کہ جب سے مسٹر عبداللہ آتھم انتقال کر گئے۔ صرف میں ہی اس مباحثہ کے متعلق ایک سرگروہ رہ گیا ہوں۔ اور مرزا صاحب ہر طرح سے ہم کو فحش کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور ہماری نسبت و اہیات طریقہ اختیار کر رکھا ہے اپنے قلم اور زبان کو قابو میں نہیں رکھا ہوا۔ چنانچہ مرزا صاحب نے ایک کتاب انجام آتھم شائع کی۔ جو ہر قسم کی ہزلیات سے پر ہے اور اس کتاب میں صفحہ ۴۴ پر اس قدر جرات کی ہے۔ کہ ہمارے حق میں لکھا ہے کہ مقابلہ کے واسطے آؤ۔ اس کتاب پر حرف F لگا یا گیا۔

مرزا صاحب..... تسلیم کر کے واقعی یہ کتاب ہم نے شائع کی تھی۔ ۱۴ ستمبر ۱۸۹۶ء کو شائع کی ہے۔ مجھ کو الہامی طور پر خبر دی گئی تھی کہ دیا نند مر جائے گا۔ اور یہ خبر قبل از وقت دی گئی تھی اور بعض آریہ لوگوں کو علم تھا۔ میں نے بعض کو اطلاع کر دی تھی۔ لکھنؤ میں اس کے مرنے سے قریب پانچ سال پہلے میں نے اس کے مرنے کے اطلاع کی تھی۔

سر سید احمد خاں کی بابت میں نے پیشگوئی کی تھی۔ کہ اس پر آفت آئے گی۔ احمد بیگ اور اس کی لڑکی کے بارے میں اور داماد کے بارے میں پیشگوئی کی تھی۔

مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی بابت ۴۰ یوم کے مرنے یا تکلیف بابت کوئی پیشگوئی نہیں کی۔ (آئینہ کلمات مشہورہ ۱۸۹۴ء)

عبداللہ آتھم کی بابت ایک ہزار اور دو ہزار اور تین ہزار اور چار ہزار روپیہ کے انعام کا وعدہ کیا۔

انجام آتھم شائع کیا جانا تسلیم ہے۔

پادری صاحب..... انجام آتھم میں مرزا صاحب نے پیشگوئی کی تھی کہ ۹۴ مولوی اور ۶۸ چھاپہ

والے ہمارے پرایمان نہیں لائیں گے تو مرجائیں گے۔

مرزا صاحب..... نہیں یہ ہم نے نہیں کہا۔

پادری صاحب..... اس پیشگوئی میں لکھرام کے مرنے کی بابت وہ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ کہ مہابلہ کرو۔

مرزا صاحب..... تسلیم کیا۔ گنگا جشن مولوی محمد حسین بنا لوی۔ رائے چند سنگھ پیشگوئی بابت لکھرام کے مہابلہ کے واسطے بلانا تسلیم ہے۔

شیخ مہر علی کو دھمکی دی گئی۔ کہ اگر وہ بیعت نہ کریں۔ تو عذاب ان پر نازل ہوگا۔ تسلیم نہیں کیا۔

پیشگوئیاں مذکورہ بالا کا (دستی تحریر شدہ) کاغذ نمبر ۱ میں درج ہے جو عدالت میں داخل کیا گیا ہے۔ لکھرام کے قتل کے بعد مخفی طور پر آگاہ کیا گیا کہ ہم کو خبر دار رہنا چاہیے۔ مبادا مرزا صاحب نقصان پہنچائے۔ ایک اشتہار میں مرزا صاحب نے یہ لکھا تھا۔ کہ کچھ حصہ کفر کا مٹ گیا ہے۔ اور کچھ حصہ جلد مٹنے والا ہے۔ یہ فقرات جو ہیں۔ ان کی بابت میرا خیال ہے کہ جو حصہ کفر کا مٹ گیا۔ وہ لکھرام کی بابت ہے۔ اور جو باقی ہے جو میری نسبت ہے۔ اور اس لیے میں نے سرکار میں اطلاع دی تھی۔ کہ اشتہار وغیرہ جو میرے پاس آتے ہیں۔ وہ ہمیشہ قادیان سے آتے ہیں۔ حالانکہ میں نہ چندہ دیتا ہوں۔ اور نہ کوئی تعلق ہے بعد مناظرے کے ہماری خط و کتابت چند عرصہ تک رہی۔ اور پھر بعد ازاں ہر طرح سے ہم نے خط و کتابت وغیرہ کا مرزا صاحب سے قطع تعلق کر دیا۔ ۳ ماہ گزشتہ میں ہم نے کوئی اشتہار وغیرہ مرزا صاحب کی طرف سے وصول نہیں پایا۔ جس سے میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھے۔ کہ میری طرف سے وہ غافل ہیں۔ ۱۶ جولائی ۱۸۹۷ء کو ایک شخص جو ان عمر میرے پاس آیا۔ اور اس نے عیسائی ہونے کی درخواست کی۔ اس نے اپنا نام عبدالحمید بتلایا۔ اور اس نے کہا میں جنم کا برہمن ہوں اور میرا ہندو نام رلیارام ہے اور والد کا نام رام چند ہے۔ اور کھجوری دروازہ بنالہ کارہنے والا ہوں۔ سال کی عمر میں مرزا نے مجھے مسلمان کیا تھا۔ جس کو ۶ سال گزرے ہیں۔ وہ ایک ہندو دوست کی ترغیب سے مسلمان ہوا تھا۔ اور وہ دوست بھی اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا۔ میرا دوست اوڑھ قوم کا تھا۔ اور کرپارام اس کا نام تھا۔ اب عبدالعزیز ہے۔ اور بنالہ میں کپوری دروازہ کے اندر تمباکو کی دوکان کرتا ہے۔ سات سال کے عرصہ میں مرزا صاحب کے یہاں میں طالب علم رہا۔ اور قرآن کی تعلیم پاتا رہا۔ حال میں جو مرزا صاحب کے دعاوی کی نسبت الہامات باطل ثابت ہوئے۔ تو اس کو یقین ہوا۔ کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہیں۔

اور اس نے خیال کیا۔ کہ مرزا صاحب اچھے آدمی نہیں ہیں اور شرانگیز ہیں۔ سیدھا قادیان سے آیا ہوں اور عام طور پر علانیہ میں نے مرزا صاحب کو گالیاں دی ہیں۔ جب وہاں سے چلا تھا۔ میں چپے ساتھ کچھ نہیں لایا خداوند یسوع کا قول ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ پیچھے چلو۔ میں کچھ اور نہیں چاہتا۔ صرف ہتسمہ لینا چاہتا ہوں۔ اپنی معاش نوکری اٹھا کر قلی گری کر کے بسر کروں گا۔ ہم کو کوئی کافی وجہ اس نے نہ بتلائی کہ کیوں آیا ہے کیونکہ بٹالہ اور گورداسپور میں مشنری صاحب موجود ہیں۔ اور نہ اس نے کوئی خاص وجہ بتلائی۔ کہ وہ کیوں خاص کر میرے پاس آیا ہے۔ جبکہ اور بھی مشنری صاحب موجود ہیں۔ اس نے صرف یہ کہا کہ اتفاقاً ایک شخص کے آپ کی کوشی بتلانے پر آیا ہوں۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کراہی ریل کا کہاں سے لیا تو وہ بتلانہ سکا۔ ان باتوں پر ہماری خاص توجہ غور کے واسطے ہوئی۔ اور غور طلب معاملہ ہم نے سمجھا اور یہ میرے دل میں گزرا کہ اس کے بیانات لکھرام کے قاتل کے بیانات سے عجیب تشبیہ رکھتے ہیں پس ہم نے اس کی طرف خاص دھیان رکھا۔ پس اس سے گفتگو کر کے ہم نے قصد مذکور کیا۔ اس شخص نے کچھ واقفیت دین عیسوی بھی ظاہر کی ہم نے پوچھا کہ تم نے کہاں سے یہ واقفیت حاصل کی۔ اس نے کہا قادیان میں ایک عیسائی بٹالہ کار بتاتا ہے۔ جو مسلمان ہو کر مرزا صاحب کے ہاں رہتا ہے۔ نام اس کا سائیاں ہے۔ اس کے پاس انجیل مقدس تھی۔ اور مطالعہ کیا کرتا تھا۔ جہاں سے مجھے شوق و رغبت ہوئی۔ میں نے اس نوجوان کو مہاں سنگھ گیٹ والا شفا خانہ میں بھیج دیا۔ کہ وہاں طالب علموں کے پاس رہے اور تعلیم پائے۔ اور ہم نے اس کو بوتلوں کے صاف کرنے وغیرہ کا کام دیا۔ قریباً پانچ چھ یوم تک وہ اس جگہ رہا۔ اول قابل توجہ ہمیں یہ بات تھی کہ وہ مرزا صاحب کے حق میں بہت ہی برا بکتا تھا۔ دوم وہ ہتسمہ لینے کی از حد خواہش رکھتا تھا اور سوم بلا وجہ اور بلا طلبی ہماری کوشی پر آ کر گشت اور سیر اور ملاقات چاہتا تھا اور باوجودیکہ ۱۵ سال کی عمر میں وہ محمدی ہوا تھا۔ اپنی گوت (برہمن) سے ناواقف تھا۔ اور ناکوں سے ناواقف تھا اور مختلف اشخاص سے اپنی نسبت کہانی بیان کی۔ مثلاً ایک شخص سے اس نے اپنے دوست کا نام ایشراس بجائے کر پارام بتلایا۔ بعد انقضائے پانچ روز ہم نے اپنے ہسپتال واقع بیکاس پر اس کو بھیج دیا۔ وہاں بھی میرے طالب علم پڑھتے تھے۔ جاتے ہی اس نے ایک خط مولوی نور الدین صاحب کے نام جو مرزا صاحب کے دانے ہاتھ کا فرشتہ ہے لکھا۔ یہ اسی شخص کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ خط اس نے لکھا ہے۔ مطلب اس خط کا یہ تھا کہ میں عیسائی ہونے لگا ہوں آپ مدد کر سکتے ہیں تو روک لیں۔ یہ مطلب بھی اس کی زبانی معلوم ہوا تھا۔ اور دیگر شہادت بھی تھی۔ باعث خط لکھنے کا یہ تھا کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ بہتر ہوگا۔ کہ ہم مرزا

صاحب کو محط لکھیں۔ کہ یہ شخص عیسائی ہونا چاہتا ہے کل کو یہ نہ کہیں کہ تم ان کے چور ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں میں خود خط لکھتا ہوں اور اس نے خط لکھ کر بیرنگ ڈاک میں ڈالا۔ اور مجھے خط کے لکھنے سے منع کیا تھا۔ جب تک میرے ہتھمہ کا وقت ہو۔ وہ ہمارے پاس ہے ہم پیش کریں گے۔ پھر ہم نے اس نوجوان لڑکے کی بابت دریافت کرنا شروع کیا۔ ایک آدمی مثالہ میں دریافت کے واسطے بھیجا گیا۔ اس آدمی کا نام عبدالرحیم ہے۔ اس نے مثالہ کے متعلق حالات عبدالحمید کے محض جھوٹے پائے۔ ذرا بھی اس میں سچ نہ تھا۔ تب مولوی عبدالرحیم سید صاحب قادیان میں مرزا صاحب کے پاس پہنچا۔ اور مکان پر پہنچ کر اس نے دریافت کیا۔ کہ آیا کوئی شخص عبدالحمید نام یہاں پر ہے۔ ایک لڑکا وہاں تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں تھا۔ مگر مرزا صاحب کو گالیاں دے کر چلا گیا ہے۔ پھر مولوی عبدالرحیم مرزا صاحب کے پاس گیا۔ اور دریافت پر کہا کہ میں عیسائی ہوں۔ اور عبدالحمید کی بابت دریافت کیا۔ مرزا صاحب نے کہا وہ جھوٹا ہے پیدا کئی مسلمان ہے۔ اور اس کا پیدا کئی نام عبدالحمید ہے۔ اور وہ مولوی برہان الدین جہلمی کا بھتیجا ہے۔ وہ راولپنڈی میں عیسائی ہوا تھا۔ اور یہاں قادیان میں آکر پھر مسلمان ہو گیا تھا۔ اور کچھ عرصہ محنت نوکری اٹھا کرتا رہا اور قریباً سات آٹھ یوم سے یہاں سے چلا گیا ہے اور یہ عرصہ اس سے مطابق ہے۔ جب وہ ہماری کوشی پر آیا تھا۔ اور آخر کار مرزا صاحب نے کہا۔ اس کی اچھی طرح خاطر اور مدارت کرو۔ اور خوراک پوشاک عمدہ دو دوہ تمہارے پاس رہے گا۔ پھر ہم نے جہلم سے دریافت کیا۔ وہاں سے ہم کو معلوم ہوا کہ اس نوجوان آدمی کا نام عبدالحمید نہیں ہے اور اس کا باپ مر گیا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے ایک بچے سے نکاح کر لیا ہے اور دوسرا بچا اور خاندان کا ممبر برہان الدین ہے۔ جو مولوی برہان الدین غازی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ قوم کے گھگڑ ہیں۔ برہان الدین معہ کل خاندان کے نہایت ہی پکے محمدی ہیں۔ برہان الدین مجاہدین سے ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جو مجاہدین سرحد پر ہیں۔ ان سے اس کا واسطہ تعلق رہا ہے۔ اور وہ بڑا بے دھڑک ہے۔ اگرچہ اب عمر زیدہ ہے۔ جہاں تک سنا ہے، نیک معاش ضرور ہے۔ اور نسبت سب خاندان کے برہان الدین مرزا صاحب پر جاں نثار ہیں۔ نوجوان آدمی کی کچھ حقیقت نہیں جانتا قریباً سو بیگہ اراضی ہے۔ اور کچھ نقد بھی ہے جو بوقت وفات اس کے والد کے اس کے چچوں کے قبضہ میں آیا۔ یہ تحقیقات محمد یوسف خاں نے کی تھی۔ جو مرزا صاحب کا سابق مرید تھا اور خود بھی مجاہدوں کی پورکھتا تھا۔ اور برہان الدین کا دوست قدیمی تھا۔ اس کا خط ہمارے پاس ہے۔ جو پیش کیا جاتا ہے مگر ضرورت پیش کرنے کی نہیں۔ اس نوجوان کو کبھی ہتھمہ نہیں دیا گیا تھا۔ اور وہ نہایت بری اور ناشائستہ زندگی بسر کرتا تھا۔ اور اس نے اپنے بچا

کے چالیس روپیہ چوری کر کے شہوت پرستی میں خراب کیے تھے۔ رات دن وہ بد مستوں اور عیاشوں اور رٹری بازوں میں پھرتا رہتا تھا پھر ہم نے اس کے عیسائی ہونے کے متلاشی ہونے کی بابت گجرات سے دریافت کیا۔ بذات خود ہم نے دریافت کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ گجرات کے ضلع سوگ کے ریلینڈ ورکس پر میٹ رہا تھا۔ اور روز شادی کی بابت آکر پادری صاحب یا عیسائیوں کو دق کرتا تھا۔ اور اپنی بہن کے پاس جو کھوا میں رہتی تھی۔ سکونت رکھتا تھا۔ اور کہا کہ ایک روز میں انجیل پڑھتا تھا۔ ایک دن بہنوں نے نکال دیا۔ اور پادری صاحب کے پاس گجرات آیا۔ ہماری دریافت کا نتیجہ یہ تھا۔ کہ وہ لڑکانہایت بد چلن اور مشکوک سا آدمی گجرات میں تھا۔ اور اس لیے زنا کاری کی علت میں گجرات سے مشن والوں نے نکال دیا تھا۔ کسی صورت میں اسے عیسائی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ نہایت برا محمدی سمجھا جاتا تھا۔ گجرات میں اس کی ایک دوست بازاری عورت تھی۔ ایک شخص میرا بنش جو لہا تھا۔ جو مرزا صاحب کا سخت عقیدت مند مرید ہے۔ جب ہم نے یہ باتیں سنیں۔ تو ہمارا اشتہا مرزا صاحب کی نسبت اور زیادہ ہوا۔ کہ وہ قادیان میں ٹوکری اٹھاتا رہا تھا۔ اور آخر کار گالیاں دے کر چلا آیا ہے۔ جس کا اصل مدعا یہ ہے کہ اس امر کا اشتہا نہ ہو۔ کہ اس نوجوان کی مرزا صاحب سے سازش ہے۔ اور مرزا صاحب سے جو دریافت کیا گیا۔ تو جو معلوم تھا کہہ دیا تھا۔ ہم نے جرائم کے ارتکاب کے اصول کا جو قانون ہے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ جو جب اس علم کے جو شخص زنا پر آمادہ ہو۔ اس کو قتل پر آمادہ کرنا آسان ہے۔ نیز ایسے اشخاص جن کو حوران بہشت کی تمنا ہو۔ اور ایسے نوجوان جن کو زنا کی لت ہو۔ قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے شخص کو حوران بہشت کا خیال بڑھ کر لقمہ ہے۔ جاں جائے تو چلی جائے۔ حوران بہشت تو ملیں گی۔ نیز ہم کو یہ بھی علم ہوا کہ وہ نوجوان ایک نکلے مسلمان خاندان جھلمی سے تھا۔ جن کو مرنے کا ذرا خوف نہیں ہے۔ اور اگر وہ بطور مرید مرزا صاحب مرتا۔ تو مرزا صاحب کی عزت تھی اور اگر وہ بطور مسلمان کے مرتا۔ تو شہید کہلاتا اور اگر یوں مرتا تو اس کی جائیداد سے اس کے چچوں کو فائدہ تھا۔ ان باتوں کو مد نظر رکھ کر ہم یہاں گئے۔ اور روبروئے گواہاں کے ہم نے اس نوجوان سے گفتگو کی۔ اور میرے وعدہ پر کہ ہم تمہارا برا نہیں چاہتے۔ اس لڑکے نے پانچ کس گواہاں کے روبروئے اقرار کیا۔ اور خود لکھ کر دیا حروف H جو ہمارے روبروئے اس نے لکھا تھا۔ اور پھر روبروئے صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر امرتسر تصدیق بھی کرا دیا تھا۔ علاوہ اس اقرار نامہ کے اس نوجوان نے خود مجھے کہا کہ میں باہمائے مرزا صاحب جان بوجھ کر ان کو گالیاں دے کر آیا تھا۔ اور یہ بھی اس نے ہم کو کہا کہ ریل کا کرینہ بطور مزدوری ٹوکری اٹھانے کے مرزا صاحب نے دیا

ہے۔ اور پھر یہ بھی اس نے ہم کو کہا کہ جو خط مولوی نور الدین کے پاس بھیجا تھا۔ اس غرض سے بھیجا تھا کہ میری سکونت کا اس کو پتہ ملے اس نے یہ بھی کہا کہ مولوی نور الدین کو اس سازش کا کچھ علم نہیں ہے اور نہ اس نے کبھی اس بارہ میں کہا تھا۔ پریمد اس کی زبانی ہم کو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کے پیچھے دو آدمی اور پھرتے تھے۔ اور ہمارا خیال لکھرام کے قاتل کے نہ پائے جانے پر غور کر کے یہ تھا کہ وہ دو آدمی اس کو بھی مار ڈالیں گے۔ بعد اس کے کہ مجھے قتل کرے۔ اس لیے ہم نے بڑے خرچ اور احتیاط سے اس نوجوان لڑکے کی جان کی حفاظت کی۔ ۱۳ جولائی ۱۸۹۷ء کو ہم اس کو پھر امرتسر لے گئے۔ اور حکام ضلع کو اطلاع دی۔ پھر تحقیقات ہوئی۔ جس کا ہم کو حال معلوم نہیں ہم کو اندیشہ ہے کہ مرزا صاحب کے ایماء سے نقص امن ہونے کا احتمال جو پیشگوئی مرزا صاحب نے ہماری نسبت کی ہے۔ وہ چٹک آمیز ہے اور ممکن ہے کہ ہماری طرف سے وہ نقص امن کرانا چاہتے ہیں۔ کہ میں خود ان کی بے عزتی الفاظ کو دیکھ کر نقص امن کروں۔ ہم کو اپنی حفاظت کا اکثر انتظام کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ ہم ڈاکٹر ہیں۔ ہم کو اکثر اوقات ہر قسم کے اشخاص سے تعلق پڑتا ہے۔ اور اس قسم کا اندیشہ لاحق حال رہتا ہے کہ شاید نقص امن ہو جائے۔ ہمارے خیال میں آئندہ کے لیے کوئی پیشگوئی جو میرے نقصان یا موت وغیرہ کی کی جائے۔ اس کو نقص امن تصور کیا جائے۔ بیاس پر ایک زندہ سانپ پکڑا گیا تھا۔ تو عبدالمجید نے بڑی منت اور زاری کی تھی۔ کہ ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا ہے۔ کہ جب کوئی سانپ پکڑا جائے۔ ہمارے پاس لانا۔ حالانکہ ہم نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ (کتاب البریہ ص ۱۳۰ تا ۱۵۵، خزائن ج ۳ ص ۱۶۹ تا ۱۸۷)

### دستخط حاکم 15.8.97

بیان مرزا غلام احمد بلا حلف ۱۳ اگست ۱۸۹۷ء  
ہم نے کبھی پیشگوئی نہیں کی کہ ڈاکٹر صاحب مرجائیں گے۔ ہرگز ہمارا منشاء کسی لفظ سے یہ نہ تھا کہ صاحب موصوف مرجائیں گے۔ عبد اللہ آتھم کی نسبت شرطیہ پیشگوئی کی تھی۔ کہ اگر رجوع بحق نہ کرے گا۔ تو مرجائے گا۔ عبد اللہ آتھم صاحب کی درخواست پر پیشگوئی صرف اس کے واسطے کی تھی کل متعلقین مباحثہ کی بابت پیشگوئی نہ تھی۔ لکھرام کی درخواست پر اس کے واسطے بھی پیشگوئی کی گئی تھی۔ ہم نے کی تھی چنانچہ وہ پوری ہوئی۔ دستخط حاکم 15.8.97

بیان گواہ استغاثہ باقرار صالح۔

عبدالمجید ولد سلطان محمد ساکن جہلم ذات گلگھو عمر اٹھارہ سال بیان کیا کہ میں متلاشی عیسائی ہوں۔ پہلے محمدی تھا۔ میں عیسائی لوگوں کے پاس حجرات میں گیا تھا۔ چار ماہ ہوئے ہیں۔

اس وقت مرزا صاحب سے میری واقفیت نہیں تھی۔ سوگن سول ریلیف ورکس پر جان محمد بابو کے تحت میٹ تھا۔ دو تین ماہ عیسائیوں کے پاس گجرات میں رہا تھا۔ وہاں محمدی لوگوں نے مجھے بلالیا۔ اس لیے گجرات میں چلا آیا تھا۔ مرزا صاحب کے بہت مرید گجرات میں ہیں۔ انہوں نے مجھے قادیاں میں بھیجا۔ جب میں وہاں گیا۔ میرا چچا برہان الدین اس وقت وہاں نہ تھا۔ مجھے صلاح دی گئی۔ کہ جو ٹھکوک تمہارے ہیں۔ قادیاں میں جا کر رفع کر لو۔ مجھے مولوی نور الدین اور مرزا صاحب نے سکھایا تھا۔ قرآن کی تعلیم نہیں دی تھی۔ گجرات سے آکر صرف چار دن تک قادیاں میں رہا تھا۔ میں جہلم واپس چلا گیا تھا۔ اور چچا القمان کے گھر میں جا کر رہا تھا۔ برہان الدین کے گھر میں گیا تھا۔ میرا چچا مولوی برہان الدین غازی ہے اور مرزا صاحب کا مرید ہے۔ دوسرا چچا میرا القمان ہے۔ مگر وہ مرید مرزا صاحب کا نہیں ہے۔ میری ماں نے بعد میرے والد کے مر جانے کے القمان سے نکاح کر لیا ہوا ہے۔ اور اس سے اولاد بھی ہے۔ میری دونوں نے پرورش کی۔ دو تین روز جہلم رہ کر پھر میں قادیاں میں چلا آیا۔ مرزا صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک روز ایک علیحدہ مکان میں مجھے لے گئے۔ اور کہا کہ جاؤ امرتسر میں ڈاکٹر کلارک صاحب کو پتھر مار کر مار دو۔ میں نے کہا کہ میں کیوں یہ کام کروں۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ اگر دین محمدی پر ہو کہ تم یہ قتل کرو گے۔ تو تم مقبول ہو جاؤ گے پہلے مجھے پڑھایا کرتے تھے۔ پھر جب مجھے قتل کرنے کے واسطے مرزا صاحب نے کہا تو مجھے یہ کہا کہ اب تم چار پانچ روز مزدوری کرو۔ تاکہ لوگ یہ کہیں کہ مزدوری کرنے آیا ہے پھر یہ کہا کہ جب تو جانے لگے تو ہم کو گالیاں نکال کر جانیو۔ میں امرتسر چلا گیا اور ڈاکٹر صاحب مستغیث مقدمہ ہذا کے پاس گیا۔ اور کہا کہ میں عیسائی ہونے آیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے میری خاطر تواضع کی۔ اور مجھے ہسپتال میں بھیج دیا۔ مجھے مرزا صاحب نے کہا تھا کہ پہلے اپنا نام رلیا رام بتلاتا۔ پھر عبد المجید بتلاتا۔ کہ مسلمان ہو کہ یہ نام حاصل کیا ہے۔ قریب ایک ماہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس امرتسر میں رہا۔ پہلے پانچ روز امرتسر رہا۔ پھر بیاس پر رہا۔ کاغذ H مشمولہ میرے قلم کا لکھا ہوا ہے جو بطور اقبال کے میں نے ڈاکٹر صاحب کو لکھ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت موجود تھے۔ جب لکھ کر میں نے دیا تھا۔ بیاس سے ایک خط میں نے مولوی نور الدین کو لکھا تھا کہ میں عیسائی ہو جاؤں گا۔ یہ سچا دین ہے۔ محمدی دین سچا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ مرید مرزا کا ہمارے پاس آیا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کو عیسائی بنالیں۔ جب مولوی نور الدین کو خط لکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو علم نہ تھا۔ اور عیسائیوں کو بتلایا تھا۔ کاغذ حرف H کے لکھنے سے پہلے خط مولوی نور الدین صاحب کو لکھا تھا۔ بھگت رام اور ایک اور فشی جس کا نام



یاد نہیں دیکھ رہے تھے۔ قریب ایک ماہ کے ہوا ہے کہ میں قادیان سے روانہ ہو کر امرتسر مرزا صاحب کے پاس سے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا۔ مولوی نور الدین کی طرف خط بھیجنے سے یہ مطلب تھا کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میں بیاس میں ہوں۔ جب قادیان سے امرتسر گیا تھا۔ ۱۲ آنے کر ایہ دیا تھا اور قادیان میں نوکری اٹھانے کی اجرت میں ۱۲ آنے مرزا صاحب نے مجھے دیئے تھے۔ میں نے عبداللہ آتھم کی بابت سنا ہے دیکھا نہیں۔ اس پر حملے کیے جانے کی نسبت مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ کہ کب حملے ہوئے اور کیا کیا حملے ہوئے اور کس نے حملے کیے۔ جب میں پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا۔ تو میرا ارادہ مارنے کا تھا۔ بعد میں ارادہ بدل گیا۔ مجھے لقمان نے مرزا صاحب کے پاس نہیں بھیجا تھا۔ اور نہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بھیجا ہے۔ ہمارے خاندان میں کوئی رنج مولوی برہان الدین کے مرزا صاحب کا مرید ہونے سے نہیں ہے۔ لقمان اس وقت جہلم میں ہے اور برہان الدین کا پتہ نہیں کہ کہاں ہے؟ وغیرہ.....

بعد بیان کے عرض کیا۔ چونکہ میں نے صاف صاف حالات بیان کر دیئے ہیں۔ مجھ کو

اندیشہ جان ہے۔

ڈاکٹر صاحب..... ہم اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں چنانچہ گواہ کو اجازت ڈاکٹر صاحب کے پاس رہنے کی دی گئی۔

اور گواہان کے اظہار اور خرچ فریقین کی طرف سے ہوئے۔ صاحب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے صاحب ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ بہادر کو اس مقدمہ کی تفتیش کے لیے کہا اور عبدالحمید یا عبدالحمید گواہ استغاثہ کو پولیس میں بھیجا گیا۔ وہاں اپنے بیان کو بالکل بدل دیا۔ اور جو بیان عدالت میں لکھایا تھا۔ محض کہانی اور غلط بیان کیا۔ اگر کل کارروائی بلفظہ درج کی جائے تو بذاتہ ایک کتاب ہو جاتی ہے۔

عدالت نے کل کارروائی مقدمہ اور وجوہات کو جمنٹ میں درج کر کے حصہ دیا۔

یہ ظاہر ہے کہ یہ پیشگوئیاں ڈیلٹک الہاموں کی طرح دو پہلو رکھتی ہیں۔ اور ایسے میں فائدہ ہے کہ وہ ایسی ہوں۔ مرزا صاحب کچھ مطلب بیان کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کچھ اور۔ اس صورت میں اس امر کا ثابت کرنا ناممکن ہے۔ کہ ڈاکٹر کلارک کے معنی ٹھیک ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر کلارک کی نسبت کوئی پیشگوئی نہیں کی۔ اور جس قدر مطبوعہ شہادت پیش کی گئی ہے۔ ہم جملہ ان کے کسی میں بھی کوئی صاف اور صریح امر نہیں پاتے۔ جس سے مرزا صاحب کے بیان کی تردید ہوتی ہو۔ غلام احمد نے اپنے اظہار میں بیان کیا ہے۔ کہ ان کو



میں جو لفظ احمد موجود ہے۔ چونکہ وہ حمد سے مشتق ہے۔ لہذا قرآن کی سورہ الحمد کو اپنی حمد و ثناء ٹھہرایا۔ اور پھر مرزائیوں کو یہ ہدایت کی کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہ لائے۔ وہ مسلمان نہیں اور جہاں تک ممکن ہو وہ واجب القتل ہے۔

فرمائیے! آپ بڑے رہے یا شیعہ یا عیسائی شیعہ خدا تعالیٰ کی توحید اور آنحضرتؐ کی رسالت پر ضرور ایمان رکھتے ہیں۔ اگرچہ افعال شرکیہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ عیسائی اپنی کتاب انجیل کو ضرور مانتے ہیں۔ اگرچہ محبت مفراط میں عیسیٰ مسیح کو خدا سمجھنے سے ہیں بہک گئے ہیں۔

الغرض سب قومیں اپنے اپنے نبی اور خدائے واحد پر ایمان رکھتی ہیں۔ آپ نے تو باوصف مسلمان ہونے کے ادھر خدا کی توحید سے انکار کیا اور ہر رسالت کی تردید کر کے اپنے کو نبی بلکہ خاتم الخلفاء (خاتم الانبیاء) بنا دیا۔ دنیا میں کوئی بد بخت قوم ایسی نہیں ہے۔ جس نے اپنے نبی سے انحراف کیا ہو۔ اور کسی قوم و مذہب کا کوئی فرد ایسا نہیں جو اپنے نبی کو چھوڑ کر خود نبی بن گیا ہو۔ پس مرزاجی کا کیا منہ ہے کہ کسی وحشی سے وحشی اور بت پرست سے بت پرست قوم و مذہب پر بھی کسی قسم کا اعتراض کر سکیں۔ (اڈیٹر)۔ (ضمیمہ ششمہ ہند، ۱۶ مارچ ۱۹۰۳ء، ص ۶)

## باب ۵۰ پنجاہم

### بیگم کے نام زمین رہن کرادی

دل میں جو جو ہیں نکالیں وہ ذرا بول کے خوب  
آج اس شوخی سے لڑ لیجیے دل کھول کے خوب

کوٹھی کی چھت کے اوپر مسہری کے نیچے ایک چار پائی پر سفید بستر جس سے بلکہ کے پر شرمانیں چاندانی رات میں عجب لطف دکھا رہا ہے۔ جھاردار غلاف مخملی ٹکیوں پر چڑھے دونوں بظلوں میں سرہانے رکھے ہیں۔ ایواناز نین پری چہرہ زہرہ جبین سرخ و سفید رنگ غنچہ لب شیریں دہن مدلقا نازک بدن طنور ناز خوش ادا۔ و خوش انداز شباب کا عالم اٹھتی جوانی لڑپنے کے دن بیس یا بائیس برس کا سن بستر راحت پر پاؤں پھیلائے ایک تازی ٹمل کا ہلکا دوپٹہ اوڑھے آنچل سے منہ چھپائے مست خواب ناز ہے۔ شمع کی روشنی میں رخساروں کا رنگ ایسا نظر آتا ہے۔ جیسے گلاب کی

ہتی، ایک خادمہ آہستہ آہستہ چنگھا ہلا رہی اور کہہ رہی ہے۔

چٹھی او مہروش تجھ کو نہ دہانی چاہیے  
چاند کھڑا ہے دوپٹہ آسانی چاہیے  
آدمی کے پاؤں کی چاپ ہوئی۔ خادمہ نے مڑ کے دیکھا۔ اور ادب سے سلام کر کے  
علیحدہ۔

آنے والا..... ہیں یہ کیا! آج شام سے ہی ابھی ابھی ۹ بجے ہیں اور ۸ بجے کے قریب آفتاب  
غروب۔

خادمہ..... ہاں نصیب اعداء کچھ طبیعت ناساز ہے۔  
فحش..... گھبراہٹ کے لہجہ میں خیر باشد۔

خادمہ..... کچھ دوسری شکایت تھی۔ ابھی ابھی آنکھ لگی ہے فرماتی تھیں کہ جگانا نہیں۔  
فحش..... تخت پوش پر (جو چارپائی کے پاس بچھا ہوا تھا) تکیہ کو سہارا دے کر آخر جگانا پڑے گا۔  
حنائی داڑھی پر (جو اس نازنین کے دست نازکی سے رنگ میں ایک غوطہ زیادہ کھائے ہوئے تھی)  
ہاتھ پھیر کر۔ دریافت تو کیا جائے طبیعت کی کیا حالت ہے۔

خادمہ..... حضور کو اختیار ہے۔ مجھ کو جیسا حکم تھا۔ عرض کر دیا۔  
میاں..... (فحش) چارپائی کے قریب آ کر اور منہ سے دوپٹہ اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ان نازکی  
رخساروں پر مہندی کے رنگے ہوئے سخت سخت بال جو لگے۔ آنکھ کھل گئی۔  
نازنین..... انگڑائی لے کر ہائے کجنت رورو کے آنکھ لگی تھی۔ جگا دیا۔ کیا اس مردار نے نہیں کہا تھا۔  
طبیعت اچھی نہیں۔

میاں..... نہیں اس نے تو کہہ دیا تھا اس غریب کی تو خطا نہیں۔ یہ تو اس دل ناصبور کا قصور ہے۔

نہ تمہیں رحم کی عادت نہ اسے صبر کی خو

تم بھی مجبور ہو بندہ کا بھی لاچار ہے دل

بیوی..... تمہاری ہر وقت یہی باتیں ہیں۔ خوش طبعی اور دل لگی سے کام دوسرے کی طبیعت بھی دیکھا  
کر۔

نہ چھیڑاے کہہتے باد صبا چل رہا لگ اپنی

تجھے اٹھکیلیاں سوچھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں

میاں..... کیوں خیر تو ہے۔ طبیعت کیا حال ہے؟ میں بھی تو یہی دریافت کرتا ہوں۔ کوئی آرزو ہے

دل تو ظاہر نہیں کی۔

مجھ کو صدقہ کر اگر ہے بد مزہ تیرا مزاج  
یہ ادھر صدقہ دیا تو نے ادھر اچھا ہوا  
بیوی..... پھر دعویٰ میں کہتی ہوں میری طبیعت اچھی نہیں۔ صبح سے درد سرنے ہلکان کر رکھا تھا۔ اب  
مرمر کے آنکھ لگی تھی۔ جگا دیا پھر اس پر بھی سکوت نہیں۔  
میاں.....

صندلی رنگوں سے مانا دل ملا  
درد سر کی کس کے ماتھے جائے گی  
بیوی..... چہ خوش، چرا باشد۔ آپ صندلی رنگ بھی ہیں۔  
ہے زمانہ سے جدا روز و شب سوخاں  
شام کہتے ہو جسے ہے سحر پر دانہ  
میاں..... کچھ چھپ کر۔ کیا تمہارے نزدیک صندلی رنگ نہیں۔ اس لال داڑھی کو دیکھ کر کہتی  
ہوگی۔ ورنہ جس کو اللہ جیہہ کہے۔  
بیوی..... تو کسی کو کیا؟

میاں..... کیوں؟ تم کو کیوں نہیں۔ تمہارا بھی تو فخر پنجاب امام الزماں مہدی دوراں۔ مسج جہاں کی  
چاہتی بیوی ہونے کے سبب (حسرت کے بل میں)۔

اے موجد عیش و شادمانی پھر آ  
اے باعثِ لطفِ زندگانی پھر آ  
بن تیری ہول میں دیدہٴ خوبان میں ذلیل  
پھر آ تو اب اے میری جوانی پھر آ  
بیوی..... لے چلو ہٹو بھی۔ مجھے یہ روکھی محبت اور خالی خولی فخر نہیں بھاتا۔ وہ وعدہ ہائے شیریں سب  
گئے گزرے ہوئے۔ اب ہمارے واسطے صرف فخری فخر رہ گیا ہے۔

میاں..... وہ ہم نے کون سا وعدہ کیا جو قائم نہیں کیا۔ اہا ہا! خوب یاد آیا بس یہی بات ہے۔ جس کے  
پیچھے منہ سو جایا ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتیں۔ ذرا سی بات کی خاطر خود رنج ہوتا دوسرے کا دل  
دکھانا۔ کل لو۔ انشاء اللہ سب سے اول یہی کام کیا جائے تو سہی۔ بیوی خوش ہو کر اٹھ بیٹھیں۔ اور  
عیش و طرب میں رات بسر ہوئی۔

جب نوبتی نے صبح کی نوبت بجائی۔ مرغ سحر پکارا۔ مؤذن نے نعرہ اللہ اکبر مارا۔ سپیدہ صبح نمودار ہوا۔ غسل سے فراغت پا کر میاں باہر آئے رفیقوں اور مصاحبوں، حواریان خیر اندیش۔ مریدان عقیدت کیش نے اغل بغل دائیں بائیں فرش پوریا رہے ریا پر جگہ پائی۔ قلم دوات۔ کاغذ منگوا یا گیا۔ سب رجسٹرار کو بلانے کی درخواست لکھ کر ایک آدی کو روانہ کیا گیا۔ اور اسٹام فروش سے اسٹام منگوا کر دستاویز تحریر ہوئی۔

### دستاویز

”منکہ مرزا غلام احمد قادیانی خلف مرزا غلام مرتضیٰ مرحوم قوم مغل ساکن ورہیس قادیاں و تحصیل بٹالہ کا ہوں۔ موازی ۱۳ ارکنال اراضی نمبری خسره ۷۲۳۷/۰۳، ۱۷۰۳/۱۷۰۳ قطعہ کا کھاتہ نمبر ۷۱۷۰ معاملہ عمل جمع بندی ۱۸۹۶ء و ۱۸۹۷ء واقعہ قصبہ قادیاں مذکور موجود ہے ۱۳ ارکنال منظورہ میں سے موازی ۱۳ ارکنال اراضی نمبری خسره نمبری ۷۲۳۷/۰۳، ۱۷۰۳ مذکورہ میں باغ لگا ہوا ہے اور درختان آم و کھنڈ و مٹھہ و شہتوت وغیرہ اس میں لگے ہوئے پھلے ہوئے ہیں اور موازی ۱۳ ارکنال اراضی منظور چاہی ہے۔ اور بلا شرکت التعمیر مالک و قابض ہوں۔ سواب مظہر نے برضا و رغبت خود و بدرستی ہوش و حواس غمہ اپنی کے کل موازی ۱۳ ارکنال اراضی مذکور کومعہ درختان ثمر وغیرہ موجودہ باغ و اراضی زرعی و نصف حصہ آب و عمارت و خرچ چوب چاہ موجودہ اندرون باغ و نصف حصہ کنواں و دیگر حقوق داخلی و خارجی متعلقہ اس کے محض مبلغ پانچ ہزار روپیہ سکہ راجھ نصف جن کے ۲۵۰۰ ہوتے ہیں۔ بدست مسات نصرت جہاں بیگم زوجہ خورد بن و گروی کر دی ہے اور روپیہ میں یہ تفصیل ذیل زیورات و نوٹ کرنسی نقد مرحومہ سے لیا ہے۔ کڑی کلاں طلائی قیمتی ۷۵۰، کڑے خورد طلائی قیمت ۲۵۰، ڈنڈیاں ۱۳ عدد بالیاں دو عدد ونسی ۱۰ عدد ریل طلائی دو عدد پالی گہنگو رووالی طلائی دو عدد کل قیمتی ۶۰۰، ننگن طلائی قیمتی ۲۱۰ روپے بند طلائی قیمتی ۱۰۰ روپے کٹھہ طلائی قیمتی ۲۲۵ روپے چھدیان جوڑ طلائی قیمتی ۳۰۰ روپے پونجیاں طلائی بڑی قیمتی ۴۳ عدد قیمتی ۱۵۰ روپے۔ جو جس اور موگی چار عدد قیمتی ۱۵۰ روپے چنان کلاں ۳ عدد، طلائی قیمتی ۲۰۰ روپے چاند طلائی قیمتی ۵۰ روپے بالیاں جڑاؤ سات ہیں۔ قیمتی ۱۵۰ روپے تھہ طلائی قیمتی ۳۰ روپے محکمہ خورد طلائی قیمتی ۲۰ روپے حمال ک قیمتی ۲۵ روپے پونجیاں خورد طلائی ۲۲ دانہ ۲۵ روپے بڑی طلائی قیمتی ۴۰ روپے ٹیپ جڑاؤ طلائی قیمتی ۶ روپے کرنسی نوٹ نمبری ۱۵۹۰۰۰ ی ۱۲۹ لاہور، کلکتہ قیمتی ایک ہزار اترار یہ کہ عرضہ تیس سال تک کف الزہن مرہونہ نہیں کراؤں گا۔ بعد تیس سال مذکور کے ایک سال میں جب چاہوں زر

رہن دون۔ تب کلک الرہن کرالوں، ورنہ بعد انقصائے میعاد بالا یعنی اکتیس سال کے تیسویں سال میں مرہونہ بالا ان ہی روپیوں پر بیع بالوفا ہو جائے گا اور مجھے دعویٰ ملکیت کا نہیں رہے گا۔ قبضہ اس کا آج سے کرادیا ہے۔ داخل خارج کرا دوں گا اور منافع مرہونہ بالا کی قاقئی کی جو ثمرہ اس وقت باغ میں ہے اس کی بھی مرہنہ حق ہے اور بصورت ظہور تنازعہ کے میں ذمہ دار ہوں اور ستر تین میں نصف مبلغ و رقم بیس ہزار روپے کے آگے رقم دو سو ساٹھ کو قلمزن کر کے پانچ سو لکھا ہے۔ جو صحیح ہے اور جو درختان خشک ہوں وہ بھی مرہنہ کا حق ہوگا اور درختان غیر ثمرہ یا خشک شدہ کو مرہنہ واسطے ہر ضرورت و آلات کشاروزی کے استعمال کر سکتی ہیں۔ بنا براں رہن نامہ لکھ دیا ہے کہ سند ہو۔ المرقوم ۲۵ جون ۱۸۹۸ء بقلم قاضی فیض احمد نمبر ۹۳۹، العبد مرزا غلام احمد بقلم خود گواہ شد مقبلان ولد حکیم کرم دین صاحب بقلم خود گواہ شد نبی بخش نبردار بقلم خود بیٹا لہ حال قادیان۔

اسٹام بک مکرر دو قطعہ

حسب درخواست جناب مرزا غلام احمد صاحب خلف مرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم آج واقعہ ۲۵ جون ۱۸۹۸ء یوم شنبہ وقت کے بجے بمقام قادیان تحصیل بمالہ ضلع گورداسپور آیا اور یہ دستاویز صاحب موصوف نے بغرض رجسٹری پیش کی۔ العبد مرزا غلام احمد قادیانی راہن مرزا غلام احمد بقلم خود ۲۵ جون ۱۸۹۸ء دستخط احمد بخش رجسٹرار۔

اس رجسٹری پر ملاحظہ بخش قاری نے اپنے ایک اشتہار میں مندرجہ ذیل ریمارک کیا

ہے۔

رجسٹری مذکورہ بالا پر ہمارا منصفانہ ریمارک

اگر مرزا صاحب کو اسپ وزن و شمیر و قادیان کی دید کی خبر ہوتی تو ہرگز اپنی بیوی کے نام رجسٹری نہ کرانے۔ مرزا صاحب نے خواہ کتنا ہی لطائف الحیل طمع دنیوی سے نصرت جہاں بیگم کو راضی کرنے کی کوشش کی جب مرزا صاحب کو کچھ روپیہ وغیرہ کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس عقیفہ نے ایک چھلہ تک نہیں دیا۔ کہ مرزا صاحب کے وقت بیوقت کام آتا۔ بلکہ اس سے زیورات کے عوض میں جناب سے تمام باغات زمین وغیرہ رہن گردوی رکھ لی۔ اور رجسٹری کرائی۔ کیا یہ سب باتیں اس کی فرمانبرداری کی ہیں۔ ہرگز نہیں۔ اس نے ایسے شخص..... کا ذرا بھی اعتبار نہیں کیا۔ پس جب گھر کا یہ حال ہو رہا ہے۔ تو دوسروں پر کیا شکایت۔

اول..... ہم پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو زیورات مالیتی پانچ ہزار روپیہ کے عوض باغات و

اراضی وغیرہ اپنی بیوی نصرت جہاں بیگم کے پاس گردوی رہن کر کے رجسٹری کرادی ہے۔ تو یہ زیورات آپ کی اہلیہ کے پاس آپ کے دیئے ہوئے تھے یا نہیں۔ اگر آپ کے ہی تھے تو کیا آپ کو بوقت ضرورت اس سے عاریتاً لینے کا حق نہ تھا۔ اگر تھا تو اس کے عوض اس قدر اراضی باغات کا یہ گروینا مہ رجسٹری کرادینا دوسرے لڑکوں فضل احمد صاحب و سلطان احمد صاحب کے حقوق زائل کر دینے کا منشاء ظاہر نہیں کرتا؟ آپ کے بعد اس جہان سے گم ہوتے ہی یہ رجسٹری ڈھائی منٹ میں منسوخ ہو جائے گی۔ مرزا صاحب! کیا خدا تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ کہ حقداروں کے حقوق چھین کر دوسروں کو دیئے جائیں۔

دوم..... آپ کو اس قدر روپیہ کی ضرورت کیا تھی کہ آپ نے یہ کام بھی خلاف شرع کیا۔ سوم..... جب کہ آپ اس قدر مالدار ہیں۔ آپ کا دعویٰ کہ میں مثیل مسج ہوں۔ کس طرح سچا سمجھا جائے۔ جبکہ خود مسج جس کی مثیل آپ بنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چرند پرند کے لیے بسیرا کرنے کے لیے جگہ ہے۔ مگر ابن آدم (مسج) کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کہ وہ اپنا سر چھپا کر کھے۔ چہارم..... اگر آپ نصرت جہاں بیگم سے زیورات مالیتی پانچ ہزار لے لیتے۔ اور اس کے عوض باغات زمین نہ رکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس بھگڑے کو اپنے حین حیات میں مطابق شرع محمدی کیوں فیصلہ نہیں کیا۔

پنجم..... جو اراضی و باغات آپ نے نصرت جہاں بیگم کے پاس گردوی ورہن کر دی ہے۔ اس کی آمدنی و خروج کا حساب آپ کی تحویل میں رہے گا یا نہیں اور آپ اس کام کی انجام دہی کے عوض کچھ ماہانہ لیا کریں گے یا نہیں۔ اگر لیں گے تو بیوی کے نوکر کہلائیں گے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟

ششم..... اگر یہی خدمت کوئی دوسرا انجام دے۔ تو آپ کی اجازت و رکارہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟

ہفتم..... باغ کے پھل وغیرہ کو آپ اپنی بیوی کی بلا اجازت حاصل کریں گے یا نہیں؟ اگر حاصل کریں گے تو کیوں؟

غرض کہ مرزا صاحب کو رتی رتی پھل پھول پر شرعاً اجازت لینی پڑے گی ورنہ حرام کھائیں گے۔

خادم قوم۔ ملامحمد بخش قادری شیخراخبار جعفرزئی لاہور



## باب ۵۱ پنجاہ ویکم

مولانا شاء اللہ قادیان میں

آج دعویٰ اس کی یکتائی کا باطل ہو گیا  
بحث کرنے کو جو آئینہ مقابل ہو گیا  
لب پر تو نہ لا وعدہ خلائی کی سخن  
جھوٹا نہ کہیں جوہری اس لعل یمن کو

جاڑا ہے کہ زمہریہ کا طبقہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہوا کے سناٹے سے کان بہرے ہوتے ہیں۔  
بڑے بڑے تہ در درخت بید کی طرح کانپ رہے ہیں۔ درختوں کے پتوں پر برف جم گئی ہے۔  
ایک دوسرے سے وصلی کی کاغذ کی طرح چٹھے ہوئے بزبان حال کہہ رہے ہیں۔

جیسے کہ وصل کی شب ان سے لپٹتے ہیں ہم  
یوں وصلی کے بھی کاغذ چسپاں بہم نہ ہوں گے

پرند پردوں میں سر چھپائے آشیانہ میں بیٹھے ہیں۔ منہ باہر نہیں نکالتے انسانوں کی  
بغلوں سے ہاتھ جدا نہیں ہوتے۔ کنار و لدار کا مزہ لے رہے ہیں۔ دم تقریر دو دو جگر منہ سے نکل کر  
دھواں دھار ہو جاتا ہے۔ بات دم گفتار زبان سے نکل کر لبوں پر جم جاتی ہے۔ سامع کے کان تک  
جانے کا بار نہیں پاتی ہے۔ دانت سے دانت بچتے ہیں۔ صبح ہو گئی ہے۔ خورشید خادر حجرہ افق سے  
نکل آیا ہے۔ مگر ڈر کے مارے چادر کھر سے منہ چھپائے کانپ رہا ہے۔ کھر کا غبار چاروں طرف  
چھا رہا ہے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو رہا ہے۔ ہاتھ سے ہاتھ مارا نظر نہیں آتا راستہ تو کیا ذکر ہے۔  
انگلی ٹھنیوں میں آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے لوگ ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں۔ مگر حرارت نہیں آتی۔ ایک  
کچی سڑک پر کچھڑ میں ایک یکہ پھنسا کھڑا ہے۔ گھوڑا جان تو ڈر کر زور لگاتا ہے مگر یہ حرکت کیا جنبش  
نہیں کھاتا۔ گویا برف میں جم گیا ہے یکہ والے کی آواز کانپ رہی ہے۔ ہاتھ پاؤں شل ہو رہے  
ہیں۔ مگر تاہم وہ کوشش کر رہا ہے۔ تین چار آدمی کالی وردی پہنے کبل کی بارانی میں لپٹے ہوئے یکہ کو  
زور لگا کر دھکیل رہے ہیں مگر یکہ بھی ہلتا نہیں۔

ایک صاحب شکرنی رنگ کی پشینہ کی چادر سے منہ سر لپیٹے یکے کے اندر بیٹھے ہیں۔ آنکھ  
اور ناک سے پانی جا رہا ہے رومال سے پونچھتے پونچھتے ناک گوشت کی بوتلی کی طرح لال ہو گئی ہے۔  
سپاہی ..... اجی حضرت مولانا صاحب! آپ کو تو کوئی ضرورت ہوگی۔ ہم غریب سپاہیوں کو نا کردہ

گناہ کیوں عذاب میں پھنسیا۔

دوسرا..... یہ تو یکہ میں منہ سر لپیٹے ہاتھ پاؤں چھپائے بیٹھے ہیں چلو یہ پاس گاؤں ہے۔ وہاں چل کر آگ اور لکڑیاں لائیں۔ سینک کر ہاتھ پاؤں کھولیں۔

تیسرا..... یہ بزدلی خوب نہیں۔ اگر کوئی معرکہ آرائی ہو۔ تو تم کیا کرو۔

چوتھا..... حوالدار صاحب! ان میں سے ایک آدی کو ضرور بھیج دینا چاہیے۔ جب تک دھوپ نکلے آگ جلا کر سنکیں۔ جب دھوپ نکلے گی۔ تو یکہ کو گھوڑا کھینچے گا۔

حوالدار صاحب..... اچھا تم سے ایک آدی جاؤ۔ مولوی صاحب! آپ حقہ تو نہیں پیتے؟

مولوی صاحب..... نہیں صاحب! میں حقہ تو نہیں پیتا۔ مگر آگ تو ضرور منگانی چاہیے۔

حوالدار صاحب..... حضرت مولانا صاحب! اس موسم میں سفر! ہم لوگ تو ملازم پیٹ کی خاطر مارے مارے پھرتے ہیں۔ آپ کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی۔ جو اس قدر تکلیف شاقہ کی روادار ہوتے۔

مولوی صاحب..... کیا کہیں تم مرزا کو جانتے ہو گے؟

حوالدار صاحب..... واہ صاحب! آپ نے مرزا کے جانے کی بھی ایک ہی کبھی وہ تو شیطان سے زیادہ مشہور ہے۔ اسے کون نہیں جانتا۔

خوب! یہ مولانا صاحب تو ہمارے مخدوم مکرم و معظّم حضرت مولانا حضرت ثناء اللہ

صاحب امرتسری ہیں۔ یہ اس وقت یہاں کہاں؟

مولوی صاحب..... میں نے قادیاں میں جانا ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک رسالہ اعجاز احمدی چھاپا ہے جس میں ہم کو مخاطب کر کے لکھا ہے۔ اگر یہ (مولوی ثناء اللہ) سچے ہیں تو قادیاں میں آ کر کسی

پیشگوئی کو جھوٹی ثابت کریں تو ہر ایک پیشگوئی کے لیے ایک سو روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اور آمد و رفت کا کرایہ علیحدہ

(ص ۱۱، خزائن ج ۱۹ ص ۱۷۱، ۱۱۸)

مولوی ثناء اللہ نے کہا تھا۔ کہ سب پیشگوئیاں جھوٹی نکلیں۔ اس لیے ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم دیتے ہیں۔ کہ وہ اس تحقیق کے لیے قادیاں میں آئیں۔ رسالہ نزول

الروح میں نے ڈیڑھ سو پیشگوئی لکھی ہے۔ تو گویا جھوٹ ہونے میں پندرہ ہزار روپیہ مولوی ثناء اللہ صاحب لے جائیں گے۔ اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔ پس اگر میں

مولوی صاحب کے لیے اپنے مریدوں سے ایک ایک روپیہ لوں گا۔ تب بھی ایک لاکھ روپیہ ہو جائے گا۔ وہ سب ان کی نذر ہوگا۔

(ص ۲۲، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۲)

اسی بیان کے متعلق ایک دو پیشگوئیاں بھی جزدی ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ”واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعے سے عنقریب تین نشان میرے ظاہر ہوں گے۔“  
 ۱..... وہ قادیاں میں تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گے۔ اور سچی پیشگوئیوں کی اپنے قلم سے تصدیق کرنا ان کے لیے موت ہوگی۔  
 ۲..... اگر اس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق سے پہلے مرجائیں گے تو ضرور وہ پہلے مریں گے۔

۳..... اور سب سے پہلے اس اردو مضمون اور عربی قصیدہ کے مقابلہ سے عاجز رہ کر جلد ترانہ کی رو سیابنی ثابت ہو جائے گی۔ (اعجاز احمدی ص ۳۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۴۸)  
 حوالدار صاحب..... اجی حضرت! کیا آپ مرزا صاحب کے وعدوں سے واقف نہیں۔ اگر وہ ایسے وعدہ وفا ہوتے۔ تو یہ جائیداد عمرانات اور زیورات اور حلوائے تر اور قورما اور پلاؤ کہاں سے اڑاتے۔ آپ نے سنا نہیں کہ بخیل نے کسی شخص سے کہا کہ ہمارے گھر ہمارے دادا کے وقت کا چار

ہے۔  
 شخص..... ارے میاں ہمیں بھی دکھانا۔ کہ اس کا کیسا ذائقہ ہے۔  
 بخیل..... جو اس طرح دکھاتے تو وہ کیوں کر رہتا؟

سو حضرت! ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں۔ مرزا صاحب ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلے۔ جو کسی کے دم میں آجائیں۔ اچھوں اچھوں کو اس نے دم دیا ہے۔ کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ لاکھوں انعام کے اشتہار شائع ہو چکے۔ کسی کو کوئی پیسہ ملا؟ سینکڑوں آدمی مناظرہ کو بلائے گئے۔ کسی سے کسی بات کا فیصلہ ہوا۔ آخر کو لٹو نکل گئے۔ اور سب دیکھتے کے دیکھتے ہی رہے۔

اس عرصہ میں سورج نے منہ دکھایا۔ دھوپ کی گرمی سے ذرا ہاتھ پاؤں کھلے۔ یکہ معہ مسافران آگے کو روانہ ہوا۔ کبھی ٹیلہ پر یکہ چڑھا اور کبھی کڑھے میں دھڑام کر کے گرا۔

مجھ ناتواں کی چال ہے جو مرغ نسل کی تڑپ

ہر ہر قدم پر ہے گماں یہ رہ گیا وہ رہ گیا

غرض بصد حیرانی صبح سے چل کر قریب عصر قادیاں کی صورت دیکھے ہو ہو جی منارۃ المسح کی زیارت نصیب ہوئی۔ خدا کا شکر بجلائے۔ ایک مسجد میں قیام کیا۔ مرزا صاحب کو بذریعہ رقعہ اطلاع دی۔

## رقعہ مولانا ثناء اللہ امرتسری بنام مرزائے قادیان

بسم الله الرحمن الرحيم!

بخدمت جناب مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیاں خاکسار حسب دعوت مندرجہ (اعجاز  
احمدی ص ۲۳ تا ۱۱۹، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۹ تا ۱۳۰) قادیاں میں اس وقت حاضر ہے۔ جناب کی دعوت قبول  
کرنے میں آج تک رمضان شریف مانع رہا۔ ورنہ اتنا توقف نہ ہوتا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھاتا  
ہوں۔ کہ مجھے جناب سے کوئی ذاتی خصوصیت اور عناد نہیں۔ چونکہ آپ بقول خود ایک عمدہ جلیلہ پر  
ممتاز دامور ہیں جو تمام بنی نوع کی ہدایت کے لیے عموماً اور مجھ جیسے مخلصوں کے لیے خصوصاً ہے  
اس لیے مجھے قوی امید ہے کہ آپ میری تفسیم میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں گے اور حسب  
وعدہ خود مجھے اجازت بخشیں گے۔ کہ میں مجمع میں آپ کی پیشگوئیوں کی نسبت اپنے خیالات ظاہر  
کروں۔ میں کار آپ کو اپنے اخلاص اور صعوبت سفر کی طرف توجہ دلا کر اسی عمدہ جلیلہ کا واسطہ دیتا  
ہوں۔ کہ مجھے ضرور موقع دیں۔  
ابوالوفاء ثناء اللہ از قادیاں۔ ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء

جواب از مرزائے قادیان

بسم الله الرحمن الرحيم . نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

از طرف عائد باللہ الصمد عاقل اللہ۔ بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب آپ کا رقعہ پہنچا۔  
اگر آپ لوگوں کی صدق دل سے یہ نیت ہو۔ کہ اپنے شکوک و شبہات پیشگوئیوں کی نسبت یا اس  
کے ساتھ اور امور کی نسبت بھی جو دعویٰ سے تعلق رکھتے ہوں۔ رفع کرادیں تو یہ آپ لوگوں کی خوش  
قسمتی ہوگی۔ اور اگر چہ کئی سال ہو گئے۔ کہ میں کتاب انجام آتھم میں شائع کر چکا ہوں۔ کہ میں  
اس گروہ مخالف سے ہرگز مباحثات نہ کروں گا۔ کیونکہ اس کا نتیجہ بجز گندی گالیوں اور اوباشانہ  
کلمات سننے کے اور کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ مگر میں ہمیشہ طالب کے شبہات دور کرنے کے لیے تیار  
ہوں۔ اگرچہ آپ نے اس رقعہ میں دعویٰ تو کر دیا ہے۔ کہ میں طالب حق ہوں۔ مگر مجھے تامل ہے  
کہ اس دعویٰ پر آپ قائم رہ سکیں۔ کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے۔ کہ ہر ایک بات کو کشاں کشاں  
بے ہودہ اور نغو مباحثات کی طرف لے آتے ہیں اور میں خدائے تعالیٰ کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں  
کہ ان لوگوں سے مباحثات ہرگز نہیں کروں گا۔ سو یہ طریق جو مباحثات سے بہت دور ہے وہ یہ  
ہے۔ کہ آپ اس مرحلہ کے صاف کرنے کے لیے اول یہ اقرار کر دیں۔ کہ آپ منہاج نبوت سے  
باہر نہ جائیں گے اور وہی اعتراض کریں گے۔ جو آنحضرت ﷺ پر یا حضرت عیسیٰ پر یا حضرت  
موسیٰ یا حضرت یونس پر عائد نہ ہوتا ہو۔ اور حدیث اور قرآن کی پیشگوئیوں پر زد ہو۔

دوسری یہ شرط ہوگی۔ کہ آپ زبانی بولنے کے ہر گز مجاز نہیں ہوں گے صرف آپ ایک سطر یا دو سطر تحریر دیدیں۔ کہ میرا یہ اعتراض ہے۔ پھر آپ کو عین مجلس میں مفصل جواب سنایا جائے گا۔ اعتراض کے لیے لبا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک سطر یا دو سطر کافی ہیں۔

تیسری یہ شرط ہوگی کہ آپ ایک دن میں صرف ایک ہی اعتراض پیش کریں گے کیونکہ آپ اطلاع دے کر نہیں آئے۔ چوروں کی طرح آگے اور ہم ان دنوں بہا عث کم فرصتی اور کام طبع کتاب کے تین گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں خرچ کر سکتے۔

یاد رہے کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ عوام کا لانعام کے روبرو..... آپ وعظ کی طرح لمبی گفتگو شروع کریں۔ بلکہ آپ نے بالکل منہ بند رکھنا ہوگا۔ جیسے صم وکم۔ یہ اس لیے کہ تا گفتگو مباحثہ کے رنگ میں نہ ہو جائے اول صرف ایک پیشگوئی کی نسبت سوال کریں۔ تین گھنٹہ تک میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ اور ایک ایک گھنٹہ کے بعد آپ کو متنبہ کیا جائے گا۔ اگر ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے۔ تو اور لکھ کر پیش کر دے۔ آپ کا کام نہیں ہوگا۔ کہ اس کو سنا دیں۔ ہم خود پڑھ لیں گے۔ مگر چاہیے کہ دو تین سطر سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرز میں آپ کا کچھ حرج نہیں ہے۔ کیونکہ آپ تو شبہات دور کرانے آئے ہیں۔ یہ طریق شبہات دور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔ باواز بلند لوگوں کو سنا دوں گا۔ کہ اس پیشگوئی کی نسبت مولوی ثناء اللہ صاحب کے دل میں یہ دوسوہ پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ چاہو۔ کہ بحث کے رنگ میں آپ کو موقع دیا جائے۔ تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔

چودھویں جنوری ۱۹۰۳ء تک میں اس جگہ ہوں۔ بعد میں ۱۵ جنوری ۱۹۰۳ء کو ایک مقدمہ پر جہلم جاؤں گا۔ سوا گرچہ بہت کم فرصتی ہے۔ لیکن چودھویں جنوری ۱۹۰۳ء تک تین گھنٹہ تک آپ کے لیے خرچ کر سکتا ہوں اگر آپ لوگ نیک نیتی سے کام لیں۔ تو یہ ایک ایسا طریق ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ درنہ ہمارا اور آپ لوگوں کا آسمان پر مقدمہ ہے۔ خود خدا تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔

سوچ کر دیکھ لو۔ کہ یہ بہتر ہوگا۔ کہ آپ نے بذریعہ تحریر و سطر دو سطر سے زیادہ نہ ہو۔ ایک ایک گھنٹہ کے بعد اپنا شبہ پیش کرتے جائیں گے اور میں دوسوہ دور کرتا جاؤں گا۔ ایسا ہی صدہا آدی آتے ہیں اور وساوس دور کراتے ہیں۔ اور کچھ غرض نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ ان کی تونیتیں ہی اور ہوتی ہیں۔ بالآخر اس غرض کے لیے کہ اب آپ شرافت اور ایمان رکھتے ہیں۔ تو تمادیاں سے بغیر تصفیہ کے خالی نہ جائیں۔

دو قسموں کا ذکر کرتا ہوں۔ اول چونکہ میں انجام آتھم میں خدا تعالیٰ سے قطعی عہد کر چکا

ہوں کہ ان لوگوں سے کوئی بحث نہیں کروں گا۔ اس وقت پھر اسی عہد کے مطابق قسم کھاتا ہوں۔ کہ میں آپ کی زبانی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ صرف آپ کو یہ موقع دیا جائے گا۔ کہ اول آپ ایک اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا اعتراض کسی پیشگوئی پر ایک سطر یا دو سطر یا حد تک سطر تک لکھ کر پیش کریں۔ جس کا یہ مطلب ہو کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوتی۔ اور منہاج نبوت کی رو سے قابل اعتراض ہے۔ اور پھر چپ رہیں۔ اور میں مجمع عام میں اس کا جواب دوں گا۔ جیسا کہ مفصل لکھ چکا ہوں۔ پھر دوسرے دن اس طرح دوسری پیشگوئی لکھ کر پیش کریں۔ یہ میری طرف سے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اور کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا۔ اور آپ کی مجال نہیں ہوگی کہ ایک کلمہ بھی زبانی بول سکیں۔ اور آپ کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اگر سچے دل سے آئے ہیں۔ تو اس کے پابند ہو جائیں اور ناحق فتنہ و فساد میں عمر بسر نہ کریں۔ اب ہم دونوں میں سے ان دونوں قسموں سے جو شخص انحراف کرے گا۔ اس پر خدا کی لعنت ہے اور خدا کرے کہ وہ اس لعنت کا پھل بھی اپنی زندگی میں دیکھ لے۔ آمین سواب میں دیکھوں گا کہ آپ سنت نبوی کے موافق اس قسم کو پورا کرتے ہیں۔ یا قادیاں سے نکلتے ہوئے اس لعنت کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور چاہیے کہ اول آپ مطابق اس عہد مؤکد بقسم کے آج ہی ایک اعتراض دو تین سطر کا لکھ کر بھیج دیں اور پھر وقت مقرر کر کے مسجد میں مجمع کیا اور آپ کو بلایا جائے گا۔ اور عام مجمع میں آپ کے شیطانی و سادس دور کر دیئے جائیں گے۔ مرزا غلام احمد بقلم خود۔

نوٹ: کیسی صفائی اور ہوشیاری کے ساتھ بحث سے انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ تحقیق کے لیے جو بالکل بحث سے مترادف (ہم معنی) لفظ سے (ص ۲۳، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۲) پران کو بلاتا ہے۔ اور اب صاف منکر ہیں۔ بلکہ ایسی خاموشی کا حکم دیتے ہیں کہ صم بکم (بہرا، گونگا) ہو کر آپ کا پیچھے سنتے جائیں۔ مگر نہیں معلوم بکم (گونگا) ہو کر تو کوئی سن سکتا ہے۔ صم (بہرا) ہو کر کیا سنے گا۔ شاید یہ بھی معجزہ ہو۔

جواب الجواب از مولانا شجاع اللہ امرتسریؒ

الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى . اما بعد ! از خا کسار شفاء اللہ بخدمت مرزا غلام احمد صاحب: آپ کا طولانی رفقہ مجھے پہنچا۔ مگر افسوس کہ جو کچھ تمام ملک کا گمان تھا۔ وہی ظاہر ہوا۔ جناب والا جبکہ میں آپ کی حسب دعوت مندرجہ (انجاز احمدی ص ۲۳ تا ۲۴، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۹ تا ۱۳۰) حاضر ہوا ہوں۔ اور صاف لفظوں میں انہیں صلحوں کا حوالہ دے چکا ہوں۔ تو پھر اتنی طول کلامی جو آپ نے کی ہے۔ بجز العادت طبعیۃ الثانیۃ اور کیا معنی رکھتی

ہے۔ جناب من! کس قدر افسوس کی بات ہے۔ کہ آپ اعجاز احمدی کے صفحات مذکورہ پر تو اس نیاز مند کو تحقیق کے لیے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں (خاکسار) آپ کی پیشگوئیاں کو جھوٹا ثابت کروں۔ تو فی پیشگوئی مبلغ سو روپیہ انعام لوں اور اس رقعہ میں آپ مجھ کو ایک دو سطریں لکھنے کے پابند کرتے ہیں۔ اور اپنے لیے تین گھنٹے تجویز کرتے ہیں۔ تـلـک اذا قـسـمـة ضـیـبـی بـہـلـا یـکـیـا تحقیق کا طریق ہے کہ میں ایک دو سطریں لکھوں اور آپ تین گھنٹہ تک فرماتے جائیں اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے آپ مجھے دعوت دے کر پچھتا رہے اور اپنی دعوت سے انکاری ہیں اور تحقیق سے اعراض کرتے ہیں۔ جس کی بابت آپ نے مجھے (ص ۲۳، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۲) پر دعوت دی ہے۔ جناب والا! کیا انہیں ایک دو سطروں کے لکھنے کے لیے آپ نے مجھے در دولت پر حاضر ہونے کی دعوت دی ہے جس سے عمدہ میں امرتسر میں بیٹھا کر سکتا تھا۔ اور کر چکا ہوں مگر چونکہ میں اپنے سفر کی صعوبت کو یاد کر کے بلائیل مرام واپس جانا کسی طرح مناسب نہیں جانتا۔ اس لیے میں آپ کی اس بے انصافی کو بھی قبول کرتا ہوں کہ میں دو تین سطریں ہی لکھوں گا اور آپ بلا شک تین گھنٹہ تک تقریر کریں۔ مگر اتنی اصلاح ہوگی کہ میں اپنی دو تین سطریں مجمع میں کھڑا ہو کر سناؤں گا اور ہر گھنٹہ کے بعد پانچ نہایت دس منٹ تک آپ کے جواب کی نسبت رائے ظاہر کروں گا اور چونکہ آپ مجمع عام پسند نہیں کرتے۔ اس لیے فریقین کے معدود آدمی آئیں گے جو چھپس چھپس سے زیادہ نہ ہوں گے۔ آپ میرا بلا اطلاع آنا چوروں کی طرح فرماتے ہیں۔ کیا مہمانوں کی خاطر اسی کو کہتے ہیں۔ اطلاع دینا آپ نے شرط کیا تھا؟ علاوہ اس کے آپ کو آسانی اطلاع مل گئی ہوگی آپ جو مضمون سنائیں گے۔ وہ اسی وقت مجھ کو دیدیا جائے گا۔ کارروائی آج وہی شروع ہو جائے۔ آپ کے جواب آنے پر میں اپنا مختصر سا سوال بیچ دوں گا۔ باقی لعنتوں کی نسبت وہی عرض ہے۔ جو حدیث میں موجود ہے۔

مورخہ ۱۱ جنوری ۱۹۰۳ء

خط پڑھ کے اور بھی وہ ہوا بیچ و تاب میں

کیا جانے لکھ دیا اسے کیا اضطراب میں

رقعہ آدی لے جا کر مرزا صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ نہایت طیش و غضب میں

آئے۔ ہزاروں بے نقط سنائیں۔ اور حواریں کو حکم دیا کہ جواب لکھ دو۔

جواب بحکم مرزا قادیانی

بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدًا مصلیًا

مولوی ثناء اللہ صاحب! آپ کا رقعہ حضرت اقدس امام الزماں مسیح موعود مہدی مسعود

علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت مبارک میں سنا دیا گیا۔ چونکہ مضامین اس کے محض عناد اور تعصب آمیز تھے۔ طلب حق سے بعد المشرقین کی دوری اس سے صاف ظاہر کرتی ہے۔ لہذا حضرت اقدس کی طرف سے اس کا یہی جواب کافی ہے کہ آپ کو تحقیق حق منظور نہیں ہے۔ اور حضرت اقدس انجام آختم میں اور نیز اپنے خط مرقومہ جواب رقعہ ساسی میں قسم کھا چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے ہیں۔ کہ مباحثہ کی شان سے مخالفین سے کوئی تقریر نہ کریں گے۔ خلاف معاہدہ الہی کے کوئی مامور من اللہ کیونکر کسی فعل کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ طالب حق کے لیے جو طریق حضرت اقدس نے تحریر فرمایا ہے۔ کیا وہ کافی نہیں۔ لہذا آپ کی اصلاح جو بطرز شان مناظرہ آپ نے لکھی ہے۔ وہ ہرگز منظور نہیں ہے۔ اور یہ بھی منظور نہیں ہے۔ کہ جلسہ محدود ہو۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ کل قادیان وغیرہ کے اہل الرائے مجتمع ہوں۔ تاکہ حق و باطل سب پر واضح ہو جائے۔

والسلام علی من اتبع الهدی: ۱۱ جنوری ۱۹۰۳ء

خاکسار محمد حسن بحکم حضرت امام الزماں

گواہ شد محمد سرور وابوسعید عنی عنہ

خط پڑھ کر حضرت اقدس امام الزماں کو سنایا گیا۔

حضرت..... خبیث گستاخ حفظ مراتب تو جانتے ہی نہیں۔ اس سور سے کوئی دریافت کرے۔ کہ خدا کے مرسل اور نبیوں کو اسی طرح شوخی اور شرارت سے گستاخانہ خط لکھا کرتے ہیں۔  
حواری..... حضور یہ کیا اس کے ہم خیال یہودی صفت علماء اسلام کل دریدہ دہن گستاخ ہیں۔ خدا کے مسیح موعود اور مرسل صادق اور نبی برحق کی شان میں بے ادبی کرنا اپنا فرض منضعی سمجھ رکھا ہے۔  
خدا ان کو سزا بھی تو نہیں دیتا۔

حضرت..... ان گویہ خور یہودیوں کے بڑے بھائیوں کو عنقریب کتے کی موت مارے گا۔ کہ بد ذات اونٹوں کی طرح سوتے رہ جائیں گے۔

حواری..... ہم اس کو کبھی نہ بولنے دیں گے۔ گدھے کی طرح لگام دے کر بٹھائیں گے۔ اور گندگی اس کے منہ میں اڈالیں گے۔ لعنت ہی لے کر جائے گا۔

حضرت..... اس نابکار سے کہہ دو کہ وہ لعنت لے کر قادیان سے چلا جائے۔

حکیم محمد صدیق..... (جو مولوی صاحب کا خط مرزا صاحب کی خدمت میں لے گئے تھے۔ ان مغلظ و شام کو سن کر سخت حیران ہو کر واپس آئے) مولوی صاحب سے۔ حضرت! سننے میں اور اس وقت کی حالت دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم حلیہ بطور شہادت کہتے ہیں۔ کہ ایسی گالیاں ہم نے مرزا



صاحب کی زبان سے سنی ہیں۔ جو کسی چوہڑے چمار سے بھی کہی نہیں سیں۔  
 محمد ابراہیم..... (یہ بھی حکیم صاحب کے ساتھ تھے) میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو الفاظ مرزا صاحب  
 نے علماء اسلام کی نسبت عموماً اور آپ (مولوی ثناء اللہ) کی نسبت خصوصاً فرمائی ہیں۔  
 حواری..... (مولوی ثناء اللہ صاحب سے) یہ خط حضرت اقدس امام ہمام نے یہ نامہ بجواب  
 تمہارے خط کے دیا ہے۔

مولوی صاحب..... (خط کو دیکھ کر) چونکہ میرا روئے سخن خود بدولت سے تھا۔ اس لیے میرا حق تھا۔  
 کہ میں کسی ان کے ماتحت کی تحریر نہ لیتا۔ مگر اس حال سے کہ پبلک کو مرزاجی کے فرار کا نشان بتلایا  
 جائے۔ اس خط کو قبول کرتا ہوں۔ ان حضرات مرسلین رقعہ یا گواہاں کی حالت پر افسوس نہیں بلکہ  
 افسوس ان لوگوں پر ہے۔ جو ایسے لوگوں کو درازریش دیکھ کر مولوی یا عالم سمجھ لیتے ہیں۔ جن کو یہ بھی  
 خبر نہیں۔ کہ مناظرہ اور تحقیق ایک ہی چیز ہے۔ رشید یہ جو علم مناظرہ میں ایک مستند کتاب ہے۔ اس  
 میں صاف مرقوم ہے کہ کسی مسئلہ کی نسبت دو مخصوص کانیک بنتی اور سچائی کے اظہار کرنے کی غرض  
 سے متوجہ ہونا اسی کا نام مناظرہ ہے۔

حوالدار..... مولوی صاحب سلام۔ کیوں صاحب! ہم کیا کہتے تھے۔ حضرت! ہم ایسے لکھے پڑھے  
 نہیں۔ مگر اردو کی کتابیں دیکھ کر اپنا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ مرزا صاحب کا حال کوئی مخفی راز تو ہے  
 نہیں۔ روز اخباروں اور اشتہاروں میں شائع کرتے ہیں۔ کسی اقرار پر کسی جگہ قائم رہے ہیں؟ جو  
 آپ سے وعدہ وفا کرتے۔

کرے ایفا وعدے کا اقرار کر کے

کوئی اور ہوگا وہ مرزا نہ ہوگا

حکیم صاحب..... حضرت بندہ نے امرتسر سے چلتے وقت عرض کیا تھا۔ کہ آپ کیوں ناحق خراب  
 ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب ہرگز ہرگز آپ کے مقابلہ پر نہیں آئیں گے۔ اور نہ وہ گفتگو کریں گے۔  
 یہ ان کی عادت مسمرۃ ہے۔ دعوت تو دے بیٹھتے ہیں۔ مگر پھر ہنہرا حیلہ گریز کر جاتے ہیں۔

خوئے بد را بہانہ ہا بسیار

مولوی صاحب..... ان کی حجت تو پوری کرنی تھی۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ مقابلہ پر وہ نہ کبھی پہلے  
 آئے ہیں۔ نہ اب آئیں گے۔ رسالہ (اعجاز احمدی ص ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰) پر ہم کو ان  
 لفظوں میں دعوت دیتی ہیں۔

”اگر یہ (مولوی ثناء اللہ) سچے ہیں۔ تو قادیان میں آکر کسی پیشگوئی کو جھوٹی تو ثابت

کریں۔ اور ہر ایک پیشگوئی کے لیے ایک ایک سو روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اور آمد و رفت کا کرایہ علیحدہ۔“

”مولوی ثناء اللہ نے کہا تھا۔ کہ سب پیشگوئیاں جھوٹی نکلیں۔ اس لیے ہم ان کو مدعو کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم دیتے ہیں۔ کہ وہ اس تحقیق کے لیے قادیاں میں آئیں۔ رسالہ نزول المسح میں ڈیڑھ سو پیشگوئی میں نے لکھی ہے۔ تو گویا جھوٹ ہونے کی حالت میں پندرہ ہزار روپیہ مولوی ثناء اللہ صاحب لے جائیں گے اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔ پس اگر میں مولوی صاحب موصوف کے لیے ایک ایک سو روپیہ بھی اپنے مریدوں سے لوں گا۔ تب بھی ایک لاکھ روپیہ ہو جائے گا۔ وہ سب ان کی نذر ہوگا۔“

مولوی صاحب..... ہم مرزا صاحب کی صداقت اور راست بیانی کے ظاہر کرنے کو ان کے حوالہ رسالہ انجام انہم وغیرہ کی بھی پڑتال کرتے ہیں۔ آپ انجام انہم کے صفحہ اخیر پر بیشک یہ لکھتے ہیں کہ: ”ہم نے پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ کہ اس سے بعد علماء سے خطاب نہ کریں گے۔ گو وہ ہم کو گالیاں دیں اور یہ کتاب ہمارے خطابات کا خاتمہ ہے۔“

اس کتاب (انجام انہم) پر گوتاریخ طبع نہیں۔ مگر اس کے اول صفحہ سے ۱۸۹۶ء معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کے بعد آپ نے علماء کرام کو صاف مباحثہ اور مقابلہ کے واسطے بلایا ہے۔ چنانچہ آپ ۲۵ مئی ۱۹۰۰ء کے (اشہار معیار الاخیار، مجموعہ اشہارات جدیدہ ایڈیشن اشہار نمبر ۲۲۳ ص ۳۹۰) پر لکھتے ہیں۔

”اگر آپ لوگ اے اسلام کے علماء! اب بھی اس قاعدہ کے موافق جو سچے نبیوں کی شناخت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ قادیاں سے کسی قریب مقام میں جیسا کہ مثالہ ہے یا اگر آپ کو اگر انشراح صد میسر آئے۔ تو خود قادیاں میں ایک مجلس مقرر کریں۔ جس مجلس کے سرگروہ آپ کی طرف سے چند ایسے مولوی صاحبان ہوں۔ کہ جو علم اور برداشت اور تقویٰ اور خوف باری تعالیٰ میں آپ لوگوں کے نزدیک مسلم ہوں۔ پھر ان پر واجب ہوگا۔ کہ منصفانہ طور پر بحث کریں۔ اور ان کا حق ہوگا۔ کہ تمہیں طور سے مجھ سے اپنی تسلی کر لیں۔“

۱..... قرآن وحدیث کی رو سے۔

۲..... عقل کی رو سے۔

۳..... سماوی تائیدات اور خوارق اور کرامات کی رو سے۔

کیونکہ خدا نے اپنے کلام میں مامورین کے پرکھنے کے لیے یہی تین طریق بیان

فرمائے ہیں۔ پس اگر میں ان تینوں طوروں سے ان کی تسلی نہ کر سکا۔ یا اگر ان تینوں سے صرف ایک یا دو طور سے تسلی کی۔ تو تمام دنیا گواہ رہے کہ میں کا ذب ظہروں گا۔ لیکن اگر میں نے ایسی تسلی کر دی۔ جس سے وہ ایمان اور حلف کی رو سے انکار نہ کر سکیں۔ ان پروزن ثبوت میں ان دلائل کی نظیر پیش نہ کر سکیں۔ تو لازم ہوگا کہ تمام مخالف مولوی اور ان کے نادان پیرو خدا تعالیٰ سے ڈریں۔ اور کروڑوں انسانوں کے گناہوں کو بلا وجہ اپنی گردن پر نہ لیں۔“

کیا مرزا جی نے اس تحریر میں فریق مخالف کو خطاب نہیں کیا۔ یا ان سے مجلس میں دلائل طلب نہیں کیے کیا ان کو بحث کے لیے نہیں بلایا کیا قادیاں میں ۱۹۰۰ء، ۱۸۹۶ء سے پہلے ہونے کی وجہ سے یہ تحریر منسوخ ہے؟ یا نہیں۔ تو پھر میں نے کیا بکس ملایا تھا۔ کہ مجھ کو مناظرہ تو کیا؟ زیارت سے بھی محروم رکھا۔ ہائے

وصال یار میر ہو کس طرح ضامن

ہمیشہ گھات میں رہتا ہے آسمان صیاد

ہاں یاد آیا کہ یہ تحریر ۲۵ مئی ۱۹۰۰ء کی بھی تو اس قابل نہیں کہ اس کو پیش کیا جائے۔ کیونکہ مرزا جی نے اس کو عملی طور پر منسوخ کر کے ردی کے صندوق میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے تو ندوۃ العلماء کے جلسہ منعقدہ امرتسر کے موقع پر ۱۸ اکتوبر ۱۹۰۲ء کو مرزا جی کے نام ۴۳ علماء نے مشترکہ نوٹس دیا۔ تو حضور نے بغیر رسید ڈاک خانہ کے آف تک نہیں کی۔ (الہامات مرزا)

## باب ۵۲ پنجاہ و دوم

### ملا محمد بخش اور ابوالحسن تبتی کے خلاف بددعا

تو ام آنگہ نیاز ارم اندردن کے

سو در اچہ کنم کوز خود برنج درست

آج حضرت مرزا صاحب دربار برخواست کر کے صبح کی سیر سے فراغت پا کر بیت الفکر میں تہا بیٹھے ڈاک کا جو آج ہی آئی ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ منی آرڈر اور روپیوں کا مقابلہ اور پڑتال اور میزان اور نوٹس ملا کر رکھ دیئے ہیں۔ خطوط کے ملاحظہ سے بھی فرصت پالی۔ ایک اشتہار کا ملاحظہ بڑے غور کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے مضمون سے چہرہ پر تغیر محسوس ہوتا ہے۔ اشتہار کو پڑھ کر رکھ دیا۔ انہوں نے یہ سب فتنہ انگیزی اور کارستانی شیخ خالوی کی ہے اور اسی کے ایماء اور

اشتعال سے یہ اشتہار چھاپا گیا ہے اور اس کو آتشِ حسد نے ایسا جلایا ہے کہ خدا کی پناہ۔  
 میں نے کوئی تہذیب اٹھانہیں رکھی کہ اس کے بغض و حسد کو فرو کیا جائے مگر بمصداق جنیل  
 گرد و جہلت نہ گرد۔ خدا اس کی خبر میں گھونٹی کے ساتھ عمر ہوگئی ہے نہ دمکانے اور ڈرانے کا اثر۔  
 نہ طبع کا۔ پھر کیا کیا جائے۔ طاہر بخش اور ابوالحسن تہجدی اور ساتھ لگ گئے ہیں۔  
 ایک عرصہ انہی خیالات اور رد و بدل کے بعد قلم دوات اور کاغذ اٹھایا اور ایک اشتہار  
 لکھا شروع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم • نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين

آمین! ہم خدا پر فیصلہ چھوڑتے ہیں

اور مبارک وہ کہ خدا کے فیصلہ کو عزت کی نظر سے دیکھیں۔ جن لوگوں نے شیخ محمد حسین  
 بٹالوی کے چند سال کے پرچہ اٹھانے کی دیکھی ہوں گے۔ وہ چاہیں تو لہذا گواہی دے سکتے ہیں۔ کہ  
 شیخ صاحب موصوف نے اس راقم کی تحقیر اور دشنام دہی ہیں کوئی کسر اٹھانہیں رکھی۔ ایک وہ زمانہ تھا  
 کہ ان کا اٹھانے کا کف لسان اور تقویٰ اور پرہیزگاری کے طریق کا مزید تھا اور کفر کی نانوے  
 وجوہ کو ایک ایمان کی وجہ پائے جانے سے کالعدم قرار دیتا تھا۔ اور آج وہی پرچہ ہے کہ جو ایسے شخص  
 کو کافر اور دجال قرار دے رہا ہے۔ جو کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ کا قائل اور  
 آنحضرت کو خاتم الانبیاء سمجھتا اور تمام ارکان اسلام پر ایمان لاتا ہے اور اہل قبلہ میں سے ہے اور ان  
 کلمات کو سن کر شیخ صاحب اور ان کے ہم زبان یہ جواب دیتے ہیں کہ تم لوگ اصل میں کافر اور منکر  
 اسلام اور دھر یہ ہو۔ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو۔ گویا شیخ  
 صاحب اور ان کے دوستوں نے ہمارے سینہ کو چاک کر کے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے اندر کفر بھرا  
 ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تائید میں اپنے نشان بھی دکھلائے۔ مگر وہ نشان بھی حشرات اور  
 بے عزتی کی نظر سے دیکھے گئے اور کچھ بھی ان نشانوں سے شیخ محمد حسین اور اس کے ہم مشرب  
 لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بلکہ سختی اور بدنہانی روز بروز بڑھتی گئی۔ چنانچہ ان دنوں میں میرے  
 بعض دوستوں نے کمال نرمی اور تہذیب سے شیخ صاحب موصوف سے یہ درخواست کی تھی۔ کہ  
 مسلمانوں میں آپ کے فتویٰ کفر کی وجہ سے روز بروز تفرقہ بڑھتا جاتا ہے اور اب اس بات سے نہ  
 امید کی گئی ہے کہ آپ مباحثات و مناظرات سے کسی بات کو مان لیں اور نہ ہم آپ کی بے ثبوت  
 باتوں کو مان سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ مبالغہ کر کے تصفیہ کر لیں کیونکہ جب کسی طرح

جھگڑا کا فیصلہ نہ ہو سکے۔ تو آخری طریق خدا کا قصہ ہے۔ جس کو مہبلہ کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اثر مہبلہ کے لیے اس طرف سے ایک سال کی شرط ہے اور یہ شرط الہام کی بنا پر ہے لیکن تاہم آپ کو اختیار ہے کہ اپنے مہبلہ کا اثر تین دن یا ایک دن ہی رہنے دیں۔ کیونکہ مہبلہ دونوں طرف کی لعنت اور بددعا کا نام ہے۔ آپ اپنی بددعا کے اثر کی مدت قرار دینے میں اختیار رکھتے ہیں۔ ہماری بددعا کے اثر کا وقت ٹھہرانا آپ کا اختیار نہیں ہے۔ یہ کام ہمارا ہے کہ ہم وقت ٹھہرا دیں۔ اس لیے آپ کو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اشاعت السنہ نمبر ۱۱ جلد ۷ میں تسلیم کر چکے ہیں کہ شخص ملہم کو جہاں تک شریعت کی سخت مخالفت پیدا نہ ہو۔ اپنے الہام کی متابعت ضروری ہے۔ لہذا ایک سال کی شرط جو الہام کی بنا پر ہے اس وجہ سے رد نہیں ہو سکتی۔ کہ حدیث میں ایک سال کی شرط بصراحت موجود نہیں ہے۔ کیونکہ اول تو حدیث مہبلہ میں سال کا لفظ موجود ہے اور اس سے انکار دیانت کے برخلاف ہے۔ پھر اگر فرض کے طور پر حدیث میں سال کا لفظ موجود بھی نہ ہوتا۔ تو چونکہ حدیث میں ایسا لفظ ہی موجود نہیں۔ جو سال کی شرط کو حرام اور ممنوع ٹھہراتا ہو۔ اس لیے آپ ہی حرام اور ناجائز قرار دے دینا دیانت سے بعید ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی عادت فوری عذاب تھا۔ تو قرآن شریف میں یا تعلیم رسول اللہ میں اس کی تصریح ہونی چاہیے تھی۔ لیکن تصریح تو کیا بلکہ اس کے برخلاف عمل درآندا پایا گیا ہے دیکھو مکہ والوں کے عذاب کے لیے ایک سال کا وعدہ دیا گیا تھا یونس کی قوم کے عذاب کے لیے چالیس دن مقرر ہوئے۔

کتابوں میں بعض عذابوں کی پیشگوئی صد ہا برس کے وعدوں پر کی گئی۔ پھر خواہ نہ خواہ مکی اور بے ہودہ بیانی کر کے اور سراسر بددیانتی کو شیوہ ٹھہرا کر فیصلہ سے گریز کرتا۔ ان علماء کا کام نہیں ہو سکتا۔ جو دیانت اور امانت اور پرہیزگاری کا دم بھرتے ہیں۔ اگر ایک شخص درحقیقت مفتری اور جھوٹا ہے۔ تو خواہ مہبلہ ایک سال کی شرط پر ہو۔ اس سال کی شرط میں افترا کرنے والے کبھی فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ غرض نہایت افسوس کی بات ہے کہ اس درخواست مہبلہ کو جو نہایت نیک نیتی سے کی گئی ہے۔ شیخ محمد حسین نے قبول نہیں کیا۔ اور یہ طرہ کیا کہ تین دن کی مہلت اثر مہبلہ ہم قیوں کر سکتے ہیں زیادہ نہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں سال کا لفظ تو ہے۔ مگر تین دن کا نام و نشان نہیں۔

اور اگر فرض بھی کر لیں۔ حدیث میں جیسا کہ تین دن کی تصدیق نہیں ایسا ہی ایک سال کی بھی نہیں تاہم ایک شخص جو الہام کا دعویٰ کر کے ایک سال کی شرط پیش کرتا ہے۔ علماء امت کا حق ہے کہ ان پر حجت پوری کرنے کے لیے ایک سال ہی منظور کر لیں۔ اس میں تو حمایت شریعت

ہے۔ تاملی کو آئندہ کلام کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ خدا لکھ چکا ہے۔ میں اور میرے نبی اور میرے پر ایمان لانے والے غالب رہیں گے۔ سو شیخ محمد حسین نے باوجود بانی تکفیر ہونے کے اس راہ راست پر قدم مارنا نہیں چاہا۔ اور بجائے اس کے فوراً مہبلہ کے میدان میں آتا یہ طریق اختیار کیا کہ ایک گندہ اور گالیوں سے بھرا ہوا اشتہار لکھ کر محمد بخش جعفر زٹلی اور ابو الحسن تبتی کے نام سے چھپوایا۔ اس وقت وہ اشتہارے میرے سامنے رکھا ہے اور میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ مجھ میں اور محمد حسین میں آپ فیصلہ کرے۔ اور وہ دعاء جو میں نے کی ہے یہ ہے کہ:

”میرے ذوالجلال پروردگار اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذلیل اور جھوٹا اور مفتری ہوں جیسا کہ محمد حسین بنا لوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں بار بار مجھ کو کذاب اور دجال اور مفتری کے لفظ سے یاد کیا ہے اور جیسا کہ اس نے اور محمد بخش جعفر زٹلی اور ابو الحسن تبتی نے اس اشتہار میں جو ۱۰ نومبر ۱۸۹۸ء کو چھپا ہے۔ میرے ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا۔ تو اے میرے مولا! اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذلیل ہوں۔ تو مجھ پر تیرہ ماہ کے اندر یعنی ۱۵ دسمبر ۱۸۹۸ء سے پندرہ جنوری ۱۹۰۰ء تک ذلت کی مار وارد کر اور ان لوگوں کی عزت اور وجاہت ظاہر کر اور اس روز کی جھڑے کو فیصلہ فرما۔

لیکن اگر اے میرے آقا، میرے مولا، میرے منعم میری ان نعمتوں کو دینے والے جو تو جانتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں تیری جناب میں میری کچھ عزت ہے۔ تو میں عاجزی سے یہی دعا کرتا ہوں۔ کہ ان تیرہ مہینوں میں جو ۱۵ دسمبر ۱۸۹۸ء سے ۱۵ جنوری ۱۹۰۰ء تک شمار کی جائے گی۔ شیخ محمد حسین جعفر زٹلی اور تبتی مذکور کو جنہوں نے میرے ذلیل کرنے کے لیے یہ اشتہار لکھا ہے۔ ذلت کی مار سے دنیا میں رسوا کر۔ غرض اگر یہ لوگ تیری نظر میں سچے اور متقی اور پرہیزگار ہیں اور میں کذاب اور مفتری ہوں۔ تو مجھے ان تیرہ مہینوں میں ذلت کی مار سے تباہ کر اور اگر تیری جناب میں مجھے وجاہت اور عزت ہے تو میرے لیے یہ نشان ظاہر فرما۔ کہ ان تینوں کو ذلیل اور رسوا کر اور ضربت علیہم الذلۃ کا مصداق کر۔ آمین ثم آمین!

یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کا حاصل یہی ہے کہ ان دونوں فریقوں میں سے جن کا ذکر اس اشتہار میں ہے۔ یعنی یہ خاکسار ایک طرف اور شیخ محمد حسین اور جعفر زٹلی اور مولوی ابو الحسن تبتی دوسری طرف خدا کے حکم کے نیچے ہیں۔ ان میں سے جو کاذب ہے وہ ذلیل ہوگا۔ یہ فیصلہ چونکہ الہام کی بنا پر ہے اس لیے حق کے طالبوں کے لیے ایک کھلم کھلا نشان ہو کر ہدایت کی راہ ان پر کھولے گا۔

اب ہم ذیل میں شیخ محمد حسین کا وہ اشتہار لکھتے ہیں جو جعفر زلی اور ابوالحسن کے نام پر شائع کیا گیا ہے۔ تا خدا تعالیٰ کے فیصلہ کے وقت دونوں اشتہارات کے پڑھتے ہی حق کے طالب عبرت اور نصیحت پکڑ سکیں اور عربی الہامات کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سچے کی ذلت کے لیے بدزبانی کر رہے ہیں۔ اور منصوبے باندھ رہے ہیں۔ خدا ان کو ذلیل کرے گا۔ اور میعاد ۱۵ دسمبر ۱۸۹۸ء سے تیرہ مہینے ہیں۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے اور ۱۲ دسمبر ۱۸۹۸ء تک جودن ہیں۔ وہ تو بذا اور رجوع کے لیے مہلت ہے۔ فقط (۲۱ نومبر ۱۸۹۸ء، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۶۲۵۷)

خاکسار میرزا غلام احمد قادیاں

### نقل اشتہار مولانا ابوالحسن تبتی

سچے اور قطعی فیصلہ کی صورت صواب

دجال قادیانی کے اشتہار مہبلہ کا جواب

دجال قادیانی کو ڈگلس صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر گورداسپور نے دیا۔ اور اس نے عہد لے لیا۔ کہ آئندہ دل آزار الفاظ سے زبان کو بند رکھے۔ چنانچہ (اشہدہ النہ نمبر ۹ ج ۱۸ ص ۲۵۹) میں مفصل بیان ہوا ہے اور اس وجہ سے اس کو مجبوراً الہام کے ذریعے لوگوں کی دل آزاری سے زبان کو بند کرنا پڑا۔ اور آسانی گولے چلانا یا یوں کہو گوز چھوڑنا ترک کرنا ضروری ہوا۔ اور پھر الہامی دل آزاری کے سوا اس کا کام بند ہونے لگا۔ اور اس کی دکانداری میں نقصان واقع ہوا۔ تو یہ کام اپنے تئیں..... ذریعہ شروع کر دیا۔ تب سے وہ کام اس کے ثابت کر رہے ہیں اور اخباروں اور اشتہاروں کے ذریعے نے لوگوں کی دل آزاری میں مصروف ہیں۔ ازاں جملہ بعض کا ذکر (اشہدہ النہ نمبر ۳ ج ۱۹ ص ۷۷) وغیرہ میں ہوا ہے۔ وازاں جملہ بعض کا ذکر ذیل میں ہوتا ہے۔ کہ اس کی چند تائیس..... لاہور ولدھیانہ و پٹیالہ و شملہ نے مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب کے نام اس مضمون کے اشتہار جاری کیے ہیں کہ وہ بمقام بٹالہ قادیانی کے ساتھ مہبلہ کریں۔ اور اس مہبلہ کا اثر نہ ظاہر ہونے کی صورت میں آٹھ سو پچیس روپیہ جس کو وہ چاروں مواضع سے جمع کر کے پیش کریں گے انعام لیں۔ اس کے ساتھ ان لوگوں نے دل کو کھول کر دل آزاری اور بدگوئیوں سے اپنے دل کا ارمان نکال لیا۔ اور قادیانی کی نیابت کو پورا کر دکھایا۔ میں ان لوگوں کی جرأت اور حیا پر تعجب کرتا ہوں کہ باوجودیکہ مولانا مولوی صاحب (اشہدہ النہ نمبر ۸ و ۱۳ ج ۱۵ ص ۱۳۶ و ۱۸۸ و ۲۱۳) اور نمبر ۳ جلد ۱۸ کے صفحہ ۸۶) اور دیگر مقامات میں قادیانی سے مہبلہ کے لیے مستعدی ظاہر کر چکے ہیں۔ اور اس سے گریز انکار اسی قادیانی بدکردار کی طرف سے ہوا ہے۔ نہ مولانا صاحب موصوف کی طرف

سے یہ لوگ کس منہ سے مولانا مولوی صاحب کو مباحثہ کے لیے بلاتے ہیں۔ اور شرم و حیا سے کچھ کام نہیں لیتے۔ اسی وجہ سے مولوی صاحب ان مجاہدین کی فضول لاف و گزاف کی طرف توجہ نہیں کرتے اور ان لوگوں کو مخاطب بنانا نہیں چاہتے۔ البتہ ان کے مرشد و جلال اکبر کذاب العصر سے مہبلہ کرنے کے لیے ہر وقت بغیر کسی شرط کے مستعد و تیار ہیں۔ اگر قادیانی اپنی طرف سے دعوت مہبلہ کا اشتہار دے یا کم سے کم یہ مشتہر کر دے کہ اس کے مریدوں نے جو اشتہار دیئے ہیں۔ وہ اسی کی رضامندی اور ترغیب سے دیئے ہیں۔ ان میں مولوی صاحب اپنی طرف سے کوئی شرط نہیں کرتے صرف قادیانی کی شرط و میعاد ایک سال کو اڑا کر یہ چاہتے ہیں کہ اثر مہبلہ اس مجلس میں ظاہر ہو یا زیادہ سے زیادہ تین روز عبد اللہ کے مہبلہ و قسم کے لیے اس نے تسلیم کیے ہیں اور قبل از اثر مہبلہ قادیانی اس اثر کے تعین ہی کو دے کہ وہ کیا ہوگا۔ اس کی وجہ و دلیل تفصیل و حوالہ حدیث و تفسیر (اشیاء النہ نمبر ۸ ج ۱۵ ص ۱۷۱ وغیرہ اور نمبر ۳ ج ۱۸ ص ۱۸۶) میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ میعاد ایک سال کے خلاف سنت ہے اور اس میں قادیانی کی حیلہ سازی و فریب بازی کی بڑی گنجائش ہے اور ضرورت نہ ہونے اثر مہبلہ کے کچھ نقد انعام لینا نہیں چاہتے۔ صرف یہی سزا تجویز فرماتے ہیں۔ قادیانی نے عبد اللہ اعظم کے متعلق پیشگوئی پوری نہ ہونے کی صورت میں اپنے لیے خود تجویز کی ہے کہ اس کا منہ کالا کیا جائے اس کو ذلیل کیا جائے۔ (دیکھو جنگ اقدس میں آخری پرچہ کا صفحہ نمبر) پس ہم کو یہ شرط منظور ہے۔ لیکن اس رو سیاہی کے بعد اس کو گدھے پر سوار کر کے کوچہ کوچہ ان چاروں شہروں میں پھرایا جائے اور بجائے دینے جرمانہ یا انعام آٹھ سو گھیس روپیہ کے صرف آٹھ سو گھیس جوتے..... حضرت اقدس (اکذب) کے سر مبارک پر رسید ہوں۔ جن کو چاروں مواضع کے مرید..... آپ کی نذر کریں۔ اور کفش کاری اور پاپوش باری کے بعد پھر گدھے کی سواری پر آپ کا جلوس نکلے۔ اور آگے آگے آپ کے ظلم مرید بطور مرثیہ خوانی یہ مصرع پڑھتے جائیں۔

چرا کارے کند عاقل کہ باز آید پشیمانی

اور یہ شعر صائب کا:

ہمائے بہ صاحب نظرے گوہر خود را

عیسیٰ تئواں گشت بہ تصدیق خرے چند

اور یہ ربانی

مرسل۔ یزدانی و عیسیٰ نبی اللہ شدی

باز میگویی کہ دجالت نہ خوانند اے حمار



کفش یا بر سر خوری اذا افتزائے ناسزا  
روسیہ کشتی میاں مردم قرب و جوار

اور یہ بیت اردو

اڑاتا خاک سر پر جھومتا مستانہ آتا ہے  
یہ کھاتا جوتیاں سر پر میرا دیوانہ آتا ہے  
راقم: ابوالحسن عتیقی حال داروکوہ شملہ

(۳۱ اکتوبر ۱۸۹۸ء، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۶۲ تا ۶۳)

### باب ۵۳ پنجاہ و سوم

مرزا قادیانی گورداسپور عدالت میں

رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل

جو آکھ ہی سے نہ ٹپکا تو وہ لہو کیا ہے

آج پھر گورداسپور کے ضلع کی کچھری کے احاطہ میں ہمارے ناول کے ہیرو حضرت  
امام زماں مجدد و دوراں مہدی مسعود اور مسیح موعود مرزا صاحب رونق افروز ہیں۔ اور حواریان  
ذوالاقتدار اور رفقاء والا تبار اور صحابہ باوقار اپنے اپنے پایہ اور قرینہ پر متمکن کچھ ادھر ادھر الصرام کام  
میں پھر رہے ہیں۔

کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور غیر بھی تماشائیوں کے  
طور پر تقریریں لہذا پر سننے کے واسطے حلقہ کیے کھڑے ہیں۔

پہلا..... (سامعین) یہاں کوئی عیسائی تو نظر نہیں آتا۔ پھر کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو  
صلواتیں سنائی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی عیسائی بھی ہوتا تو کیا ایک الواحزم نبی کی شان میں یہ الفاظ  
جائز ہیں؟

دوسرا..... یہ اس چودھویں صدی کے مسیح جو ٹھہرے اور کیا ذکر کریں۔

تیسرا..... بھائی! رقاہت جو ہوئی ان (سیخ ابن مریم) کی وفات اور نفی معجزات نہ ہو۔ تو ان  
(مرزا صاحب) کی فضیلت ان پر کیونکر ہو سکتی ہے اور ان کا اعتقاد اور محبت کا سکہ لوگوں کے دلوں  
میں کیسے جم سکتا ہے۔

چوتھا..... یہ پرانے خیالات (عیسیٰ ابن مریم کی حیات الی السماء معہ مجدد العصری پھر نزول)

دلوں سے نہ نکلیں۔ ان (مرزا صاحب) کو کوئی مسخ موعود نہیں مان سکتا۔ اس واسطے یہ لازم ہوا کہ ہر ایک وعظ اور تقریر اسی بارہ میں ہو۔

مسخ زمانہ..... ”عیسائی کہتے ہیں کہ آہٹم کی نسبت پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ سو ہم اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے بارے میں بہت کچھ ثبوت رسالہ انوار الاسلام اور ضیاء الحق اور رسالہ انجام آہٹم میں دے چکے ہیں اور اب بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ کہ اس پیشگوئی کی بنیاد نہ آج سے بلکہ پندرہ برس پہلے سے ڈالی گئی تھی۔ جس کا مفصل ذکر براہین احمدیہ میں بہ صفحہ ۲۴۱ موجود ہے۔ سو ایسے انتظام کے ساتھ پیشگوئی کو پورا کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔

یسوع کی تمام پیشگوئیوں میں سے جو عیسائیوں کا مردہ خدا ہے۔ اگر ایک پیشگوئی بھی اس پیشگوئی کے ہم پلہ اور ہم وزن ثابت ہو جائے۔ تو ہم ہر ایک تاوان دینے کو تیار ہیں۔

اس درمیانہ انسان کی پیشگوئیاں کیا تھیں صرف یہی کہ زلزلہ آئیں گے قحط پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی۔ پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایسی ایسی پیشگوئیاں اس کی خدائی پر دلیل ٹھہرائیں۔ اور ایک مردہ کو اپنا خدا بنا لیا۔ کیا ہمیشہ زلزلے نہیں آتے۔ کیا ہمیشہ قحط نہیں پڑتے۔ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا؟

پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی چیزوں کا پیشگوئی کیوں نام رکھا۔ محض یہودیوں کے تنگ کرنے سے اور جب معجزہ مانگا گیا۔ تو یسوع صاحب فرماتے ہیں۔ کہ حرام کار اور بدکار لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں ان کو کوئی معجزہ دکھایا نہیں جائے گا۔ دیکھو یسوع کو کیسی سوچھی اور کیسی پیش بینی کی۔ اب کوئی حرام کار بدکار بنے۔ تو اس سے معجزہ مانگے یہ تو وہی بات ہوئی کہ جیسا ایک شریعہ مکار نے جس میں سراسر یسوع کی روح تھی۔ لوگوں میں یہ مشہور کیا۔ کہ میں ایک ایسا ورد بتلا سکتا ہوں۔ جس کے پڑھنے سے پہلی ہی رات میں خدا نظر آجائے گا۔ بشرطیکہ پڑھنے والا حرام کی اولاد نہ ہو۔ اب بھلا کون حرام کی اولاد بنے اور کہے مجھے وظیفہ پڑھنے سے خدا نظر نہیں آیا۔ آخر ہر ایک وظیفہ پڑھنے والے کو یہی کہنا پڑتا تھا کہ ہاں صاحب! نظر آ گیا یسوع کی بندشوں اور تدبیروں پر قربان ہی جائیں۔ اپنا چچا چھوڑانے کے لیے کیسا داؤد کھیلایا۔ یہی آپ کا طریق تھا ایک مرتبہ یہودی نے آپ کی قوت و شجاعت آزمانے کے لیے سوال کیا۔ کہ اے استاد قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ آپ کو یہ سوال سنتے ہی جان کی فکر پڑ گئی۔ کہ کہیں باغی کہلا کر پکڑا نہ جاؤں۔ سو جب معجزہ مانگنے والوں کو ایک لطیفہ سنا کر معجزہ مانگنے سے روک دیا۔ اس جگہ بھی وہ ہی کارروائی کی۔ کہ قیصر کا قیصر کو دو۔ اور خدا کا خدا کو دو۔ حالانکہ حضرت کا یہ عقیدہ تھا کہ یہودیوں کے

لیے یہودی بادشاہ چاہیے نہ کہ مجوسی۔ اسی بنا پر ہتھیار بھی خریدے۔ شہزادہ بھی کہلائے۔ مگر تقدیر نے یادری نہ کی۔

متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرگی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادنیٰ ادنیٰ بات پر غصہ آجاتا تھا۔ اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں۔ کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے۔ اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔

یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کس قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ جن جن پیشگوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جاتا آپ نے بیان فرمایا ہے ان کتابوں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ بلکہ وہ اوروں کے حق میں تھیں۔ جو آپ کے تولد سے پہلے پوری ہو گئیں۔ اور نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے۔ یہودیوں کی کتاب طالمود سے چرا کر لکھا ہے۔ اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا یہ میری تعلیم ہے۔ لیکن جب سے چوری پکڑی گئی۔ عیسائی بہت شرمندہ ہوئے۔

آپ نے یہ حرکت شاید اس لیے کی ہوگی۔ کہ کسی عمدہ تعلیم کا نمونہ دکھا کر رسوخ حاصل کریں۔ لیکن آپ کی اس بے جا حرکت سے عیسائیوں کی سخت رویا ہی ہوئی۔ اور پھر افسوس یہ ہے کہ وہ تعلیم بھی کچھ عمدہ نہیں۔ عقل اور کائنات دونوں اس تعلیم کے منہ پر ٹھانچے مار رہی ہیں۔ آپ کا ایک یہودی استاد تھا۔ جس سے آپ نے توریت کو سبقاً سبقاً پڑھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کو زیر کی سے کچھ بہت حصہ نہیں دیا تھا۔ اور یا اس استاد کی یہ شرارت تھی کہ اس نے آپ کو محض سادہ لوح کہا۔ بہر حال آپ علمی اور عملی توی میں بہت کچھ تھے۔ اسی وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔

ایک فاضل پادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو تمام زندگی میں تین مرتبہ شیطانی الہام بھی ہوا تھا۔ چنانچہ آپ کو ایک مرتبہ اپنے الہام سے خدا سے منکر ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔

آپ کی انہیں حرکات سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض رہتے تھے۔ اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کچھ خلل ہے۔ اور وہ ہمیشہ چاہتے رہتے تھے کہ کسی شفاخانہ میں آپ کا باقاعدہ علاج ہو۔ شاید خدا تعالیٰ نے شفا بخشی۔ عیسائیوں نے بہت سے

معجزات آپ کے لکھے ہیں۔ مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا۔ اس روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا۔ اور نہ چاہا کہ معجزہ مانگ کر حرام کار اور حرام کی اولاد بنیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ میرے پیروں ہر کھائیں گے اور ان کو کچھ اثر نہیں ہوگا یہ بالکل جھوٹ۔ کیونکہ آج کل کے زہر کے ذریعے سے یورپ میں بہت خودکشی ہو رہی ہے۔ ہزار ہا مرتے ہیں ایک پادری کو کیسا ہی موٹا ہو۔ تین رتی اسٹرکینا کھانے سے دو گھنٹہ تک باسانی مر سکتا ہے پھر یہ معجزہ کہاں گیا۔ ایسا ہی آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیروں پہاڑ کو کھیں گے کہ یہاں سے اٹھ اور وہ اٹھ جائے گا۔ یہ کس قدر جھوٹ ہے۔ بھلا ایک پادری صرف بات سے ایک الٹی جوتی کو سپید جا کر کے دکھلائے۔

ممکن ہے کہ آپ نے کسی تدبیر سے کسی شب کو وغیرہ کو اچھا کیا ہو۔ یا کسی اور ایسی بیماری کا علاج کیا ہو۔ مگر آپ کی بد قسمتی سے اسی زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہو سکتا ہے کہ اسی تالاب کی مٹی ہی آپ استعمال کرتے ہوں گے۔ اسی تالاب سے آپ کے معجزات کی پوری پوری حقیقت کھلتی ہے۔ اور اسی تالاب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کہ اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا ہو۔ تو وہ معجزہ آپ کا نہیں۔ بلکہ اس تالاب کا معجزہ ہے۔ اور آپ کے ہاتھ میں سوائے مکرو فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر انفس ہے کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے ہیں۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین تانیاں اور دادیاں آپ کی زنا کار اور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مگر یہ بھی خدا کے لیے ایک شرط ہوگی آپ کا کچھ یوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان تجری کو یہ موقعہ نہیں دے سکتا۔ کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں۔ کہ ایسا انسان کس چلن کا انسان ہو سکتا ہے۔ آپ وہی حضرت ہیں کہ جنہوں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ ابھی تمام لوگ زندہ ہوں گے۔ کہ میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ حالانکہ نہ صرف وہ لوگ بلکہ انیس سٹیلیں اس کے بعد بھی انیس صدیوں میں مرتجیں مگر اب تک تشریف نہیں لائے۔ خود دو دفات پانچکے۔ مگر اس جموٹی پیشگوئی کا کلک اب تک پادریوں کی پیشانی پر باقی ہے۔ سو جو سائیلوں کی یہ حماقت ہے کہ ایسی پیشگوئیوں پر ایمان لائیں۔ مگر آہٹم کی پیشگوئی کی نسبت جو صاف اور مرتع طور پر پوری ہوئی۔ اب تک انہیں شک ہو۔“

(ضمیمہ انجام پنجم ص ۸۴۴ حاشیہ نمبر ۱۱ ج ۱ ص ۲۸۸-۲۹۲)

اردی..... مرزا غلام احمد قادیانی و مولوی محمد حسین وغیرہ۔

مرزا صاحب..... حاضر! سب کچھری کے اندر داخل ہوئے۔

صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر..... بہتر ہے کہ تم ایک اقرار نامہ لکھ دو۔

مرزا صاحب..... بہت بہتر جیسا حکم۔

مولوی صاحب..... مجھ کو کوئی عذر نہیں ہے۔ اس اقرار نامہ پر دستخط کر دوں گا۔ میں پہلے سے اسکا

السنہ میں شائع کر چکا ہوں کہ اب میں مرزا کو اپنا مخاطب بنانا پسند نہیں کرتا۔

صاحب بہادر..... یہ بہت اچھی بات ہے کہ روز روز کا جھگڑا طے ہو۔ حکم! ہم نے اقرار نامہ جات کا

مسودہ مشتمل چھ شرائط تیار کیا ہے جس کو مرزا غلام احمد قادیانی اور مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی نے

منظور کر لیا ہے۔ ان اقرار نامہ جات کی نظر سے یہ مناسب ہے کہ کارروائی حال مسدود کی جائے۔

لہذا ہم مرزا قادیانی کو رہا کرتے ہیں۔

دستخط جے ایم ڈوئی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ۲۳ فروری ۱۸۹۹ء

نمبر قادیاں نمبر مقدمہ ۳/۳ نقل اقرار نامہ مرجوعہ فیصلہ

مرزا غلام احمد قادیانی

۱۵ جنوری ۱۸۹۹ء ۲۵ فروری ۱۸۹۹ء

بمقدمہ فوجداری اجلاس

مسٹر جی ایم ڈوئی صاحب بہادر

ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع

گورداسپور

میں مرزا غلام احمد قادیانی بحضور خداوند تعالیٰ یہ اقرار صالح کرتا ہوں کہ آئندہ:

۱..... میں ایسی پیشگوئی شائع کرنے سے پرہیز کروں گا جس کے یہ معنی ہوں یا ایسے معنی

خیال کیے جائیں کہ کسی شخص کو یعنی مسلمان ہو۔ خواہ ہندو ہو یا عیسائی ہو وغیرہ۔ ذلت پہنچے گی۔

یا مورد عتاب الہی ہوگا۔

۲..... میرا خدا کے پاس ایسی اپیل (فریاد و درخواست) کرنے سے بھی اجتناب کروں گا۔

کہ وہ کسی شخص کو (مسلمان ہو خواہ ہندو یا عیسائی وغیرہ) ذلیل کرنے سے یا ایسے نشان ظاہر کرنے

سے کہ وہ مورد عتاب الہی سے یہ ظاہر کرے کہ مذہبی مباحث میں کون سچا ہے۔ اور کون جھوٹا ہے؟

۳..... میں کسی چیز کو الہام جتا کر شائع کرنے سے مجتنب رہوں گا جس کا یہ منشاء ہو یا ایسا منشاء

کے رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو۔ کہ فلاں شخص (یعنی مسلمان خواہ ہندو یا عیسائی وغیرہ) ذلت

اٹھائے گا۔ یا مورد عتاب الہی ہوگا۔

۴..... میں اس امر سے بھی باز ہوں گا۔ کہ مولوی ابوسعید محمد حسین یا ان کے کسی دوست یا پیرو کے ساتھ مباحثہ کرنے میں کوئی دشنام آمیز قہرہ یا دل آزار لفظ استعمال کروں۔ یا کوئی ایسی تحریر یا تصویر شائع کروں جس سے ان کو درد پہنچے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ ان کی ذات کی نسبت یا ان کے کسی دوست یا پیرو کی نسبت کوئی لفظ مشکل و جال کافر کا زب بطلوی نہیں لکھوں گا۔ (یعنی بٹالوی کے جے ٹ سے کیے جانے چاہئیں۔ جب یہ لفظ بطلوی کر کے لکھا جاتا ہے تو اس کا اطلاق باطل پر ہوتا ہے) میں ان کی پرائیویٹ زندگی یا ان کے خاندانی تعلقات کی نسبت کچھ شائع نہیں کروں گا۔ جن سے ان کو تکلیف پہنچنے کا عقلاً احتمال ہو۔

۵..... میں اس بات سے بھی پرہیز کروں گا۔ کہ مولوی ابوسعید محمد حسین یا ان کے دوست یا پیرو کو اس امر کے مقابلہ کے لیے بلاؤں کہ وہی خدا کے پاس مبالغہ کی درخواست کریں۔ تاکہ وہ ظاہر کریں کہ میدان مباحثہ میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ نہ میں ان کو ان کے دوست یا پیرو کو کسی شخص کی نسبت کوئی پیشگوئی کرنے کے لیے بلاؤں گا۔

۶..... جہاں تک میرے احاطہ طاقت میں ہے میں تمام اشخاص کو جن پر میرا کچھ اثر یا اختیار ہے۔ ترغیب دوں گا کہ وہ بھی بجائے خود اسی طریق پر عمل کریں۔ جس طریق پر کار بند ہونے کا میں نے رقعہ نمبر ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ میں اقرار کیا ہے۔

العبد شواہد

مرزا غلام احمد بقلم خود  
خواجہ کمال الدین ای ای ایل ایل ڈی  
اسی مضمون کے اقرار نامہ پر مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب بھی دستخط فقط یہ فرق بجائے  
(کا دیانی) کا دیانی کو چھوٹے کاف سے کاویاں نہ لکھیں۔

## باب ۵۴ پنجاب و چہارم

### ترکی پھندنی دار لال ٹوپی

ایک پرانا کچی عمارت کا مکان ہے۔ جس کا بڑا وسیع اور فراخ صحن ہے۔ جس میں آم اور پیری وغیرہ کے چند درخت کھڑے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بانی مکان نے تعمیر مکان کے وقت صحن میں مختصر سا پھل دار باغ بھی لگایا ہوا ہے۔ جس کی اب زمانہ کی گردش و تغیر و تبدل قبضہ و ملک کے سبب اب وہ صورت نہیں رہی۔ ڈیوڑھی کی بغل میں ایک چھوٹا سا کوشا ہے۔ جس کا

ایک دروازہ ڈیوڑھی کے اندر ہے۔ اور ایک دروازہ اور دو طاقیاں (چھوٹے دروازے) سڑک یعنی کوچہ کی سنٹر کی طرف ہیں۔ ان میں بوسیدہ اور ٹوٹے ہوئے کیواڑ لگے ہوئے ہیں۔ جس سے عیاں ہے کہ یہ مردانہ نشست کا مکان ہے۔ اندر گاڑھی سفید ہوئی ہے۔ پرانی اور بوسیدہ چھت کا عیب چھپانے کو سرخ کاغذ کی مچھنکیری جس کے چاروں طرف سبز کاغذی حاشیہ خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک طرف دیوار میں ایک رنگدار کپڑا جس پر ریشم کے پھول سجے ہوئے اور پیشہ کے کٹڑے لگے ہوئے تھے۔ جن میں رات کو لپ کی روشنی کا عکس بڑا کر جگنو کی طرح چمکتی ہیں۔ دروازہ پر ایک گلشن بت کا خوشنما پردہ لٹک رہا ہے۔ جو ٹوٹے ہوئے کیواڑوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ دہلیز کے دروازہ کے دونوں گوشوں میں دو سیز رکھے ہیں۔ ایک کے اوپر دو ایک کانچ کے لپ اور کچھ چینی کے گلدان مگر سب مجروح۔ کسی کا کنارہ ٹوٹا ہے اور کسی کی گردن ندارد ہے۔ دوسری سیز پر ایک بڑا آئینہ اور کچھ چینی کے ضرب کھائے برتن پڑے ہیں۔ طاقتوں میں سفید رنگ کی بوتلیں ہیں۔ جن میں سرخ و سبز رنگ کا پانی بھرا ہے دیواروں پر طغرائے خط کے کتبہ چوکھٹ و آئینہ میں جڑے ہوئے لٹک رہے ہیں۔ ایک طرف حضرت اقدس امام زماں مسیح و درواں مہدی وقت مجدد جہاں جناب حضرت مرزا صاحب کے دربار کی عکسی تصویر آویزاں ہے۔ غرضیکہ اس خستہ اور شکستہ مکان کو اپنے مذاق کے موافق آراستہ و پیراستہ کر کے سجایا ہوا ہے۔ جو کمین کی شکستہ حالی اور زندہ دلی پر یزبان حال گواہی دے کر کہہ رہا ہے۔

تو مگر بدل است نہ بمال

دس بارہ آدمی خشکاشی ڈاڑھی جڑھ سے ملی ہوئی ترکی پھندنی دار لال ٹوپی سر پر اور کوٹ نصرانی قطع کا در بڑھیلی پتلون بیہودوں کی وضع کی زیب تن کیے بیٹھے ہیں۔ ایک صاحب لباس میں تو ایسے نہیں مگر ڈاڑھی کے مقصر کراتے ہیں۔ اور ایک صاحب ڈاڑھی اور لباس میں کلی مغائرت رکھے ان میں شامل ہیں۔ باقی سب صاحب ایک وضع اور ایک قطع پائے باہم بیٹھے خوش گپیں اڑا رہے ہیں۔ ایک صاحب دہلیز کی جانب سے داخل ہوئے۔

فخص ..... السلام علیکم! مزاج شریف۔

حاضرین جلسہ ..... وعلیکم السلام۔ کو تو ال صاحب (فخص آنے والا) مزاج بخیر؟

کو تو ال صاحب ..... الحمد للہ علی کل حال۔ اگر آپ صاحبوں کا محل اوقات اور ہارج کار نہ ہوں تو حاضر ہوں۔

حاضرین ..... آئیے تشریف لائیے یہ آپ کے فرمانے کی بات ہے ہمارا کیا ہرج ہے صحن راحت

بلکہ فخر اور عزت ہے۔

رواقِ مظر ما چشمِ آشیانہ تست  
کرمِ نماء و فردد آکہ خانہ خانہ تست  
(کوٹوال صاحب) تسلیم مکشور ہوں مگر۔

دوستو! درد کو محفل میں نہ تم یاد کرو  
نہ کہیں عیش تمہارا بھی منقض ہووے

دیکھئے نامیرے آنے سے آپ سب خاموش ہو گئے۔ پہلے بلبل کی طرح سے چمک رہے تھے۔

ہمارے خان صاحب (کلمین) تو آپ کے ایسے چمک پر چڑھے ہیں کسی قماش کے بھی نہیں رہے۔ جب سے مرزا صاحب سے دست بچ ہوئی بدون آپ کے حکم کے کسی سے ملتا تو کیا سلام علیک کے بھی روادار نہیں۔

خان صاحب..... بھائی صاحب! میرا دل ہی بچھ سا گیا۔ دنیا کی محبت سے بالکل سرد ہو گیا۔ کسی سے ملنے اور میل ملاپ رکھنے کو نہیں چاہتا۔ جب سے حضرت اقدس سے بیعت کی۔ دنیا و ما فیہا سے طبیعت بیزار ہو گئی۔ اب گوشہ تنہائی اور یادِ الہی کو ہی دل چاہتا ہے۔

کوٹوال صاحب..... ہاں یہ امر تو محتاج بیان نہیں۔ آپ کے حالات ہی شاہد ہیں۔ آپ بھی قال اللہ اور قال الرسول کے سوا اور کوئی ذکر نہیں تھا۔ اور اب اس جلسہ کے بعد بھی آپ عبادتِ الہی کے واسطے جائیں گے۔ تو ایک بجے کے قریب ہی واپس آئیں گے ہم تو ان مشغل کے لائق نہیں جس میں آپ مشغول تھے نہ دوسرے مشغل میں جو اس کے بعد ہوگا ہم سے آپ کی طبیعت کیوں ملنے لگی۔

حاضرین..... نہیں اس میں تو کلام نہیں کہ ہمارے حضرت اقدس کی بیعت کا یہ تو فوری اثر ہے۔ ادھر بیعت ہوا ادھر تائب ہوا۔ اور کل منہیات سے متنفر۔

کوٹوال صاحب..... صاحبان! آپ میں سے کوئی ولایت سے تو آیا نہیں۔ سب اس جگہ کے رہنے والے لیکن پیدا ہوئے یہاں ہی پرورش پائی۔ ہوش سنبالا میں بھی ولایت سے نہیں آیا جو آپ کے حالات سے بے خبر ہوں۔ دائی سے تو پیٹ نہ چھپائیے۔

خان صاحب..... جناب بھائی صاحب! یہ بات قنصع یا مبالغہ سے نہیں کی گئی۔ صحیح ہے اور بالکل صحیح ہے اگر آپ کو اس میں کلام ہے۔ ہم اتنے قنصع بیٹھے ہیں۔ ان میں سے کسی کا نام لے دیجیے مگر



بیعت کی بدی بھی اس سے پہلے کی نہیں بدی۔

کو تو ال صاحب..... نہیں صاحب گڑھے مردے اکھاڑنے سے کیا حاصل بیعت کے بعد بھی پرانی سڑی بسی باتیں ہیں۔ ہفتہ عشرہ کی میعاد لگائی اور جس کی نسبت ارشاد ہو۔ اس کا حال ظاہر کروں مگر میں نہیں جامع گناہ کس گناہ کو کہتے ہیں۔ قتل کو یا ڈکیتی کو پہلے اس کی شرح فرمائے۔

خاں صاحب..... اول تو یہ لیجیے! ادنیٰ بات ہے کہ ہماری جماعت میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ کو تو ال..... گستاخی معاف! کوئی صاحب رنج نہ کرے اگر کسی صاحب کو ناگوار ظاہر ہو۔ تو آپ فرما دیجیے ورنہ۔ تیرا ازشت رفتہ رفتہ باز بدست نئے آید۔

حاضرین جلسہ..... بالاتفاق نہیں صاحب! بے تکلف فرمائیں اس میں رنج کی کیا بات ہے۔ ہماری طرف سے اجازت ہے۔

کو تو ال صاحب..... اچھا تو اول مولوی صاحب سے ہی شروع کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ آپ سب صاحبوں کے مقتدا اور امام ولیڈر (پیشوا) کے سوا حضرت مرزا صاحب کے حواری خاص اور مقرب بھی ہیں اگر اصحاب اربح سے نہیں تو عشرہ مبشرہ میں سے تو ضرور ہیں۔ حضرت آپ ہی فرمائیں۔ کہ آپ نے جو مسجد کے مقدمہ میں اظہار دیا تھا۔ کتنی باتیں سچ کہی تھیں اور آپ کو حلف سے پہلے دیا گیا تھا۔ میں بھی عدالت میں موجود تھا۔ اگر آپ خود انصاف کو ہاتھ سے نہ دیں۔ تو خیر ورنہ جہاں تک میرا حافظہ یاد دی دے گا بیان کروں گا۔

مولوی صاحب..... نہیں صاحب! دنیا میں رہ کر بغیر جھوٹ کے کارروائی اور مقدمہ میں تو ممکن ہی نہیں کہ سچ ہی سے کام نکل سکے سچے کو بھی بغیر جھوٹ کے چارہ نہیں۔ سچ سے تو مقدمہ کی رویداد بدل جاتی ہے۔

کو تو ال صاحب..... دوسرے یہ نشی صاحب ہیں یہ فرمائیں کہ انہوں نے غریب اندھے کی دکان دہالی اور سینہ زوری سے دعویٰ کیا کہ ڈگری لے لی۔ انہوں نے عرضی دعویٰ میں کتنا صحیح لکھوایا اور کس قدر بیان حلفی سچ بولا اور جو گواہ ان کی طرف سے گزرے۔ انہوں نے کتنا سچ بولا اور جنہوں نے اس مقدمہ میں بیرونی کر کے ڈگری دلائی انہوں نے سچ کا کس قدر استعمال کیا۔ یہ والسابقون الاولون بھی ہیں۔

دوسرے اس مہاجن کے روپیہ کو جواب دے دیا۔ اس مقدمہ میں کتنا صحیح تھا۔

مولوی صاحب..... اجی آپ تو مقدمات کی نظیر پیش کرتے ہیں یہ جائیداد کا معاملہ ہے اور عدالت میں بغیر جھوٹ بولنے کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ملکیت کی جو آپ کہیں تو حقیقی مالک ہر چیز کا اللہ

تعالیٰ ہے۔ نافرمان بندہ کی ملکیت سے نکال کر خواہ تلف کرادے یا کسی کو دلا دے۔  
 کو تو ال صاحب..... پھر یہ کہیے کہ از روئے نبی کوئی گناہ نہیں پھر ایسا دین کیوں نہ اختیار کریں۔  
 کھٹ کھٹ کی اندر سے آواز کی آئی۔ خان صاحب اندر گئے اور ایک ٹرے (خواب) میں چاء کی پیالیاں اور دہلی کی مشین کی بسکٹوں سے بھری ہوئی دو رقاب آئے۔ گرما گرم دودھ چائے بھی سب صاحبوں نے نوش فرمائی اور جلسہ برخواست ہوا۔ اور ہمارے خان صاحب کوٹ پہنا اور ٹوپی سر پر رکھ کر ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر گشت کو روانہ ہو گئے۔

صبح کا وقت ہے ابھی آٹھ تو نہیں بجے خان صاحب کے دروازہ پر پولیس موجود ہے اور مکان کے ادھر ادھر قریب قریب کچھ وردی والے داہنے ہاتھ میں ڈنڈا لیے کانسٹیبل چکر لگا رہے ہیں اور سفید پوش پولیس کے بھی جوان پہرہ دے رہے ہیں۔ اور ایک حواری مرزا صاحب بھی دروازہ پر بیٹھے ہیں۔ کیا آج ٹی پارٹی عام ہے جو احمدی جماعت کے لوگ اور ٹھاز دار پولیس کانسٹیبلان حاضر ہیں۔ دیکھیں تو چاء کا سامان تو کچھ نظر نہیں آتا ہمارے خان بچے ملزموں کی صورت بنائے بیٹھے ہیں۔

تھانہ دار..... دیکھو اس میں تمہاری بہتری ہے کہ تلاشی سے پہلے تم دے دو کو ہم اٹھ جاتے ہیں اور اگر تلاشی کے بعد تم نے اقبال کیا اور مال سردقہ دیا اور ضرور ایسا ہوگا تو بہتر نہ ہوگا۔  
 خان صاحب..... نہیں صاحب مجھ کو کیا خبر ہے میں چور نہیں چور کا بھائی نہیں بھلا ہم ایسا کام کر سکتے ہیں۔ ہم مرزا صاحب کے مرید۔

تھانہ دار..... حضرت آپ کا مدعی بھی مرزا صاحب کا مرید ہے۔ بے الہام کے تو اس نے بھی استغاثہ نہیں کیا۔ آپ دونوں الہام لڑاؤ جس کا الہام غالب رہے وہی جیتے۔ کیوں حافظ صاحب (مدعی)۔

حافظ صاحب..... میں تو کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ کہہ دیں میرے پاس نوٹ اور روپیہ ہے۔ اگر ان کے پاس سے خرچ ہو گیا ہے تو مجھے رفتہ رفتہ دے دیں۔

تھانہ دار صاحب..... اچھا تم جانو اپنا کیا پاؤ گے۔ اور انسپٹر صاحب کے رو برو تم گئے تو سب بھول جاؤ گے (کانسٹیبل کی طرف مخاطب ہو کر) ان کو لے جاؤ اور شاہی کمرہ (حوالات) میں ان کے واسطے فرش وغیرہ کر کے رکھیے۔ جب حضرت نے حوالات کے کمرہ کی ہوا کھائی تو کل کیفیت کہہ سنائی۔ پانی کے نالے سے کمر کمر پانی میں دفن کیا ہوا بکس نکال کر اور اپنے مکان کی زمین کھود کر روپیہ اور نوٹ جو تین سو کے قریب تھا۔ حوالہ پولیس کیا اب ہر ایک جاچ چاہے فلاں خان صاحب

جو مرزائی تھے چوری کی علت میں پکڑے گئے۔

۱..... ارے یہاں اس نے تو تھوڑے دنوں سے غدر چا کر کھا تھا ایک باسٹلی کی دوکان سے بٹنوں کے بکس اٹھا کر ایک دوسرے شخص کے ہاتھ فروخت کر دیے پھر وہ پہچانے گئے مگر اس بیچارہ نے لحاظ کیا اور خاموش رہا۔

۲..... ریاست جموں میں ایک دوست سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور اس کی ایک گھڑی اور دس روپے کا نوٹ اڑا لیا۔ وہ بھی بیچارہ چپ ہو گیا۔

۳..... پرسوں رات کا ذکر تو تم نے سنا ہی نہیں۔ ایک خانساں صاحب سے ان کی بڑی گاڑھی دوستی ہو رات کو گیارہ بجے مرزائی پارٹی کی چاء پارٹی سے جب ان کو فرصت ملتی تو یہ وہاں پہنچنے اور ایک ایک دو بجے رات تک شطرنج بازی ہوتی تھی۔ بعض رات حضرت وہاں ہی آرام فرما جاتے تھے اور چند روز سے تو گویا یہ مقرر ہی کر لیا تھا کہ اب کون جائے پرسوں رات شطرنج سے فارغ ہو کر چار پائی بچھا دونوں صاحب دراز ہو گئے۔

خان صاحب..... کچھ دیر تا مل اور استراحت کے بعد اٹھے اور اپنے حریف شاطر کو غافل ہوتا پا کر کنجیوں کو نکیہ کے نیچے تلاش کیا اور ان کو بہم پہنچا اور دروازہ کا قفل کھلو کر اندر داخل ہوئے اور صندوق کا قفل کھول اور نوٹ اور نقد جو نو سو روپے سے کچھ زیادہ تھا اور زیور طلائی اور نقرئی پر قبضہ کیا۔

خانساں..... رجو کی مان تم کہاں تمہارے بعد ہم کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا بچوں کی مٹی خراب ہوئی۔

عورت..... (ایک طمانچہ رسید کر کے) تو غافل ہوتا ہے اور صندوق کی صفائی بھی ہو گئی کل کو میرے بچوں کو کھلائے گا کیا نوکری بھی چھوڑ دی۔

خانساں..... (طمانچہ کی ضرب محسوس کر کے) گھبرا کر اٹھے اور خود دروازہ کی طرف دیکھا کھلا پایا۔ کنجیوں کی جگہ ہاتھ مارا اندر آئے آنگھ کھلی تو چاندنا تھا۔ تب خان صاحب کی چار پائی بھی خالی پائی۔ کبھے حریف کام کر گیا۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو خان صاحب ابھی گئے نہیں موجود ہیں۔

خان صاحب..... (پاؤں پر گر کر) بھائی صاحب مجھ سے خطا ہو گئی بخش دو۔ ضرورت نے بے ایمان کر دیا توٹوں کا لغافہ اور روپیہ اور زیور کی پوٹلی آگے رکھ دی۔

خانساں..... ارے ظالم تو دو ڈیڑھ روپے روز کا کاری گر ہے۔ دو میاں بیوی کا خرچ عمدہ سے عمدہ ۴ میں نہیں اٹھ آنے میں کھانے کا انصرام ہو سکتا ہے۔ تجھ کو ایسی کیا ضرورت داعی ہوئی۔ جو اس جرم کا مرتکب ہو۔ میرا تو صفایا کر دیا تھا۔ صبح کے کھانے کو ہی نہیں چھوڑا تھا۔ خواب میں رجو کی ماں

(خدا اس کو بخشے) نے مجھ کو خبر کی اور چکا گیا جو آنکھ کھل گئی۔

خان صاحب..... بھائی جی جب سے میں مرزا صاحب سے بیعت ہو امیر اخراج بڑھ گیا اور آمدن کم ہو گئی۔

خانساں..... یہ کیونکر الٹا معاملہ ان کی بیعت کی یمن و برکت سے فراخی رزق ہوتی نہ کہ عکس۔  
خان..... حضرت میری جماعت کے قریباً کل آدمی صبح و شام میرے مکان پر کرم فرماتے ہیں ان کی خاطر داری چاء پان تبا کو میں دو روپیہ صرف ہو جاتے ہیں اور روز روز کا چندہ آج شامیانہ مسجد خادماں کے واسطے ۱۵۰ اکٹھے ہوئے۔ کل حافظ غلام رسول کے واسطے ۵۰ جمع کر کے دیے گئے ہیں۔ کہ ان کو مقدمہ کی اپیل کرنا ہے کہیں بیت الدعاء کے کہیں توسیع مکان کے واسطے چندہ جمع ہو رہا ہے اور ماہواری لنگر اور مدرسہ وغیرہ کا معمولی چندہ مستزاد اور جب سے ہماری جماعت میں مقدمہ بازی کا بیخہ جاری ہوا ہے تب سے تو چندہ کی بھر مار نے مار ہی دیا۔ اب میری عزت اور آبرو اور جان آپ کے رحم کے حوالہ ہے۔

خانساں..... نوٹ اور روپیہ اور زیور سنبھال کر اور قابو کر کے چلو اٹھو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا مگر احتیاط رکھو۔

خان..... بھائی جی تم مجھ کو ابتداء سے جانتے ہو میری آپ کی قدیمی ملاقات۔ میں بد معاش نہیں چور نہیں مگر ضرورت نے مجبور کیا۔

آنکہ شیراں را کند رو بہ مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج

خانساں..... پھر وہی میاں تو دو روپیہ روز کا کارنگر ہے تیری دوکان بھی اچھی چلتی تھی اب کیا ہو گیا۔  
خان..... یہ آپ کا قیاس درست ہے مگر دوکان پر بیٹھوں تو پینک دو روپے سے کم پیدا نہیں کر سکتا۔

خانساں..... (ہنس کر) کیا یہ بھی مرزا صاحب کی بیعت میں شرط ہے کہ اپنا کاروبار نہ کرو اور عند الضرورت لوگوں کا مال مارو۔

خان..... نہیں یہ تو نہیں مگر بات یہ ہے کہ چند مدت ابتداء ابتدا میں نیا چاہو تھا نماز وغیرہ سے فرصت ملی تو وعظ میں چلے گئے یہاں روز وعظ ہوا کرتے تھے اور وعظ میں بیان ہوتا اس مسئلہ کا بیان فلاں کتاب میں ہے انہیں دیکھو اور اس مسئلہ کو اس کتاب میں دیکھو۔ مکان پر آ کر تمام دن کتاب بنی اور مطالعہ میں گزارتا جو بات سمجھ میں نہ آتی اور اکثر ایسا ہوتا۔ اس کے سمجھنے کو کبھی کسی کے پاس جا اور کسی کے پاس جا جب کسی سے تسلی نہ ہوتی تو مولوی صاحب کے پاس جا کر سمجھتے۔ غرض یونہی

رات دن شوق اور چاؤ میں گزر جاتا۔ آخر جب روز کا چام پانی اور اپنا ذاتی خرچ بدستور ہا تو آمد بند ہوگی کچھ عرصہ جو دوکان کا سرمایہ تھا فروخت کر کے کھایا۔ پھر القرض نصف روزگار، پر عمل کیا اب قرض کا دروازہ بھی مسدود ہو گیا۔ دوکان پر بیٹھیں تو کچھ مزدوری کریں دو پیسہ کمائیں۔ مگر دوکان پر قرض خواہ پاؤں نہیں جھبے دیتے اب کیا کریں ضرورت نے اس پر مجبور کیا۔

بازار میں اپنی اپنی حکایتیں اور تازہ روایتیں بیان ہوتی تھیں آخر پولیس نے تحقیقات کے بعد مقدمہ چالان کیا۔

صاحب مجسٹریٹ نے استغاثہ کی شہادت لے کر ملازم پر فر دہ قرار داد جرم لگا کر اٹھا رکھا۔ ملازم..... بے شک مجھ سے قصور ہوا مجھ کو ضرورت نے مجبور کیا۔ قرض مجھ کو کہیں سے نہ ملتا تھا۔ مستغیث میرا دوست تھا۔ اس نے میرے روپرو پیہ نوٹ مستغیث یافتہ ایک بکس میں بند کر کے الماری پر رکھا۔ میرا دل بے ایمان ہو گیا۔ رات کو مستغیث کی دوکان پر جا دروازہ کی چٹختی اکھاڑ الماری کا قفل کھولا اور بکس اٹھا لیا۔ اب عدالت کے رحم کا خواستگار ہوں۔

صاحب مجسٹریٹ بہا اور..... نہایت رحم دل آدمی ہیں ملازم کی صاف بیانی پر رحم فرما کر تادیباً ایک ماہ کی قید کی ملازم ضلع کے جیل خانہ میں بھیجا گیا۔

داروغہ جیل نے بھی چند معزز اصحاب کی سعی سفارش سے جس کام کا ملازم دستکار تھا اسی کام کی مرمت کے کام پر لگا دیا۔

## باب ۵۵ پنجاہ و پنجم

لاہور میں پیر مہر علی شاہ گولڑوی کی آمد

بچن اک دم نہ دیا جرخ نے گردش سے ہمیں

پاؤں تھک جائیں تو سر رہتا ہے اکثر پھرتا

لاہور کے موچی دروازہ محض ہال انجمن اسلامیہ میں بزم جمع ہے۔ کمال رونق ہے۔

میلہ کا سا اہتمام ہے۔ بڑے بڑے علماء اور فضلاء با کمال اور نامی گرامی صوفیاء با صفا صاحب حال باہر کے اور شہر کے وہاں موجود ہیں۔ اور رؤساء اور عمدہ شہر کا پراجما ہوا اس طرف کو جا رہا ہے عوام کا تو ذکر ہی نہیں۔

..... کہو بھائی آج کوئی جلسہ ہے یا کوئی لیکچرار آیا ہے۔

۲..... نہیں کوئی لیکچرار وغیرہ تو نہیں آیا۔ مگر کیا تم کو خبر نہیں۔ یہ بات زبان زد عام ہے اس امر میں تو مدت سے اشتہار بازی ہو رہی ہے۔ لاہور کے گلی کوچے میں اشتہار لگا ہوا ہے۔ حضرت پیر مرہ علی شاہ صاحب اور مرزا صاحب کی بحث ہوگی۔

پہلا شخص..... ہاں رات منادی تو میں نے بھی سنی تھی کہ شاہی جامع مسجد میں جلسہ ہوگا اور وہاں سب لوگ جمع ہوں گے مگر یہ لوگ محمد ن ہال کی طرف کیوں دوڑے جا رہے ہیں۔

۳..... ہاں جلسہ تو وہیں ہوگا۔ مگر حضرت پیر صاحب یہاں قیام پذیر ہیں۔ اور یہ علماء عظام اور صوفیائے کرام کچھ تو حضرت پیر صاحب کے ہمراہ آئے ہیں۔

پہلا شخص..... اچھا تو پیر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اور مرزا صاحب کہاں ٹھہرے ہیں۔

۲..... مرزا صاحب تو ابھی آئے نہیں اور نہ آئیں ان کا تو ہمیشہ یہی قاعدہ ہے اشتہار شائع کیا اور موقع پر کوئی بات رکھ کر طرح دی جاتی ہے۔ پہلے کیا مولانا مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بنالوی کے ساتھ یہاں اور لدھیانہ اور دہلی میں معاملہ نہیں ہوا کہیں تو مرزا صاحب نے بالتقابل گفتگو کی نہیں۔

۱..... پھر کیوں یہ اشتہار مشتہر کر دیتے ہیں کیا بیچھ ان کو ندامت نہیں اٹھانی پڑتی۔ یا بہ اس شورا شوری یا یہ بے نمکی۔

۲..... میاں ان کا الوسیدھا ہو جاتا ہے۔ ان کی غرض فقط شہرت سے ہے وہ خوب ہو جاتی ہے۔ پھر لطف یہ کہ دوسروں کے رویوں سے۔ اس (اشتہار ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۳۳۳) میں بھی تو مرزا صاحب نے حضرت پیر صاحب کو لکھا کہ پانچ ہزار کا پی اس مباحثہ کو چھپوا کر و دراز ملکوں میں شائع کراویں۔ کیا آپ نے وہ اشتہار نہیں دیکھا۔

۱..... ہاں خوب یاد آیا۔ لکھا تو ضرور تھا بڑی دور کی سوچتی ہے۔

۲..... اگر اتنی دور کی نہ سوچتی تو نبوت کا دعویٰ کیونکر ہوتا۔ یہ ہزار ہا روپیہ مسلمانوں کا کیونکر کھایا جاتا۔ یہ لنگر طبع کہاں سے جاری ہوتا ہے۔ یہ بڑھا پے اور ناتوانی میں باقی عورتوں کی تلاش اور ان کے واسطے ہزاروں روپے کے طلائی اور مرصع زیور کیسے بنتے۔ یہ لنگڑے لو لے اندھے کانے خوشامدی دروازہ پر بیٹھ کر کنگڑے کہاں سے توڑتے۔ حضرت یہ سب اسی دور کی سوچنے کا نتیجہ ہے۔

۱..... پینک جب سے صاحب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بہادر ضلع گورداسپور کے روپرود مرزا صاحب سے ایک اقرار نامہ لکھایا گیا تب سے اس کو کرنا پڑا جس سے ان کی دوکانداری پھینکی پڑ گئی تھی اتنے دن اس اقرار نامے نے چپ رکھا ورنہ چپ رہنے والی آسامی تو تھتے نہیں۔

صیاد تیرے خوف سے ہوں چپ و گرنہ یاں  
میں اور چین دیوے گھڑی بھر فغاں مجھے

۲..... مرزا صاحب آدمی عقل مند ہے بڑے بڑے ہی آدمیوں سے ڈھ بھینٹ کرتا ہے جب علماء سے منہ کی کہا چکا ہے تو صوفیوں کی طرف رجوع ہوا ہے۔ حضرت پیر صاحب کو مخاطب کیا ہے۔ ہمیں تو امید نہیں کہ وہ لاہور تک بھی آئیں۔ مناظرہ اور مباحثہ تو شے دیگر ہے۔

۱..... سکوت میں سارا کارخانہ درہم برہم ہونے لگا تھا۔ اگر کسی سے چھیڑ چھاڑ نہ ہو تو مطیع بیکار، اشاعت بند۔ تبلیغ کا سلسلہ مسدود آگے کی ترقی محدود کیا پچھلے ہی ٹھنڈے ہو کر کچھ بیدم اور کچھ فقر و ہو جائیں۔ غرض کہ شہرت کا کیا کل وسائل کل صیغوں کا مدار اسی چھیڑ چھاڑ پر ہے۔ کسی کو موت کا الہام دے کر ڈرایا۔ کسی کو عزت کے زوال سے دھمکایا۔ اب اقرار کرے اور دستخط کرنے سے یہ صیغے تو سب بند ہوئے نہ کسی کی نسبت موت نہ زوال عزت کا الہام کرتے ہیں مباحثہ میں زبان روک دی گئی۔ اس واسطے حسب صواب دید یاران محرم و شیران خوش فہم صوفیوں کی طرف توجہ فرمائی۔

ایک ہنگامہ پر موقوف ہے گھر کی رونق  
نغمہ شادی نہ سہی نوحہ ماتم ہی سہی

۲..... اس کو یہ خبر تھوڑی تھی کہ پیر صاحب لاہور میں آہی جائیں گے وہ تو یہ سمجھتا ہوگا صوفیاء کرام کا مسلک مرنج و مرنجان ہوتا ہے اس کو بحث و مباحثہ اور مناظرہ سے کیا تعلق اس کے اشغال و افکار ان کو اس بات کی فرصت ہی کب دیتے اور نہ وہ ان باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ ذکر الہی پر مباحثہ کو کیوں ترجیح دینے لگے۔ ان باتوں کی طرف ان (پیر صاحب) کو توجہ ہی نہ ہوئی۔ ہماری بات بن جائے گی۔ آؤ دیکھا یہی دعوت دے بیٹھا۔

۱..... یہ تو یقین ہے کہ وہ مقابلہ میں نہیں آئے گا اور ضرور نہیں آئے گا۔ مگر بعد کو دیکھنا کیسے اشتہارات اور تاویل میں ہوتی ہیں۔ وہ چند صاحب گفتگو کر رہے ہیں۔ آہا یہ تو حافظ صاحب اور مفتی صاحب میں گفتگو ہو رہی۔ چلو پاس چل کر سنیں یہی معاملہ ہوگا۔ اور یہ تیسرے صاحب مولوی محمد حسن ہیں۔

حافظ صاحب..... ۵ جنوری ۱۸۹۹ء کو مرزا صاحب ایک مقدمہ فوج داری ہیں زیر دفعہ ۱۰۷ ضابطہ فوجداری بعدالت صاحب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع گورداسپور بحیثیت طرم حاضر تھا اور اخیر تاریخ فیصلہ پر اس کو ایک مفصل اقرار نامہ بوجہ برأت لکھنا پڑا جس کی تین شرطیں حسب ذیل ہیں۔  
۱..... وہ ایسی پیشگوئی کرنے سے پرہیز کرے گا جس کے معنی یہ خیال کیے جا سکیں کہ کسی

مخلص کو ذلت پہنچے گی یا وہ مورد عتاب الہی ہوگا۔

۲..... وہ خدا کے پاس اجیل کرنے سے اجتناب کرے گا کہ وہ کسی مخلص کے ذلیل کرنے سے یا ایسے نشان کرنے سے کہ مورد عتاب الہی سے یا یہ ظاہر کرے کہ مذہبی مباحثہ میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔

۳..... کسی چیز کو الہام جتنا کر شائع کرنے سے مجتنب رہے گا۔ جس کا یہ منشاء ہو یا ایسے منشاء رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلاں مخلص ذلت اٹھائے گا یا مورد عتاب الہی ہوگا۔ اس اقرار کے بعد کچھ دن مرزا صاحب چپ رہے۔ مگر جب آمدنی میں فتور اور الہامی یا فتوں میں قصور واقع اور مستقدان میں انتشار پیدا ہوا۔ پرانے رفیق فشی الہی بخش صاحب ملہم اور فشی عبدالحق صاحب اکاؤنٹینٹ حافظ محمد یوسف صاحب ضلع دار راؤ ڈپٹی علی شاہ صاحب وغیرہ وغیرہ بیروہ معاون علیحدہ ہونے لگے تو پھر مرزا صاحب کو ضرورت لفس نے مجبور کیا کہ پھر وہی پرانی طرز اور رفتار اختیار کریں۔

تب اشتہار منارۃ المسیح معراج یوسف معیار الاخیار کھلائی مگر اس سے بھی مطلب برآری نہ ہوئی تو سوچ سوچ کر حضرت پیر مہر علی شاہ سجادہ نشین گولڑہ شریف ۸۶ و (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۳۷-۲۳۸) علماء کرام و صوفیائے عظام کو بالخصوص اور باقی عام علماء و صوفیا پنجاب و ہند کو مباحثہ کے لیے مقام لاہور بمقابلہ خود دعوت وی اور ان الہامات سے کام لیا جس کی عدم شیوع کی نسبت وہ اقرار نامہ مذکور الصدر میں اقرار کر چکے تھے اور یہ چاہا کہ پیر صاحب موصوف میرے مقابلہ میں مباحثہ تحریری و تقریری (تفسیر القرآن) کریں اور اپنے الہام ہائے متعددہ سے بتایا کہ پیر صاحب ایسا مباحثہ کرنے سے بالکل ناکام رہیں گے بلکہ یہاں تک کہ وہ اس مباحثہ کے واسطے لاہور تک نہیں آئیں گے اور اگر وہ ایسا کریں گے تو میرا غالب ہونا تصور ہوگا۔ چنانچہ لکھا ہے: "میں مکرر لکھتا ہوں کہ میرا غالب ہونا اس صورت میں تصور ہوگا۔ کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب بجز ایک ذلیل اور قابل شرم اور ریک عبارت اور لٹو تحریر کے کچھ بھی نہ لکھ سکیں اور ایسی تحریر کریں جس پر اہل علم تھوکیں۔ اور نفرس کریں۔ کیونکہ میں نے خدا سے یہی دعا کی ہے کہ وہ ایسا کرے اور میں جانتا ہوں وہ ایسا ہی کرے گا اور اگر پیر مہر علی شاہ صاحب بھی اپنے تئیں مومن و مستجاب الدعوات جانتے ہیں تو وہ بھی ایسی ہی دعا کریں۔ اور یاد رہے کہ خدا تعالیٰ اس کی دعا ہرگز قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ خدا کے مامور و مرسل کے دشمن ہیں۔ اس لیے آسمان پر ان کی عزت نہیں۔"

مولوی صاحب..... مرزا نے یہ اشتہار دے دیا۔ اس کو یہ امید تو ہرگز نہیں تھی کہ پیر صاحب اپنا عزیز



وقت ایسے جھگڑوں میں ضائع کرنے کے واسطے میرے مقابلہ میں مباحثہ کو آجائیں گے مگر وقت یہ ہوئی کہ حضرت پیر صاحب بہ نظر اس کے مرزا کو عوام الناس میں جھوٹی شخی بکھارنے کا موقع نہ ملے بمقابلہ اشتہار کے ذریعہ سے بوجہ ہمدردی مباحثہ کے لیے آمادہ ہو گئے اور حسب درخواست ان کی ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء تاریخ مقرر کر کے لاہور تشریف لے آئے۔ مرزا صاحب ہیں کہ بظہنیں جھانکتے ہیں اور کہتے ہیں۔

یہ کیا ہو گیا میں نے جانا تھا کیا  
خود کردہ را علاجے نیست  
سب پکار پکار کر کہتے ہیں۔ ہائے افسوس ہائے ناکامی۔  
ہر کس از دست غیر نالہ کند  
سعدی از دست خویشمن فریاد  
اور بیت الفکر سے باہر قدم نہیں نکالتے۔

حافظ صاحب..... مرزا صاحب اصلی منشاء تو شہرت اور تشہیر کا تھا۔

ہم طالب شہرت ہیں ہمیں تنگ سے کیا کام  
بدنام بھی گر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا

یہ مطلب تو ہنسنڈہ سے اچھی طرح حاصل ہو چکا باقی رہا واقعی مقابلہ سوا اس کا جائگداز خیال مرزا کو لاہور، دہلی، لدھیانہ وغیرہ مقامات کا وہ پرانا اور پرورد نظارہ کا سماں جس میں اس کی محنت اور بے عزتی میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا۔ دکھائی دیتا تھا اس لیے لاہور تک آنا گوارا نہ کیا۔

(روئید اول جلسہ اسلامیہ ص ۲)

مفتی صاحب..... (نہایت جوش کے لہجہ میں) پیر مرہ علی شاہ میں اتنی لیاقت تو ہے نہیں کہ عربی میں تفسیر لکھیں یا معارف بیان کریں۔ اور نہ اتنا بھروسہ خدا پر ہے کہ خدا اس کی دعا قبول کرے۔ جیسا کہ ان کے مریدوں نے اشتہار دیا ہے۔ اس واسطے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم تفسیر میں مقابلہ منظور کر لیں گے تو خواہ مخواہ بے عزتی ہوگی اور اگر نہ مانیں گے تو مرید بھاگنے شروع ہو جائیں گے۔ اس واسطے چارو ناچار ایسی بات نکالو جس سے معاملہ ختم ہو جائے اور مقابلہ بھی نہ ہو پس انہوں نے کہا کہ ہم کو سب شرطیں منظور ہیں مگر ایک شرط ہماری بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ تفسیر سے پہلے ایک تقریر مباحثہ ہو جس کا حکیم مولوی محمد حسین صاحب اور مولوی صاحب دیگر ہمارے حق میں فیصلہ کریں تو مرزا صاحب ہمارے ساتھ بیعت کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ (رسالہ واقعات محمد صلحہ ص ۲۳، ۲۴)

حافظ صاحب..... یہ بالکل غلط ہے مرزا صاحب نے ایک مہبوطہ چٹھی بصورت اشتہار مطبوعہ ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء بذریعہ رجسٹری حضرت میں حضرت پیر صاحب بشمولیت نام دیگر علمائے کرام و مشائخ عظام زید ہم اللہ تعالیٰ اکثر ہم کے بھیجی جس کے پہلے دو صفحوں پر مرزا نے اپنی عادت کے موافق اپنے مرسل، مامور من اللہ اور مجدد اور مہدی و مسیح ہونے کے ثبوت میں بخیاں مخلوط خود دلائل پیش کیے۔ اور عالی جناب حضرت پیر صاحب موصوف اور دیگر علماء و فضلاء اسلام کو لکھا کہ میرے دعویٰ کی تردید میں کوئی دلیل اگر آپ کے پاس ہے تو کیوں پیش نہیں کرتے ہو۔ اس وقت مفاسد بڑھ گئے ہیں اس لیے مجھے صلح کے عہدہ میں بھیجا گیا ہے۔ اخیر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ: ”اگر پیر صاحب ضد سے باز نہیں آتے یعنی وہ میری دعویٰ کی تردید میں کوئی دلیل پیش کرتے ہیں اور نہ مجھے صلح وغیرہ مانتے ہیں تو اس ضدیت کے رفع کرنے کے واسطے ایک طریق فیصلہ کی طرف دعوت کرتا ہوں اور وہ طریق یہ ہے کہ پیر صاحب مقابلہ پر دار السلطنت پنجاب (لاہور) میں چالیس آیات قرآنی کی تفسیر لکھیں۔ اور ان چالیس آیات قرآنی کا انتخاب بذریعہ قرعہ اندازی کے کر لیا جائے۔ یہ تفسیر فصیح عربی میں سات گھنٹوں کے اندر تیس ورقوں میں لکھی جائے اور میں (مرزا) انہی شرائط سے چالیس آیات کی تفسیر لکھوں گا۔ ہر دو تفسیریں تین ایسے علماء کی خدمت میں فیصلہ کے لیے پیش کر جائیں جو فریقین سے ارادت اور عقیدت کا ربط نہ رکھتے ہوں۔ ان علماء سے فیصلہ سنانے سے پہلے وہ مغلظ حلف لیا جائے جو قذف محسنات کے بارہ میں مذکور ہے۔ اس حلف کے بعد جو فیصلہ ہر سہ علماء فریقین کی تفسیروں کی بابت صادر فرمادیں۔ وہ فریقین کو منظور ہوگا۔ ان ہر سہ علماء کو جو حکم تجویز ہوں گے فریقین کی تفسیروں کے متعلق فیصلہ کرنا ہوگا کہ قرآن کریم کے معارف اور نکات کس کی تفسیر میں صحیح اور زیادہ ہیں اور عربی عبارت کس کی با محاورہ اور فصیح ہے۔“ یہ چٹھی ۱۲ صفحہ کی تھی۔ مگر اس کی دلخراش گالیاں ناجائز تا شروع اور بے ہودہ بدظنون کو حذف کر دیا جائے تو اس کا تمام ما حاصل اور خلاصہ صرف یہی ہے جو اوپر لکھا گیا۔ باہنہ کہ حضرت فخر الاصفاہ والعلماء کو اپنے مشاغل للہی سے عدیم الفرستی کی وجہ سے ان بھگڑوں سے کچھ تعلق نہیں تھا لیکن ایسے نازک وقت میں کہ اسلام کو ایک خطرناک مصیبت کا سامنا تھا۔ مرزا کے مقابلہ میں آنے کو اپنی عزت نشینی پر ترجیح دی اور حسب درخواست مرزا جو اب قبولیت دعوت بصورت اشتہار بتاریخ ۲۸ اگست ۱۹۰۰ء ارسال فرمایا اور لکھ دیا کہ وہ خود ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء کو (اس لیے کہ مرزا نے اختیار تقرر تاریخ حضرت پیر صاحب کو دیا تھا) لاہور آ جائیں گے آپ بھی تاریخ مقررہ پر تشریف لے آئیں۔ چونکہ مرزا نے (۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۳۲۶) کی چٹھی میں اس طریق

فیصلہ کی دعوت کرنے سے پہلے اپنے دعوے پر اور کئی استدلال پیش کیے تھے۔ چنانچہ آپ نے لکھا ہے کہ: ”کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کبھی اور نہ کسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم عضری کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے تھے یا کسی آخری زمانے میں جسم عضری کے ساتھ نازل ہوں گے۔ اگر لکھا ہے تو ایسی حدیث پیش نہیں کرتے نا حق نزول کے لفظ کے اٹلے معنی کرتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلة القدر اور ذکر رسول کا راز نہیں سمجھتے میری مسیحیت اور مہدویت کا نشان رمضان میں کسوف خسوف کا ہونا دیکھ چکے ہیں پھر نہیں مانتے صدی سے مترہ سال گزر گئے ہیں پھر مجھے مہد نہیں جانتے۔“ یہ تمام استدلالات مرزا نے اس طریق فیصلہ کی طرف دعوت کرنے سے پہلے اس چٹھی میں تحریر کیے اور صرف ایک طریق فیصلہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ہر دو باتیں علی الترتیب پیش کی تھیں۔ اس سے حضرت ممدوح نے بھی ہر دو طریق فیصلہ کو علی الترتیب تسلیم کیا اور پسند فرمایا کہ مرزا بھی اس کی استدلالات جو اپنی چٹھی تحریری میں فیصلہ سے پہلے پیش کیے ہیں۔ سن لیے جائیں اور مسیح علیہ السلام کا جسم عضری کے ساتھ آسمان پر جانے کی بابت حدیث بلکہ قرآن کریم کے نص صریح سے ثابت نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ حدیث کی جستجو کی جائے یا کیا سمجھ میں نہیں آتا۔ نزول کے معنی جو اب تک تیرہ سو سال سے مجتہدین و محدثین بلکہ صحابہ کرام اور اہل بیت نے نہیں سمجھے وہ کیا ہوں گے اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ رمضان میں کسوف و خسوف جن تاریخوں میں ہوا ہے وہ کیونکر آپ کی مسیحیت کا نشان ہے احقاق حق کی غرض سے حضرت تالہمدوح مرزا کی اپنی زبانی سننا ضروری خیال کرتے تھے کہ تحریری فیصلہ کی طرف رجوع کریں اور مرزا کی قراردادہ شرائط کے موافق تفسیر لکھی جائے۔

مفتی صاحب..... پیر صاحب کے جواب کا ضمیمہ جو اس کے ساتھ ہی ایک اشتہار میں مولوی غازی صاحب کی طرف سے شائع ہوا اس کا ایک ایک لفظ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب ہرگز تفسیر قرآن میں مرزا صاحب کے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں چاہتے ہیں اور صرف انہوں نے ٹالنے کا ایک طریق اختیار کیا ہے ہم اشتہار کی چند عبارتیں نقل کر دیتے ہیں پبلک خود اندازہ کر لے کہ ایسا اشتہار دینے میں پیر صاحب اور ان کے مریدوں کی کیا نیت ہے۔

..... صفحہ ۶ بھلا یہ تو فرما دیجیے کہ اس قدر کثیر جماعت علماء کی جمع ہو کر کیا کرے گی۔ صبح سے شام تک بے بودا نہ بیٹھ کر منہ دیکھتے رہیں گے کہ کس کے قلم کا زور چلتا ہے اور کون سی دلچسپی ہے اور کون سا اہم علم ہے جس کی شہادت کے واسطے آپ اس قدر علماء کو بصورت حاضری پیر صاحب طلب کرتے ہیں۔

۲..... صفحہ ۱۴ مگر شرط یہ ہے کہ قبل از بحث تحریری مذکورہ مجوزہ مرزا صاحب ایک بحث تحریری دعویٰ مسیحیت و مہدویت وغیرہ عقائد مرزا صاحب پر جو تعداد میں ۱۳ کے قریب ہیں اور ان کی الہامی کتب میں درج ہیں پابندی امور ذیل ہو جائے۔

الف..... تقین اور تقرر حضرت پیر صاحب کا منصب ہوگا۔

ب..... بحث تحریری بحث تحریری سے اول ہوگی۔ اگر ایک روز میں ختم نہ ہوگی تو دوسرے اور تیسرے روز تک جاری رہے گی۔

ج..... جو شخص بحث میں مغلوب ہوگا اس کو بیعت کرنا فوراً لازمی ہوگا۔

د..... چونکہ احتمال ہے کہ ایک شخص مغلوب بھی ہو جائے اور پھر بھی توبہ نہ کرے اس لیے فریقین ایک ایک مسخرہ نامت ۵۰۰۰، ۵۰۰۰ کی دیدیں۔

۵..... مرزا صاحب یہ بھی لکھ دیں کہ اس بحث کے وقت یا دوران بحث میں اگر کوئی الہام اس قسم کا ان کو ہو جائے جو مبدل یا ناسخ شرائط مباحثہ ہو۔ مرزا صاحب مباحثہ کو حسب شرائط مقررہ حال بند نہ کریں گے اور الہام، تازہ خط، پیام وغیرہ پر کار بند نہ ہوں۔ اگر مرزا صاحب اب بھی تشریف نہ لائے اور اس مباحثہ سے منہ پھیر کر ان میں کوئی حیلہ جت کریں یا اب شرائط میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا کر دیں گے۔ جس سے اس معاملہ کا غیر وقوع اغلب ہو جائے تو پھر سمجھا جائے گا۔ اور اس کا نتیجہ فطری طور پر یہ ہوگا کہ مرزا صاحب کی الٰہی طاقت (وہی خدائے عامی والی) مغلوب ہوگی۔ (تم کلامہ)

(واقعات مجھ میں ۲۹۵۲۷)

حافظ صاحب..... اس عرصہ میں آج تک مرزا کی طرف سے کوئی جواب نہ نکلا:

یہ چپ ہوا ہے کہ گویا نہیں زبان منہ میں وہ اس کا جواب دے کر فیصلہ کرنا البتہ ان کے بعض حواریوں کی طرف سے استہارات نکلے اور شائع ہوئے کہ تحریری مباحثہ کی کوئی شرط نہیں ہے۔

مولوی صاحب..... مرزا کو اپنی شہرت کی خواہش ہے وہ جانتا تھا کہ صوفیائے کرام کا طریق مرتجان و مرغ ہوتا ہے یہ لوگ گوشہ تنہائی میں عمر بسر کرنا غنیمت سمجھتے ہیں کسی کی دل شکنی انہیں منظور نہیں ہوتی۔

پھر حضرت صاحب مدوح کے دینی مشاغل اور مصروفیت سے بھی یہی قیاس ہو سکتا تھا کہ آپ عزت نشینی کو ہر طرح ترجیح دیں گے اور اس طریق فیصلہ کو جو درحقیقت مرزا کی دعاوی کی تصدیق کا

فیصلہ نہیں۔ یہ شرط ٹیڑھی کھیر ہے اس پر تو ہم بھی صاد کرتے ہیں۔ یہ شرط صاف لفظوں میں گویا مرزا صاحب کو قطعی طور پر پکار پکار کر منع کیا جاتا ہے کہ میدان مناظرہ میں بھول کر بھی قدم نہ رکھنا تھا۔

وہ بات تو کہتا ہے جو آتی نہیں مجھ کو

پسند نہیں فرمائیں گے، جو ظاہر بیوں کی نظر میں مرزا کی فتیالی کا نشان ہوگا۔ نیز دوسرے علماء کرام کے ساتھ تحریری معارضہ کو چالیس والی شرط کے ساتھ کاغذاً بھی راز رکھتا ہے کوئی بتلا سکتا ہے کہ مرزا چالیس سے کم علماء کے ساتھ کیوں اب تحریر سے مباحثہ نہیں کرتا اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کو جھوٹی شہنی اور بیہودہ تعلقی دکھانی مطلوب ہے ورنہ اگر صرف تصدیق دعویٰ اور ہدایت علماء مقصود ہوتی تو اس خاکسار نے جو ۱۱۳ اگست ۱۹۰۰ء کو سراج الاخبار جہلم میں بہ تسلیم جملہ شرائط مرزا کو میدان مباحثہ میں بلایا تھا اور بعد ازاں خط بھی ارسال کیا تھا۔ اور صاف لکھا تھا کہ مجھے بلا کم و کاست آپ کی جملہ شرائط منظور ہیں۔ آئیے جس صورت پر چاہا ہو مقابلہ کر لیجیے۔ اس کے جواب میں مرزا جی ایسے دم بخود ہوئے کہ اب تک کروٹ نہیں بدلی۔ وہ مضمون بھی اڑا دیا اور وہ خط بھی غائب کر دیا۔

معنی صاحب..... پیر صاحب اور ان کے مولوی غازی صاحب اس اشتہار مطبوعہ ۲۵ جولائی ۱۹۰۰ء کے جواب میں حضرت مولوی سید محمد حسن صاحب امر دہوی نے ایک اشتہار قادیان سے ۱۳ اگست ۱۹۰۰ء کو نکالا۔ جس میں سید صاحب موصوف نے پیر صاحب اور غازی صاحب ہردو کی تمام باتوں کے مفصل جوابات نہایت عمدگی سے دیئے۔ اور پھر اتمام حجت کے لیے یہ بھی لکھ دیا کہ اگر پیر صاحب سید مٹی طرح حضرت امامنا کی مقابلہ پر تفسیر لکھنا نہیں چاہتے اور تفسیر القرآن میں مقابلہ کوٹا۔ لے کے واسطے ضرور مباحثہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو مباحثہ کے واسطے میں حاضر ہوں اور ساتھ ہی محمد حسن صاحب نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ اگر وہی تین مولوی جو ہمارے مخالف اور پیر صاحب کے موافق ہیں اس وقت مجوزہ قسم کھا کر یہ شائع کریں کہ پیر صاحب گولڑوی نے رعب میں آکر مقابلہ تفسیر کوٹا لے کے واسطے یہ تجویز نہیں کی۔ بلکہ انہوں نے نیک نیتی سے یہ کارروائی کی تھی۔ تب بھی ہم مان لیں۔ اس پر نہ تو مولوی محمد احسن صاحب کے ساتھ منظور کیا گیا اور نہ ان مولویوں میں بھی کسی کو قسم دلائی گئی۔

حافظ صاحب..... ان تحریروں کو اس لیے بے معنی خیال کیا گیا کہ خود مرزا نے اپنے اشتہار مشترکہ ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء میں جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ ہردو امور کا فیصلہ علی الترتیب مطلوب ہے۔ اور پہلے ایک اشتہار میں مولوی محمد غازی صاحب نے مرزائی جماعت کو صاف طور پر مطلع کر دیا تھا کہ پیر صاحب موصوف اس صورت میں قلم اٹھائیں گے یا کوئی مباحثہ کریں گے جب کہ بالقابل مرزا خود میدان میں آئے یا کچھ تحریری بحث کرے۔ ورنہ نہیں پس حضرت پیر صاحب کی جوابی چٹھی مطبوعہ ۲۵ جولائی ۱۹۰۰ء خاص مرزا کے نام پر تھی بصورت انکلام مرزا کو بذات خود جواب دینا

چاہیے تھا۔ لیکن اس نے باوجود عرصہ مدت ایک ماہ کے کوئی انکار شائع نہیں کرایا۔ بلکہ اپنے طریق عمل سے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ اس امر پر راضی ہے۔ (یعنی خاموشی ہے)

مفتی صاحب..... پیر صاحب تو خاموش رہے لیکن راولپنڈی سے ان کے ایک مرید نے (حکیم سلطان محمود خاں) گند کا بھرا ہوا ایک اشتہار شائع کر دیا کہ مولوی محمد احسن کے ساتھ مباحثہ نہیں کرتے۔ خود مرزا صاحب کریں اور لوگوں کو دھوکا دینے کے واسطے اپنی طرف سے اخیر میں مصلحہ کے طور پر (حکیم سلطان محمود خاں صاحب نے) یہ بھی لکھ دیا کہ اگر مرزا صاحب نہیں مانتے۔ تو پیر صاحب کو ساری شرائط منظور ہیں۔ ہم نے بذریعہ اشتہار درخواست کی کہ جو کچھ آپ کا مرید کہہ بیٹھا ہے۔ آپ اپنی زبان مبارک سے فرمادیں کہ ہم کو سب شرائط مرزا صاحب کی بلا کم و بیش منظور ہیں مگر مجال کیا ہے کہ پیر صاحب ایسا کہتے بلکہ وہ دل ہی دل میں حکیم سلطان محمود پر خفا ہوتے ہوں گے کہ وہ بے مراد بغیر ہماری اجازت ایسا کہہ بیٹھا۔ اس کے بعد پیر صاحب لاہور میں آئے تو پیر صاحب کے مریدوں نے پھر وہی اشتہار مباحثہ کا دیا۔ از واقعات سمجھو۔

حافظ صاحب..... تمہاری زبان سے خود اقرار ہے کہ حکیم سلطان محمود نے اشتہار شائع کیا۔ اصل یہ ہے کہ میں نے خود ایک ضروری چٹھی رجسٹری شدہ مرزا کے سکوت پر چھاپ کر خاص مرزا کے نام بھیجی اور عام مشتہر کی۔ اس کا بھی کچھ جواب نہ آنے پر رجسٹری شدہ چٹھی نمبر ۴ چھاپ کر مرزا صاحب کو روانہ کی اور عام تقسیم کر دی اس کے جواب کا بھی انتظار ہی رہا۔ مگر مرزا کو کہاں ہوش و تاب کچھ جواب دیتا۔ تاہم اس کا رہا سہا عذر رفع کرنے کے لیے حکیم سلطان محمود صاحب ساکن حال منڈی نے (جس کی طرف سے پہلے اشتہارات شائع ہوئے تھے) ایک مطبوعہ اشتہار بذریعہ جوانی رجسٹری مرزا کے پاس روانہ کر دیا۔ جس کا آخری مضمون یہ تھا اگر مرزا کی علمی اور عملی کمزوریاں اس کو اپنی من گھڑت شرائط کے احاطہ سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ اور اسی صدی (اول اوں) ہماری ہی پیش کردہ شرائط تسلیم کرو۔ تو ہم بحث کریں گے ورنہ نہیں خیر یہ ہی سہی پیر صاحب تمہاری پیش کردہ شرطیں یعنیہ جس طرح تم نے پیش کی ہیں منظور کر کے تمہیں چیلنج کرتے ہیں۔ کہ تم مقررہ تاریخ یعنی ۲۵ اگست ۱۹۰۰ کو لاہور آ جاؤ علاوہ ازیں پیر صاحب نے مجھ کو ایماہ فرمایا۔ کہ ہماری طرف سے مرزا کی جملہ شرائط کی منظوری کا اعلان کر دو۔ چنانچہ بندہ نے حسب ایماہ پیر صاحب بذریعہ اشتہار ۲۴ اگست ۱۹۰۰ء مشتہر کر دیا کہ آج بروز جمعہ ۴ بجے شام کی ٹرین میں بیچہ ہمدردی اسلام پیر صاحب مرزا کی تمام شرائط منظور کر کے لاہور تشریف فرما ہوں گے اور محض ہال انجمن اسلامیہ واقع موچی دروازہ لاہور میں بغرض انتظار مرزا صاحب قیام فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ

اسی شام گاڑی میں معہ دو تین سوعلاء و مشائخ وغیرہ ہمراہیاں کے تشریف فرمائے لاہور ہوئے۔ حضرت ممدوح کی زیارت اور استقبال کے لیے اس شوق و ولولہ سے لوگ گئے کہ ایشین اور بادامی باغ پر شانہ سے شانہ چھلتا تھا۔ شوق دیدار سے لوگ دوڑتے اور ایک پر گرتے چلے جاتے تھے۔ حضرت ممدوح ایشین سے باہر ایک باغ میں چند منٹ استراحت فرما کر محمدن ہال موچی دروازہ میں مقیم ہوئے۔

لاہور کے علماء کرام جو آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے نیز اور بھی علماء اور مشائخ و معززین اسلام، پشاور، پنڈی، جہلم، سیالکوٹ، ملتان، ڈیرہ جات، گجرات، گوجرانوالہ، امرتسر وغیرہ وغیرہ قصابات سے بغرض شمولیت مجلس مناظرہ مصارف کثیرہ کے متحمل ہو کر آ پہنچے۔ مرزا کے لاہوری پیروں نے مرزا کے نام خطوط ضروری و تار روانہ کیے۔ بلکہ بعض گرم جوش چیلے نہایت مضطرب حالت میں قادیاں پہنچے۔ اور ہر چند اپنے پیر مرشد مرزا کو لاہور لانے کے لیے منت و ساجت کی۔ پاؤں پڑے۔ مگر دلی کمزوری نے ان (مرزا صاحب) کو اپنے ضدی پیروؤں کی طرف مائل نہ کیا اور بیت الفکر میں ہی داخل رہا۔

حضرت پیر صاحب ۲۳/ اگست ۱۹۰۰ء سے آج تک لاہور میں رونق افروز ہیں۔ اور مرزا کا ہر ایک ٹرین میں بڑے شوق سے اس وقت تک انتظار کیا جاتا ہے۔ مگر ادھر سے صدائے برنخواست کا معاملہ ہے۔ یہ حقیقت میں خود مرزا صاحب کے اپنے قول کے مطابق ایک الہی عظمت و جلال کا کھلا کھلا نشان تھا جس نے مرزا کی جھوٹی اور بیجا شہتی کو کچل ڈالا۔ اور آپ کے حواس کی وہ گت ہوئی کہ مقابلہ و مباحثہ لاہور تو دور کنارا آپ کو سوائے اپنے بیت الفکر کے تمام دنیا و مافیہا کی خبر نہ رہی۔ و قذف فی قلوبہم الرعب کا مضمون دنیا کے صفحہ پر معرض ظہور میں آیا برخلاف اس کے حضور پر نور حضرت پیر صاحب ممدوح کے دست پر خداوند کریم نے وہ نشان ظاہر کر دیا و کسان حقا علینا نصر المومنین ہیں۔ جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ خداوند عالم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی مقدس اور پاک ذات پر نبوت اور رسالت کے تمام مدارج ختم کر دیے ہیں۔ جس طرح سے سینکڑوں جھوٹے رسولوں کو اپنی غیرت سے اور خود ان کی اپنے کفر و غرور سے انہیں ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ ایسا ہی اس نے مرزا کی جھوٹی مہدویت اور رسالت مسیحیت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اور آج دنیا پر بخوبی روشن ہو گیا کہ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ ﷺ کی مخصوصہ شناخت اور مفوضہ مراتب کے اندر بیجا مداخلت کرنے والے اسی طرح علی رؤس الاشہاد روسیہ ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے خود ذبح ہو جاتا ہے کیا غور و جہرت کا مقام نہیں ہے کہ مرزا نے بلا کسی تحریک کے خود بخود

حضرت پیر صاحب اور نیز ہندو پنجاب کے تمام مسلم الثبوت مشائخ و علماء کو تحریری اور تقریری مباحثہ کی دعوت کا اعلان جس کی ہزار کاپیاں ہندو پنجاب کے تمام اصلاح و اطراف میں مرزا نے خود تقسیم کیں۔ اور اپنی عربی و قرآن وانی میں وہ درافتاشانی کی۔ کہ جس کا خواب میں بھی خیال کرنے کا مستحق نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ میں پیر صاحب اور علماء کے مقابلہ پر لاہور نہ پہنچوں تو پھر میں مردو و جموٹا اور ملھون۔ اس شد و مد کے اشتہار کے بعد جب اس کو پیر صاحب نے بمعہ دیگر علماء کرام بمھووری شرائط لاہور میں طلب کیا۔ تو فرار کے سوائے بزولانہ گریز کے اور کوئی کارروائی ظہور میں نہ آئی۔ سخت افسوس کا موقع ہے۔ کہ مرزا کے مرید انہیں دنوں میں جبکہ پیر صاحب خاص لاہور میں سینکڑوں علماء و فقراء اور ہزاروں مریدوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ اس معنوں کے اشتہارات شائع کرتے ہیں کہ پیر صاحب مباحثہ سے بھاگ گئے۔ اور شرائط سے انکار کر گئے۔ سبحان اللہ ہٹائی اور پٹھری ہو تو ایسی ہو دروغ گو کندہ بر روئے ما۔

اس موقع پر مرزا مسیحی تعلیم پر سخت افسوس کرتا ہے کہ کیا امام الزماں کی تعلیم کا بھی اثر ہونا چاہیے کہ ایسا سفید جھوٹ لکھ کر مشتہر کیا جائے۔ اور زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ ہندو اخبار بھی مرزائیوں کی اس ناشائستہ حرکت پر نفیس کر رہے تھے اور ہنسی اڑا رہے ہیں۔ سلسلہ تقریر ختم ہوا اور سب لوگ جامع مسجد شامی میں جمع ہوئے اور کارروائی جلسہ شروع ہوئی۔

مولوی محمد علی صاحب..... نے دربارہ عقائد مرزا قادیانی کچھ وعظ فرمایا کہ یہ اس کے عقائد ہیں۔ جو صریحاً مخالف قرآن شریف و سنت اجماع است ہیں۔

مولانا مولوی عبد الجبار صاحب..... غزنوی نے وعظ فرمایا جس کا ما حاصل یہ تھا۔ کہ رسول کریم اور صحابہ کرامؓ کے افعال و اقوال یہ تھے۔ پس جو شخص ان کے مطابق چلنے والا ہے۔ وہ ان کا پیرو ہے اور جو ان کے مخالف ہے وہ مرتد اور کافر ہے چنانچہ مرزا قادیانی کے افعال اور اقوال قطعاً مخالف سنت نبویہ و روش صحابہ کرام ہیں اس لیے اہل اسلام کو اس سے بچنا چاہیے۔

ابوالفیض مولوی محمد حسن صاحب..... ایک پرزور تقریر میں اصحاب جلسہ کا شکر یہ ادا کیا۔ خصوصاً ان صاحبوں کا جو در در از بلاد و امصار سے تشریف لائے تھے۔

مولوی تاج الدین صاحب..... مولانا مولوی ابوالفیض محمد حسن صاحب کی تائید کی۔ اور مرزا کے چٹا اشتہارات سے ان کی اس قسم کی کارروائیوں پر نہایت تہذیب اور شائستگی سے کٹہہ چینی کی۔

مولانا ابوسعید عبدالحق صاحب..... نے مرزا اور اس کی بیہودہ کارروائیوں کی نسبت سجادہ نشین ریحانہ کیے۔



پھر ایک نابینا صاحب نے جو اپنے آپ کو ”ظریف“ چھس کرتے تھے۔ ایک ظریفانہ  
لطم پڑھی۔ جس کی نسبت حضرت ابوسعید عبدالخالق صاحب موصوف فوراً کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہ  
نظمیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے بلکہ یہاں تو احوال فیصل اہل الرائے علماء کرام کے بکار ہیں۔

مولانا ابوالوفاء مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری..... مرزا کی تمام پیشگوئیاں غلط ثابت ہونے کی  
نسبت زبردست دلائل بیان فرمائے اور یہ بھی فرمایا کہ ایسے شخص کو مخاطب کرنا یا اس کی کسی تحریر کا  
جواب دینا بھی گویا علماء کرام کی جگہ ہے اور ان کی شان سے بعید۔

مولوی مفتی محمد عبداللہ صاحب ٹوکی پروفیسر اور ی انٹیل کالج و پریذیڈنٹ جماعت  
اسلام لاہور..... چند آیات قرآن کریم و احادیث نبویہ اور نیز دلائل عقلیہ سے مرزا کے عقائد کی  
نسبت تردید کی۔

مولوی احمد الدین صاحب..... ساکن موضع شاہاں ضلع جہلم نے مرزائی خیالات کی تردید میں ایک  
پرائز تقریر کی۔ آخر میں حضرت فخرالاصفیاء و علماء پیر مہر علی صاحب نے دعا خیر کی۔ اور تمام حاضرین  
نے آمین کے نعرے بلند کئے جلسہ برخواست۔

ہمارے حضرت اقدس امام الزماں مسیح موعود جناب مرزا صاحب بیت الفکر میں تنہا  
مراقبہ میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ پاؤں کی چاپ ہوئی سر اٹھا کر جو دیکھا تو خادم ہے۔  
خادم..... حضور مبارک، پیر مہر علی شاہ بھاگ گئے۔

حضور..... فالحمد لله علی ذلك اول میں، رسیدہ بود بلائے و لے بخیر گزشت کب بھاگے؟  
خادم..... کل اور ایسے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے کہ پیچھے پھر کر نہیں دیکھا۔

حضور..... ذرا ہوش و حواس درست کر کے عمامہ سر سے اتار کر پھر سر پر رکھا۔ آئینہ سے اس کو درست  
کیا۔ لنگی کا طلائی بیچ سنبالا۔ رومال سے منہ صاف کر باہر تشریف لائے۔

تمام حواری اور مصاحب جو مردہ صد سالہ کی طرح بے جان پڑے تھے اٹھے سب کے  
قالوں میں جان آگئی۔ ہنس کر بیٹھ گئے اور کھڑے ہو کر سر و قد تعظیم دی۔ اور مبارک سلامت کا شور  
بلند ہوا۔

حواری..... وقد فنی قلوبہم الرعب۔ حضور کا رعب چھا گیا۔ سب ملاں (علماء) اور سجادہ نشین جو  
آئے تھے۔ سب بھاگے اگر حضور لاہور تشریف لے جاتے خدا جانے ان کی کیا کیفیت ہوتی۔

مرزا صاحب..... یہ بھی ایک نشان آسمانی ہے کہ ہم نہ جائیں ہمارا دشمن ڈر کر بھاگ جائے۔  
مشرع علی..... اب وہ اشتہار چھو کر شائع کر دیجیے اب کیا انتظار ہے صاحب تو اب بھاگ ہی گئے۔

مرزا صاحب..... ایک اشتہار اس مضمون کا لکھ دو کہ میں بہر حال لاہور پہنچ جاتا مگر میں نے سنا ہے کہ اکثر پشاور کے جاہل سرحدی ہیر صاحب کے ہمراہ ہیں اور ایسے ہی لاہور کے بھی۔

پس اس اشتعال کے وقت میں بجز لاہور کے رئیسوں کے پورے طور کی ذمہ داری کے۔ میرا لاہور میں قدم رکھنا گویا آگ میں قدم رکھنا ہے۔

مخالفین..... سبحان اللہ تقریر کا عذر رفع ہونے پر اب معززین اسلام کی ذمہ داری اور تشریف آوری کا حیلہ نکالا اور قادیانی اور چال چلا۔

کیا پہلے اس کے الہامی خدا نے اسے یہ خبر نہ دی تھی۔ پس حیلہ ساز یوں سے بجز رسوائی کے اس یعنی مرزا کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟

## باب ۵۶ پنجاہ و ششم

### طاعون

مرزا صاحب نے پہلے اہل اسلام کی طرف سے وکیل ہو کر بمقابلہ مخالفان اسلام اہل من مبارز کی آواز بلند کی۔ جب اس میں کامیابی ہوئی۔ تو ملہم مجدد اور محدث ہونے کا دعویٰ کیا اور چار جانب دعوت بیعت کے اشتہار دیئے اور ایک سفر ملک پنجاب وغیرہ کا کیا اس کے بعد اپنی پیشگوئیوں اور مستجاب الدعوات ہونے کا اعلان دیا۔ اس میں بھی خاطر خواہ کامیابی حاصل کی۔ پھر دعویٰ نبوت بقتد مسیح مشتہر کر کے علماء اہل اسلام کی مخالفت میں علم مناظرہ افراشہ کیا۔ لاہور، لدھیانہ، دہلی وغیرہ میں اشتہارات کے ذریعہ سے تاریخ مجالس مناظرہ مقرر کیں۔ گو قیود شرانط کی وجہ سے بالمتقابل مناظرہ تو کہیں نہیں ہوا۔ مگر فریقین کے اشتہاروں کی اشاعت نے مرزا صاحب کو تمام دنیا میں مشہور کر دیا اور یہی ان کی غرض تھی۔ اس میں بھی مرزا صاحب کو کامل طور سے کامیابی حاصل ہوئی۔ پھر لوگوں کی نسبت موت اور ذلت اور عذاب الہی کے نازل ہونے کے الہام اور پیشگوئیاں شروع کیں۔ ان پیشگوئیوں کے ظہور یا عدم ظہور کی نسبت ہم کوئی رائے ظاہر نہیں کرتے۔ تاثرین! خود اپنے اپنے مذاق کے موافق نتیجہ نکال سکتے۔ مگر شہرت ان میں بھی خوب ہوئی۔ کوئی مذہب اور ملت ایسی نہ ملے گی۔ جس میں کوئی کتاب یا رسالہ مرزا صاحب کے حالات کا شائع نہ ہو۔ مگر آخر کار مرزا صاحب کو ایسی پیشگوئی اور الہام کے اظہار اور اشاعت نہ کرنے کے بارے میں ایک اقرار نامہ صاحب ڈسٹرکٹ ضلع گورداسپور کی عدالت میں لکھنا پڑا۔ اس واسطے مرزا صاحب کو دوسرا پہلو اپنے خیالات کی اشاعت کے واسطے بدلنا پڑا۔ ایک رسالہ ماہواری غیر

ملکوں (یورپ) میں انگریزی میں نکالا گیا۔ ہفتہ وار الحکم اور البدر دو اخبار ہندوستان کے واسطے جاری کیے اور واعظوں کو بھی مقرر کیا گیا کہ جابلوں کی ترغیب و تحریم کے واسطے یہ امر ضروری تھا۔ ایک رسالہ دافع البلاء نام چھاپا۔ جس کی پیشانی پر سرخی (طاعون) لکھا ہے اس ہولناک مرض کے بارے میں جو ملک میں پھیلتی جاتی ہے۔ لوگوں کی مختلف رائیں ہیں۔

.....۱ پہلے ڈاکٹر اور حکماء کے خیالات دو صفحوں میں ظاہر کیے ہیں۔

.....۲ پھر مسلمانوں کے خیالات لکھے ہیں۔

.....۳ پھر آریہ اور سناٹن دھرم کے فرقہ بندوں میں سے ہیں اور عیسائیوں کے خیالات ظاہر فرمائے ہیں۔ پھر فرمایا ہے۔

”اب اے ناظرین خود سوچ لو کہ اس قدر متفرق اقوال اور دعاوی سے کس قول کو دنیا کے آگے صریح اور بدیہی طور پر فروغ ہو سکتا ہے۔ یہ تمام اعتقادی آموز ہیں اور نازک وقت میں جب تک کہ دنیا ان عقائد کا فیصلہ کرے۔ خود دنیا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بات قبول کے لائق ہے جو جلد تر سمجھ میں آسکتی ہے اور جو اپنے ساتھ کوئی ثبوت رکھتی ہے۔ سو میں وہ بات معہ ثبوت پیش کرتا ہوں۔ چار سال ہوئے کہ میں نے ایک پیشگوئی شائع کی تھی۔ کہ پنجاب میں سخت طاعون آنے والا ہے۔ اور میں نے اس ملک میں طاعون کے سیاہ درخت دیکھے ہیں جو ہر ایک شہر اور گاؤں میں لگائے گئی ہیں۔ اگر لوگ توبہ کریں تو یہ مرض جاڑہ سے بڑھ نہیں سکتی۔ خدا اس کو رفع کر دے گا۔ مگر بجائے توبہ کے مجھ کو گالیاں دی گئیں۔ اور سخت بدزبانی کے اشتہار شائع کیے گئے جس کا نتیجہ طاعون کی یہ حالت ہے جو اب دیکھ رہے ہو۔ خدا کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوئی۔ اس کی یہ عبارت ہے۔

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما با انفسهم انه اوى القرية۔

یعنی خدا نے یہ ارادہ فرمایا ہے۔ کہ اس بلائے طاعون کو ہرگز دور نہیں کرے گا جب تک لوگ ان خیالات کو دور نہ کر لیں۔ جو ان کے دلوں میں ہیں یعنی جب تک وہ خدا کے مامور اور رسول کو مان نہ لیں۔ تب تک طاعون دور نہیں ہوگی۔ اور قادر خدا قادیاں کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ تم سمجھو کہ قادیاں اسی لیے محفوظ رکھے گا کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیاں میں تھا۔

اب دیکھو تین برس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ دونوں پہلو پورے ہو گئے یعنی ایک

طرف تمام پنجاب میں طاعون پھیل گئی۔ اور دوسری طرف باوجود اس کے کہ قادیان کے چاروں طرف دو دو میل کے فاصلے پر طاعون کا زور ہو رہا ہے۔ مگر قادیان طاعون سے پاک ہے۔ بلکہ آج تک جو شخص طاعون زدہ باہر سے قادیان میں آیا وہ بھی اچھا ہو گیا۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور شہوت ہوگا؟..... وغیرہ اس بیماری کے دفع کے لیے وہ پیغام جو خدا نے مجھے دیا ہے وہ بھی یہی کہ لوگ مجھے سچے دل سے سبج موعود مان لیں۔.....

پھر اس کے بعد ان دنوں میں بھی مجھے خبر دی چنانچہ وہ عزوجل فرماتا ہے:

ماکان اللہ ليعذبهم وانت فيهم انه اوى القرية لولا الاكرام لهلك  
المقام انى انا الرحمن دافع الاذى . انى لا يخاف لى المرسلين انى حفيظ  
الى مع الرسول اقوم الصوم من يلوم افطرو اصوم غضبت غضبا شديد  
الارض تشاع والنفوس نفساع الا الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم  
اولئك له الامن وهم مهتدون اناتاتى الارض ننقصها من اطرافها انى اجيز  
الجيش فاصبحوا فى دارهم جاثمين. سزبهم آياتنا فى الافاق وفى انفسهم  
نصر من الله وفتح مبين. انى بايعتك بايعنى ربى انت بمنزلة اولادى انت  
وانا منك عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً. الفوق معك والتحت مع اعدتك  
فاصبر حتى ياتى الله بامرہ يأتى على جهنم زمان ليس فيها احد (ترجمہ)

”خدا ایسا نہیں کہ قادیان کے لوگوں کو عذاب دے۔ حالانکہ تو ان میں رہتا ہے۔ وہ اس گاؤں کو طاعون کی دست برد اور اس کی تباہی سے بچالے گا۔ اگر تیرا پاس مجھے نہ ہوتا۔ اور تیرا اکرام بد نظر نہ ہوتا۔ تو میں اس گاؤں کو ہلاک کر دیتا۔ میں رحمن ہوں جو دکھ دور کرنے والا ہے۔ میرے رسولوں کو میرے پاس کچھ خوف اور غم نہیں۔ میں نگاہ رکھنے والا ہوں میں اپنے رسولوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کو طاعت کروں گا۔ جو میرے کو طاعت کرتا ہے۔ میں قوتوں کو تقسیم کروں گا۔ کچھ حصہ برس کا میں روزہ رکھوں گا یعنی امن رہے گا اور طاعون کم ہو جائے گی۔ یا بالکل نہیں رہے گی۔ میرا غضب بھڑک رہا ہے۔ بیماریاں پھیلیں گی اور جانیں ضائع ہوں گی۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور ایمان میں کچھ نقص نہیں ہوگا۔ وہ امن میں رہیں گے اور ان کو مخلصی کی راہ ملے گی۔ یہ خیال مت کرو۔ جرائم پیشہ بچے ہوئے ہیں ہم ان کی زمین کے قریب آتے جاتے ہیں۔ میں اندر ہی اندر اپنا لشکر تیار کر رہا ہوں۔ یعنی طاعونی کیڑوں کو پرورش دے رہا ہوں۔ پس وہ اپنے

گھروں میں ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ اونٹ مرارہ جاتا ہے۔ ہم اپنے نشان پہلے تو دور دور کے لوگوں میں دکھائیں گے۔ پھر انہی میں ہمارے نشان ظاہر ہوں گے یہ دن خدا کی مدد اور فتح کے ہوں گے۔ میں نے تجھ سے ایک خرید و فروخت کی ہے یعنی ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا گیا اور ایک چیز تیری تھی جس کا میں مالک بن گیا۔ تو بھی اس خرید و فروخت کا اقرار کر اور کہہ دے کہ خدا نے مجھ سے خرید و فروخت کی ہے تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ اولاد تو مجھ سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں۔ وہ وقت قریب ہے۔ کہ میں ایسے مقام پر تجھے کھڑا کروں گا۔ کہ دنیا تیری حمد و ثناء کرے گی۔ فوق تیرے ساتھ ہے اور تحت تیرے دشمنوں کے ساتھ۔ پس صبر کر جب تک کہ وعدہ کا دن آجائے۔ طاعون پر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ کوئی بھی اس میں گرفتار نہ ہوگا۔ یعنی انجام کار خیر و عافیت ہے۔“

(دافع البلاء ص ۸۲۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۶، ۲۲۸)

اب اس تمام وحی سے تین باتیں ثابت ہوئی ہیں۔

۱..... اول یہ کہ طاعون دنیا میں اس لیے آئی ہے کہ خدا کے مسخ موعود سے نہ صرف انکار سمجھا گیا۔ بلکہ اس کو دکھ دیا گیا۔

۲..... دوسری..... یہ کہ طاعون اس حالت میں فرو ہوگی۔ جبکہ لوگ خدا کے فرستادہ کو قبول کر لیں گے۔

۳..... یہ کہ خدا تعالیٰ نے بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے۔ گوستر برس تک رہے قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کی تخت گاہ ہے۔ اور یہ تمام امتوں کے لیے نشان ہے۔

اب اگر اللہ تعالیٰ کے اس رسول اور اس نشان سے کسی کو انکار ہے اور خیال ہو کہ فقط رسی نمازوں اور دعاؤں سے..... وغیرہ وغیرہ باوجود مخالفت اور دشمنی اس رسول کے طاعون دور ہو سکتی ہے تو یہ خیال بغیر ثبوت کے قابل پذیرائی نہیں۔ پس جو شخص ان تمام فرقوں سے اپنے مذہب کی سچائی کا ثبوت دینا چاہتا ہے۔ اب بہت اچھا موقعہ ہے۔ گویا خدا کی طرف سے تمام مذہب کی سچائی یا کذب پہچاننے کے لیے ایک نمائش گاہ مقرر کی گئی ہے۔ اور خدا نے سبقت کر کے اپنی طرف سے پہلے قادیان کا نام لے دیا ہے۔

اب اگر آریہ لوگ وید کو سچا سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بتائیں کہ نسبت وغیرہ وغیرہ سنان دھرم والا کسی اور شہر کو جہاں گائیاں بہت ہوں..... اور عیسائی لوگ کلکتہ کی نسبت

اسی طرح میاں شمس الدین اور ان کی انجمن حمایت الاسلام کے ممبروں کو چاہیے لاہور کی نسبت۔

الہی بخش اکاؤنٹینٹ جو الہام کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے الہام سے لاہور کی نسبت اور مولوی عبدالجبار اور عبدالحق شہر امرتسر کی نسبت۔

اور چونکہ فرقہ وہابیہ کی اصل جڑ دہلی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ نذیر حسین اور محمد حسین دہلی کی نسبت۔

خدا اور اپنے اپنے محبوبوں سے دعا کر کے پیشگوئی کریں کہ یہ شہر طاعون سے محفوظ رہیں گے۔

پس اس طرح سے گویا تمام پنجاب اس مہلک مرض سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور گورنمنٹ کی بھی مفت میں سبکدوشی ہو جائے گی اور اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیاں میں اپنا رسول بھیجا۔“ اسی سال یا اس سے آئندہ سال میں قادیاں میں چند کیس طاعون کے ہوئے مگر مرزا صاحب نے رسالہ مذکور کے صفحہ ۵ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ: ”اوی عربی لفظ ہے جس کے معنی میں تباہی اور انتشار سے بچانا اور اپنی پناہ میں لے لینا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ طاعون کی قسموں سے وہ طاعون جو سخت بربادی بخش ہے۔ جس کا نام طاعون جارف ہے یعنی جھاڑ دینے والا جس سے لوگ جا بجا بھاگتے ہیں اور کتوں کی طرح مرتے ہیں۔ یہ حالت انسانی برداشت سے بڑھ جاتی ہے پس اس کلام الہی میں یہ وعدہ ہے کہ یہ حالت کبھی قادیاں پر دار نہ ہوگی۔“ وغیرہ وغیرہ۔

اس واسطے اس طاعون کا ذکر جو سنین گزشتہ میں ہوا۔ ان کا حال جو درج پیسہ اخبار ہوا یا صحیفہ بخنور وغیرہ میں درج ہوا۔ بوجہ طوالت کے نہیں کرتے اس سال یعنی ۱۹۰۴ء میں قادیاں میں طاعون پھوٹا۔ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

(الحکم قادیان ۱۰ اپریل ۱۹۰۴ء) اللہ تعالیٰ کے امر و منشاء کے ماتحت قادیاں میں مارچ کی آخری تاریخوں میں پلگ پھوٹ پڑی۔ ۶، ۴ کے درمیان روزانہ اوسط موتوں کی مدد سے بازار بند ہو گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پلگ افسر کو بذریعہ چٹھی قادیان کی حکامات کو ڈس انفلیکٹ کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ مگر ابھی تک اس طرف توجہ نہیں کی گئی تھی۔ اور پھر باشندگان قصبہ نے صاحب ڈسٹرکٹ بمسٹریٹ کی خدمت میں بھی ایک درخواست دی تھی۔ جو غالباً منظور ہو چکی ہے۔

مگر ابھی تک کوئی ڈاکٹر قادیاں میں صفائی مکانات وغیرہ کے واسطے نہیں آیا۔ باشندہ گاؤں کو چھوڑ کر دن بھر باہر کھیتوں اور میدانوں میں بسر کرنے لگے ہیں۔ وہ ہنسی ٹھٹھا جو چند روز پیشتر تھا۔ اب کم ہو گیا ہے اور جو لوگ کہتے تھے کہ ہمارے گھروں میں طاعون پیشک پڑ جائے لیکن مرزا صاحب کی پیشگوئی غلط ہو جائے۔ وہ اپنے ایسے دعوؤں پر بچھتاتے ہیں۔ کیونکہ ان کا بڑا نقصان ہوا۔ طاعون بھی پھوٹ پڑی۔ اور پیشگوئی بھی پوری ہوئی۔ حضرت اقدس نے کبھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ قادیاں میں طاعون نہ ہوگی۔ بہر حال اس وقت قادیاں پر طاعون کا حملہ ہو رہا ہے۔ تعلیم الاسلام سکول آخر اپریل تک فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ آج کل دارالاماں میں آنے والے احباب فی الحال اپنے ارادے کو ملتوی رکھیں تو مناسب ہے۔

خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ڈیرہ میں اس وقت تک پوری خیریت ہے کوئی بیمار بھی نہیں اور کوئی فوت بھی نہیں ہوا۔ سب تندرست ہیں اور اللہ جل شانہ سب کو باطن و امان تندرست رکھے۔ ہاں قصبہ کے اندر ایک احمدی کی بیوی جو بہت دنوں سے بیمار چلی آتی تھی۔ اور آخر اس کے سینہ سے خون آنے لگا تھا۔ وہ فوت ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔“

(اہل حدیث ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء) (قادیاں میں طاعون) شعر۔

حباب بحر کو دیکھو کیسا سر اٹھاتا ہے

تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے

اللہ اللہ! ابھی کل کا ذکر ہے کہ قادیانی مسیح لکڑا لکڑا کر کہتا تھا کہ قادیاں میں طاعون نہ آئے گا۔ کوئی ہے کہ ہماری طرح الہام سے دعویٰ کرے کہ انداوی القریہ کوئی ہے کہ بتلا دے۔ قادیاں سے دودو کوس پر طاعون نے جو محشر قائم کر رکھا ہے۔ قادیاں میں کیوں نہیں آتا۔ خدا قادیاں کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ اللہ اللہ!

(دافع البلاء ص ۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۶)

تھے دو گھڑی سے شیخ جی شیخی بھگارتے

وہ ساری ان کی شیخی جھڑی دو گھڑی کے بعد

آج کوئی ہے کہ قادیاں میں جا کر طاعون کی تباہی آنکھوں سے دیکھے۔ کہ تین ہزار کی آبادی سے بہ مشکل تین سو آدمی نظر آتے ہیں۔ دوکانیں بند ہیں۔ بازار ویران اور سنسان نظر آتے ہیں۔ مراسلہ مندرجہ ذیل کو پڑھیے۔

جناب اڈیٹر صاحب اخبار اہل حدیث۔ تسلیم! قادیاں میں آج کل سخت طاعون ہے

مرزا صاحب اور مولوی نور الدین کے سوا تمام مرید قادیاں سے بھاگ گئے ہیں۔ مولوی نور الدین کا خیمہ قادیاں سے باہر ہے۔ اوسط اموات ۲۰-۲۵ یومیہ ہے۔ مولوی نور الدین کی سالی کا لڑکا منظور الحق بھی چل بسا۔ مرزا جی نے اپنے گھر میں بالکل بندش کر دی ہے کہ کوئی آدمی نہ آنے پائے۔ حکیم نور الدین اور قطب الدین کو حکم دیا گیا ہے کہ کسی مریض کے مکان پر نہ جائیں۔ مرزا جی کا سکول بھی بیماری کی وجہ سے بند ہے

(اخبار المہدیہ قادیاں ۱۶ اپریل ۱۹۰۴ء) میں بھی کمال صفائی سے ایڈیٹر نے طاعون سے قادیاں کی صفائی کو تسلیم کیا ہے۔ (ایڈیٹر)

(پیر ۳۰ اپریل ۱۹۰۴ء) چہادر قادیاں بنی: دارالاماں قادیاں آج کل پنجاب میں اول نمبر پر طاعون میں مبتلا ہے۔ بائیس موتوں کی پرسوں ۱۱۲ اپریل کو اوسط ہے۔

قصبہ میں خوفناک بل چل چکی ہوئی ہے حضرت مسیح اور ان کے خاص حواری متشکر اور حواس باختہ ہوئے ہیں۔ تعجب ہے کہ جو شخص حضرت امام حسینؑ سے برتری کا دعویٰ ہو۔ اسے ہنگامہ میں بے اوسان ہو جائے۔ اگر کر بلا کے مصائب میں سے ایک چھوٹی سی سماعت بے بس مرزا کے سامنے آجاتی۔ تو خیر نہیں غریب کی کیا حالت ہوتی۔ بے محل نہ ہوگا۔ اگر حکم اپنا ماٹو بدل دے اور لکھا کرے۔

چہ گوئم با تو گر آئی چہادر قادیاں بنی  
دو ابینی شفا بنی غرض دارالاماں بنی

کی جگہ

چہ گوئم با تو گر آئی چہادر قادیاں بنی  
و با بنی بلا بنی غرض دارالاماں بنی

بڑی بے موقعہ اور خلاف بات ہے کہ مرزا صاحب کو ایسے نازک وقت میں یہ کہہ کر سنائیں۔ کہ آپ کی پیشگوئی کے خلاف یہ کیا آفت نازل ہو رہی ہے۔ بلکہ اس وقت میں ان کی دیکھیری اور مدد کرنی چاہیے۔ کہ وہ آڑے وقت ہمارے کام آئیں: الراقم ایک سیاح۔

الحکم ۲۴ اپریل ۱۹۰۴ء

قادیان میں طاعون

رہا کبھی کبھی کھم کو سیدھا نہ پایا  
نیش کڑوم



مندرجہ بالا عنوان پر ۲۳ مارچ ۱۹۰۳ء کے اہل حدیث نے استہزاء کے رنگ میں ایک نوٹ لکھا ہے۔ اہل حدیث نے بہت سی دیسی اخباروں کے خلاف اپنے یوم اجراء سے یہ التزام کر رکھا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے صادق مرسل مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور سلسلہ عالیہ احمدیہ کی نسبت سخت تلخ کلامی اور غیظ سے زہرا لگتا ہے۔ اور ایک سرآشفقت کی طرح چودہویں صدی کے مجدد خدا تعالیٰ کے مسیح دمہدی کی عزت پر بڑھ کر حملہ کرنا اپنا ایک فرض سمجھتا ہے۔ جس کی وجہ بجز اس کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ:

نیش عقرب نہ از پئے کین است  
مقتضائے طبعش این است

ہم کو نہایت افسوس سے ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ باوجود ادعائے تقویٰ و دیانت ایسی تحریریں شائع کرتے ہوئے ذرا بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اور نہ قوم کے سامنے ایسی جزأت اور دلیری کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ہم حضرت مسیح موعود اور طاعون کے متعلق ایک مبسوط آرنیکل لکھنا چاہتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ نے اس میں توفیق دی۔ تو اس مضمون پر سیر کن بحث کریں گے اور اس جلیل القدر نشان کو پیش کریں گے۔ اس وقت ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں۔ کہ کیا کبھی قادیاں میں طاعون نہ ہونے کے متعلق حضرت اقدس نے کوئی پیشگوئی یا الہام شائع کیا ہے؟ یا نہیں؟ حضرت جید اللہ کی کوئی بات مخفی راز نہیں ہے۔ بلکہ ایسے تمام الہامات اور پیشگوئیاں قبل از وقت ہم شائع کرتے رہے ہیں۔ اس لیے کہ کسی قدر اختصار کے ساتھ ہم الحکم کی ایک سال کی فائل میں سے چند اقتباس دانش مند اور انصاف پسند پبلک کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پھر اہل حدیث کے اڈیٹر سے پوچھتے ہیں۔ کہ اگر خدا کے سامنے حاضر ہونے کا کچھ بھی خوف ہے تو بتاؤ یہ کہاں کہا گیا ہے؟ کہ قادیاں میں کبھی طاعون نہیں آئے گا۔

(دافع البلاء صفحہ ۵۵ حاشیہ، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۵ حاشیہ) ”اوی عربی لفظ ہے جس کے معنی میں جاہلی اور انتشار سے بچانا اور اپنی پناہ میں لے لینا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طاعون کی قسموں میں سے وہ طاعون جو سخت بربادی بخش ہے۔ جس کا نام طاعون جارف ہے۔ یعنی جھاڑو دینے والی۔ جس سے جا بجا لوگ بھاگتے ہیں اور کتوں کی طرح سے مرتے ہیں۔ یہ حالت انسانی برداشت سے بڑھ جاتی ہے۔ پس اس کلام الہی میں یہ وعدہ ہے کہ یہ حالت کبھی قادیاں پر دارو نہیں ہوگی۔ اسی کی تشریح یہ دو مرالہام کرتا ہے۔ لولا الاکرام لهلك المقام (یعنی اگر مجھے اس

سلسلہ کی عزت ملحوظ نہ ہوتی تو میں قادیان کو بھی ہلاک کر دیتا اس الہام سے دو باتیں سمجھی جاتی ہیں۔  
 ..... یہ کہ کچھ حرج نہیں کہ انسانی برداشت کی حد تک کبھی قادیان میں بھی کوئی واردات شاذ و  
 نادر طور پر ہو جائے۔ جو بربادی بخش نہ ہو۔ اور موجب فرار و انتشار نہ ہو۔ کیونکہ شاذ و نادر معدوم کا  
 حکم رکھتا ہے۔

۲..... بمقابلہ قادیان کے سخت سرکش اور شریر اور ظالم اور بدچلن اور مفسد اس سلسلہ کے  
 خطرناک دشمن جن دیہات میں اور شہروں میں رہتے ہیں۔ ان کے شہروں یا دیہات میں ضرور  
 بربادی بخش طاعون پھوٹ پڑے گی۔ یہاں تک کہ لوگ بدحواس ہو کر ہر طرف بھاگیں گے۔ ہم  
 نے اوئی کے لفظ جہاں تک وسیع ہے اس کے مطابق تو یہ معنی کر دیے ہیں۔ اور ہم دعویٰ سے لکھتے  
 ہیں کہ قادیان میں کبھی طاعون جارف نہیں پڑے گی جو گاؤں کو ویران کرنے والی اور کھا جانے والی  
 ہوتی ہے۔ مگر اس کے مقابل دوسرے شہروں اور دیہات میں جو ظالم اور مفسد ہیں۔ ضرور ہولناک  
 صورتیں پیدا ہوں گی تمام دنیا میں ایک قادیان ہے جس کے لیے یہ وعدہ ہوا۔ فالحمد لله علی  
 ذالک!  
 (الحکم ۱۳ مئی ۱۹۰۳ء)

قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون سے کوئی جگہ باقی نہ رہی گی۔  
 جیسا کہ فرمایا ان من القرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها اس  
 سے لازم آتا ہے کہ کوئی قریہ مس طاعون سے باقی نہ رہے گا۔ اس لیے قادیان کی نسبت یہ فرمایا۔  
 انه اوى القرية یعنی اس کو انتشار اور افراتفری سے اپنی پناہ میں لے لیا۔ سزائیں دو قسم کی ہوتی  
 ہیں۔ ایک بالکلیہ ہلاک کرنے والی جس کے مقابلہ میں فرمایا لولا الاکرام لهلك المقام یعنی  
 یہ مقام اہلاک سے بچایا جائے گا۔ دوسری قسم کی سزا بطور تعذیب ہوتی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ نے  
 قادیان کو ہلاکت سے محفوظ رکھا ہے۔ اور تعذیبی سزا ممنوع نہیں بلکہ ضروری ہے۔

یہ حضرت اقدس کے ملفوظات ہیں۔ جو مندرجہ بالا تاریخ کو شائع ہوئے کیا اس سے  
 صاف طور پر نہیں لکھا کہ قادیان میں طاعون کا آنا ضروری ہے اور اس طرح پر قادیان میں طاعون  
 کا آنا صدق پیشگوئی ہے نہ مہمل پیشگوئی۔

پھر (الحکم نمبر ۱۷ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۲ء) میں مندرجہ ذیل ڈائری حضرت اقدس درج ہے:  
 (ملفوظات مرزا قادیانی ج ۳ ص ۲۸۰ مورخہ ۵ مئی ۱۹۰۲ء) رات کو تین بجے حضرت اقدس کو  
 الہام ہوا۔ انی احافظ کل من فی الدار الا الذین حلوا با لاستکباری یعنی میں وار

کی اندر رہنے والوں کی حفاظت کروں گا۔ سوائے جنہوں نے تکبر کے ساتھ علو کیا۔

فرمایا علو و قسم کا ہونا سے ایک جائز اور ایک ناجائز..... جائز کی مثال وہ علو ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھا۔ اور ناجائز کی مثال وہ علو ہے جو فرعون میں تھا اور فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد یہ الہام ہوا۔ انسی اری بالملائکہ الشداد یعنی میں سخت فرشتوں کو دیکھتا ہوں جیسا کہ مثلاً ملک الموت وغیرہ ہیں۔

فرمایا کہ خدا کے غضب شدید سے بغیر تقویٰ و طہارت کے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پس سب کو چاہئے تقویٰ و طہارت کو اختیار کریں وغیرہ وغیرہ۔

لیکن انہ اوی القرینۃ میں یہ امر نہیں۔ وہاں انتشار اور اہل چل شدید ہے بچنے کا وعدہ معلوم ہوتا ہے۔

اس گاؤں میں دراصل اس قسم کے سخت دل اور مخالف دین اسلام لوگ موجود ہیں کہ اگر اس سلسلہ کا اکرام نہ ہوتا تو یہ سارا گاؤں ہلاک ہو جاتا۔ اور اب بھی اگرچہ ممکن ہے کہ بعض وارداتیں ہوں مگر تاہم اللہ ایک ماہ الامتیاز قائم رکھے گا۔

ایک بڑی طول طویل بحث کی اور اڈیٹر اہل حدیث کو ایک سخت ڈانٹ بتائی ہے پھر اس دعا پر ختم کیا ہے۔ اے خدائے قدیر و حکیم تو اس امت کی آنکھیں کھول کہ وہ تیرے مامور و مرسل کی شناخت کریں اور اس طوفان عظیم سے نجات پائیں۔ آمین

اس کے بعد چہار قادیاں بنی کی سرخی لکھ کر ایڈیٹر پیسہ اخبار اور نامہ نگار سیاح کی خوب خبر لی ہے۔

قادیاں میں طاعون

بیا با چشم روشن تا چہار قادیاں بنی  
خزاں بنی و بابینی غرض دارالزیاں بنی

مثل مشہور ہے دہقان کی پینتالیس عزتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ وہ ایک دو بلکہ تین چار بلکہ پانچ سات آٹھ دفعہ ذلیل ہونے سے اپنے آپ کو ذلیل نہیں جانتا۔ جب تک کہ حسب تعداد عزت ذلیل ہو کر سلب کلی نہ ہوئے۔ پھر یہ بھی شرط ضروری ہے کہ کسی حساب میں اس کو غلطی نہ ہو جائے۔ یہی حال ہمارے مرزا صاحب کا ہے۔ ایک دفعہ دو دفعہ نہیں۔ دس بیس دفعہ نہیں مرات کرات دفعہ آپ کی خاطر خواہ عزت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ مرزا صاحب زبان حال سے کہا کرتے ہیں:

جوہر تو مجھ میں تھے ملکوتی صفات کی  
مرزا بنا کے کیوں میری مٹی خراب کی

کون سا مہینہ کون سا سال ہے جس میں ہمارے مرزا جی بحکم آیت کریمہ افلا  
یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین دو تین دفعہ ابتلاء میں نہ آتے ہوں سالہا  
گزشتہ کی رپورٹ کا دہرانا فضول ہے اسی سال کی سناتے ہیں۔ ۲۲ اپریل کے اہل حدیث میں  
قادیاں میں طاعون ہونے کا واقعہ درج کیا گیا تھا۔ اس پر بحکم الحق مژ۔ مرزائی اخباروں میں ایک  
غیر معمولی طیش پیدا ہوا۔ اور اہل حدیث جیسے راست باز حق شعار پرچہ کی نسبت بہت کچھ زہرا گل  
رہے ہیں۔ چنانچہ الحکم سوال کرتا ہے کہ اہل حدیث کو اگر خدا کا خوف ہے تو بتلا دے کہ کہاں کہا گیا  
ہے کہ قادیاں میں کبھی طاعون نہیں آئے گا۔ ۲۳ اپریل۔

گو ناظرین اس عبارت سے مرزائیوں کی بے بسی معلوم کر سکتے ہیں کہ قادیاں میں  
طاعون ہونے کا کس لطیف پیرا سہ میں اقرار ہے۔ اس لطیف سے الطف پیرا یہ ایک اور ہے جس کو  
سن کر ناظرین اس پاک جماعت کی چالاکی اور شرم و حیا سے انگشت بدنداں ہوں گے اخبار البدر  
قادیاں کے دفتر سے ۲۵ اپریل کو خریداروں کو اطلاع دی گئی کہ اخبار یکم مئی تک بند رہے گا۔ مطبوعہ  
کارڈ میں لکھتے ہیں کہ: ”طاعون حضرت مسیح موعود کے الہام کے ماتحت اپنا کام برابری کر رہی ہے۔“  
اللہ اللہ! کس دہلی زبان سے اور کس انداز و انداز سے معشوقانہ ادا میں تسلیم کیا گیا ہے۔ اب سنیے!  
ہم آپ کو بتلاتے ہیں اور آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔

(دافع ابلاء ص ۵، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۶) کو پڑھو کیسا صاف لکھا ہے کہ: ”قادیاں کے  
چاروں طرف تمام پنجاب میں پھیل گئی ہے۔ اور دوسری طرف باوجودیکہ قادیاں کے دو دو میل کے  
فاصلے پر طاعون کا زور ہو رہا ہے۔ مگر قادیاں طاعون سے پاک ہے۔ بلکہ آج تک جو شخص طاعون  
زدہ باہر سے قادیاں میں آیا وہ بھی اچھا ہو گیا۔ کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت ہوگا؟“  
اسی صفحہ پر لکھا ہے کہ: ”قادیاں کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا تاکہ تم سمجھنا کہ  
قادیاں اسی لیے محفوظ رکھی گئی کہ خدا کا رسول قادیاں میں تھا۔“

پھر (ص ۷، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷) پر ایک الہام کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ: ”خدا ایسا نہیں کہ  
قادیاں کے لوگوں کو عذاب دے۔ حالانکہ تو (خود بدولت مرزا صاحب) اسی میں رہتا ہے۔“  
پھر (ص ۱۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱) پر اپنے مخالفوں کو ڈانٹ بتلائی ہے کہ: ”میاں شمس

الدین..... وغیرہ وغیرہ..... فلاں فلاں شہروں کی نسبت پیشگوئی کریں کہ طاعون سے محفوظ رہیں گے اور اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو پھر سمجھا جائے گا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیاں میں اپنا رسول بھیجا ہے۔“

یہ مرزاجی کی تعلیمات ناظرین اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان عبارات کا کیا مطلب ہے ہاں ہم اس سے انکاری نہیں کہ مرزاجی کو چونکہ اندر کا چور ڈھار ہا تھا کہ میری باتیں تو جیسی ہیں وہی ہیں۔ اس لیے بطور پیش بندی یا حکم لو کسان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً کثیراً یہ بھی مرزاجی نے لکھا تھا کہ: ”کچھ حرج نہیں کہ انسانی برداشت کی حد تک کبھی قادیاں میں بھی کوئی واردات شاذ و نادر طور پر ہو جاتی۔ جو بربادی بخش نہ ہو۔ اور موجب فرار و انتشار نہ ہو۔ کیونکہ شاذ و نادر معدوم کا حکم رکھتا ہے۔“ (دافع البلاء حاشیہ میں ۵، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۵ حاشیہ)

ناظرین! الہامی صاحب کی اس عبارت کی بھی ہماری سفارش سے الہامی مان لیں لیکن مطلب اس کا خوب یاد رکھیں۔ بھولے ہوں تو ہم پھر بتلائے دیتے ہیں کہ قادیاں میں شاذ و نادر واردات ہوں گی۔ جو ایسی قلیل ہوں گی کہ کالعدم تصور ہوں گی۔

اس کلام کے بعد قادیانی عادل گواہ کی گواہی سنئے جس کا نام اخبار البدر ہے۔ آپ ۱۶ اپریل کے پرچم ص ۷ میں لکھتے ہیں کہ: ”یوگنڈر پال (آریہ) نے بڑے دعوے سے یہ پیشگوئی کی تھی۔ کہ ہم بذریعہ ہون کے قادیاں کو طاعون سے پاک و صاف کریں گے تو جلسہ کا ختم ہونا تھا کہ یوگنڈر پال تو کیا صاف کرتے۔ خود طاعون نے صفائی شروع کر دی۔“

اب ناظرین! اس شاذ و نادر کو اور اس صفائی کو ذرا صفائی سے دیکھیے تاکہ کسی قسم کی کدورت باقی نہ رہے۔ اللہ اللہ! کہاں یہ وعدے کہ قادیاں سے دودھ کو کس تک طاعون ہے جو بیمار اندر آتا ہے اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر اس کا نام دارالامن والا مان رکھا گیا تھا۔

پھر یہ ترمیم کہ شاذ و نادر واردات ہوں گے جو معدوم کے حکم میں ہوں گی۔ جس کا یہ انجام بقول ڈیٹر البدر طاعون سے صفائی ہوگی۔ ناظرین منتظر ہوں گی کہ صفائی کس حد تک ہوئی تو ان کی آگاہی کے لیے ہم اتنا بتلاتے ہیں کہ مارچ اپریل کے دو مہینوں میں قادیاں میں ۳۱۳ آدمی طاعون سے مرے۔ حالانکہ کل آبادی قادیاں کی ۲۸۰۰ کی ہے۔ مفصل معہ شہادت آئندہ:

ہے سے غرض نشاط کی کس رو سیاہ کہ ہے

اک گو نہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے

ناحق لوگ لڑتے مارتے ہیں۔ قادیان طاعون سے صاف ہو جائے تو کیا اور اگر پاک رہے تو کیا حضرت اقدس مرزا صاحب کے الہام اور تشریح میں دونوں باتیں درج ہیں قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔ اور طاعون آئے گا بھی نہ بھی بالکل انکار ہے نہ اقرار دونوں مترادف ہیں۔ ہاں خاندان رسالت میں طاعون کا دخل ہو جائے تو محل اعتراض ہے وہ بھی چار دیواری کے اندر اور اگر ان میں بھی طاعون گھس جائے۔ تو مرزا صاحب کی پیشگوئی کا کیا قصور؟ حضرت اقدس نے بچنے کی تدابیر بتادی تھیں۔ اس کو کوئی نہ مانے تو اس کا قصور۔ اگر چہ چار دیواری مستحکم ہو جائے اور پھر طاعون آجائے۔ تو ہم ذمہ لیتے ہیں۔ بدرسولان بلاغ باشندو بس۔ ماعلینا الا البلاغ ناظرین ان اشتہاروں یا درخواست اور اس کی تردید کو ذرا غور سے پڑھ کر خود ہی منصف ہوں اس میں کس کا قصور ہے۔

درخواست چندہ برائے توسیع مکان

”چونکہ آئندہ اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ طاعون ملک میں پھیل جائے اور ہمارے گھر میں جس میں بعض حصوں میں مرد بھی مہمان رہتے ہیں اور بعض حصوں میں عورتیں۔ سخت تنگی واقعہ ہے اور آپ لوگ سن چکے ہیں۔ کہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے جو اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہوں گے۔ حفاظت خاص کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اب وہ گھر جو غلام حیدر متونی کا تھا جس میں ہمارا حصہ ہے اس کی نسبت ہمارے شریک راضی ہو گئے ہیں کہ ہمارا حصہ دیں اور قیمت پر باقی حصہ بھی دے دیں میری دانست میں یہ جو میلی جو ہمارے مکان کا ایک خیر ہو سکتی ہے دو ہزار تک تیار ہو سکتی ہے۔ چونکہ خطرہ ہے کہ طاعون کا زمانہ قریب ہے اور یہ گھر وحی الہی کی خوشخبری کی رو سے اس طوفان طاعون میں بطور کشتی کے ہوگا۔ نہ معلوم کس کس کو اس بشارت کے وعدہ سے حصہ ملے گا۔ اس لیے یہ کام بہت جلدی کا ہے خدا پر بھروسہ کر کے جو خالق اور رازق ہے اور اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے بھی دیکھا کہ یہ ہمارا گھر بطور کشتی کے تو ہے مگر آئندہ اس کشتی میں نہ کسی مرد کی گنجائش ہے نہ عورت کی اس لیے توسیع کی ضرورت پڑی، والسلام علی من اتبع الهدی پر اللہ صبر مرزا غلام احمد قادیانی۔“ (کشتی نوح ص ۶، خزائن ج ۱۹ ص ۸۶)

ہمارے خیال میں تو ساری بحث کے معنی اس اشتہار کے مضمون سے سمجھ میں آسکتے ہیں آئندہ اپنی اپنی سمجھ ہے۔

طوبی شاہ اپنی مطلب اوروں کی بھلی کی کہتا ہے اب کوئی مانے یا نہ مانے۔

اس میں حضرت اقدس کے اوپر کیا الزام ہے؟ کیوں جذبہ دل کا قصور اس نے نکالا

الٹا ناظرین! آپ حضرت مرزا صاحب کی دل سوزی اور ہمدردی کو دیکھیے اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں پھر اگر قادیاں میں طاعون صفائی نہ کرے تو خدا کے مرسل کی نافرمانی اور گستاخی کا کیا نتیجہ ہو۔

حضرات! انصاف اور غیرت الہی تو اسی کی مقتضی تھی کہ قادیاں مع خانہ غانی رسالت صاف ہو جاتا۔ چینی کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سچ موعود اور مرسل صادق اکرام کیا جو اتنی ہی بل چل پر بس فرمائیے۔

جواب درخواست چندہ

برخوردار مرزا غلام احمد قادیانی طالب عمرہ

بعد عا درازی عمر کے واضح ہو کہ میں تمہارے دعوے ہمیشہ سے سنتا ہوں اور دور دراز تک تمہاری خبر پہنچی ہوئی ہے اور لوگ جو در جو آتے ہیں مگر افسوس ہے میں تمہارا بھائی اور بزرگ ہوں میری طرف تم نے کوئی خاص توجہ نہ کی جو تمہاری نالائقی کا ثبوت ہے۔ آخر میں بھرے دل سے از خود تم کو اطلاع کرتا ہوں کہ میں تمہاری ذاتی عیوب سے قطع نظر تمہاری پیشگوئیوں کو ایک گوز شتر سمجھتا ہوں۔ تم نے تو مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کوئی پیشگوئی سو روپیہ دینا کیا تھا۔ جو ان کے آنے پر تم گھر سے بھی نہ نکلے مگر میں تم کوئی پیشگوئی ہزار روپیہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اگر تم میری پیش کردہ پانچ پیشگوئیاں بھی مجھے سچی کر دو۔ توئی پیشگوئی ہزار روپیہ تم کو دوں گا۔ اور اگر نہ ثابت کر سکو تو صرف تم کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ پس ایک ہفتہ تک اس دعوت کا جواب بذریعہ اشتہار جلدی دینا۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو یہی حکم فرمایا ہے۔  
و اتسی ذا القربیٰ حقہ یعنی قریبوں کے حقوق ادا کرو۔ قریبوں کا حق دوسروں سے زیادہ ہے بھلا یہ کیا انصاف ہے کہ کشتی نوح کے اخیر صفحہ پر تو ہم کو اپنا شریک قرائتی بتاؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہمارے شرکاء مکان دینے کو راضی ہیں۔ دو ہزار روپیہ چندہ جمع کر لیا ہے۔ حالانکہ ہمیں اس کی کوئی خبر بھی نہیں اور نہ ہی ہم دیننا چاہتے ہیں۔ ایسے جھوٹ کا بھی کوئی علاج ہے؟ خیر ان باتوں کے ذکر کو تو ایک دفتر چاہیے۔ جو میں الگ کسی وقت تفصیل سے بیان کر دوں گا۔ سردست میں اس اشتہار کے جواب کا منتظر ہوں۔ رقیع:

مولائی مرزا امام الدین برادر کلاں مرزا غلام احمد از قادیاں مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء

(مطبوعہ اہل حدیث پریس)

بھلا صاحب! خدار انصافی ان تحریروں کا ملاحظہ فرما کر خدا لگتی کہتا۔ آخر کسی چیز کی حد

بھی ہے اور ان خطوں کی بنیاد قادیان سے بھی ہے پھر کب تک غیرت الہی جوش میں نہ آئے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ قادیان کا تختہ الٹ دینے کے قابل نہیں۔ اگر قادیان میں طاعون آ گیا۔ تو کیا عجب اور کب خلاف الہام ہوا۔ الہام میں کہاں لکھا ہے؟ کہ قادیان بالکل طاعون سے پاک رہے گا۔ یہ انسان کا کام ہے اتنے دنوں بیشتر ایسی پیش بندی کر دے دیکھو صفحہ ۵ کے حاشیہ دافع البلاء میں کیا لکھا ہے اگر یہ بھی نہ ہوتا۔ تو لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ مدبر کا کام ڈرانا ہے جیسا موقعہ دیکھے لوگوں کو ڈرادے۔ جس غرض سے ڈرایا گیا وہ پوری ہو گئی۔ اس میں الہام کا جھوٹ معترض نے کیا ثابت کیا؟

الحکم..... لیکن یہ ترقی بمقابلہ اس عظیم الشان ترقی کے جو گزشتہ سال کی اخیر صہ میں اس فرقہ نے کی ہے بہت ہی کم کی ہے۔ جیسا کہ ایک طرف طاعون کے خطرناک حملوں سے پنجاب کی تمام مردم شماری میں کمی آئی گئی ہے۔ فرقہ احمدیہ کی تعداد بڑے زور کے ساتھ بڑھتی گئی تھی۔ کیونکہ لوگوں نے تجربہ سے دیکھ لیا ہے کہ طاعون سے بچاؤ کی صرف ایک صورت انہیں نظر آئی ہے۔ اور وہ یہ کہ حضرت مسیح کی تعلیم کو قبول کر لیا جائے۔ اس لیے طاعون کی ترقی کے ساتھ جوق در جوق لوگ جماعت احمدیہ میں داخل ہوتے گئے ہیں۔ الحکم ۷ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۳

اب ناظرین بہ نظر غور و انصاف دیکھیں اور حق کی کہیں۔ قادیان کیا ہزار قادیان جیسی بستیاں معہ خاندان رسالت کے لقمہ طاعون ہو جائیں تو کیا الہام جھوٹ ہو سکتا ہے نہیں کبھی نہیں۔ وہ سب جھوٹے جو الہام کو جھوٹا کہیں۔ مرزائی کیا ایسے اندھے تھے۔ جو بن دیکھے کنوئیں میں گر پڑے۔

بے خودی بے سبب نہیں غالب

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

کوئی بات تو ہے جو اس پیشگوئی کی سچائی پر ایمان لائے ہوں۔ گو عام اس کو نہ دیکھ سکیں۔

ت م ت

(نوٹ) مصنف نے تمت کے بعد لکھا (دوسری جلد ملاحظہ ہو) جو غالباً شائع نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی ہے تو فقیر مرتب اس تک رسائی نہیں پاسکا۔ کوئی صاحب یہ کتاب پڑھنے کے بعد رہنمائی فرمادیں تو مہربانی۔  
فقیر: اللہ وسایا، مورخہ ۲۴ جنوری ۲۰۱۲ء

حاشیہ جات

۱۔ ابوالہد رکا اڈیٹر بھی ۲۲ مارچ ۱۹۰۵ء کو طاعون کا شکار ہو گیا۔